

ردِ قادیانیت

رسائل

- حضرت مولانا خلیل الرحمن قادری راولپنڈی
- حضرت مولانا محمد رفیع خان پٹواری
- حضرت مولانا ابوالفتح اسماعیل دہلوی
- حضرت مولانا عبدالمعتز پیرمہانی
- حضرت مولانا عنایت اللہ لاہوری
- جناب قاضی خلیل احمد سابق قادیانی
- جناب عبدالرزاق مہتہ قادیانی
- جناب مرزا محمد حسین سابق قادیانی
- خواجہ محمد اسماعیل اندنی جموں ٹانڈی بہوت
- جناب محمد صالح ٹور سابق قادیانی
- جناب سید نور مگر حقیقت پسند پارٹی
- حقیقت پسند پارٹی و قادیانی
- جناب راحت ملک سابق قادیانی

احتسابِ قادیانیت

جلد ۵۶

عالمی مجلس تحفظِ ختمِ نبوت

عضوری باغ روڈ، ملتان - فون : 061-4783486

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نام کتاب : اقباب قادیانیت جلد چہمین (۵۶)
مصنفین :

حضرت مولانا خلیل الرحمن قادری مدظلہ العالی
حضرت مولانا محمد رفیق خان پسروری
حضرت مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری
حضرت مولانا عبدالقدیر صدیقی
حضرت مولانا عاتیت اللہ لاہوری
جناب قاضی ظلیل احمد سابق قادیانی
عبدالرزاق مہدی قادیانی
جناب مرزا محمد حسین سابق قادیانی
خواجہ محمد اسماعیل لدھیانوی صاحب مدنی نوبت
جناب محمد صالح نور سابق قادیانی
جناب سید نور الرحمن حقیقت پسند پارٹی
حقیقت پسند پارٹی قادیانی
جناب راحت ملک سابق قادیانی

۱۳۲ : صفحات

۳۵۰ روپے : قیمت

ناصرزین پریس لاہور : مطبع

اپریل ۲۰۱۳ء : طبع اول

عالمی مجلس تحفظ مکتبہ نبوت حضور باغ روڈ ملتان : ناشر

Ph: 061-4783486

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست رسائل مشمولہ..... احتساب قادیانیت جلد ۵۶

۴	حضرت مولانا اللہ وسایا	☆..... عرض مرتب
۹	حضرت مولانا ظیل الرحمن قادری	۱..... ختم نبوت پر مستند دلیل
۲۱	" " "	۲..... مرزائی لاریب غیر مسلم ہیں
۲۵	" " "	۳..... مرزا غلام احمد قادیانی کا فلسفہ مومن احمد اس کی سرگزشت
۴۳	" " "	۴..... نص قرآنی سے ختم نبوت کا مدلل ثبوت
۴۷	حضرت مولانا محمد رفیق خان پسروری	۵..... ختم نبوت
۸۱	حضرت مولانا عبدالقاسم محمد رفیق دلاوری	۶..... ایمان کے ڈاکو
۱۸۷	حضرت مولانا عبدالقادر صدیقی	۷..... مرزائیت اور صیغیت
۱۹۱	حضرت مولانا عثمانیت اللہ لاہوری	۸..... کیا مرزائے قادیانی عورت تھی؟
۱۹۷	جناب قاضی ظیل احمد سابق قادیانی	۹..... میں نے مرزائیت کیوں چھوڑی
۲۰۵	عبدالرزاق مہد قادیانی	۱۰..... مرزائیوں کی روحانی شکار گاہ
۲۲۹	جناب مرزا محمد حسین سابق قادیانی	۱۱..... قتلہ انکار ختم نبوت
۳۹۳	خواجہ محمد اسماعیل ہندی جموں ٹانڈی نبوت	۱۲..... واوی ظلمت یعنی ساحران ربوہ کی داستان
۴۰۹	جناب محمد صالح نور سابق قادیانی	۱۳..... ظلیفہ ربوہ کے مذہب صحت سے باہر و صحت کے اندر
۴۱۷	جناب سید نور، حقیقت پسند پارٹی	۱۴..... ظلیفہ ربوہ کی مالی بے اعتدالیاں
۴۵۹	مرکزی حقیقت پسند پارٹی	۱۵..... مرزا غلام احمد کی تحریر میں مرزا محمود کی تصویر
۴۶۹	" " "	۱۶..... ربوی راج کے عمودی منصوبے
۵۰۳	جناب راحت ملک سابق قادیانی	۱۷..... ربوہ کا مذہبی آمر
۶۲۵	" " "	۱۸..... مرزا محمود ہوش میں آؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مرتب

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد!

- اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے احتساب قادیانیت کی جلد نمبر ۵۶ پیش خدمت ہے:
-۱ ختم نبوت پر مستند دلیل: مولانا غلیل الرحمن قادری
 -۲ مرزا کی لاریب غیر مسلم ہیں: مولانا غلیل الرحمن قادری
 -۳ مرزا غلام احمد قادیانی کا فلسفہ طاعون اور اس کی سرگذشت: (ایضاً)
 -۴ نص قرآنی سے ختم نبوت کا مدلل ثبوت: مولانا غلیل الرحمن قادری
- یہ چار رسالے ہیں۔ پہلے رسالہ کا سن تالیف معلوم نہ ہو سکا۔ دوسرے کا سن بتاریخ تالیف، ۸ جون ۱۹۸۶ء، تیسرے اور چوتھے کا ۲۱ نومبر ۱۹۸۸ء ہے۔ مصنف نے خود تعارف دیدیا ہے۔ دیکھ لیا جائے گا۔

.....۵ ختم نبوت: مولانا محمد رفیق خان پسروری۔ مصنف جامع مسجد کلاں پسرور ضلع سیالکوٹ کے خطیب تھے۔ یہ کتاب دسمبر ۱۹۵۰ء میں شائع ہوئی۔ اس رسالہ میں چالیس احادیث حبار کہ ختم نبوت کے مسئلہ پر جمع کی گئی ہیں۔

.....۶ ایمان کے ڈاکو: حضرت مولانا ابوالقاسم محمد رفیق دلاوریؒ۔ حضرت مولانا محمد رفیق دلاوریؒ، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ آپ کی رد قادیانیت پر معروف زمانہ کتابیں ”ریس قادیان“ اور ”تیس تیس“ جسے عالمی مجلس محفوظ ختم نبوت نے علیحدہ بار بار شائع کیا۔ وہ احتساب قادیانیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ کتاب بالکل علیحدہ ہے۔ ادارہ الصدیق ملتان سے ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ نے اولاً اسے اپنے ماہنامہ ”الصدیق“ ملتان میں قسط وار شائع کیا۔ پھر کتابی شکل میں شائع کیا۔ اب احتساب کی اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

.....۷ مرزائیت اور عیسائیت: مولانا عبدالقدیر صدیقی۔ قاہرہ مصر کے اخبار ”الفتح“ ۱۰ شعبان ۱۳۵۴ھ کو ”من النصار القادیانیین“ مضمون شائع ہوا۔ جس کا حضرت مولانا عبدالقدیر صدیقی نے پہلے اخبار مجاہدین میں پھر اس پمفلٹ کے ذریعہ ترجمہ شائع کیا۔ ساٹھ سال بعد دوبارہ اسے اب احتساب قادیانیت کی اس جلد میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

۸..... کیا مرزائے قادیانی عورت تھی: مولانا عنایت اللہ لاہور دارالعلوم اچھرہ لاہور کے مولانا عنایت اللہ صاحب نے یہ رسالہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو مرتب کیا۔

۹..... میں نے مرزائیت کیوں چھوڑی: قاضی خلیل احمد۔ یہ تعلیم گاہ چناب نگر کے محکم تھے۔ قادیانیت کے ترک کرنے کے اسباب اس رسالہ میں بیان کئے۔

۱۰..... مرزائیوں کی روحانی شکار گاہ: عبدالرزاق مہتہ۔ مرزا قادیانی کے زمانہ میں ایک بدنصیب قادیانی ہوا۔ اس کا نام بھائی عبدالرحمن تھا۔ اس کے بھائی کا نام ”عبدالرزاق مہتہ“ تھا۔ مہتہ صاحب مرزا محمود قادیانی کی خلوتوں اور جلوتوں کا محرم راز اور شریک کار تھا۔ خود مرزا محمود کو بھی یہ فیض دیتا رہا۔ اس کے پاس مرزا محمود کے خاندان کی اخلاق بانگلی کے گواہ یعنی نوٹو تھے۔ مرزا ناصر نے ان کو حاصل کرنے کے لئے اوچھے جھکنڈے استعمال کئے۔ یہ کراچی چلا گیا۔ مرزائی قیادت نے وہاں بھی اس کو دم نہ لینے دیا۔ اس نے مرزا ناصر کے متعلق قادیانی قیادت کو ایک درخواست دی۔ بعد میں اسے پمفلٹ کی شکل میں شائع کر دیا۔ یہ آدنی آخر تک قادیانی رہا۔ قادیانی کا قادیانیت کے متعلق کیا نظریہ تھا؟ اس کا جواب یہ پمفلٹ ہے۔ اس کا مکمل نام (پاپائے ربوہ کے خلاف ایک مرید کا استغاثہ مرزائیوں کی روحانی شکار گاہ) پڑھئے اور قادیانی کمیونٹی پر قادیانیوں کو ماتم کی دعوت دیجئے۔ یہ درخواست ۱۳ دسمبر ۱۹۷۹ء کو دی گئی۔ پھر پمفلٹ چھپا۔ اب یہاں ہم محفوظ کر رہے ہیں۔

۱۱..... فتنہ انکار ختم نبوت: جناب مرزا محمد حسین۔ مؤلف کتاب، قادیانی جماعت کے دوسرے گرو مرزا محمود کی اولاد کے اتالیق تھے۔ درون خانہ کے راز ہائے سربستہ سے واقف ہوئے۔ پھر نہان خانہ کے معنی گواہ بھی ہوئے۔ پھر ان پر مرزا قادیانی کا پورا گھرانہ الف خالی کی طرح عیاں ہو گیا۔ یہ قادیانیت سے تائب ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۷۸ء میں یہ کتاب شیخ محمد اشرف تاجر کتب کشمیری بازار سے شائع کرائی۔ زہے نصیب! آپ بھی ملاحظہ کریں۔ لعنت بر مرزا قادیانی و علیٰ الہ واولادہ لا تعد ولا تصى!

۱۲..... وادی طلسمات یعنی ساحران ربوہ کی داستان: خولجہ محمد اسماعیل لندنی۔ مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ نبوت کی جرأت احمقانہ اور روشن باغیانہ کے بعد بہت سے قادیانیوں

نے بھی اس ملعون کی دیکھا دیکھی جموئی نبوت کے دعوے کئے۔ ان میں ایک خواجہ محمد اسماعیل تھا۔ جو پہلے قادیان میں تھا۔ پھر لندن چلا گیا۔ یہ خود کو انجلی خواجہ محمد اسماعیل (اسخ الموحود) کہتا تھا۔ اس ملعون نے اپنی جماعت کا نام ”الساتون“ رکھا اور منڈی بہاء الدین میں دفتر بھی کھولا۔ اس رسالہ میں یہ مرزا قادیانی کو مہدی اور خود کو مسخ موعود نبی قرار دیتا ہے۔ دعت نام کی جنگ، چرچل کو موت کو اپنی پیش گوئیاں قرار دیتا ہے۔ اس نے چناب نگر (ربوہ) کے قاضی نذیر قادیانی دجال کے جواب میں یہ رسالہ لکھا۔ پڑھیں کہ ایک ملعون قادیانی کا ملعون مرید لندن، اس کے دوسرے مرید قاضی ربوہ کو کاٹنے کے لئے دانت تیز کئے ہوئے ہے۔ ہماری طرف سے تینوں (مرزا قادیانی، اسماعیل لندن، نذیر قاضی) کی حلیٹ باطل پر لعنت۔ اس لئے ملعون کے رسالہ کو شائع کیا کہ ان حالات سے قارئین باخبر ہو سکیں کہ مرزا ملعون کے دعویٰ نبوت کے بعد کیا کیا گنہیں لے کر ملعون دنیا میں آئے۔

۱۳..... خلیفہ ربوہ کے دو مذہب، عدالت سے باہر اور عدالت کے اندر: محمد صالح نور۔ مرزا محمود کے زمانہ میں اس کے گھناؤنے اور کینہہ کردار کے باعث کچھ لوگ مرزا محمود سے متحرف ہو گئے۔ انہوں نے ایک جماعت بھی ”احمدیہ حقیقت پسند پارٹی“ بنائی۔ یہ قادیانی تھے۔ لیکن قادیانی خلیفہ کے مخالف تھے۔ اسی پارٹی کے ایڈیٹریل سیکرٹری محمد صالح نور تھے جنہوں نے یہ رسالہ لکھا۔ اس میں مرزا محمود کے اختلافات قلمبند کئے۔

۱۴..... خلیفہ ربوہ کی مالی بے اعتدالیاں: سبط نور، حقیقت پسند پارٹی۔ مرزا قادیانی کا ولی عہد مرزا محمود، عیار بن عیار۔ مکار بن مکار تھا۔ لوگوں کو لٹگانا سے مرزا قادیانی سے وراعت میں ملا تھا۔ وہ پرلے درجے کا بدکار، وبدو بیانت تھا۔ اس کی بددیانتی پر دشمن تو دشمن خود قادیانی افراد بھی چلا اٹھے۔ ایک قادیانی کا اپنے خلیفہ کی مالی بددیانتیوں کی داستان الم۔ جسے صنم نے بھی ساتوبت خانے میں پکارا تھا۔ ہری، ہری۔ اس کی تفصیلات کا نام یہ رسالہ ہے۔

۱۵..... مرزا غلام احمد کی تحریر میں مرزا محمود کی تصویر: مرکزی حقیقت پسند پارٹی۔ مرزا قادیانی کی کتابوں کی رد سے اس کے بیٹے کو پرکھنے کے لئے یہ کتابچہ خود قادیانیوں نے تحریر کر کے مرزا محمود کی بولتی بند کردی اور اس کے منہ میں وہ..... رکھ دیا۔

۱۶..... ربوی راج کے محمودی منصوبے: مرکزی حقیقت پسند پارٹی۔ مرزا محمود کے یکے

بعد دیگرے بدکرداری کے واقعات کو دیکھ کر قادیانی جماعت میں انتشار پیدا ہوا۔ کئی آدمی ایسے تھے جو عقیدہ قادیانی تھے۔ مگر مرزا محمود کے خلاف ہے۔ انہوں نے حقیقت پسند پارٹی کے نام پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کی ایڈیٹنگ میں بشیر رازی، صلاح الدین ناصر، چوہدری عبدالحمید، ملک عزیز الرحمان، محمد یوسف ناز، عبدالجبار اکبر، صالح نور وغیرہ ایسے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے یہ کتابچہ مرتب کیا۔ ۱۲ ستمبر ۱۹۵۷ء کو یہ شائع ہوا تھا۔ اب پھر ستاون سال بعد احتساب کی اس جلد میں اسے محفوظ کر رہے ہیں۔

۱۷..... ربوہ کا مذہبی آمر: جناب راحت ملک سابق قادیانی

۱۸..... مرزا محمود ہوش میں آؤ: جناب راحت ملک سابق قادیانی

یہ دونوں رسائل جناب راحت ملک کے ہیں۔ جن کا اصل نام ملک عطاء الرحمن تھا۔ یہ سبغات کی قادیانی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ پورا خاندان قادیانی تھا۔ ان کے بھائی ملک عبدالرحمن خادم تھا۔ جو قادیانی عقائد و نظریات کا پشتیبان تھا۔ احمدیہ پاکٹ بک کا مصنف تھا۔ اللہ رب کی شان قدرت ہر لمحے زالی ہے۔ پورا خاندان قادیانی۔ ایک بھائی قادیانیت کو دجل و فریب کے گر سکھانے والا تھا۔ دوسرے بھائی کو اللہ رب العزت موسیٰ بشیر یعنی رسوائے عالم مرزا محمود کے بچپن سے ادھیڑنے کے لئے کھڑا کر دیا۔ ”مرزا محمود ہوش میں آؤ“ یہ مختصر چند صفحاتی پمفلٹ لکھ کر مرزا محمود کو تنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مرزا محمود کو تنہ ڈالنا اور خنزیر پر سواری کرنے سے کیا کم مشکل امر تھا۔ اس پمفلٹ سے مرزا محمود دلتیاں چلانے لگا۔ دنیائے قادیانیت جانتی ہے کہ مرزا محمود کے منہ کھولتے ہی غلاہٹ کے ڈھیر نکلنے شروع ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ہے۔ مرزا محمود بدزبانی پر اتر آیا تو جناب راحت ملک نے اس اپنے رسالہ ”مرزا محمود ہوش میں آؤ“ کی شرح لکھنی شروع کر دی۔ جس کا نام ”ربوہ کا مذہبی آمر“ ہے۔ ان دونوں رسائل میں انہوں نے مرزا محمود کے تن بدن سے اس کے لباس کو اتارنا کر دیا ہے۔ لیکن ان کے قلم نے کہیں بھی ایسی روش اختیار نہیں کی کہ جس سے اسے فاشی کا مرتکب قرار دیا جاسکے۔ دونوں رسائل کا اس جلد میں ریکارڈ ہو جانا بہت ٹھیک ہو گیا کہ مرزا محمود ایسے رذیل کی رذالت بول میں بند ہو گئی۔ ”ربوہ کا مذہبی آمر“ کا ستمبر ۱۹۵۸ء میں دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ جب کہ دوسرا پمفلٹ اس سے بھی قبل کا ہے۔ نصف صدی بعد یہ رسائل دوبارہ چھپ رہے ہیں۔

غرض احتساب قادیانیت کی جلد ہذا (یعنی چھپن جلد) میں ذیل کے حضرات کے رسائل جمع ہو گئے۔

رسائل	۴	کے	مولانا ظلیل الرحمن قادری راولپنڈی۱
رسالہ	۱	کا	مولانا محمد رفیق خان پسروری۲
رسالہ	۱	کا	حضرت مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری۳
رسالہ	۱	کا	مولانا عبدالقدیر صدیقی۴
رسالہ	۱	کا	مولانا عنایت اللہ لاہوری۵
رسالہ	۱	کا	قاضی ظلیل احمد صدیقی سابق قادیانی۶
رسالہ	۱	کا	عبدالرزاق مہتہ قادیانی۷
کتاب	۱	کی	جناب مرزا محمد حسین سابق قادیانی۸
رسالہ	۱	کا	خواجہ محمد اسماعیل لہندی جموں نامی نبوت۹
رسالہ	۱	کا	جناب محمد صالح نور سابق قادیانی۱۰
رسالہ	۱	کا	جناب سبط نور، رکن حقیقت پسند پارٹی۱۱
رسائل	۲	کے	مرکزی حقیقت پسند پارٹی قادیانی۱۲
رسائل	۲	کے	جناب راحت ملک سابق قادیانی۱۳

۱۸ رسائل و کتب

گویا ۱۳ افراد کے کل

اس جلد میں شامل اشاعت ہیں۔ حق تعالیٰ شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں۔ آمین!
ان رسائل کے لکھنے والے تیرہ حضرات میں سے آٹھ حضرات ایسے ہیں جن کا قادیانیت سے تعلق تھا۔ جو ان رسائل کے تحریر کرتے وقت بھی قادیانی یا سابق قادیانی تھے۔ امید ہے کہ مزید احتساب قادیانیت کی دو جلدیں بھی شاید قادیانیت زدہ حضرات کی قادیانیت کی تردید پر ہو جائیں۔ اچھا جو اللہ رب العزت کو منظور ہوگا۔

محتاج دعاء: فقیر اللہ وسایا!

۱۵ جمادی الثانی ۱۳۳۵ھ، بمطابق ۱۶ اپریل ۲۰۱۴ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَوْلَانَا خَلِيلِ الرَّحْمَنِ قَادِرِ

نہم نبوت پر مستند دلیل



مولانا خلیل الرحمن قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ختم نبوت پر مستند دلیل

آیت مبارکہ ”خاتم النبیین“ اور حدیث شریف ”لا ینبئ بعدی“ کی دلیل میں مستند دلیل متفق علیہ حدیث شریف بلورچینج تمام کا دیانی جماعتوں کو بھیجی گئی تھی۔
صحیح بخاری شریف جلد سوم باب ۱۲۵ حدیث نمبر ۲۲۶۳ اور صحیح مسلم شریف جلد اول اثبات الشفاعة و اخراج الموحدين من النار۔

ترجمہ..... معاذ بن نعمانہ ہشام قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اپنے پروردگار کی خدمت میں شفاعت کریں تاکہ ہمیں اس جگہ سے نکال کر آرام دے۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ آدہم علیہ السلام کیا آپ لوگوں کی حالت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلق اپنے ہاتھ سے کی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ہمارے لئے ہمارے رب کے پاس شفاعت کیجئے تاکہ ہمیں اس موجودہ حالت سے نجات ملے، وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور ان کے سامنے اپنی خطایاں کریں گے جو ان سے سرزد ہوئی تھی بلکہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جلا کہہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کے پاس بھیجا ہے۔

چنانچہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اور ان کے سامنے اپنی خطایاں کریں گے اور کہیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ نے ان کو تورات دی اور ان سے ہم کلام ہوا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے۔ میں اس لائق نہیں اور اپنی خطا کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور کلمہ اور روح ہیں اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ تم محمد ﷺ کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے بندے ہیں جن کے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے جائیں گے۔ لوگ میرے پاس

آئیں گے۔ (صحیح مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ لوگ آپ ﷺ کو خاتم الانبیاء بھی کہیں گے) میں چلوں گا اور اپنے رب سے حاضری کی اجازت چاہوں گا۔

مجھے حاضری کی اجازت دی جائے گی جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سجدے کی حال میں چھوڑ دے گا۔ جس قدر مجھے چھوڑنا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا کہ اے محمد ﷺ! سر اٹھاؤ۔ اور کہو سنا جائے گا۔ مانگو دیا جائے گا۔ اور سفارش کرو قبول کروں گا۔

استدلال..... مندرجہ بالا خبر میں حشر کے میدان کا ذکر ہے اور لوگوں کے رجوع ہونے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر منتج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لہذا آیت مبارکہ خاتم النبیین اور حدیث شریف ”لانیسی بعدی“ کا یہی مطلب ہے کہ آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی کسی قسم کا بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا محرمہ نبوت کا دعویٰ والہامات جن کی کثرت کی وجہ سے وہ ان کو بحکم الہی نبوت کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی اور ان کے پیروکاروں کی بے جا تاویلات سب کی سب باطل ٹھہرتی ہیں اور قابل رد ہیں۔

مندرجہ بالا چیلنج کے سلسلے میں (قادیانیوں کی طرف سے) صرف آٹھ جوابات آئے ہیں۔ مگر کوئی قادیانی بھی جوابات میں استدلال کو رد نہیں کر سکا ہے۔ زیادہ تر مسیح موعود پر جوابات دیئے ہیں۔ حالانکہ بات خاتم النبیین اور لانیسی بعدی کی تھی۔ کچھ صاحبان نے اپنے پیشوا مرزا قادیانی کی سنت ادا کرتے ہوئے ناشائستہ الفاظ بھی لکھے ہیں۔ جن کو اللہ عزوجل کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ جواب دینے کے قابل جو اعتراضات ہوئے ہیں۔ ان کے جوابات قارئین کرام کی اطلاع بخشی کے لئے درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

خط نمبر ۴..... کیا حدیث شفاعت میں آنحضرت ﷺ سے پہلے سب نبیوں کا ذکر ہے تو کیا آپ ان نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہیں۔ جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔

جواب..... اعتراض کوئی وزن نہیں رکھتا کیونکہ اگر آنحضرت ﷺ سے قبل کے انبیاء علیہم السلام کا

ذکر نہیں ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم نے ہم کو وہ نام بتا دیے ہیں اور ہمارا ان سب پر پختہ ایمان ہے۔ لہذا ان کے نام حدیث شریف میں نہ ہونے سے ہمارے ایمان پر کوئی زد نہیں پڑتی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کا ذکر تو نہایت ضروری تھا۔ اس وجہ سے کہ اول تو مرزا قادیانی نے بزم خودیہ دعویٰ کیا کہ: ”اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو صدا ہادفعہ نبی رسول مرسل اور جری اللہ فی حلال الانبیاء کہا ہے۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۸، خزائن ج ۱ ص ۲۰۶، ۲۰۷) اور دوم یہ کہ آنحضرت ﷺ نے ایک ہی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں مرزا قادیانی کو چار مرتبہ نبی اللہ فرمایا ہے۔ (معلوم ہونا چاہئے کہ حدیث شریف متعلقہ میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لئے نبی اللہ کہا گیا ہے) مرزا قادیانی کے ان دونوں وعادی کارواں آیت مبارکہ سے بالکل اور مکمل طور پر ہو جاتا ہے۔ ”ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك (المومن آیت ۷۸)“ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض تو وہ ہیں کہ ان کا قصہ آپ سے بیان کر دیا ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اول تو آنحضرت ﷺ سے پہلے رسولوں کا ذکر ہے۔ بعد میں آنے والے کسی نبی رسول مرسل یا جری اللہ فی حلال الانبیاء کا ذکر باطل نہیں ہے۔ تو پھر نبی اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے الفاظ سے یہ تاویل کرنا کہ آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے سوائے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے کسی اور کو (مرزا قادیانی) نبی اللہ کہا ہے۔ بالکل لغو بات ہو جاتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی مرزا قادیانی کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں کیا تو پھر آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو مرزا قادیانی کا علم کیا ہو سکتا تھا اور آپ ﷺ مرزا قادیانی کو نبی اللہ کیسے کہہ سکتے تھے۔ کیونکہ مصداق آیت مبارکہ ”وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى“ جب مرزا قادیانی کے بارے میں وحی الہی نہیں آئی تو پھر اس بات کو آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے منسوب کرنا کہ آپ ﷺ نے مرزا قادیانی کو چار مرتبہ نبی اللہ فرمایا ہے کذب بیانی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا انجام دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنانا ہے۔

دوم۔۔۔ یہ کہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سلسلہ میں دونوں صحیح مجموعوں میں کم از کم گیارہ احادیث مختلف روایان سے درج ہیں۔ لیکن صرف حضرت نواس بن سمان کی ایک بہت طویل البیان حدیث میں تین باتیں بقیہ دیگر احادیث سے زائد بیان کی گئی ہیں۔

۱..... ”اذا وحي الله تعالى الي عيسى عليه السلام“ جس کی بناء پر مرزا قادیانی نے خود پر وحی الہی نازل ہونے کا جواز قائم کیا۔

۲..... حدیث میں الفاظ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام چار دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ جس کی بناء پر مرزا قادیانی کو نبی ماننے کا جواز قائم کیا گیا۔

۳..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لئے صحابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کی بناء پر مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کہنے کا جواز قائم کیا گیا۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ کثیر التعداد احادیث کو چھوڑ کر خبر احاد کو دلیل بنا لیا گیا ہے۔ پھر اگر یہ تینوں زائد باتیں آنحضرت ﷺ نے بیان فرمائی ہوتیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اور دیگر روایاں نے انہیں سنیں بدیں وجہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت نواس ابن سمعانؓ نے از خود از راہ احترام یہ الفاظ زائد کر دیئے ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصود حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی۔

حدیث مندرجہ چیلنج میں مرزا قادیانی کا ذکر اس لئے بھی ضروری اور نہایت ہی اہم تھا کہ قادیانی عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی پر ایمان نہ لانا خواہ ان کو دیکھا بھی نہ ہو۔ مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ جو کہ چودہ سو برس سے پڑھنے والے کے اسلام میں داخل ہونے کی سند مانی جاتی ہے۔ اب وہ کلمہ بھی اس کو اسلام میں ٹھہرنے نہیں دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر محمد رسول اللہ ﷺ کی تصدیق ایمان کے لئے اب ناقص ہو گئی ہے۔ (نعوذ باللہ)

اور قادیانی عقیدے کے مطابق کروڑوں مسلمان جو مرزا قادیانی پر ایمان نہیں رکھتے وہ سب کے سب دائرہ اسلام (اللہ کے دین) سے خارج ہو گئے ہیں۔ کلمہ کے ذکر کے سلسلے میں یہاں پر منشی ظہیر الدین صاحب کی ایک چشم دید شہادت جو انہوں نے سالانہ جلسہ قادیان کے حالات کی بابت لکھ کر دفتر پیغام صلح میں بھیجی ہے۔ اس میں سے کلمہ کے متعلق قارئین کی آگاہی کے لئے لکھی جاتی ہے۔ ”چوتھی بات جو میں نے جلسہ میں دیکھی تھی وہ اختلاف عقائد تھا اور میں حیران رہ گیا۔ بعض احباب نے ”لا الہ الا اللہ احمد جری اللہ“ کو درست اور صحیح قرار دینے ہوئے اس کو پڑھنے اور بطور احمدی عقائد کے خلاصہ کے تسلیم کرنے کا اقرار کیا۔ بلکہ بعض سے میں

نے یہ بھی سنا کہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ محمدی کلمہ ہے اور احمدی کلمہ ”لا الہ الا اللہ احمد جری اللہ“ بہت سے اجباب میں نے دیکھے جو حضرت مرزا قادیانی کج موعود کے حق میں صاحب شریعت نبی کہنے سے بھی نہیں چھپتے تھے۔ بعضوں نے تو حضرت کج موعود کے الہام ”وتخذوا من مقام ابرہیم مصلیٰ“ سے اس استدلال کو قبول کر لیا کہ اب احمدیوں کا قبلہ نماز قادیان ہونا چاہئے۔ اس حلیہ میں مجھے ایک بھی ایسا فرد قادیان میں نہیں ملا جو حضرت کج موعود کو اسی طرح کا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا ہونا جس طرح کہ خدا کے فرستادے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم الانبیاء تھے۔“ (الہدیٰ نمبر ۳۳، نمبر ۲۷، مؤلفہ حکیم محمد حسین قادیانی لاہوری، ماخذ پر فیسر محمد الیاس برنی کا قادیانی مذہب کا علمی حاشیہ، فصل نمبر ۱۶، نمبر ۷۰، ص ۷۸)

معلوم ہونا چاہئے کہ نبوت کا مسئلہ نہایت ہی نازک ہے اگر مدعی نبوت کا دعویٰ سچا ہے تو اس کا ماننے والا کافر اور اگر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے تو اس کا ماننے والا کافر ہے۔ ایسی صورت میں آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو بخو کہ اپنی امت پر نہایت شفقت اور بے حد مہربان ہیں اور جن کی بابت وحی الہی نے کہا ہوا ہے: ”لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم“ اور بقول قادیانی صاحبان کے جن کی نبی تراش مہرنے مرزا قادیانی کی نبوت کی تصدیق کر دی ہے۔

اس قدر اہم مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ بیان نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بجز اس کے کہ آنحضرت محمد ﷺ نے مرزا قادیانی کے متعلق نہ تو کبھی کچھ فرمایا ہے اور نہ ہی ان کی حرعومہ نبوت کی تصدیق کی ہے اور تو اس بن سحان والی حدیث میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے حقیقتاً حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی مراد ہیں نہ کہ بطور استعارہ مرزا قادیانی۔ دیگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کیا کہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی رسول مرسل اور جبری اللہ فی صلل الانبیاء بتایا ہے جن کا ظہور تیرہویں صدی ہجری میں آپ ﷺ کے بعد ہوگا۔ لہذا ان کا ذکر بھی اس حشر کے میدان کے ذکر میں شامل کر دیکھئے تاکہ مرزا قادیانی کی نبوت کی تصدیق ہو جائے اور امت محمدیہ کا بیشتر حصہ کفر کی حالت میں رہنے سے بچ جائے۔

(جاننا چاہئے کہ اللہ عزوجل بھی اپنے بندوں پر نہایت کریم اور رحیم ہے اور خاص طور پر اپنے محبوب محمد رسول اللہ ﷺ کی امت پر) جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اللہ عزوجل نے نہ تو کوئی وحی مرزا قادیانی پر نازل فرمائی اور نہ ہی ان کو محمد، احمد، نبی، رسول، مرسل اور جری اللہ فی حقل الانبیاء کے القاب سے نوازا ہے اور مرزا قادیانی کے تمام دعویٰ باطل اور قابل رد ہیں۔

شہادت کی حدیث شریف میں جو نام بیان کئے گئے ہیں ان کی توضیح درج کی جاتی ہے:

- ۱..... حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔
- ۲..... حضرت نوح علیہ السلام آدم کا بیٹا ہے۔
- ۳..... حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قوم یہود، آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں موجود تھی۔

۴..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائی بھی موجود تھے۔

خط نمبر ۳..... حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب انبیاء گنہگار تھے اور آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بابت یہ کہنا کہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ آپ ﷺ کی سخت جگہ ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں تمام نبیوں کو خطا کار اور گناہ گار بتایا گیا ہے جو کہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔

خط نمبر ۷..... آپ نے اپنے اشتہار میں جو حدیث بخاری سے نقل کی ہے۔ وہ حدیث درست نہیں معلوم ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کسی عیسائی کی طرف سے بنا کر بخاری میں درج کر دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تمام نبی گناہگار ہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔

جواب..... ذیل میں قرآنی آیات درج کی جاتی ہیں جو حدیث زیر بحث کی بالکل تصدیق کرتی ہیں:

۱..... پھر سیکھ لیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں پھر توجہ ہو گیا اللہ اس پر بے شک وحی ہے تو یہ قبول کرنے والا مہربان۔ (البقرہ آیت ۲۷)

۲..... اور حکم ملا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا پھر راہ سے بھٹکا پھر نوازا دیا اس کو اس کے رب نے پھر توجہ ہوا اس پر اور لو پر لا۔ (طہ آیات ۸۱-۸۲)

۳..... بسودہ دونوں (مراد آدم وحواء) اے رب ہمارے عظیم کیا ہم نے اپنی جانوں پر اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور جہنم میں جا سکتے۔ (الاعراف آیت ۲۳)

۳..... بولا (حضرت نوح) اگر تو نہ بخشے مجھ کو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں نقصان والوں میں۔

(ہود آیت ۴۷)

۵..... بولا (حضرت موسیٰ) اے میرے رب میں نے برا کیا اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو۔ پھر اس کو بخش دیا بے شک وہی ہے بخشے والا مہربان۔
(انقص آیت ۱۶)

۶..... ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ (مراد آنحضرت ﷺ) کہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ قرآنی آیات سے گزر کر احادیث ملاحظہ فرمائیے جو زیر بحث کی بالکل تصدیق کرتی ہیں۔

۱..... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم وہی آدم ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح تم میں پھونکی اور تم کو سجدہ کرایا فرشتوں سے۔ تم کو اپنی جنت میں رہنے کو دی پھر تم نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ آدم نے اپنے رب کے فرمانے کے خلاف کیا اور بھگ گیا۔ (مسلم شریف باب ما حدّث آدم وموسیٰ علیہم السلام ص ۴۰۸، ۴۰۹) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم وہی آدم ہو جو خطا کی وجہ سے جنت سے نکلے۔ (ص ۴۰۹)

صحیح بخاری شریف جلد سوم کتاب الدعوات باب ۷۹ باب نبی ﷺ کا ارشاد کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے پہلے کیا ہے اور جو میں نے آخر میں کیا ہے۔

حدیث نمبر ۳۳۱ محمد بن بشر عبد الملک بن صباح شعبہ ابواسحاق ابن ابی موسیٰ اپنے والا (ابو موسیٰ) سے وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اے رب! جہل اور گناہ ہونے کی مغفرت فرما اور میری زیادتی کو سب کی سب معاف فرما اور تجھ سے زیادہ مجھ کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ! مغفرت فرما دے گناہوں کی چاہے وہ عمداً ہوں یا خطاءً اور سب گناہ جو میں نے کئے ہیں تو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ میں نے پہلے کئے ہیں اور آخر میں کئے ہیں، سب معاف فرما۔

صحیح بخاری شریف جلد سوم کتاب التوحید باب ۳۶۶ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ لوگ اللہ کے کلام کو بدل ڈالنا چاہتے ہیں۔

حدیث نمبر ۳۳۶..... محمود عبدالرزاق ابن جریج سلیمان احوں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آنحضرت ﷺ جب رات کے تہجد پڑھتے تو یہ دعا کرتے..... تو میرے اگلے اور پیچھے اور پوشیدہ اور ظاہر سب گناہ بخش دے۔ قرآنی آیات اور احادیث صحیح سے گزر کر اب کچھ اقتباسات علامہ سلیمان ندویؒ کی تصنیف سیرت النبی جلد چہارم سے درج کئے جاتے ہیں جو کہ تمام شکوک کو رفع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض ایسے الفاظ ہیں جن سے ایک ظاہرین کو یہ دھوکا ہو سکتا ہے کہ بعض پیغمبروں کے دامن پر عدم مصومیت کے بھی داغ ہیں۔ مگر علمائے معتقین نے ان میں سے ہر ایک شبہ کا تفسی بخش جواب دے دیا ہے جس سے ظاہر بنی کا پردہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور اصل حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے..... مختصراً اصولی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مسئلہ میں جو غلط فہمیاں کسی کو پیش آتی ہیں۔ ان کے دو اسباب ہیں اور ان اسباب کی تشریح کر دینا ہی ان دونوں غلط فہمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ (ص ۱۱۵)

سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام کا پایہ بندوں میں بلکہ تمام مخلوقات میں خواہ کسی قدر بلند ہو اور ان کا دامن گناہ و عصیان کے گرد و غبار سے کتنا ہی پاک ہوتا ہم اس ذوالجلال والا کرام کے سامنے ان کی حیثیت ایک عبد ایک بندہ ایک عاجز مخلوق ہی کی ہے۔ ایک عبد و غلام خواہ کسی قدر اطاعت کیش کتنا ہی وفا شعار اور مطیع و فرمانبردار ہوتا ہم اپنے آقا کے سامنے اس کو اپنے قصور کا مترف اپنی تقصیر کا قصر اپنی کوتاہیوں پر نخل اور اپنی فروگزاشتوں پر تادم ہی ہونا چاہئے۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی نیکی اور پاکی کی شہادت سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ وہ خدا کی عظمت و جلال اور اس کی رحمت و شفقت کے ذکر میں فرماتے ہیں:

”واللذی اطمع ان یغفر لی خطیعتی یوم الدین (اشراء)“ یعنی اور وہ خدا جس سے جزاء کے دن اپنی بھول چوک کی معافی کی پوری امید رکھتا ہے۔ نبی کا یہ اعتراف و اقرار اور مجالت و عداوت اس کا نقص نہیں بلکہ اس کی بندگی اور عبودیت کا کمال ہے اور آقا کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے غلام اطاعت فرمانبرداری کے جس حیرت انگیز رتبے تک بھی پہنچے ہیں۔

وہ ان سے اطاعت کیشی اور وفا شعاری کے اس سے بھی بلند مرتبہ کا مطالبہ کرے کہ اس کے دربار میں ان کے عروج و ترقی کی کرسی اور بھی اونچی ہوتی جائے۔ بعض آیتوں میں اگر کسی پیغمبر کو خدا سے مغفرت مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے تو اس کا سبب گناہ کا وجود نہیں بلکہ ہر قدم پر گزشتہ

رحمۃ اطاعت پر قناعت کر لینے پر حسیبہ اور مزید اطاعت کا مطالبہ ہے۔ تاکہ وہ اس کے مزید تقرب کا ذریعہ بن سکے۔ آنحضرت ﷺ کو خطاب ہوتا ہے: "اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا (نہر)" یعنی جب اللہ کی مدد آچکی اور (مکہ) فتح ہو چکا اور لوگوں کو اللہ کے دین میں گروہ درگروہ جاتے دیکھ چکا تو اپنے پروردگار کی پاکی بیان کر اور اس سے معافی چاہ کہ وہ بندے کے حال پر رجوع ہونے والا ہے۔ غور کرو کہ خدائی مدد آنا مکہ فتح ہونا، بت پرستی کی بیخ کنی اور لوگوں کا مسلمان ہو جانا کوئی جرم ہے جس سے کوئی معافی چاہے؟ اس طرح سورہ فتح میں فرمایا:

"انا فتحناك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتاخرويتم نعمته عليك يهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً (فتح)" یعنی ہم نے تجھ کو کھلی فتح دی تاکہ اللہ تیری اگلی کھلی خطا کو معاف کرے اور اپنا احسان تجھ پر پورا کرے اور تجھ کو سیدھی راہ پر چلائے اور تجھ کو مضبوط مدد دے۔ دو بارہ غور کرو کہ مکہ کی فتح کا صلہ نصیب ہونے کو حضور کی معافی سے بجز اس کے کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے حسن خدمت کو قبول فرما کر اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے۔ اس استغفار سے مقصود نحوذہا اللہ بخیر کی گناہگاری کا ثبوت نہیں بلکہ اس کی عہدیت کا صلہ کا اظہار ہے۔ (ص ۱۱۶)

الغرض انبیاء علیہم السلام کا خدا کے حضور میں اپنی کوتاہی کا اعتراف ان کی گناہگاری کا ثبوت نہیں بلکہ ان کی عہدیت کا صلہ کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کسی بخیر کی نسبت یہ فرمانا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کی گناہگاری کا اعلان نہیں۔ بلکہ اپنی پسندیدگی رضا اور قبول تام کی بشارت ہے۔ (ص ۱۱۷)

لیکن ذنب کا اطلاق ان کاموں پر بھی ہوتا ہے جو درحقیقت عام امت کے لئے گناہ نہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کے حق میں اتنی عظمت بھی مواخذہ کے قابل ہے۔ اسی معنی میں کہا گیا ہے۔ "حسنات الأبرار سيئات سيات المقربين (ص ۱۱۸)" انبیاء علیہم السلام کے استغفار کے موقع پر ہمیشہ ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جرم، اثم یا خطا کا نہیں۔ ذنب کا لفظ بھول چوک اور غفلت سے لے کر عصیان تک کو شامل ہے۔ اس لئے کسی نبی کو اگر خدا کی طرف سے استغفار ذنب کی ہدایت کی گئی تو اس کے لئے صریح عصیان و گناہ کے نہیں بلکہ یہی انسانی بھول

چوک اور فروگزاشت ہے جس کی اصلاح و تصحیح اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم اور لطف و عنایت سے فرما دیتا ہے۔ اس کے لئے استغفار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ (ص ۱۱۹)

حدیث شریف زیر بحث خبر احاد نہیں ہے کہ کسی عیسائی نے اپنی طرف سے بنا کر صحیح بخاری شریف میں لگا دی ہے۔ بلکہ اول تو متفق علیہ ہے اور پھر تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ مزید احادیث کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ تاکہ ثابت ہو جائے کہ تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔

.....۱ (صحیح بخاری شریف جلد دوم حدیث نمبر ۵۶۶)

.....۲ (صحیح بخاری شریف ج ۲ حدیث ۵۸۷)

.....۳ (صحیح بخاری شریف ج ۳ حدیث ۱۳۸)

.....۴ (صحیح بخاری شریف ج ۲ حدیث ۱۷۸)

.....۵ (صحیح بخاری شریف ج ۳ حدیث نمبر ۳۰۷)

.....۶ (صحیح بخاری شریف جلد دوم باب شفاعت کا ثبوت ص ۳۱۱، ص ۳۳۱، ص ۳۳۲، ص ۳۳۳)

مزید براں مرزا قادیانی نے بھی ایک موقع پر یوں دعانا کی ہے۔

لے خداوند من گناہم بخش

سوئے درگاہ خویش راہم بخش

(براہین احمدیہ ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۱۶)

خط نمبر ۵..... اولاً اس روایت کی رو سے حق شفاعت صرف آنحضرت ﷺ کو دیا گیا ہے اور کوئی نبی خواہ متاخرین سے ہو یا حقدین سے اس حق کا حامل نہیں۔

جواب..... صحیح مسلم شریف میں باب شفاعت کا ثبوت اور محدودوں کا جہنم سے نکالا جانا۔ ص ۳۳ کے تحت جملہ احادیث اس موضوع پر درج کی گئی ہیں۔

دوم..... یہ کہ اللہ عز و جل نے آنحضرت ﷺ کی قرآن حکیم میں یوں بیان فرمائی ہے: ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ (یعنی اے حبیب ﷺ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔) اور شفاعت بھی رحمت کے ضمن میں آتی ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ عز و جل نے ایسا کلام کسی اور نبی علیہ السلام کے لئے نہیں کیا ہے۔

سوم یہ کہ قرآن حکیم میں ارشاد الہی ہے: ”قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً (الاعراف ۱۵۸)“ جو یعنی اے حبیب ﷺ! آپ فرمادیجئے کہ اے تمام لوگوں میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اعزاز اللہ عزوجل نے کسی اور نبی علیہ السلام کو نہیں دیا۔ معلوم ہونا چاہئے تمام انبیاء علیہم السلام آنحضرت ﷺ سے پہلے یعنی حقد میں ہیں۔ کیونکہ وحی الہی نے قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اپنے رسول بھیجے گا ذکر کیا ہے۔ ان پر من قبلك ہی فرمایا ہے۔ اور آپ ﷺ کے بعد کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ لہذا متاخرین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سوال عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں ہوتا؟

جواب پہلے تو آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ ”هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا (الدمر)“ یعنی انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت وہ بھی تھا کہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان چونکہ معدوم تھا۔ بہ اس وجہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا۔ دوم یہ کہ مرزا قادیانی کا ایک قول مل گیا ہے جس کا ماننا ہر قادیانی پر فرض اولین ہے۔ فرماتے ہیں اور اقربوں وید کی نسبت تو اکثر متفق پندتوں کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ وہ ایک جعلی وید یا براہمن بیک ہے جو پیچھے سے ویدوں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور یہ رائے سچی بھی معلوم ہوتی ہے کہ کیونکہ رگ وید میں جو سب ویدوں کا اصل الاصول اور سب سے زیادہ معتبر خیال کیا جاتا ہے۔ موصوف رگ ویدہ بحر وید اور سام وید کا ذکر ہے اور اقربوں وید کا نام تک درج نہیں ہے۔ اگر وہ وید ہوتا تو اس کا ذکر ضرور ہوتا۔
(برماہین احمدیہ ماہیہ نمبر ۸ ص ۱۰۸، خزائن ج ۱ ص ۹۹)

مرزا قادیانی نے ایک کلمہ بتا دیا ہے۔ بالکل اس نچ پر خیال کر لیجئے کہ اگر مرزا قادیانی نبی ہوتے تو ان کا بھی ذکر ضرور ہوتا۔

سوال اس روایت کی مکمل سند لکھیں۔

جواب حدیث زیر بحث میں شروع میں راویان کا مکمل حوالہ درج کر دیا گیا تھا اور آخر میں حدیث کا صحیح اور مکمل حوالہ دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اور کیا سند چاہئے۔ والسلام علی من اتبع الهدی!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَوْلَانَا خَلِیْلِ الرَّحْمٰنِ قَادِرِی

مرزائی لاریب غیر مسلم ہیں



مولانا خلیل الرحمن قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مرزائی لاریب غیر مسلم ہیں

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی موعومہ ماموریت کا مسلمانوں میں تبلیغ کر کے امت محمدیہ میں بالاتفاق انتشار اور تفرقہ پیدا کر دیا اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ یہ ایک ایسا جھج فصل ان سے سرزد ہوا ہے جس کے بارے میں وہ آخرت میں ضرور بالضرور جواب دہ ہوں گے۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کی ایک موعومہ وحی درج کی جاتی ہے۔ اور اسی سے ٹھوس دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ ان کی موعومہ ماموریت نہ تو اسلام کے فروغ کے لئے تھی اور نہ ہی مسلمانوں کی اصلاح کے لئے تھی۔ بلکہ کسی غیر مسلم قوم کے لئے تھی۔ مرزا قادیانی نے اپنا ایک موعومہ الہام لکھا ہے ”الرحمن علم القرآن لتنذر قوماً انذر آباؤہم“

(دیکھو براہین احمدیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱۸، ۲۶۵، خزائن ج ۱، اور حقیقت الوحی ص ۷۰، خزائن ج ۳۳ ص ۷۳)

اور اس کے معنی یوں لکھے ہیں ”خدا نے تجھے قرآن سکھایا یعنی اس کے صحیح معنی تجھ پر

ظاہر کئے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرانے جن کے باپ دادا ڈرانے نہیں گئے۔“

مرزا قادیانی کی مندرجہ بالا موعومہ وحی قرآن حکیم کی دو آیات سے نکلے لے کر بتائی

گئی ہے: ”تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوماً ما انذر آباؤہم فہم غفلون (سورہ

یٰسین ۶۰) یہی سورت ہے اور اس میں ”قوم“ سے مراد کفار مکہ ہیں۔

.....۲ ”الرحمن علم القرآن (سورہ یٰسین ۶۱)“ یہ مدنی سورت ہے اور یقیناً اس کا نزول

سورت یٰسین کے بعد ہوا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں (کفار مکہ) کو ڈرانے کا حکم پہلے نازل ہوا۔

آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے قبل کفار مکہ کے پاس کوئی ڈرانے والا منجانب اللہ

عزوجل نہیں بھیجا گیا تھا۔ جس کی تصدیق سورہ القصص کی آیات ۴۵، ۴۶ سے بالکل وضاحت کے ساتھ اور مدلل طریقے پر ہو جاتی ہے اور کسی شک و شبہ اور بے جا تاویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔

”وما کنتم بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمة من ربک لتنذرن قوماً

ما اثمهم من نذیر من قبلك لعلهم یتذکرون۔ ولولا ان نصیبهم مصیبة بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فننتبع ایتک وتکون من المؤمنین“ اس آیت مبارکہ سے بالکل واضح طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ کفار مکہ کے پاس صرف آنحضرت رسول اللہ ﷺ ہی ڈرانے کے لئے مبعوث کئے گئے تھے اور جیسا کہ قرآن حکیم احادیث صحیحہ متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کی بعثت تمام بنی آدم کے لئے ہوئی تھی تو پھر کیا مرزا قادیانی کی مندرجہ بالا محموہ وحی، اللہ عزوجل پر افتراء نہیں ہے۔ اور کیا مرزا قادیانی اس محموہ وحی کے انکشاف اور عوام میں مشتہر کر کے مفسری نہیں ٹھہرے۔

پس صاف ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر کوئی وحی منجانب اللہ عزوجل نازل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ تمام تر ان کے دماغ کی گونج اور اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر اگر بالفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ بقول مرزا قادیانی ان کی طرف اس مضمون کی وحی آئی تھی تو وہ اپنے متن اور معنی کی رو سے نہ تو اسلام کے فردوغ کے لئے تھی اور نہ ہی مسلمانوں کی اصلاح کے لئے تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔ بلکہ وہ کسی ایسی قوم کے لئے تھی جن کے باپ و ادا اس وقت تک ڈرائے نہیں گئے تھے۔ اور وہ یقیناً کوئی غیر مسلم قوم ہی ہو سکتی تھی۔ کیونکہ مسلمانوں کے لئے چودہ سو برس پہلے ایک عظیم الشان اور عالی مرتبت ڈرانے والے آچکے تھے۔

پس مرزا قادیانی کو اپنی اس مرمومہ وحی کی قجیل میں کسی غیر مسلم قوم کی تلاش کرنا ضروری تھا۔ جیسا کہ انہوں نے کیا اور ان کے قبضین ابھی تک کر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کے تاثرات سے جو کہ انہوں نے (نصرت الحق ص ۵۱، ۵۲، مشمولہ براین احمد یہ حصہ پنجم، خزائن ج ۳۱ ص ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰) میں لکھے ہیں۔ صاف طور پر ثابت ہے کہ ان کی ماموریت کسی غیر مسلم قوم کے لئے ہوئی تھی۔ اس وحی کے نازل ہونے پر مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ ہر مامور کے لئے مشیت الہیہ کے موافق جماعت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس کا ہاتھ بٹائیں۔ اور اس کے مددگار ہوں اور مال کا ہونا ضروری ہے تاکہ دینی ضرورتوں میں جو وقتیں پیش آتی ہیں۔ خرچ ہو اور مشیت الہیہ کے موافق اعداد کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔

جبکہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ مرزا قادیانی کی مرمومہ ماموریت بزم خود غیر مسلموں کے لئے تھی۔ تو جن مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کسی بھی حیثیت سے قبول کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں وہ سب کے سب لازمی طور پر فضل ارتداد کے مرتکب ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں اور یوں غیر مسلم بن گئے ہیں۔ اور اب وہ تمام انعامات محمدیہ سے یکسر محروم ہو گئے ہیں اور ان کو نہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور کہلانے کا کوئی حق باقی رہا ہے اور نہ ہی ان کو کسی ایک بھی اسلامی شعار اپنانے کا کوئی حق باقی رہا۔ ”فاعتبروا یا اولی الابصار“

آخر میں گزارش ہے کہ ہر مرزائی کے لئے یہی بہتر طریقہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوتاہیوں اور گمراہیوں سے صدق دل سے تائب ہو کر پھر سے سچے اور حقیقی اسلام میں داخل ہو جائے تاکہ عاقبت بخیر ہو، مگر خسران ہی خسران ہے بلکہ خسران عظیم۔ وما علینا الا البلاغ! ظلیل الرحمن قادری، مورخہ ۸ جون ۱۹۸۶ء، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَوْلَانَا خَلِیْلِ الرَّحْمٰنِ قَادِرِی

مرزا غلام احمد قادیانی

فلسفہ طاعون^{کا}

اور
اس کی سرگذشت



مولانا خلیل الرحمن قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مرزا غلام احمد قادیانی کا فلسفہ طاعون اور اس کی سرگزشت

اس ہولناک مرض کے بارے میں جو ملک میں پھیلتی جا رہی ہے۔ لوگوں کی مختلف رائیں ہیں۔ ڈاکٹر لوگ جن کے خیالات فقط جسمانی تدابیر تک محدود ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ زمین میں محض قدرتی اسباب سے ایسے کیڑے پیدا ہو گئے ہیں کہ اول چوہوں پر اپنا بد اثر پہنچاتے ہیں۔ اور پھر انسانوں میں یہ سلسلہ موت کا جاری ہوتا ہے اور مذہبی خیالات سے اس بیماری کو کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ چاہئے کہ اپنے گھروں اور تالیوں کو ہر ایک قسم کی محنت سے بچائیں۔ اور صاف رکھیں۔ اور فیٹائل وغیرہ کے ساتھ پاک کرتے رہیں۔ اور مکالوں کو آگ سے گرم رکھیں..... اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ ٹیکہ کرائیں..... اور بہتر ہے کہ کھلے میدانوں میں رہیں..... بہر حال یہ تمام طریقے جو ڈاکٹری طور پر اختیار کئے گئے ہیں نہ تو کافی اور پورے تسلی بخش ہیں اور نہ محض نکلے اور بے فائدہ ہیں اور چونکہ طاعون جلد جلد ملک کو کھاتی جاتی ہے۔ اس لئے نبی نوع کی ہمدردی اسی میں ہے کہ کسی اور طریق کو سوچا جائے جو اس جہاں سے بچا سکے۔

جو فرتے حضرت حسین یا علیؑ کو قاضی الحاجات سمجھتے ہیں اور محرم میں تازیوں پر ہزاروں درخواستیں مرادوں کے لئے گزارتے ہیں اور یا جو مسلمان سید عبدالقادر جیلانیؒ کی پوجا کرتے ہیں یا جو شاہ مدار پانچویں سرور کو پوجتے ہیں۔ وہ کیا کریں اور کیا اب یہ تمام فرتے و عائنیں نہیں کرتے بلکہ ہر ایک فرقہ خوفزدہ ہو کر اپنے اپنے معبود کو پکار رہا ہے..... میرے استاد ایک بزرگ شیعہ تھے۔ ان کا مقولہ تھا کہ وہاں کا علاج فقط تو لا اور تہری ہے۔ یعنی ائمہ اہل بیت کی محبت کو پرستش کی حد تک پہنچا دینا اور صحابہؓ کو گالیاں دیتے رہنا۔ اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ اور عیسائیوں کے خیالات کے اظہار کے لئے ابھی ایک اشتہار پادری وائٹ بر بخت صاحب اور ان کی انجمن کی طرف سے نکلا ہے اور وہ یہ کہ طاعون کے دور کرنے کے لئے اور کوئی تدبیر کافی نہیں۔ بجز اس کے کہ حضرت مسیح کو خدا مان لیں۔ اور ان کے کفارہ پر ایمان لے آئیں۔

اور ہندوؤں میں سے آریہ لوگ یہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بلائے طاعون وید کے ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہم تمام فرقوں کو چاہئے کہ ویدوں کی ست و دیو پر ایمان لائیں اور تمام نبیوں کو نفوذ باللہ مفتری قرار دیں۔ تب اس تدبیر سے طاعون دور ہو جائے گی۔ اور ہندوؤں میں سے جو سناٹن دھرم فرقہ ہے۔ اس فرقہ میں دفع طاعون کے بارے میں جو رائے ظاہر کی گئی ہے وہ

رائے یہ ہے کہ یہ ملائے طاعون گائے کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر گورنمنٹ یہ قانون پاس کر دے کہ اس ملک میں گائے ہرگز ہرگز ذبح نہ کی جائے تو پھر دیکھئے طاعون کیوں شروع نہ ہو جاتی ہے۔

اب اے ناظرین! خود سوچ لو کہ اس قدر متفرق اقوال اور دعاوی سے کس قول کو دنیا کے آگے صریح اور بدیہی طور پر فروغ ہو سکتا ہے؟ یہ تمام اعتقادی امور ہیں اور اس نازک وقت میں جب تک کہ دنیا ان حقائق کا فیصلہ کرے خود دنیا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لئے وہ بات قبول کے لائق ہے جو جلد تر سمجھ میں آ سکتی ہے اور جو اپنے ساتھ کوئی ثبوت رکھتی ہے۔ ”پس اس بیماری کے دفع کے لئے وہ پیغام جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ لوگ مجھے سچے دل سے سچ موعود مان لیں۔ (دافع البلاء ص ۱-۱۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱، اپریل ۱۹۰۲ء)۔“ یہ تو ہے فلسفہ اب اس کی سرگزشت ملاحظہ فرمائیے۔

جب ۱۸۹۸ء میں طاعون کی وبا ہندوستان میں پھیلی تو مرزا غلام احمد قادیانی (جن کو آئندہ اس مضمون میں مرزا قادیانی ہی لکھا جائے گا۔) نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے حسب عادت فوراً مشہور اور شائع کرویا۔ ”حماۃ البشریٰ (فروری ۱۸۹۳ء) میں جو کئی سال طاعون پیدا ہونے سے پہلے شائع کی تھی میں نے یہ لکھا تھا کہ میں نے طاعون پھیلنے کے لئے دعا کی ہے۔ سو وہ قبول ہو کر ملک میں طاعون پھیل گئی۔“ (انہرواں ۶۹ نشان حقیقت الہوی ص ۲۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۲۳۵) ”برایین احمد یہ ۱۸۸۳ء میں باعث تکذیب طاعون پیدا ہونے کے لئے خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی تھی۔ سو پچیس ۲۵ برس بعد پنجاب میں طاعون پھیل گئی۔ (سترویں ۶۷ نشان حقیقت الہوی ص ۲۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۲۳۵) مرزا قادیانی کی حساب دانی کہ ۱۸۸۳ء سے ۱۸۹۸ء تک پچیس سال ہو گئے قائل داد ہے۔“ ”برایین احمد یہ کے آخری اوراق کو دیکھا تو ان میں یہ الہام درج تھا: ”دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیائے اس کو قبول نہ کیا پر خدا اس کو قبول کرے گا اور زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ اس وقت دنیا کہاں تھی اور ہمارا دعویٰ بھی نہ تھا۔ لیکن اس الہام میں ایک پیشینگوئی تھی جو اس وقت طاعون پر صادق آ رہی ہے اور زور دار حملوں سے مراد طاعون ہے۔“ (ملفوظات احمدیہ حصہ ہفتم ص ۵۲۲، مرتبہ محمد منظور الہی قادیانی لاہوری) ”مندرجہ بالا مضمومہ الہام کی عبارت قائل غور ہے۔ قادیانی کے خدا نے خبر دی ”دنیا میں ایک نذیر آیا“ نہ کہ دنیا میں ایک نذیر بھیجا اور پر خدا اس کو قبول کرے گا۔

یعنی ماموریت کی نفی ہے کیونکہ مقبول ہو کر ہی ماموریت کا منصب ملتا ہے۔ یہاں پر مقبولیت کا وعدہ زمانہ مستقبل میں ہے۔ لہذا ماموریت مقبولیت کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ اس سے

پہلے نہیں اور ہمارا دعویٰ بھی نہ تھا حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنی ماموریت کا دعویٰ ۱۸۸۲ء میں کر دیا تھا اور جب دعویٰ نہ تھا تو تکذیب کس بات کی ہوئی جس کے باعث طاعون پیدا ہوئی (ملاحظہ کیجئے) انہر و ان نشان جو کہ اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کا قول غلط ثابت ہوا۔ یہی مزموعہ الہام مرزا قادیانی نے ایک غلطی کا ازالہ ۱۹۰۱ء میں لکھا ہے اور اس کی دوسری قرأت دنیا میں ایک نبی آیا بھی لکھی ہے اور تذکرہ میں ایک نوٹ بھی درج کیا گیا ہے۔

ج..... ”دنیا میں ایک نبی آیا مگر دنیا نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک قرأت اس الہام میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا اور یہی قرأت براہین میں درج ہے اور فقہ سے بچنے کے لئے یہ دوسری قرأت درج نہیں کی گئی۔“ (مکتوب مورخہ ۷ اگست ۱۸۹۹ء، مکتوبات احمدیہ ج ۲ ص ۲۳۸)

(ماخذ مجموعہ الہامات کشف در ذی النثر لیڈر ربوہ ایڈیشن سوم ۱۹۶۹ء)

قارئین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ ”دنیا میں ایک نبی آیا“ کا مزموعہ الہام مرزا قادیانی کو ۱۸۸۳ء میں ہوا لیکن انہوں نے اس کا اظہار ۱۹۰۱ء میں کیا یعنی سترہ برس تک اس کو عوام سے مخفی قہقہے کی ڈر سے چھپائے رکھا اور جب دیکھا کہ اپنی نبوت جمانے کے لئے زمین ہموار ہو گئی ہے تو اس کا اظہار ”ایک غلطی کا ازالہ“ کر دیا۔ یہی ایک سچے مامور من اللہ کا شیوہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی رو سے تمام انبیاء علیہم السلام اور رسولوں نے ماموریت کے بعد ہی بلا خوف و خطر اعلان کر دیا تھا۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب اصل مضمون کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ”یہی مزموعہ الہام (حقیقت الوحی ص ۵، خزائن ج ۲۲ ص ۸۸) پر درج کیا گیا ہے۔ لیکن کسی جگہ بھی زور آور حملوں سے مراد طاعون بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور مرزا قادیانی نے طاعون پھیلنے کے بعد ہی اس سے طاعون ہوا لیا ہے۔ پیشینگوئی کیسے ہوئی پھر یہ کہ حماقتہ البشریٰ میں مرزا قادیانی نے خود طاعون کی دعا مانگی تھی۔ اور براہین احمدیہ میں لکھا ”باعث تکذیب طاعون پیدا ہونے کے لئے خدا تعالیٰ نے خبر دی تھی“ اور یہ کہ دعا کے قبول ہونے میں بقول ان کے پچیس برس لگ گئے۔ یہ تمام امور غور طلب ہیں۔

”جو کتاب (سر الخلافہ ج ۱ ص ۱۸۹۳، خزائن ج ۸ ص ۳۹۱) میں میں نے لکھا ہے کہ مخالفوں پر طاعون پڑنے کے لئے میں نے دعا کی تھی۔ یعنی ایسے مخالف جن کی قسمت میں ہدایت نہیں سوا اس دعا کے کئی سال بعد اس ملک میں طاعون کا غلبہ ہوا اور بعض سخت مخالف اس دنیا سے گزر گئے اور وہ یہ دعا تھی۔ اے میرے خدا جو جس نیک راہ اور نیک کام کا دشمن ہے اور فساد کراتا ہے۔ اس کو پکڑ اور اس پر طاعون کا عذاب نازل کر اور اس کو ہلاک کر دے۔ اور میری بے قراریاں

دور کر اور مجھے غموں سے نجات دے۔ اے میرے کریم اور میرے دشمن کو کھڑے کھڑے کر اور خاک میں ملا دے۔“ اور پھر کتاب اعجاز احمدی نومبر ۱۹۰۲ء میں یہ پیشینگوئی تھی۔ ”..... خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ طعن کا بدلہ طعن ہے۔ پس وہی طاعون جو ان کو پکڑے گی اور جب فسق ہلاک کرنے والا حد سے بڑھ گیا تو میں نے آرزو کی کہ اب ہلاک کرنے والی طاعون چاہئے۔“ (حاشیہ پہ پیشینگوئی حملہ البشری، تذکرہ ص ۵۰۸ طبع ۳) میں ہے ”اور اس کے بعد یہ الہام ہوا ”اے بسا خانہ دشمن کہ تو دیران کردی۔“ اور یہ الہام اور الہدیر میں شائع کیا گیا اور پھر مذکورہ بالا دعائیں جو دشمنوں کی سخت ایذا کے بعد کی گئیں۔ جناب الہی میں قبول ہو کر پیشینگوئیوں کے مطابق طاعون کا عذاب ان پر آگ کی طرح برسا اور کئی ہزار دشمن جو میری تکذیب کرتا اور ہدی سے نام لیتا تھا ہلاک ہو گیا۔“

(اکہتر اول نشان حقیقت الوہی ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷)

بد دعائیں نہ کہ بقول مرزا قادیانی دعائیں مانگنے کے بعد مرزا قادیانی کو جو مرمومہ الہام فارسی میں ہوا۔ اس کے معنی ہیں ”اے وہ کہ تو جس نے بہت سے مخالفین کے گھر برباد کر دیئے۔“ مرزا قادیانی نے نہ تو اس کے معنی لکھے ہیں اور نہ اسی کچھ تشریح کی ہے۔ غالباً ان کے خدا نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ”تو“ کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے۔ مخلوق اللہ کی جاہی کے لئے بد دعائیں نہ کہ دعائیں مانگنا ایک ایسے شخص کے لئے جو آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی کامل پیروی اور اتباع کرنے کا دعوے دار ہوا اور جس پر مندرجہ ذیل مرمومہ الہامات نازل ہوئے ہوں، کہاں تک جائز ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور وہ مرمومہ الہامات یہ ہیں ”کیا تو اس غم میں اپنے تئیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے۔ جس چیز کا تجھے علم نہیں۔ اس کے پیچھے مت پڑ اور ان لوگوں کے بارے میں جو عالم ہیں۔ میرے ساتھ مخالفت مت کر، وہ فرق کئے جائیں گے۔“

”اس جگہ فتنہ ہے پس مبر کر جیسے اولوالعزم لوگوں نے مبر کیا ہے۔“ خبردار ہو یہ فتنہ خدا کی طرف سے ہے۔ تاکہ وہ ایسی محبت کرے جو کامل محبت ہے۔ اس خدا کی محبت جو نہایت عزت والا اور نہایت بزرگ ہے۔ وہ بخشش جس کا کبھی انقطاع نہیں۔ لوگوں کے رفق اور نرمی سے پیش آ، اور ان پر رحم کر تو ہمنزلہ موسیٰ کے ہے اور ان کی باتوں پر مبر کر۔ اور میں نے تجھے اس لئے بھیجا ہے تاکہ سب لوگوں کے لئے رحمت کا سامان پیش کر دوں۔ مندرجہ بالا ترے مرزا قادیانی نے خود لکھے ہیں۔ غور فرمائیے کہ بد دعا کے متعلق بالکل صاف طور پر نبی کی گئی ہے۔ بلکہ دشمنوں کا ذکر کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ حوالہ کے لئے دیکھئے (براہین احمدیہ حصہ چہارم، پہلی فصل صفحات

مرزا قادیانی کے مجموعہ الہامات میں ان کے خدا نے جو اوامر اور نواہی نازل کئے۔ مرزا قادیانی کے اخیر دم تک ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ بلکہ برخلاف اس کے اپنے ہر سخت مخالف کے لئے مرنے کی دعائیں اور پیشینگوئیاں کرتے رہے جس سے بغیر کسی پس و پیش کے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی پر حقیقتاً کوئی الہام منجانب اللہ عزوجل نازل نہیں ہوا۔ بلکہ یہ سب ان کے اپنے دماغ کی گونج تھی۔ جس پر انہوں نے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ حالانکہ ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جو کچھ مخالفت ہو رہی ہے۔ وہ عین ان کے اللہ کی منشاء کے مطابق ہے۔ لہذا اصولاً ان کو تمام مخالفت کو نہایت خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہنا چاہئے تھا تاکہ محبت میں اضافہ ہوتا نہ کہ مخالفین کے حق میں بد دعائیں کرنا چاہئے تھا۔ اور یہ کہنا کہ مرزا قادیانی پر حقیقتاً کوئی الہام اللہ عزوجل نہیں نازل ہوا۔ مندرجہ ذیل واقعات سے بھی بالکل واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے اور کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔

ملاحظہ فرمائیے: جب طاعون کی دہاؤ پنجاب میں شروع ہو گئی تو مرزا قادیانی نے فوراً مندرجہ ذیل بیان حسب عادت شائع کرایا۔ ”آج جو چھ جنوری ۱۸۹۸ء روز یکشنبہ ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو مغرب ملک میں پھیلنے والی ہے۔“ اور مجھے اس سے پہلے طاعون کے بارے میں الہام بھی ہوا۔ اور وہ یہ ہے: جب تک دلوں کی دہاؤ معصیت دور نہ ہو جب تک ظاہری وہاب بھی دور نہیں ہوگی۔“ (تلخیص رسالت ج ۷ ص ۵۵، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵) ”چھیا لیسواں نشان یہ ہے کہ اس زمانے میں جبکہ بجز ایک مقام کے پنجاب کے تمام اضلاع میں طاعون کا نام و نشان نہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ تمام پنجاب میں طاعون پھیل جائے گی اور ہر ایک مقام طاعون سے آلود ہوگا اور بہت مری پڑے گی اور ہزار ہا لوگ طاعون کا شکار ہو جائیں گے اور کئی گاؤں ویران ہو جائیں گے اور مجھے دکھایا گیا کہ ہر ایک جگہ اور ہر ایک ضلع میں طاعون کے سیاہ درخت لگائے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ پیشینگوئی کئی ہزار اشتہار اور رسالوں کے ذریعے سے میں نے اس ملک میں شائع کی پھر تھوڑی مدت کے بعد ایک ضلع میں طاعون پھوٹ پڑی۔ چنانچہ تین لاکھ کے قریب اب تک جانوں کا نقصان ہوا اور ہو رہا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا اب اس ملک سے کبھی طاعون دور نہیں ہوگی جب تک یہ لوگ تہذیبی نہ کر لیں۔“

خدا کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوئی اس کی عبارت یہ ہے ”خدا نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس بلائے طاعون کو ہرگز درنہیں کرے گا جب تک لوگ ان خیالات کو دور نہ کر لیں جو ان کے دلوں میں ہیں۔ یعنی جب تک وہ خدا کے نامور اور رسول کو نہ مان لیں۔ تب تک طاعون درنہیں ہوگی۔ اور وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تا کہ تم سمجھو کہ قادیان اسی لئے محفوظ رکھی گئی ہے کہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔“ اب دیکھو تین برس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ دونوں پہلو پورے ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک طرف تمام پنجاب میں طاعون پھیل گئی اور دوسری طرف ہاوجود اس کے کہ قادیان کے چاروں طرف دو، دو میل کے فاصلہ پر طاعون کا زور ہو رہا ہے۔ مگر قادیان طاعون سے پاک ہے بلکہ آج تک جو شخص طاعون زدہ باہر سے قادیان میں آیا وہ بھی اچھا ہو گیا..... پس اس بیماری کے دفع کے لئے وہ پیغام جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ لوگ مجھے سچے دل سے مسخ موعود مان لیں۔“

(دافع البلاء ص ۶۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۵-۲۳۶)

فور فرمائیے کہ مرزا صاحب نے موقع سے فائدہ اٹھا کر طاعون کے خوف سے پکھلے ہوئے دلوں کو مرزائیت کے قالب میں ڈھالنے کی کیسی ترکیب نکالی۔ مرزا قادیانی نے آگے فرمایا اور اور پھر اس کے بعد ان دلوں میں بھی خدا نے مجھے خبر دی۔ چنانچہ اس نے مجھے خبر دی چنانچہ عزوجل فرماتا ہے ”ماکان اللہ ليعذبهم انه اوى القرية لولا الاكرام لهلك المقام ان انا الرحمن دافع الاذى انى لا يخاف نرى المسلمين انى حفيظ انى مع الرسول اقوم والوم من يلوم افطر واصوم غضبت غضبا شديدا الامراض تشاع والنفوس تضاع الاالذين امنوا ولم يلبسو ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون انا نأتى الارض ننقصها من اطرافها انى اجهد الجيش فاصبحو فى دارهم جاثمين سنريهم ايا تنا فى الافاق وفى انفسهم نصر من الله وفتح مبين انى بايعتك با يعنى ربي انت منى بمنزله اولادى انت منى وانا منك وعسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً الفوق معك والتحت مع اعداك فاصبر حتى ياتى الله بامرہ ياتى على جهنم زمان ليس فيها احد“ مرزا قادیانی نے اس عبارت کی مندرجہ ذیل تشریحات کی ہیں: ”اب اس تمام وحی سے تین باتیں ثابت ہوئی ہیں:

۱..... اول یہ کہ طاعون دنیا میں اس لئے آئی ہے کہ خدا کے مسخ موعود سے نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ اس کو دکھ دیا گیا۔ اس کے قتل کرنے کے منصوبے کئے گئے۔ اس کا نام کافر اور دجال رکھا

گیا۔ پس خدا نے چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑ دے.....

۲..... دوسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ طاعون اس حالت میں فرو ہوگی جب کہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کر لیں گے۔ اور کم سے کم یہ کہ شرارت اور ایذا اور بدزبانی سے باز آ جائیں گے۔

۳..... تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گو ستر برس تک رہے۔ قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔..... یہ طاعون جو ملک میں پھیلی ہے کسی اور سبب سے نہیں بلکہ ایک ہی سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کے اس موعود کے ماننے سے انکار کیا ہے جو تمام نبیوں کی پیشینگوئی کے موافق دنیا کے ساتویں ہزار میں ظاہر ہوا ہے۔ اور لوگوں نے نہ صرف انکار بلکہ خدا کے اس مسیح کو گالیاں دیں۔ کافر کہا اور قتل کرنا چاہا اور جو کچھ چاہا، اس سے کیا اس لئے خدا کی غیرت نے چاہا کہ ان کی شوخی اور بے ادبی پر ان کو سنجیدہ نازل کرے اور خدا نے پہلے پاک فرشتوں میں خبر دی تھی کہ لوگوں کے انکار کی وجہ سے ان دنوں میں جب مسیح ظاہر ہوگا ملک میں سخت طاعون پڑے گی۔ سو ضرور تھا کہ طاعون پڑتی.....

اے عزیزو! اس کا بجز اس کے کوئی بھی علاج نہیں کہ اس کے مسیح کو سچے دل اور اخلاص سے قبول کر لیا جائے یہ تو یقینی علاج ہے اور اس سے کم تر وجہ کا یہ علاج ہے کہ اس کے انکار سے منہ بند کر لیا جائے اور زبان کو بند گوئی سے روکا جائے اور دل میں اس کی عظمت بٹھائی جائے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے کہ ”یا مسیح الخلق عود لندا“ میری طرف دوڑیں گے یہ جو میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ انے جو خلقت کے لئے مسیح کر کے بھیجا گیا ہے۔ ہماری اس مہلک بیماری کے لئے شفاعت کر! اور جیسا کہ اس احمد کے غلام کی نسبت خدا نے فرمایا ”انہ لوی القریۃ لولا الاکرام لہلک العقلم“ جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اس شفیع کی عزت ظاہر کرنے کے لئے اس گاؤں قادیان کو طاعون سے محفوظ رکھا جیسا کہ دیکھتے ہو کہ وہ پانچ چھ برس سے محفوظ چلی آتی ہے۔ اور نیز فرمایا کہ اگر میں اس احمد کے غلام کی بزدل اور عزت ظاہر نہ کرنا چاہتا تو آج قادیان میں بھی تباہی ڈال دیتا۔“

(داخل ابلاص ۱۳۵۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۶، ۲۳۷)

قارئین کرام غور فرمائیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے جو اس مرحومہ الہامات سے عین باتیں لکھی ہیں اس میں وہ کہاں تک حق بجانب ہیں۔ مرزا قادیانی نے ان مرحومہ الہامات

کے ذریعے خود لوگوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ (مخط کشیدہ الفاظ ہمارے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام باتیں آئندہ چل کر غلط ثابت ہوئیں۔) تاکہ وہ لوگ جو اس طاعون کی دوا سے خوفزدہ ہیں اور جن کا ایمان کمزور ہے۔ وہ مرزا قادیانی کو مسخ موعود مان لیں اور بلاشبہ مرزا قادیانی کو اپنے اس مشن میں خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی۔ کیونکہ اپنی جان بچانے کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ ان کے مندرجہ ذیل عبارت سے تصدیق ہوتی ہے۔

”یہ طاعون ہماری جماعت کو بڑھاتی جاتی ہے اور ہمارے مخالفوں کو نابود کرتی جاتی ہے۔ ہر ایک مہینہ میں کم سے کم پانچ سو آدمی اور کبھی ہزار دو ہزار آدمی بذریعہ طاعون ہماری جماعت میں داخل ہوتا ہے۔ پس ہمارے لئے طاعون رحمت ہے اور ہمارے مخالفوں کے لئے زحمت اور عذاب ہے اور اگر دس پندرہ سال تک ملک میں ایسی طاعون رہی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ تمام ملک احمدی جماعت سے بھر جائے گا۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ طاعون ہماری جماعت کو بڑھاتی ہے اور ہمارے مخالفوں کو گھٹاتی ہے۔“

(تہ تحقیق الوہی ص ۱۳۲ حاشیہ، خزائن ج ۲۲ ص ۵۶۸، ۵۶۹)

(کیا ہی پاکیزہ آرزو ہے مرزا قادیانی کی)

دوم..... یہ کہ طاعون کے خوف سے ایمان لانا ایمان نہیں کہا جاسکتا۔ مرزا قادیانی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ تمام لوگ جو طاعون کے خوف سے ان کی جماعت میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے کتنے محفوظ رہے۔ کیونکہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خود مرزا قادیانی کا گھرانہ کے بلند بانگ دعاوی کے ساتھ طاعونی دوا سے محفوظ نہیں رہا۔ یہاں تک کہ ان کو اپنی جماعت کے باغ میں پناہ لینی پڑی۔ ایک اور اقتباس اسی سلسلے میں درج کیا جاتا ہے۔ تاکہ قارئین کو بصیرت حاصل ہو۔ ”طاعون خدا کا ایک عذاب ہے جو حضرت مسیح موعود کی تائید کے لئے بھیجی گئی ہے۔ اگر ہماری جماعت کی رفتار ترقی کو دیکھا جائے تو ثابت ہوگا کہ ۶۰، ۷۰ فیصدی آدمی طاعون کی وجہ سے سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔ مجھ کو یاد ہے کہ طاعون کے دنوں میں پانچ پانچ سو، ہزار ہزار آدمی کی بیعت کے مخلوط حضرت پاک کے پاس روزانہ آتے تھے تو چونکہ یہ احمدیت کی صداقت کا ایک نشان ہے اور جب تک جماعت کی حفاظت نشان کے طور پر نہ ہو یہ نشان کامل جھگی کے ساتھ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ امتیازی طور پر اس جماعت کو اس مرض سے بچائے..... پس جماعت کے لوگوں کو دعاؤں کے ساتھ ہی اس نشان پر زور دینا چاہئے تاکہ احمدیت خوب پھیلے۔ جانتے ہو اگر گرم لوہے پر چوٹ مارو تو اس کو جس شکل میں چاہو ڈھال لو۔

لیکن شہنشاہ لوہے پر کچھ اثر نہیں ہوا کرتا۔ ان دنوں جو نکل بدل پھلے ہوئے ہیں۔ اس لئے احمدیت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ طاعون بھی خدا کی طرف سے ایک بھٹی بنائی گئی ہے۔ جس میں دل کھلائے جاسکتے ہیں۔ پس صداقت کے قالیوں میں ان کو ڈھال لو۔ یہ دن تبلیغ کے دن ہیں۔ دنوں باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہئے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔“

(میاں محمود احمد قادیانی کا خطبہ مندرجہ الفضل جلد ۵ ص ۲۷، مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۱۸ء)

”چنانچہ اگر اشاعت سلسلہ کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ جس سرعت کے ساتھ طاعون کے زمانہ میں سلسلہ کی ترقی ہوئی۔ ایسی سرعت اس وقت اور کسی زمانے میں نہیں ہوئی۔ نہ طاعون کے دور دورہ سے قبل نہ اس کے بعد۔ چنانچہ میاں محمود صاحب قادیانی بیان فرماتے تھے کہ جن دنوں میں اس بیماری کا پنجاب میں زور تھا۔ ان دنوں میں بعض اوقات پانچ پانچ سو آدمیوں کی بیعت کے خطوط ایک دن میں حضرت صاحب کی خدمت میں پہنچتے تھے۔“

(سیرت الہدیٰ حصہ دوم ص ۴۷، روایت نمبر ۳۵۶، مولفہ صاحبزادہ بشیر احمد قادیانی)

مگر جب ان تمام بلند بانگ اور زور دار دعاوی کے باوجود قادیان میں جو کہ بقول مرزا قادیانی خدا تعالیٰ ”قادیان کو اس کی (طاعون) کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔“ (دافع البلاء ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) طاعون کی وہاں پھوٹ پڑی تو مرزا قادیانی نے فوراً مندرجہ ذیل مزمومہ الہام شائع کر دیا: ”چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ملک میں عام طاعون پڑے گی اور کسی کم مقدر کی حد تک قادیان بھی اس سے محفوظ نہ رہے گی۔ اس لئے آج کے دنوں سے تیس برس پہلے فرما دیا کہ جو شخص اس مسجد اور اس گھر میں داخل ہوگا۔ یعنی اخلاص اور اعتقاد سے وہ طاعون سے بچایا جائے گا۔ اسی کے مطابق ان دنوں خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ”انسی احفاظک کل من فی السدار الا اللذین علوا من استکبار واحفاظک خاصاً سلام قولاً من رب رحیم“ یعنی میں ہر ایک انسان کو طاعون کی موت سے بچاؤں گا جو میرے گھر میں ہوگا۔ مگر وہ لوگ جو گھر سے اپنے تئیں اونچا کریں اور میں تجھے خصوصیت کے ساتھ بچاؤں گا۔ خدائے رحیم کی طرف سے تجھے سلام۔“ جانتا چاہئے کہ خدا کی وحی نے اس ارادہ کو جو قادیان کے متعلق ہے دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے:

۱..... ایک وہ ارادہ جو عام طور پر گاؤں کے متعلق ہے اور وہ ارادہ یہ ہے کہ یہ گاؤں اس شدت طاعون سے افراتفری اور تباہی ڈالنے والی اور ویران کرنے والی اور تمام گاؤں کو منتشر کرنے والی ہو محفوظ رہے گا۔

۲..... دوسرے یہ ارادہ کہ خدائے کریم خاص طور پر اس گھر کی حفاظت کرے گا اور تمام عذاب سے بچائے گا جو گاؤں کے دوسرے لوگوں کو پہنچے گا۔“

(نزول صبح ۲۳-۲۴، ۱۹۰۹ء، خزائن ج ۱۸ ص ۴۰۱، ۴۰۲)

”آج سے ایک مدت پہلے وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے جس کے علم اور تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں ہر ایک شخص کو طاعون کی موت سے بچاؤں گا۔ جو اس گھر کی چار دیواری میں ہوگا۔ بشرطیکہ وہ اپنے تمام مخالفانہ ارادوں سے دست کش ہو کر پورے اخلاص اور اطاعت اور انکسار سے سلسلہ بیعت میں داخل ہو۔“

(کشتی نوح ص ۲، خزائن ج ۱۹ ص ۲)

مرزا قادیانی نے لکھا ہے: ”چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ملک میں عام طاعون پڑے گی اور کسی کم مقدار کی حد تک قادیان بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔“ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرزا قادیانی کا خدا پہلے سے یہ بات جانتا تھا تو پھر پہلے اس نے کیوں نہیں بتا دیا اور ”وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔“ کی یقین دہانی مرزا قادیانی کو کیوں کراتا رہا اور مرزا قادیانی نے ان ہی باتوں کو مستہتر اور شائع کرا کر اللہ کی مخلوق کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کی کہ قادیانی جماعت میں شامل ہونے سے طاعون کے عذاب سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس یقین دہانی سے ہی لوگ قادیانی جماعت میں داخل ہوئے لیکن جب قادیان میں بھی طاعون کا حملہ ہو گیا تو مفروضہ ”اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔“ کا قلعہ بالکل مسمار ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ مرزا قادیانی نے اپنے خدا پر وعدہ خلافی کا الزام خود بھی ثابت کر دیا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔

مرزا قادیانی کے خدانے حالات کے ساتھ ساتھ ان کی اور ان کی جماعت کی حفاظت کا دائرہ بھی تنگ کر دیا۔ یعنی حفاظت کی ذمہ داری قادیان سے ہٹ کر مرزا قادیانی کے گھر تک محدود کر دی اور بعد میں وہ ذمہ داری طاعون سے بچانے کے بجائے طاعون کی موت سے بچانے کی رہ گئی۔ اور مرزا قادیانی نے اپنے مرمومہ الہام کا ترجمہ بھی بدل دیا۔ (حقیقت الوحی ص ۹۴، خزائن ج ۲۳ ص ۹۷) پر یوں درج کیا ”اور خدا ایسا نہیں ہے جو اپنی تقدیر کو بدل دے جو ایک قوم پر نازل کی۔ جب تک وہ قوم اپنے دلوں کے خیالات کو نہ بدل ڈالیں۔ وہ اس قادیان کو کسی زور قدر بلا کے بعد اپنی پناہ میں لے گا۔“ یعنی مرزا قادیانی کو یہ اختیار حاصل تھا کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے مرمومہ الہامات اور ان کے معانی تبدیل کرتے چلے جائیں۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے

بعد بھی طاعون کی وبا نے قادیان میں جا ہی چادی۔

”اس جگہ طاعون سخت تیزی پر ہے۔ ایک طرف انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور صرف چند گھنٹوں میں مر جاتا ہے۔“

(کتوب بنام نواب محمد علی خان مندرجہ کتبوات احمدیہ ج ۵ ص ۱۱۲۔ مکتوبات احمدیہ جدید ج ۲ ص ۲۵۸)

اب مرزا قادیانی کے پاس سوائے اس کے اور کوئی بات باقی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے گھر کو طاعونی دہاء سے حفاظت کا قلعہ مخلوق اللہ کو باور کراویں۔ لہذا ایک بار پھر انہوں نے پلٹا کیا اور مشتہر کر دیا۔ ”آج کے دنوں سے تیس ۲۳ برس پہلے فرما دیا کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہوگا یعنی اخلاص اور اعتقاد سے وہ طاعون سے بچایا جائے گا۔“

(نزول المسح ص ۲۳، ۱۹۰۲ء، خزائن ج ۱۸ ص ۳۰۱)۔

مندرجہ بالا الہام میں مسجد میں داخل ہونے والی بات براہین احمدیہ میں درج ضرور ہے۔ لیکن وہاں پر نہ کوئی شرط عائد ہے اور نہ ہی حفاظت کی تشریح بلکہ صرف خاتمہ بالخیر کی خبر ہے ”الم نجعل لك سهولة في كل امر بيت الفکر وبيت الذکر ومن دخله كان امنا“ (۵۵۸/۵۵۹ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳، خزائن ج ۱ ص ۶۶۶)۔ مرزا قادیانی کی حساب دانی کی داد دیتے ہیں کہ ۱۸۸۳ء سے ۱۹۰۲ء تک تیس برس ہو گئے۔ مرزا قادیانی نے اس مرحومہ الہام کی یوں تشریح کی ہے۔ ”کیا ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لئے آسانی نہیں کی کہ تجھ کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطا کیا اور جو شخص بیت الذکر میں باخلاص و قصد تعبد و صحت نیت و حسن ایمان داخل ہوگا وہ سوائے خاتمہ سے امن میں آجائے گا۔ بیت الفکر سے مراد اس جگہ وہ چوبارہ ہے جس میں یہ عاجز کتاب کی تالیف کے لئے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اور بیت الذکر سے مراد وہ مسجد ہے جو اس چوبارہ کے پہلو میں بنائی گئی ہے۔ اور آخری فقرہ بالا (من دخله كان آمنا) اس مسجد کی صفت میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ مسجد رکعت دہندہ اور رکعت یافتہ ہے۔“

قارئین انور فرمائیے کہ بقول مرزا قادیانی جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ صرف مسجد کے لئے بیان کیا گیا نہ کہ گھر بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر سوائے خاتمہ سے اس کا وعدہ ہے اور کچھ نہیں بلکہ مرزا قادیانی نے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی مندرجہ بالا تشریح کو بھی بدل دیا اور مسجد کے بجائے اپنے گھر کو شامل کر دیا اور جب مرزا قادیانی کی یقین دہانی پر لوگ ان کے گھر میں آنے لگے تو ان کو کچھ پیسہ بخورنے کا خیال آیا تو فوراً یہ بیان جاری کر دیا ”چونکہ آئندہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ طاعون ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گھر میں جس میں بعض حصوں میں مرد بھی

مہمان رہتے ہیں اور بعض حصوں میں عورتیں، سخت تنگی واقع ہے اور آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ان لوگوں کے لئے جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہوں گے حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے۔ اور اب وہ گھر جو غلام حیدر متوفی کا تھا جس میں ہمارا حصہ ہے اس کی نسبت ہمارے شریک راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارا حصہ دیں اور قیمت پر باقی حصہ بھی دے دیں۔ میری دانست میں یہ جو بلی جو ہماری خو بلی کا ایک جزو ہو سکتی ہے دو ہزار تک تیار ہو سکتی ہے۔ چونکہ خطرہ ہے کہ طاعون کا زمانہ قریب ہے اور یہ گھر وحی الہی کی خوشخبری کی رو سے اس طوفانی طاعون میں بطور کشتی کے ہوگا۔ نہ معلوم کس کس کو اس بشارت کے وعدہ سے حصہ ملے گا۔ اسلئے یہ کام بہت جلدی کا ہے۔ خدا پر بھروسہ کر کے جو خالق اور رازق ہے اور اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے۔ کوشش کرنی چاہئے۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہ ہمارا گھر بطور کشتی تو ہے مگر آئندہ اس کشتی میں نہ کسی مرد کی منجائش ہے۔ نہ عورت کی۔ اس لئے توسیع کی ضرورت پڑی۔“

(کشتی نوح ص ۶۶ خزائن ج ۱۹ ص ۸۶)

قارئین کرام! انور فرمائیے کہ ایک طرف اللہ کی مخلوق طاعون کی وبا سے سخت مصیبت میں ہے اور دوسری طرف مرزا قادیانی نے کس پراثر انداز میں دکھی مخلوق سے روپیہ بٹورنے کا طریقہ اختیار کیا اور وہ بھی دو ہزار روپیہ جس کا اندازہ آپ سب بخوبی لگا سکتے ہیں۔

جب مرزا قادیانی کے اپنے گھر میں طاعون کے کیس ہونے لگے تو انہوں نے لکھا:

”ان دنوں خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ”انسی احافظ کل من فی الدار الا اللذین علوا من استکبار احافظک خاصة (تذکرہ ص ۳۲۸ طبع ۳)“ یعنی میں ہر ایک انسان کو طاعون کی موت سے بچاؤں گا جو تیرے گھر میں ہوگا مگر وہ لوگ جو تکبر سے اپنے تئیں اونچا کریں اور میں تجھے خصوصیت کے ساتھ بچاؤں گا۔“ بالفاظ دیگر مرزا قادیانی نے یہ باور کرانا چاہا کہ تیرے گھر کے لوگ طاعون میں مبتلا ہوں گے لیکن میں گے نہیں۔ خائبان کو ”دافع البلاء“ والا دعویٰ یاد نہیں رہا۔ تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے۔ گو ستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ اس کے رسول کا تخت ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ قادیان مرزا قادیانی کے خدا کے رسول کا تخت گاہ اور تمام امتوں کے لئے نشان ہونے والی بات مرزا صاحب کی حیات میں ہی ان کے خدا نے ختم کر دی تھی۔ ورنہ وہ ضرور بالضرور قادیان کو محفوظ رکھتا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا قادیان کی حفاظت تو کجا مرزا قادیانی کے گھر میں بھی طاعون کے کیس ہونے لگے اور یوں وہ کشتی والے بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی جس کا

نبوت مندرجہ ذیل اقتباسات سے بالکل واضح طور پر ملتا ہے۔

”طاعون کے دنوں میں جبکہ قادیان میں طاعون زور پر تھا۔ میرا لڑکا شریف احمد بیمار ہوا اور ایک چم محرقہ کے رنگ میں چڑھا جس سے لڑکا بالکل بے ہوش ہو گیا اور بیہوشی میں دونوں ہاتھ مارتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اگرچہ انسان کو موت سے گریز نہیں مگر اگر لڑکا ان دنوں میں جو طاعون کا زور ہے، فوت ہو گیا تو تمام دشمن اس تپ کو طاعون ٹھہرائیں گے اور خدا تعالیٰ کی اس پاک وحی کی تکذیب کریں گے کہ جو اس نے فرمایا ہے ”انسی احلفظ کل من فنی الدار“ یعنی میں ہر ایک کو جو تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے طاعون سے بچاؤں گا۔ اس خیال سے میرے دل پر وہ صدمہ وارد ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ قریب ارات کے بارے بچے کا وقت تھا کہ جب لڑکے کی حالت ابتر ہو گئی اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ معمولی تپ نہیں یہ اور ہی بلا ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۸۳، حاشیہ، خزائن ج ۲۲ ص ۸۷)

”دوسرے دن کی صبح ہوئی تو میرا ناصر صاحب کے بیٹے اسحاق کو تیز تپ چڑھا اور سخت گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ اور دونوں طرف بن ران میں گھنٹیاں نکل آئیں اور یقین ہو گیا کہ طاعون ہے..... اور اگرچہ میں جانتا تھا کہ موت فوت قدیم سے ایک قانون قدرت ہے لیکن یہ خیال آیا کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کوئی طاعون سے مر گیا تو ہماری تکذیب میں ایک شوقیہ امت برپا ہو جائے گا۔ اور پھر گو میں ہزار نشان بھی پیش کروں۔ تب بھی اس اعتراض کے مقابل پر کچھ بھی ان کا اثر نہ ہوگا کیونکہ میں صد ہا مرتبہ لکھ چکا ہوں اور شائع کر چکا ہوں کہ ہمارے گھر کے تمام لوگ طاعون کی موت سے بچے رہیں گے۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۲۸، ۳۲۹، خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۱، ۳۳۲)

”اس وقت تک خدا کا فضل و کرم ہے اور جو دو احسان ہے۔ ہمارے گھر اور آپ کے گھر میں بالکل خیریت ہے۔ بڑی فوجان کو تپ ہو گیا تھا۔ اس کو گھر سے نکال دیا ہے..... آج ہمارے گھر میں ایک مہمان عورت کو جو دہلی سے آئی تھی، بخار ہو گیا ہے۔“

(مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۱۱۵، نام نواب محمد علی خان مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۳ء)

مرزا قادیانی نے اپنی مرحومہ وحی کی صداقت قائم رکھنے کے لئے اول طاعون زدہ لوگوں کو اپنے گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ لیکن جب زیادہ کیس ہونے لگے تو پھر خود معاً اپنی جماعت کے باغ میں منتقل ہو گئے۔ ”میں اس وقت تک معاً اپنی تمام جماعت کے باغ میں ہوں اگرچہ اب قادیان میں طاعون نہیں۔“

(مکتوب نمبر ۳، مکتوب احمدیہ ج ۵ حصہ اول ص ۳۹، مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۰۵ء، مکتوبات احمدیہ جدیدہ جلد دوم ص ۳۲۳)

قارئین کرام! غور فرمائیے کہ مرزا قادیانی نے طاعون کے معاملہ میں اپنے معمولہ الہامات کے ذریعہ کتنے رنگ بدلے۔ لیکن سب بے کار ثابت ہوئے۔ ”قادیان کو ہر حالت میں محفوظ رکھا گیا۔ کیونکہ وہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ قادیانی کے چاروں طرف دو دو میل کے فاصلے پر طاعون کا زور ہو رہا ہے۔ مگر قادیان طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ جو شخص طاعون زدہ قادیانی باہر سے آیا وہ بھی اچھا ہو گیا۔“ لیکن حال یہ ہے: ”آج ہمارے گھر میں ایک مہمان عورت کو جو دہلی سے آئی تھی بخار ہو گیا۔“ مرزا قادیانی کے صاحبزادہ شریف احمد اور برادر نبوتی میر اسحاق اور بڑی نوجواں اور ماسٹر محمد دین بھی اس دہا کے حملے سے نہیں بچ سکے۔ حالانکہ یہ سب لوگ مرزا قادیانی کے گھر میں تھے اور مخالفین میں سے نہیں تھے۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اور مرزا قادیانی کی یقین دہانی ”خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گا گوستر برس رہے، قادیان کو اس خوفناک جہاں سے محفوظ رکھے گا جیسا کہ دیکھتے ہو کہ وہ پانچ چھ سال سے محفوظ چلی آتی ہے اور نیز فرمایا ”اگر میں اس احمد کے غلام کی بزرگی اور عزت ظاہر نہ کرنا چاہتا تو آج قادیان میں بھی جہاں سے ڈال دیتا۔“ (دافع البلاء ص ۱۴، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳) کے باوجود طاعون کی دہاء نے قادیان میں جہاں چا دی۔

”اس جگہ طاعون سختی پر ہے ایک طرف انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور صرف چند گھنٹوں میں مر جاتا ہے۔ (مکتوب بنام نواب محمد علی خان، مکتوبات احمدیہ ص ۱۱۲، مکتوبات احمدیہ ج ۲ ص ۲۵۸) یہاں تک کہ مرزا قادیانی کے خدا نے اپنے وعدہ کا ”ماکان اللہ لیعدبہم وانست فیہم“ کو بھی پورا نہیں کیا۔ مرزا قادیانی بہ نفس نفیس قادیان میں موجود رہے اور ان کے خدا کے عذاب (طاعون) نے قادیان پر بھر پور حملہ کیا اور جہاں چا دی۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب طاعون کی بیماری کے دوران مرزا قادیانی کا ذاتی حال بھی بیان کر دیا جائے تاکہ قارئین کرام کو خاطر خواہ معلومات حاصل ہو جائیں۔

”ان دلوں خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ”اور میں تجھے خصوصیت کے ساتھ بچاؤں گا۔“ سو اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو اور جو شخص تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہو گا وہ سب طاعون سے بچائے جائیں گے۔“ اس طرح سے طاعون سے محفوظ رہنے کا جو نشان مجھے دیا گیا ہے میں اس سے کیونکر انکار کر سکتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بدوں ینکہ مجھے اس بیماری سے بچایا گیا ہے۔ سو اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو طاعون سے بچایا جائے گا۔ اس قدر یقین دہانی اور یقین کے بعد مرزا قادیانی نے مندرجہ ذیل حفاظتی اقدام کئے۔

”ڈاکٹر محمد اسلمیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو صفائی کا بہت خیال تھا۔ خصوصاً طاعون کے ایام میں اتنا خیال رہتا تھا کہ فیثائل لوٹنے میں حل کرا کے اپنے ہاتھ سے گھر کے پانخانوں اور ونالیوں میں جا کر ڈالتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بعض اوقات حضرت مسیح موعود گھر میں اندھن کا بڑا ڈھیر لگوا کر آگ بھی جلوا یا کرتے تھے تاکہ ضرر رساں جراثیم مر جائیں اور آپ نے ایک بڑی انگلیٹھی بنوائی ہوتی تھی جسے کونکڈال کرا اور گندھک وغیرہ رکھ کر کمروں کے اندر جلایا جاتا تھا اور اس وقت دروازے بند کر دیئے جاتے تھے اور اس کی اتنی گرمی ہوتی تھی کہ جب انگلیٹھی کے ٹھنڈا ہو جانے کے ایک عرصہ بعد بھی کمرہ کھولا جاتا تو پھر بھی وہ اندر سے بھٹی کی طرح تھا تھا۔“ (سیرت الہدیٰ حصہ دوم ص ۵۹، روایت نمبر ۳۷۹، معنیہ صاحبزادہ بشیر احمد قادیانی)

”جب طاعون کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت مسیح موعود نے بیٹر کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ اس میں طاعونی مادہ ہوتا ہے۔“

(سیرت الہدیٰ حصہ اول ص ۵۰، روایت نمبر ۵۶)

”جب ہندوستان میں پیشینگوئی کے مطابق طاعون کا مرض پھیلا اور پنجاب میں بھی اس کے کیس دہونے لگے تو حضرت مسیح موعود نے اس کے لئے ایک دوائی تیار کی۔ اس کا نام تریاق الہی رکھا۔“ (مغنی محمد صادق قادیانی کی تقریر مندرجہ الفضل ج ۳۳ ص ۱۳۱ تا ۱۳۲ اپریل ۱۹۲۶ء)

”وہابی ایام میں حضرت مسیح موعود اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کارڈ کو بھی جو وہاں لے شہر سے آتا چھوئے تو ہاتھ ضرور دھو لیتے۔“

(ریویو آف ریپبلشر اگست ۱۹۲۸ء، منقول از اخبار الفضل قادیان ج ۲۵ ص ۱۲۳، ۱۲۸، مئی ۱۹۲۳ء)

”میں چاہتا ہوں کہ کسی قدر دوائے طاعون آپ کے لئے روانہ کر دوں۔“

(مکتوب ۲۲ جولائی ۱۸۹۲ء، نام ڈاکٹر رشید الدین مندرجہ الفضل ج ۳۳ ص ۱۹۳، ۳۰، اگست ۱۹۲۶ء)

”اس جگہ طاعون سخت تیزی پر ہے۔..... مکرر یہ کہ آتے وقت ایک بڑا بکس

فیثائل کا جو سولہ یا بیس روپے کا آتا ہے ساتھ لے آئیں۔“

(مکتوب نام نواب محمد علی خان مکتوبات احمدیہ حصہ پنجم، چہارم ص ۱۱۲، ۱۱۳، مکتوبات احمدیہ ج دوم ص ۲۵۸)

اگر آتے وقت لاہور سے ڈس انفیکٹ کے لئے کچھ زینسکیو راور کسی قدر فیثائل اور کچھ

گلاب اور سرکہ لے آئیں تو بہتر ہوگا۔“

(مکتوب نام محمد علی خان، ۶، اپریل ۱۹۰۲ء، مکتوبات احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۱۶، مکتوبات احمدیہ ج دوم ص ۲۶۷)

قارئین کرام! اس قدر حفاظتی انتظامات کے باوجود جب مرزا قادیانی کے گھر میں

طاعون کے کیس ہونے لگے تو پہلے تو مرزا قادیانی نے مریموں کو گھر سے باہر نکالنا شروع کیا اور پھر جب بعد میں جا ہی چکی تو خود بھی معہ اپنی جماعت کے گھر سے نکل کر باغ میں چلے گئے تاکہ اگر کوئی موت واقع ہو تو گھر کے باہر ہو اور ان کے مرمومہ الہام کی تکذیب نہ ہو۔

مرزا قادیانی نے بقول خود طاعون پھیلنے کی دعا مانگی تھی جو قبول ہو کر طاعون پھیل گئی۔ اور اس زور سے پھیلی جس سے انسان صرف چند گھنٹے بعد مر جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مرزا قادیانی کا مرمومہ تخت گاہ بھی اس کی پلیٹ میں آ گیا اور پھر ان کا گھر بھی نہیں بچ سکا جس کا حال اوپر لکھا جا چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ طاعون کی وبا نے صرف قادیان میں بلکہ مرزا قادیانی کے گھر میں جس کو انہوں نے ”طوفان طاعون سے کشتی“ کو گوں کو باور کرایا تھا۔ میں بھی افراتفری مچادی جس کی وجہ سے مرزا قادیانی کو معہ اپنی جماعت اپنے گھر کو خیر باد کہہ کر باغ میں پناہ لینا پڑی۔ مزید برآں مرزا قادیانی نے یہ بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ: ”اگر یہ طاعون اسی طرح دس پندرہ سال تک ملک میں رہی تو تمام ملک احمدی جماعت سے بھر جائے گا۔“ (تذکرہ حقیقت الوسی ص ۱۳۲ حاشیہ، خزائن ج ۲۲ ص ۵۶۹)

اب وہی مرزا قادیانی وہاں سے خوفزدہ ہو کر اس سے بیزاری کرتے ہیں۔ ”اس جگہ طاعون سخت تیزی پر ہے۔ ایک طرف انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور صرف چند گھنٹوں میں مر جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کب یہ ابتلاء دور ہو۔“

(مکتوب بنام نواب محمد علی خان مندوبہ مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴

میں ہوئی ہے۔ وہ دوسری صورت میں پچاس سال میں بھی غیر ممکن تھی۔ پس مبارک وہ خدا ہے جس نے دنیا میں طاعون کو بھیجنا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم بڑھیں اور پھولیں اور ہمارے دشمن نیست و نابود ہوں۔“ (تذکرہ حقیقت الوقیٰ ص ۱۳۳، حاشیہ، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۰)

ان تمام باتوں کے باوجود مرزا قادیانی نے طاعون کو ابتلاء بتلا کر اور اس کے دور ہونے کی خواہش کا اظہار کر کے خود اپنے تمام بلند و بانگ دعاوی کو یکدم باطل ثابت کر دیا ہے۔ بلکہ تمام قلعہ ہی خود سہا کر دیا ہے۔ مزید برآں مرزا قادیانی اپنے (کتوب ۳، مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۳۹، مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۰۵ء، مکتوبات احمدیہ ج ۲ ص ۳۳۳، جدید) میں لکھتے ہیں کہ: ”قادیان میں اب طاعون نہیں ہے“ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ مندرجہ بالا مروجہ الہامات کی رو سے قادیان کے تمام باشندوں کو اگر زیادہ وسعت دی جائے تو پنجاب کے تمام باشندوں کے مرزا قادیانی کو باخلاص اور سچے دل سے خدا کا مامور اور رسول مان لیا ہے۔ جب ہی طاعون کی وہاں قادیانیوں سے دور ہوگئی ہے۔ یہ بات واقعات کے بالکل خلاف ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کے مندرجہ ذیل بیان سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے اور اس میں کسی ابہام یا تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ ”ہم نے طاعون کے بارے میں جو رسالہ واضح البلاء لکھا تھا، اس سے یہ غرض تھی کہ لوگ متنبہ ہوں اور اپنے سینوں کو پاک کریں اور اپنی زبانوں اور آنکھوں اور کانوں اور ہاتھوں کو ناستفتی نایدینی نائشیدنی اور ناکردنی سے روکیں اور خدا سے خوف کریں تا خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اور وہ خوفناک وہاں جو ان کے ملک میں داخل ہوگئی ہے۔ دور فرمائے مگر انفس کہ شوخیاں اور بھی زیادہ ہو گئیں اور زبانیں اور بھی دراز ہو گئیں۔“ (نزل اسحٰص، خزائن ج ۱۸ ص ۳۷۹)

مندرجہ بالا تمام مضمون سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی مامور من اللہ نہیں تھے اور ان کے تمام مروجہ الہامات اور یقین دہانیاں خود ان کی طرف سے ایک سوچے سمجھے منسوبے کے تحت تھیں۔ جو کہ حالات کے ساتھ ساتھ چلنے کھاتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کئی موقعوں پر تضاد بیانی سے کام لیتے تھے۔ نیز یہ بھی یقین سے مان لینا چاہئے کہ طاعون کی وہاں شہیت ایزدی کے مطابق پھیلی اور ختم ہوگئی جیسا کہ مرزا قادیانی سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور بعد میں بھی ہوتا رہا ہے اور جب تک دنیا قائم ہے ہوتا رہے گا۔ بلکہ ایسا یقین کرنا ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کو ظاہر کرتا ہے۔ ”فما عقبیر وایسا اولس الابصار وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علی من اتبع الهدی“

ناچیز: ظلیل الرحمن قادری، ۹۷۹ ص ۹ ص ۹، مٹھری، راولپنڈی، ۳۱ نومبر ۱۹۸۸ء!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَوْلَانَا خَلِیْلِ الرَّحْمٰنِ قَادِرِی

نص قرآنی سے
ختم نبوت
کا
مدلل ثبوت



مولانا خلیل الرحمن قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نص قرآنی سے ختم نبوت کا مدلل ثبوت

”الحمد لله الذي بعث الينا اشرف الرسل واشهد ان لا اله الا

الله وحده لا شريك. واشهد ان محمد اعبدته ورسوله ﷺ خاتم النبيين

لا نبي بعدى“

اما بعد اعرض ہے کہ ۸ جون ۱۹۸۶ء کو تمام مرزائیوں کو ایک چیلنج بعنوان ”مرزائی لاریب غیر مسلم ہیں۔“ بھیجا گیا تھا۔ جس کا آج تک یعنی اڑھائی سال گزرنے کے بعد بھی کسی ایک مرزائی نے اس کی رد میں کوئی جواب بھیجا ہے اور ایک دوسرا چیلنج بعنوان ”قلفہ طاعون اور مرزا غلام احمد قادیانی“ بتاریخ ۲۸ مارچ ۱۹۸۸ء بھیجا تھا۔ ان دونوں مضامین میں مرزائیوں نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں اور چیلنج بفضل تعالیٰ اور بظہل ہادی اکبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد ”سلسلہ نبوت کا خاتمہ اور انقطاع وحی بر منہاج نبوت“ پر ایک نہایت ہی ٹھوس دلیل ذیل میں درج کی جاتی ہے جس سے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے جملہ پیغمبرین کے دلائل اور تاویلات پادر ہوا ہو جاتے ہیں۔

ایس سعادت بزور باز و نیست

تانه بخشد خدایه بخشنده

قرآن حکیم پر نسب کا ایمان ہے کہ جو کچھ اس میں نازل ہوا ہے وہ من و عن صحیح اور محفوظ

ہے۔ ”ذالك الكتاب لاريب فيه“ اور انشاء اللہ العزیز نص قرآنی سے ہی ثابت کر دیا جائے گا کہ آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین اس نوعیت سے ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی یا رسول نیا نہیں مبعوث ہوگا۔ غیر تشریحی نبی امی نبی، ظلی نبی یا نبی کے ظل اور بروز کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے خلاف جس کسی نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ سراسر قرآن حکیم کی تکذیب کی ہے جس کا خمیازہ اس کو ضرور بھگتنا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۳۶ درج ذیل کی جاتی ہے جس کی غیر مبہم تشریح بھی لکھی جاتی ہے ”قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیین من ربهم لانفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون“ (یہ خطاب مسلمانوں سے ہے۔) ﴿کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم واسماعیل واسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر اور جو عطاء کئے گئے۔ باقی انبیاء علیہم السلام اپنے رب کے پاس سے ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں۔﴾

یہ آیت مبارکہ خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کے مفہوم کو اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ کسی تاویل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اوپر کی آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے لئے لفظ اوتی استعمال کیا گیا ہے جو کہ ماضی کا تقاضا کرتا ہے اور ماضی کے زمانہ ہی کی

چاہتا ہے۔ زمانہ مستقبل پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے بالکل صاف معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کو تمام انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم جو کہ آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے قبل گزر چکے ہیں ان سب پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے۔

لہذا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہو اور آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی یا رسول پر ایمان لانے کا نہ تو حکم ہے اور نہ ہی اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ لیکن واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ جیسا کہ قرآن حکیم میں ذکر ہے خاتم النبیین ہیں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اور آپ کے بعد انقطاع وحی بر منہاج نبوت لازمی امر ہو گیا ہے۔

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ نبوت کا معاملہ بہت ہی نازک ہے اور اس سے براہ راست ایمان پر زد پڑتی ہے کیونکہ اگر مدعی نبوت کا دعویٰ سچا ہے تو اس کا نہ ماننے والا کافر ہے۔ اور اگر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے تو اس کا ماننے والا کافر اور اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ”وما کان اللہ لیضیع ایمانکم (البقرہ: ۱۷۳)“ لہذا اگر آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتا ہوتا تو اس کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں کیا جانا ضروری تھا تاکہ خواہ مخواہ لوگوں کا ایمان ضائع نہ ہو۔ اخیر میں ایک بار پھر مرزائیوں سے استدعا ہے کہ اب بھی اپنے موجودہ غلط عقیدے سے تائب ہو کر پھر سے حقیقی اور سچے اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ عاقبت بخیر ہو۔ ورنہ خسران ہی خسران ہے۔ بلکہ خسران عظیم۔ والسلام علی من اتبع الهدی!

تاخیر..... ظلیل الرحمن قادری، ۲۱ نومبر ۱۹۸۸ء!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَفِیْقٌ خَانَ پَسْرُورِی

ختم نبوت



مولانا محمد رفیق خان پسروری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ختم نبوت

”الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده“

پہلے مجھے دیکھئے!

ناظرین کرام السلام علیکم! احباب کی تاکید کو مد نظر رکھتے ہوئے عاجز و کمترین نے ختم نبوت پر یہ رسالہ تحریر کر دیا ہے۔ احادیث کی تلاش میں جو مصائب عاجز نے اٹھائے اور دور و نزدیک کے سفروں کی تکالیف برداشت کی۔ وہ عاجز خوب جانتا ہے۔

بندہ چونکہ عالم مولوی نہیں۔ بلکہ خادم العلماء ہونے کے علاوہ مہاجر بھی ہے اور کتب احادیث کا فن آج کل سب پر روشن ہے۔ اصل تین اور صحیح صفحات کا دیکنا ضروری تھا۔ اس لئے ساری ہی باتیں تکلیف دہ ثابت ہوئیں۔ پھر بھی ہمت سے کام لے کر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر یہ رسالہ تو حاضر کر دیا ہے مگر۔

عرض ہے کہ رسالہ ہذا میں اگر کوئی خامی یا علمی غلطی ناظرین سے کسی بھی صاحب کو نظر آئے وہ مجھے مجبوراً معذور خیال فرما کر معاف فرماتے ہوئے درست فرمانے کی کوشش فرمائیں اور بندہ کو اطلاع فرمائیں تاکہ آئندہ احتیاط کی جائے۔ فقط والسلام!

دسمبر ۱۹۵۰ء، بمطابق ذیقعد ۱۳۶۹ھ
ابوالعشیر عفی عنہ، مقام پسرور سیالکوٹ

چالیس ۴۰ احادیث نبوی یاد کرنے کی فضیلت

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنْ لَهٗ شَرِیْکٌ فِی السَّمٰوٰتِ وَّلَمْ یَکُنْ لَهٗ وَّلِیٌّ مِّنَ الدُّنْیٰ وَکَبِیْرٌ تَکْبِیْرًا وَّصَلٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ مَبْعُوْثٍ مُحَمَّدًا سَیِّدًا الْاَوَّلِیْنَ وَاْلَاخِرِیْنَ وَخَاتَمَ الْاَنْبِیَآءِ وَاَلْمُرْسَلِیْنَ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ“

۱..... حضرت عبداللہ بن عباسؓ..... حضرت عبداللہ بن عمرؓ..... حضرت عبداللہ بن مسعودؓ..... حضرت علیؓ..... حضرت انسؓ..... حضرت معاذ بن جبلؓ..... حضرت ابولدرداءؓ
۸..... جابر بن سمرؓ..... حضرت ابوسعید خدریؓ وغیرہ ہم سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ

نے کہ: ”من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً من کتب عنی اربعین حدیثاً اعطاه اللہ ثواب الشهداء بعثه اللہ یوم القيمة من العلماء بعثه اللہ فقیہا وکننت له شافعاً وشہیداً وقیل کہ ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت ومن ترک اربعین حدیثاً بعد موته فهو رفیقی فی الجنة“ (جو شخص میری امت میں سے چالیس احادیث یاد کرے یا جو شخص میری امت میں سے چالیس احادیث لکھ دے اس کو اللہ تعالیٰ ثواب برابر شہیدوں کے دے گا۔ اٹھائے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں علماء کی جماعت سے، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ فقیہوں کی جماعت سے اور ہوں گا میں اس کے لئے شفاعت کرنے والا اور گواہ کہا جائے گا اس سے کہ جنت میں جاہنت کے جس دروازے سے چاہے تو۔ اور جو کوئی چھوڑ جائے چالیس حدیثیں (بطور صدقہ جاریہ) اپنی موت کے بعد بس وہ ہو گا جو میرا دوست جنت میں) ﴿

۱..... کنز العمال ج ۱ ص ۵۷ بحوالہ ۲..... ابن حبان، ۳..... دارقطنی، ۴..... بیہقی، ۵..... ابویعلیٰ، ۶..... ابویسعی، ۷..... ابن عساکر، ۹..... ابن نجار، ۱۰..... ابن عدی۔

قصر نبوت کی تکمیل پہلی حدیث

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منه موضع لبینۃ فطاف بہ النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلك اللبنة فکننت انا سدوت موضع اللبنة ختم بہ البنیان وختم بی الرسل وفي رواية فاننا اللبنة وانا خاتم النبیین۔“

روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مثال میری اور مثال (دیگر کل) انبیاء کی مانند گل کے ہے کہ اچھی ہے بنیاد (دیوار) اس گل کی، چھوڑی گئی اس میں جگہ ایک اینٹ کی پس پھرنے لگے ساتھ (گرد) اس کے دیکھنے والے (اس حال میں) کہ تعجب کرتے تھے خوبی اس دیوار کی سے مگر ایک جگہ ایک اینٹ کی، پس ہوا میں (نبی) کہ بندگی میں نے جگہ (اس) اینٹ کی، ختم کی گئی میرے ساتھ دیوار اور ختم کئے گئے ساتھ میرے رسول اور دوسری روایت میں ہے کہ پس میں ہوں وہ اینٹ اور میں ہوں ختم کرنے والا تمام انبیاء کا۔ (بخاری، مسلم، نسائی، مشکوٰۃ ج ۲ باب فضائل سید المرسلین مطبع بیحدی کانپور ص ۲۰۶، غزنوی ربع ص ۲۲۷، مشکوٰۃ ص ۵۱۱، قدیمی کتب خانہ کراچی افضل الاول)

رسول خدا ﷺ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی، جن میں تشریحی، غیر تشریحی یعنی سب

کے سب نبی اور رسول شامل کر کے قصر اور بنیان کے ساتھ تسلی دی ہے۔ پس بنیان مشہور ہوا اور جو اس بنیان میں ایک اینٹ کی کمی تھی۔ آپ نے پورا کر دیا اور وہ قصر و محل و بنیان کامل و مکمل ہو گیا۔ اب اس قصر نبوت میں کسی قسم کی اینٹ کی کمی باقی نہ رہی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد ظلی، و بروزی، تشریحی، غیر تشریحی وغیرہ نبی تا قیامت کوئی نہیں آسکتے اور جو شخص دعویٰ نبوت کرے گا۔ اور وہ جھوٹا اور دغا باز فریبی کہلائے گا۔

ختم نبوت باعث فضیلت ہے دوسری حدیث

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجداً وطهوراً وارسلت الی الخلق كافة وختم بی النبیون“

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ بے شک رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو تمام انبیاء پر چھ ہاتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ایک تو جامع کلمات مجھ کو دیئے گئے ہیں، دوم مخالفین پر میرا رعب ہے اور تمام زمینیں میرے لئے حلال کی گئی ہیں، اور تمام زمین میرے لئے سجدہ گاہ قرار دی گئی ہے اور پاک کرنے والی اور بھیجا گیا ہے تمام خلقت کی طرف اور ختم کئے گئے ساتھ میرے تمام نبی۔ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص ۲۰۷، مطبوعہ جمعیۃ کاہنور ہاب فضائل سید المرسلین غزنوی ص ۲۲۹، مشکوٰۃ ص ۵۱۲، قدیمی کتب خانہ افضل الاول)

تشریح

اس حدیث مذکورہ بالا میں مندرجہ دو جملے قابل غور ہیں۔

۱..... ارسلت الی الخلق كافة بھیجا گیا میں تمام مخلوق کی طرف

۲..... وختم بی النبیون اور ختم کر دی گئیں مجھ پر تمام نبوتیں

ختم نبوت

ان ہر دو جملوں سے نبی کریم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء میں سے کوئی بھی نبی تمام دنیا کی طرف نبی ہو کر نہیں آیا۔ صرف مجھے اسی تمام دنیا کا نبی بنا کر مجھ پر تمام نبوت کی نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہی خاص وجہ ہے کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عنایت فرمائی گئی ہے۔ اگر آپ ﷺ کو تمام نبیوں کا ختم کرنے والا نہ مانا جائے تو آپ ﷺ کی فضیلت کا انکار لازم آتا ہے جو آپ ﷺ کی شان کے بالکل خلاف ہے اور کفر و بدعتی ہے۔

علم خدا میں آپ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا تیسری حدیث

”عن العرباض بن ساریة عن رسول الله ﷺ انه قال انى عند الله مكتوب خاتم النبیین وان ادم لمنجدل فى طينته“

(رواہ احمد، مشکوٰۃ، باب فعاصل سيد المرسلین، فصل الثانی)

روایت ہے حضرت عرباض بن ساریہ کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تحقیق شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں لکھا ہوا تھا۔ ختم کرنے والا نبیوں کا اور تحقیق آدم علیہ السلام کو بندھے ہوئے تھے اپنی مٹی کے بچ میں (آخر حدیث تک)

حدیث نمبر ۳ میں اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ”واذ اخذ الله ميثاق النبیین پ ۲“ اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تمام نبیوں سے کہ جب تمہارے پاس میرا نبی آخرا زمان تشریف لے آئے تو تم میری الوہیت کے بعد اس کو آخری آنے والا نبی تسلیم کرنا۔ حالانکہ اس وقت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ثم جاكم رسول“ تمام انسان و جنات وغیرہ کی طرف وہ رسول و نبی بنا کر بھیجا تو دنیا میں آنے کے بعد اکثر لوگوں نے ان کو نہ مانا اور کافر ہو گئے۔ اب ہمارے زمانے میں کافر، مشرک، طغی، زندیق، مرتد، ایسے اکثر موجود ہیں جو معمولی انسان کو رسول اللہ ﷺ جیسا یا ماتحت نبی مانتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں صاف صاف موجود ہے۔

عن ابن عباس قال الله تعالى لمحمد ﷺ وما ارسلناك الا كفاة للناس فليس له الى الجن والانس“ روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے واسطے محمد ﷺ کے اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر واسطے تمام لوگوں کے آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے واسطے تمام جنوں اور انسانوں کے۔

(مشکوٰۃ الفضل الثالث ص ۵۱۵ قدیمی کتب خانہ، باب فعاصل سيد المرسلین)

اسی طرح جامع ترمذی میں بھی ہے کہ حضور ﷺ خود فرماتے ہیں کہ میرا نام اس وقت بھی خاتم النبیین ہی کتاب الہی میں لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا ہوا تھا اور اس میں روح بھی نہ پھوکی تھی۔ غرض یہ کہ کلمات مذکورہ بالا سے فرقہ مرجعہ قدریہ معتزلہ، چکڑ الویہ اور مرزائیہ وغیرہ کی تردید ہو رہی ہے۔

آپ قائد اور خاتم النبیین ہیں چوتھی حدیث

”عن جابر ان النبي ﷺ قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم

النَّبِيِّينَ وَلَا فِخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمَشْفَعٍ وَلَا فِخْرَ“

(رواه الدارمی مشکوٰۃ، مشکوٰۃ الفصل الثانی ص ۱۴ • باب فضائل سید المرسلین)
روایت ہے حضرت جابر سے کہ تحقیق نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں پیشوا ہوں تمام رسولوں
کا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے اور میں ہی خاتم النبیین ہوں اور مجھے فخر نہیں اور میں ہی پہلے
شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی شفاعت (پہلے) قبول ہوگی اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں (بلکہ
سب فضل الہی ہے)

تشریح

- ۱..... قائد المرسلین میں ہی تمام رسولوں کا کھینچنے اور پیچھے لگانے والا ہوں۔
- ۲..... خاتم النبیین میں ہی تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔
- ۳..... شافع و مشفع میں ہی تمام جہان کی قیامت میں سفارش کروں گا اور وہ قبول ہوگی۔
اب کرر غور کیجئے:

- ۱..... جب تمام انبیاء کے امام و پیشوا ہمارے نبی ﷺ بنا دیئے گئے ہیں۔
- ۲..... اور خدائے قدوس نے آپ ﷺ کا درجہ اگلے تمام نبیوں سے نرالا رکھا کہ تمغہ خاتم
النبیین عنایت فرما کر تمام دنیا کی امامت و سرذاری بخش دی اور قیامت کی دوزخ کی فکر کرنے
والے تمام یک مسلمانوں کو جو بسبب گناہوں کے گرفتار ہوں گے، سفارش فرما کر جنت میں داخل
کرانے کی ذمہ داری بھی عنایت فرمادی تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بس معلوم ہوا
ابتدائے نبوت محمدی سے انتہائے دنیا اور حشر کے ختم تک آپ ﷺ ہی خاتم النبیین ہیں۔
آپ عبد اللہ اور خاتم النبیین ہیں پانچویں حدیث

”عن عرباض ابن ساریۃ قال قال رسول اللہ ﷺ انی عبد اللہ
وخاتم النبیین“ روایت ہے عرباض بن ساریہ سے کہا کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے تحقیق میں
بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا اور ختم کرنے والا ہوں نبیوں کا۔

(دیکھو درمنثور ج ۵ ص ۲۰۷ عجمی و حاکم اور حاکم نے صحیح کہا اس کو)

تشریح

- ۱..... انی عبد اللہ۔ تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں۔
- ۲..... وخاتم النبیین اور (بے شک) میں ہی نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔

اول ”انسی عبد اللہ“ میں مشرکین کی کھلی تردید فرمائی گئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ خود اللہ یا اس کا ہمسر نہیں ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ ساری دنیا کے لئے اعلان کر دوں کہ ”انما انا بشر مثلکم“ پیداؤں انسان کے لحاظ سے میں بھی تمہاری ہی طرح پیدا ہوا ہوں۔ کھاتا اور پیتا ہوں، رنج و غم سہتا ہوں۔ بھوک و پیاس مجھے بھی لگتی ہے اور دیگر دنیاوی ضروریات میں بھی تمہاری طرح پوری کرتا ہوں۔

مگر فرق یہ ہے کہ میں صاحب وحی ہوں اور تمام جہان سے افضل و بزرگ اور تمام انبیاء و امتوں کا سردار ہوں۔ ایک طرف ترازو میں مجھے بٹھا دیا جائے اور ایک طرف (صرف اللہ کی ہستی کو چھوڑ کر) تمام امتوں اور کل بنی آدم کو رکھ دیا جائے۔ تو یقیناً محمدی پلڑہ بھاری رہے گا۔

نتیجہ

مندرجہ بالا عبارت کو مد نظر رکھ کر سوچئے اور انصاف سے کام لیجئے کہ جو لوگ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو بشر نہیں مانتے بلکہ ”نعوذ باللہ“ خدا جیسا خیال کرتے ہیں۔ ان کی تردید کتنے کھلے الفاظ میں ہو رہی ہے۔ حالانکہ خود (وہ) انبیاء میں ”عبدہ ورسولہ“ اور کلمہ شہادت میں ”محمد عبدہ ورسولہ“ پڑھتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ کبھی کوئی لوری ہستی کھاپی سکتی ہے؟ شکم مادر میں رہ کر انسانی جسم سے غذا حاصل کر کے وقت مقررہ پر پیدا ہو سکتی ہے؟

جناب من!

..... اگر آپ ﷺ انسان نہ ہوتے تو جناب ﷺ کا شکم مبارک چاک نہ کیا جاتا۔ اور خواہشات اور دیگر لوازمات انسانی سے پاک صاف کر کے فرشتے کے ذریعے ایمان و حکمت سے لبریز نہ کیا جاتا۔

۲..... اللہ کے خاص الخاص بندے تھے۔ آپ تمام انبیاء سے افضل اور بہتر ہیں اور ساری کائنات سے بھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو محمد ﷺ کو حیات فرمایا گیا۔

دوم..... لفظ خاتم النبیین نے ثابت کر دیا کہ میں عبد اللہ کا بیٹا عبد اللہ ہوں پھر بھی تمام انبیاء کی شریعت کا نچوڑ لے کر اور سارے نبیوں کے آخر تو حید و ملت کا مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک، صرف میں ہی تقسیم کے لئے مقرر ہوا ہوں۔ زمین و آسمان، عرش و قعر وغیرہ کی موجودگی میں کسی کی بھی تاب نہیں جو نبوت محمدی پڑا کہ مارے اور کامیاب ہو۔

اسم محمد اور ختم نبوت

”عن نافع قال قال رسول الله ﷺ انا محمد وانا احمد وانا المقفى والحاشر والماحى والخاتم والعاقب“ (رواه الطبرانی صغیر ج ۱ ص ۵۸ و احمد وابن سعید) روایت ہے حضرت نافع سے کہا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں مقفی ہوں اور میں حاشر ہوں اور میں خاتم اور عاقب ہوں۔

روایت کیا اس حدیث کو طبرانی اور احمد اور ابن سعید نے۔

تشریح

- اس حدیث شریف میں آپ کے اسمائے گرامی سات بیان ہوئے ہیں۔ جن سے پانچ نام ختم نبوت پر خاص دلالت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔
- ۱..... انا المقفی..... میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں جس سے معلوم ہوا کہ اب کوئی نبی نہ آسکے گا۔
 - ۲..... والحاشر..... اور تمام مخلوق کا حشر میرے ہی دین کی موجودگی میں ہوگا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اب کوئی نیا دین نہ ہو سکے گا۔
 - ۳..... والماحی..... اور میں تمام جموں نے مظل و مذہب کو مٹا کر کفر و شرک بدعت و کفر اسی کو ملامت کر کے صرف پرچم محمدی لہرانے کے لئے نبی بنا یا گیا ہوں۔ جس سے معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ کے سوا اور کوئی ماحی نہ ہو سکے گا۔
 - ۴..... والخاتم..... اور میں ہی تمام انبیاء کے اپنے اپنے اوقات میں نبوت حاصل کر چلے جانے کے بعد آخری نبی بن کر آیا ہوں جس سے معلوم ہوا کہ اب کوئی اور نبی نہ آسکے گا۔
 - ۵..... والعاقب..... اور میں سب کے پیچھے آنے والا نبی ہوں یعنی آپ کے پیچھے کوئی عاقب نہ ہو سکے گا۔
- افسوس.....

کہ دشمنان رسول کس قدر دلیر ہیں کہ ایسی صاف روشن دلیل کی موجودگی میں بھی کسی اور کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور انجام آخرت سے غافل و اندھے ہیں۔

خاتم المہاجرین وخاتم النبیین..... ساتویں حدیث

”عن سہیل ابن الساعدی قال استأذن العباس من النبی ﷺ فی

الھجرة فکتب الیہ یا عم! اقم مکانا وانت بہ فان اللہ قد ختم بک الھجرة کما ختم بی النبیون“ (رواہ الطبرانی)

حضرت اسمیل بن ساعدیؓ سے روایت ہے کہ اجازت مانگی حضرت عباسؓ نے نبی کریم ﷺ سے ہجرت (کے بارے) میں لکھا (حضور ﷺ نے) طرف اس کے کہ اے (میرے) چچا عباسؓ تم میرا تو جگہ اپنی پر، بے شک اللہ نے ختم کر دیا ساتھ تیرے ہجرت کو جس طرح ختم کر دیا۔ ساتھ میرے نبیوں کو۔

یہ حدیث ابو نعیم، ابو یعلیٰ، ابن عساکر، ابن نجار، کنز العمال ج ۶ ص ۱۷۸

میں بھی ہے۔

فتح مکہ سے کچھ دن پہلے حضرت عباسؓ نے (جو حضور ﷺ کے چچا تھے) ہجرت کرنے اور مدینے شریف جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اور اجازت چاہی تو حضور نے جواب فرمایا کہ اے میرے پیارے اور بزرگ چچا! آپ اپنی جگہ پر ہی مقیم رہیں۔ آپ پر ہجرت ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ بس آپ کی ہجرت کے بعد ہی مکہ فتح ہو جائے گا۔ انشاء اللہ العظیم اور جب مکہ شریف کو مجاہدین محمدی فتح کر لیں گے۔ تو کسی مجاہد ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ خود جناب نے فرمایا کہ ”لاھجرة بعد الفتح..... الخ“ فرضیکہ یہ حدیث ہر مجاہد کے لئے نہیں ہے۔ صرف کئی مجاہد کے لئے ہے اور واقعی حضور کی بات سچ ہوئی۔ فتح مکہ سے آج تک کسی بھی مسلمان نے مکہ سے ہجرت نہیں کی۔ اور نہ قیامت تک اب کوئی کئی مجاہد ہوگا۔ ہاں غیر ممالک سے ہجرت کر کے مکہ شریف ضرور جاتے ہیں۔

ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ

یہاں پر مرزائی دھوکا دیتے ہیں کہ حضور ﷺ نے تو فرمایا ہے کہ کوئی مجاہد تیرے بعد اے چچا نہ ہوگا۔ اور پھر بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ”لانسی بعدی یا ختم بی النبیون“ جیسے الفاظ کے بعد بھی نبی کا آسنا ممکن ہے۔ یہ ان کا دھوکا اور فریب ہے ہر شخص کو چاہئے کہ ان کے ایسے دھوکے سے بچے اور ان کی صحبت و مجلس سے پرہیز کرے اور ان کا لٹریچر نہ پڑھا کرے ورنہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

آخری نبی اور آخری مسجد آٹھویں حدیث

”عن عائشة قالت قال رسول اللہ ﷺ انا خاتم الانبیاء ومسجدی

خاتم مساجد الانبیاء“ روایت ہے مائی عائشہؓ سے کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد (نبوی) خاتم مساجد الانبیاء ہے۔

(کنز العمال ج ۱۲/۲۷۷، ابن بخاری، دیلمی)

تشریح

مائی عائشہ صدیقہؓ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا بیان سمجھا رہی ہیں کہ سردار دو جہاں ﷺ نے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح میں تمام نبیوں کے آخر میں آیا ہوں۔ اور آخری نبی کہلایا ہوں۔ اسی طرح میری مسجد جو یہ مدینہ طیبہ میں موجود ہے آخری مسجد ہے۔ جس طرح میرے بعد کوئی سچا نبی نہیں۔ عین اسی طرح میری مسجد کے بعد کوئی بھی روئے زمین پر مسجد نبوی نہ ہو سکے گی۔ جب نبی ہی نہیں تو مسجد نبوی کسی ہو۔

(مرزائی حضرات گریبان میں منڈال کر بغور سوچیں اور دعا کریں کہ خدا ہدایت کرے۔ (آمین)

آخری نبی کے دس نام نویں حدیث

”عن ابی الفضیل وكان قال رسول الله ﷺ ان لی عند ربی عشرة اسماء محمد واحمد والقاسم والفتاح والخاتم الماحی والعاقب وحاشر ویسین وظہ“ حضرت ابوالفضیلؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تحقیق میرے لئے رب العزت کے نزدیک دس نام ہیں۔ محمد، احمد، ابوالقاسم، فاتح، خاتم، ماحی، عاقب، حاشر، یاسین اور ظہ ہوں۔

تشریح

اس حدیث میں جو اسماء گرامی حضور ﷺ کے مذکور ہوئے ہیں۔ ان کا خلاصہ مختصر اور پر بیان ہو چکا ہے اور کچھ آئندہ بیان ہوگا۔ انشاء اللہ بہر حال پانچ نام ختم نبوت کو علامہ ظاہر کر رہے ہیں۔ جو حضور ﷺ کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔

آپ ہی مقتدی اور خاتم ہیں دسویں حدیث

”عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ انا احمد وانا محمد وانا حاشر والمقفی والخاتم“ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں احمد اور محمد ہوں اور میں ہی حاشر اور سب سے پیچھے آنے والا اور خاتم ہوں۔

(دیکھئے کنز العمال ج ۶ ص ۱۱۶ ابن حسا کر اور خطیب بغدادی)

تشریح

اس حدیث میں بھی دو نام قابل ہیں۔

۱..... انما الحاشر..... میں حاشر ہوں جس کے دین کی موجودگی میں ہی قیامت آئے گی اور لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔

۲..... والمقفی..... میں مقفی ہوں۔ لفظ مقفی کے وحید اللغات ص ۱۳۰ میں مرقوم ہے کہ ”فاذا قضی فلا نبی بعده“ پس فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہے نبی پیچھے اس (محمد ﷺ) کے۔ اور امام نووی نے لفظ مقفی کی تشریح کرتے ہوئے اس لفظ کے معنی یوں لکھے ہیں کہ مقفی بمعنی عاقب ہے۔ اور ابن العربی نے مقفی کے معنی ”هو المتبع للانبیاء“ کئے ہیں۔ اس لئے امام نووی نے دونوں قول ملا کر اپنی شرح میں خود فیصلہ فرمایا ہے کہ ”ان المقف هو الآخر“ نتیجہ..... جب آپ سب سے آخری نبی ہوئے تو لامحالہ آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں۔

آپ ﷺ ہی فاتح ہیں..... گیا رہویں حدیث

”عن ابی قتادہ مرسلًا (قال) رسول اللہ ﷺ انما انا خاتم و فاتح واعطیت جوامع الکلم وفواتجہ“ حضرت ابوقتادہ سے ثابت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے سوائے اس کے نہیں کہ میں خاتم ہوں اور فاتح ہوں اور دیا گیا ہوں میں جوامع کلمے اور فواتجہ تشریح

روایت کیا اس حدیث کو پہلی نے شعب الایمان میں اور (کنز العمال ج ۶ ص ۱۰۶) میں اس حدیث میں بھی حضور کا خاتم النبیین ہونا سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ دیکھئے ”وانما انا خاتم“

۱..... وانما انا خاتم..... بلاشبہ میں خاتم الانبیاء ہوں فرما کر ثابت کر دیا کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور صرف محمد ہی دریائے نبوت کے آخری ستارہ ہیں۔

۲..... فاتح..... میں فاتح ہوں فرما کر ثابت کر دیا کہ تمام کفر و گمراہی جو رو ظلم پر قابو پانے کے لئے حق و صداقت کی شمشیر عطا فرما کر خدائے واحد نے جامہ و ظالم، ہستیوں، اور مغرور سردوں کو قلم کرنے کے لئے صرف محمد ﷺ ہی کو آخر میں فاتح بنا کر بھیجا ہے۔ جب تک فاتح کی حکومت دنیا میں موجود ہو اور اس کا بادشاہ اس مفتوحہ حکومت کی گہرائی کر رہا ہو۔ تو پھر کسی سر پھرے کی مجال نہیں کہ اس کے علاقہ میں قدم رکھے اور اپنے کو فاتح بھی کہلائے۔

۳..... اعطیت..... مجھے جامع کلمے عطا فرمائے گئے ہیں۔ فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ تمام نبیوں کی شریعت کا نچوڑ مجھے قرآن وحدیث میں عنایت فرما دیا گیا ہے۔ میں تمام مذاہب کی کمی پوری کرنے اور بگڑی ہوئی جالوں کو سدھارنے کے لئے آیا ہوں۔ میں سب کی اصلاح کرنے والا ہوں۔ مگر میری اصلاح کوئی نہ کر سکے گا۔ کیونکہ مجھے میرے رب نے تسلی بخش الفاظ میں فرما دیا ہے۔ ”الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً“ (پارہ ۶ سورہ مائدہ رکوع ۳)

اے پیارے محمد! آج کے دن پورا کیا میں نے تمہارے لئے تمہارا دین اور پوری کی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت۔ ﴿

سبکی وہ شان و بزرگی ہے

جو سوائے محمد احمد کے اور کسی کو نصیب نہ ہوئی اور یہی ختم نبوت کے لئے پختہ ثبوت اور

حکم دلیل ہے۔ ”فافہم وتدبر“

آپ عاقب بھی ہیں بارہویں حدیث

”عن جبیر بن مطعم قال سمعت ان النبی ﷺ یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی“ روایت ہے حضرت جبیر بن مطعم سے کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ ﷺ سے کہ میرے لئے کچھ نام ہیں (اور وہ یہ ہیں کہ) میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور میں ماجی ہوں وہ جس کے ساتھ مٹائے گا اللہ تعالیٰ ہرگز، اور ماجر ہوں، وہ جس کے دین و مذہب پر لوگ اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب ہوں وہ جس کے پیچھے کوئی نبی آئے والا نہ ہو۔

(مشکوٰۃ باب اسماء النبی ﷺ فی فصل الاوائل ص ۵۱۵ قدیمی کتب خانہ)

تشریح

اس حدیث نے بالکل ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ نہایت صاف الفاظ میں سرکارِ محمد ﷺ

کا ارشادِ عالی ہے۔

۱..... انا الماحی..... میں ماجی ہوں، میں ہی دنیا سے شرک و بدعت کفر و ضلالت اور ہر قسم کی گمراہیوں کو نیست و نابود کر کے نئے حید و سنت اور رحمت اور انصاف کا پرچم اٹھائے آیا ہوں۔

کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے ”یع اللہ بی الکفر“ کا لقب عطا فرمایا ہے۔

۲..... اننا الحاشر..... میں حاشر ہوں فرما کر خود ہی کلام کی تفسیر فرمادی ہے کہ میری نبوت ابتداءً نبوت سے انتہائے دنیا تک قائم رہے گی۔ حتیٰ کہ زمین سے دنیا کا حشر جب ہوگا تو نبوت میری ہی ہوگی اور دین میرا ہی ہوگا۔

۳..... اننا العاقب..... میں عاقب ہوں فرما کر ثابت کر دیا کہ اور کوئی پیچھے آنے والا نبی ہی نہیں۔ عرب کے ای اور اور عم کے جاہلوں کو سمجھانے کے لئے پیارے الفاظ میں فرماتے ہیں۔ ”والعاقب الذی لیس بعدہ نبی“ اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی بھی نبی نہ ہو۔ عہادت مذکور سے ہر قسم کی خصوصاً مرزا قادیانی کی نبوت کا دیوالہ بخوبی نکل رہا ہے۔

رحمت للعالمین تیرھویں حدیث

”عن ابی موسیٰ الأشعری قال کان رسول اللہ ﷺ یستعمل لنا ففسه اسماء وقال انما محمد واحمد والمقفی والحاشر ونبی التوبة ونبی الرحمة“ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا ہے رسول اللہ ﷺ گناہے نام اپنے اور فرماتے میں محمد ہوں، اور میں ہی احمد ہوں، اور میں ہی اشعری ہوں اور میں ہی حاشر ہوں اور میں ہی ہوں توبہ کا اور میں ہی نبی ہوں رحمت کا۔ (مسلم ج ۳ ص ۲۶۱)

تشریح

اس حدیث میں بھی مذکورہ بالا اسمائے گرامی بیان فرمائے گئے ہیں۔ جن کے متعلق

مختصر خلاصہ اوپر عرض کر چکا ہوں۔ اب صرف دو لفظ مطالعہ فرمائیں اور وہ یہ ہیں۔

۱..... نبی التوبة..... میں توبہ کا نبی ہوں، فرما کر بتا دیا کہ میری نبوت کے دور میں گناہگاروں کی توبہ قبول بھی ہوگی اور میری ہی نبوت کے ہوتے ہوئے قیامت آجائے گی اور در توبہ بند بھی ہو جائے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ قیامت تک کوئی بھی پرانا حکومت محمدی کے موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو حاکم و امام عادل بن کر آئیں گے۔

۲..... نبی الرحمة..... میں رحمت کا نبی ہوں، فرما کر اس آیت کی تفسیر و تصدیق فرمادی۔ جس میں مذکور ہے ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ گویا خدائے تعالیٰ نے حضور کو تا اختتام دنیا ساری ہی مخلوق کے لئے رحمت و شفقت کا ظہور واریت کر بھیجا ہے۔ لہذا کسی کی کیا مجال کہ دست محمد ﷺ سے علم نبوت حاصل کرنے کی بے کار و بے جا کوشش کرے اور کامیاب ہو۔

آپ کے متعلق فرشتے کا بیان چودھویں حدیث

”عن یونس ابن جلیس قال قال رسول اللہ ﷺ اتانی ملک بطشت من ذهب فشق بطنی فاخرج خشورة من جوفی ففسلهائم ذراعاً علیہ زروة ثم قال واننت محمد رسول اللہ المقفی والحاشر“ (خصائص ج ۶۵)

روایت ہے حضرت یونس بن جلیس سے کہا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ آیا میرے پاس ایک فرشتہ ساتھ طہاق کے جو سونے کا تھا پس چاک کیا اس نے میرے پیٹ کو، پس نکالا اس نے ایک لوتھرا میرے پیٹ سے پس دھویا اس کو پھر اس پر کچھ چھڑک دیا پھر اس (فرشتہ) نے کہا اور تو محمد اور رسول ہے اللہ کا پیچھے آنے والا اور حاشر۔

تشریح

اس حدیث کی تشریح کی خاص ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ الفاظ مذکورہ کی تشریح اوپر بار بار ہو چکی ہے۔ صرف قابل غور یہ چیز ہے کہ فرشتہ آیا اور آ کر حضور ﷺ کے شکم مبارک کو چاک کیا پھر خواہشات انسانی اور غم و غصہ کو نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ اور لور تو حید بھر کر سی دیا۔ جاتے وقت حکم خداوندی سنا کر پیارے محمد ﷺ کو خوش کرنے کی خاطر تاج نبوت پہناتے ہوئے عرض کیا کہ آپ کا نام محمد ہے اور آپ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے جس کے پیچھے کوئی رسول نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ قیامت آجائے گی۔ اور دنیا کا حشر تیرے ہی قدموں پر ہوگا یہ تھا وہ بیان جو فرشتہ نہایت ادب سے کر گیا۔

آپ کو جہاد کے لئے بھیجا گیا ہے پندرھویں حدیث

”عن مجاہد عن النبی ﷺ قال انا محمد وانا احمد وانا رسول الرحمة وانا رسول الملحمة وانا العاشر بعثت بالجهاد ولم بعث بالزرع“ (خصائص ج ۷۶)

روایت ہے حضرت مجاہد سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد ﷺ سے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور میں رسول الرحمت ہوں اور میں رسول ہوں جہاد کا اور میں ہی سب کے آخر آبنے والا ہوں اور میں حاشر ہوں اور میں مرسل ہوں ساتھ جہاد کے اور نہیں بھیجا گیا ساتھ زراعت کے۔

تشریح

اس حدیث میں حضور ﷺ نے اپنے چھ نام اور دو عظیم الشان صفیں بیان فرمائی ہیں۔ ناموں کی تشریح اوپر بیان ہو چکی ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگی۔ مگر مندرجہ ذیل الفاظ قابل غور و خوض ہیں۔

۱..... ”انسا رسول الملحمة“ میں رسول جہاد ہوں فرما کر فیصلہ ہی فرمادیا کہ میں بہادری اپنی کامیابی خیال کرتا ہوں۔ اور میں مجاہد رسول ہوں۔ کفر و ظلم کی گھٹائیں مجھ کو مرعوب نہیں کر سکتیں۔ کوئی جاہل اور ظالم حاکم میرے الہام کو نہیں بدل سکتا۔ میں الہام الہی کھلے طور سے ڈنکے کی چوٹ پر علانیہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ خانہ ساز نبوت نہیں جو ذلیل و کافر حکومت کے خود ساختہ پوئے کی طرح اپنے الہام بند کردوں جیسے مرزا غلام احمد نے مسٹر ڈوکی (جو انگریز عیسائی مجسٹریٹ تھا) کے ڈرانے سے بعض الہامات کی اشاعت سے توبہ کر لی تھی۔ غرضیکہ خدائی الہامات کبھی اور کسی صورت میں بھی بند نہیں ہوتے۔ اور یہی نبیوں کی صداقت کا کھلا ہوا راستہ اور نشان ہے۔

۲..... ”بعثت بالجهاد“ بھیجا گیا ہوں میں ساتھ جہاد کے فرما کر کتنا صاف اور صریح فیصلہ فرمادیا ہے کہ کسی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ جہاد فرض ہے اور حضور اپنی زندگی میں جہاد کرتے رہے۔ جہاد فرض ہی رہا ہے کیونکہ آیت ”اليوم اكملت لكم دينكم..... الخ“ نازل ہوئی اور شرع محمدی مکمل ہو گئی۔ حضور اپنی مکمل شریعت زمین پر چھوڑ کر دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مسئلہ جہاد بھی اور الہامی کتاب قرآن پاک تفسیر پاک احادیث نبوی میں بکثرت موجود ہے۔ دین کامل و مکمل ہے تو پھر کسی نبی کی ضرورت ہی کیا۔ جو آئے اور قوموں کو اپنے نئے الہام سنائے۔ جب قرآن پاک ہی اسلامی تعلیم کامل و مکمل ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور وہ قیامت تک اپنی ہی تعلیم پیش کرنے کا ذمہ لے چکا ہے تو پھر اور کسی خطبہ الہامیہ یا حقیقت الوحی کی ضرورت کیا؟ جب کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم قیامت تک رہے گی اور قرآن پاک منسوخ نہ ہوگا تو مسئلہ جہاد کی فکر منسوخ ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ فرقہ مرزائیہ کا خیال ہے۔ غرضیکہ یہی قرآن شریف اور یہی سچا رسول ﷺ رہتی دنیا تک اپنی نورانی شعاعیں اس دنیا میں پھیلا کر ذرہ ذرہ کو منور کرتے رہیں گے۔ ہاں ڈاکو آئیں گے مگر ذلیل ہوں گے۔

آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہے سولہویں حدیث

”عن انس قال قال رسول الله ﷺ ان الرسالة والنبوۃ قد انقطعتم فلا رسول بعدی ولا نبی۔“
(رواہ الترمذی و احمد بن کثیر ج ۸ ص ۶۹۰)

اس بن مالک کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بے شک رسالت اور نبوت قطع ہو چکی تھی نہ کوئی رسول میرے بعد اور نہ کوئی نبی میرے پیچھے ہوگا۔
تشریح

اس حدیث میں بھی مندرجہ ذیل فقرہ قابل غور ہے۔ ”فلا رسول بعدی ولا نبی“ پس نہیں ہے رسول میرے بعد اور نہ نبی میرے پیچھے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے رسول اور نبی کا الگ الگ نام لے کر فرمادیا کہ اب میرے نبی ہونے کے بعد نہ کوئی رسول ہوگا۔ جو صاحب شریعت ہو۔ جس کو بذریعہ وحی کوئی کتاب ملی ہو اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ نبی رسول کو بھی کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو اور جو صرف نبی ہی ہو۔ وہ رسول کے ماتحت بھی ہوتا ہے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ شریعت والا کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ غیر تشریحی نبی آئے گا۔ بالکل ہر طرف ہر قسم سے دروازہ رسالت و نبوت بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی فرمادیا کہ وہ تشریحی غیر تشریحی ظلی یا بروزی نبوت کی تبلیغ کرے تو وہ پاگل ہے۔ اس کا علاج تو بریلی کے پاگل خانے میں کرنا چاہئے۔

سارے جہاں کا ایک ہی نبی سترھویں حدیث

”عن ابی سعید قال قال رسول اللہ ﷺ یا ایہا الناس ان ربکم واحد وابلکم وواحد ودينکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی“ (کنز العمال)
حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہا کہ فرمایا حضرت رسول اللہ ﷺ نے: اے لوگو! تحقیق تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے اور تمہارا دین ایک ہے اور تمہارا نبی ایک ہے۔ میں ہے نبی میرے پیچھے

تشریح

یہاں بھی الفاظ مذکورہ ذیل کو بخور ملاحظہ فرمائیں۔

- ۱..... یا ایہا الناس..... اے کائنات انسانی کے فرزندو! سنو اور خوب یاد رکھو کہ۔
- ۲..... ان ربکم واحد..... چنگ تمہارا پروردگار حقیقی یا تمہارا خدا صرف ایک ہے۔
- ۳..... وابلکم واحد..... اور تمہارا باپ یہی آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔
- ۴..... ودينکم واحد..... اور تمہارا دین (جو حضور کو خدا سے ملا ہے۔) بھی ایک ہے۔
- ۵..... ونبیکم واحد..... اور تمہارا نبی تمام جہان کے لئے قیامت تک صرف ایک ہے۔
- ۶..... لا نبی بعدی..... اس لئے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

نوٹ.....

۱..... معلوم ہونا چاہئے کہ جیسے رب حقیقی کی موجودگی میں کسی غیر کو خالق اور پروردگار خیال کرتے والا کافر مشرک، دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔

۲..... حقیقی باپ کی موجودگی میں کوئی احمق کسی غیر کو باپ یا باپ کے برابر یا باپ کے ماتحت خیال کرتے ہوئے اپنی بزرگ والدہ محترمہ کو مجبور کرے کہ وہ اس کی بھی اسی طرح بیوی کہلائے تو وہ بھی پاگل و دیوانہ ہے اور غیر شخص جو فرضی باپ بنایا گیا ہے۔ اگر وہی حرکت حقیقی باپ والی اس کی والدہ سے کرتا ہے تو وہ بھی واجب القتل و سنگسار ہے۔

۳..... یہ بھی معلوم ہوا کہ دین محمدی صرف ایک ہی دین ہے۔ دوسرا دین افضل یا برابر اللہ اور رسول کو ہرگز قبول نہ ہوگا۔

۴..... جب دین ایک ہے تو اسی نبی کا ہے جو دین لے کر آیا تھا۔ اور وہی اکیلا نبی تا قیامت واجب الاحرام ہے۔ اس کی شریعت ہی ہمیشہ رہے گی جس طرح خدا کی موجودگی میں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور باپ کی موجودگی میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیشہ ہمیش کے لئے مہر لگادی گئی کہ صرف میں ہی نبی ہوں۔ اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔

تم سب سوال کئے جاو گئے اٹھارہویں حدیث

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْتَلُونَ عَنِّي“ (رواد احمد) اے لوگو! آپسک میرے پیچھے کوئی نبی نہیں ہے۔ اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں اور تم سب مجھ سے پوچھتے جاؤ گے۔

تشریح

اس حدیث پاک میں تمام جہان کو علانیہ طور سے حکم ہو رہا ہے کہ کان لگا کر سنو۔ اور بالکل شک نہ جانو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب کوئی نبی ہی نہیں تو تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں۔ میرے رب کا مجھ کو صاف یہ حکم ہے کہ میں تم سب کو بتا دوں کہ اب صرف میں ہی تمام جہاں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر چاہوں تو یہ ارشاد خداوندی پڑھ لو۔ ”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ الْيَكْمُ جَمِيعًا“ کہو دے (اے میرے پیارے نبی) حقیقی میں رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا تم سب کی طرف (۱۰ ہجرت ۹ ربیع الثانی ۶۱۰) غرضیکہ مندرجہ بالا مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ اب قیامت تک کسی نبی کی مطلق ضرورت نہیں۔ پھر اگر کوئی سر پھرا نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی کسی غیر کو نبی مان بیٹھے تو اس کے کافر ہونے میں بھی شک نہیں۔

آپ کا الوداعی خطبہ انیسویں حدیث

”عن ابی امامة قال قال رسول الله ﷺ فی خطبة یوم حجة الوداع یاایها الناس انه لا نبی بعدی ولا امة بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وادوزکوة اموالکم طيبة بها انفسکم واطيعوا ولاة امورکم تدخلو جنة ربکم“ (مسند احمد ج ۲۷ ص ۳۹۱، منتخب کنز العمال ص ۳۹۱)

روایت ہے حضرت ابوامامہؓ سے کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے درمیان خطبے دن آخری حج کے کہ اے لوگو! بے شک نہیں کوئی نبی میرے پیچھے اور نہیں کوئی امت تمہارے پیچھے پس عبادت کرو اپنے رب کی، نماز پڑھو پانچ وقت کی اور روزے رکھو رمضان شریف کے اور دوزکوة کو اپنے مال کی خوشی سے اور اطاعت کرو اپنے (نیک) امیروں کی، داخل ہو جاؤ گے جنت میں اپنے رب کی۔

اس حدیث کو مندرجہ ذیل طریق سے دوبارہ بغور مطالعہ فرمائیں۔

تشریح

- ۱..... یاایها الناس..... اے تمام جہاں کے سب لوگو۔
 - ۲..... انه لا نبی بعدی..... بلا شک نہیں ہے کوئی بھی نبی میرے پیچھے۔
 - ۳..... ولا امة بعدکم..... اور نہ ہی کوئی امت بعد تمہارے ہوگی۔
 - ۴..... الا فاعبدوا ربکم..... ہوشیار ہو کر اپنے رب ہی کی پوجا کرو۔
 - ۵..... وصلوا خمسکم..... اور پنجوقتہ نماز خشوع و خضوع سے بلا ناغہ پڑھتے رہو۔
 - ۶..... وصوموا شهرکم..... اور رمضان کے روزے رکھتے رہو بلا عذر شرعی ہرگز نہ چھوڑو۔
 - ۷..... ادوا زکوة اموالکم..... اور اپنے مال کی زکوة (اچھی طرح سے) ادا کرو۔
 - ۸..... طيبة بها انفسکم..... فراخ دلی سے ہنسی خوشی کے ساتھ۔
- (تاکہ) جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاؤ۔

دیکھا آپ نے کہ حضور اکرم الاولین و الاخرین کس صفائی سے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی صحت کس قدر کھلے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو! میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ میں تمہارا حصہ ہوں۔ تم میرا حصہ ہو۔ آج میں تمہیں صاف الفاظ میں بتاتا ہوں کہ تم رہتی دنیا تک یہ سمجھ لو کہ میرے پیچھے کوئی بھی نبی نہ ہوگا۔ اب تم کو چاہئے کہ جس خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی پوجا کرتے رہنا اور پانچ وقت کی نماز ادا کرنا اور

رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ صحیح طریقہ سے ادا کرنا کیونکہ یہ سب فرض ہیں۔ ان میں سے ایک کا تارک بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نہ میں اس کا نبی اور نہ وہ میری امت ہے۔ یہ ہے فرمان رسول، جو عرض کیا گیا۔

جو لوگ نیکی کچھ کر اس برائی کے مرتکب ہوتے ہیں وہ بھی شرعاً کافر و مشرک ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آچکا ہے ”فاعبدوا ربکم“ صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور امت نہیں بیسیویں حدیث

”عن ضحاک ابن نوفل قال قال رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا امة بعد امتی“

(رواہ البیہقی فی کتاب الروایا)

حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا حضرت رسول خدا ﷺ نے کہ نہیں ہوگا کوئی نبی میرے بعد اور کوئی امت میری امت کے بعد۔

آخری نبی کی آخری وصیت اکیسویں حدیث

”عن عبداللہ بن عمر بن العاص یقول خرج علینا رسول اللہ ﷺ یوماً کالمودع فقال انا النبی الامی ثلاثاً ولا نبی بعدی“ (احمد ابن کثیر ج ۸، ص ۹۱)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا ﷺ ہمارے پاس اس طرح آئے کہ گویا آپ ﷺ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ پس تین بار فرمایا کہ میں نبی امی ہوں اور نہیں ہے کوئی نبی میرے بعد

تشریح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو اس قسم نبوت کے مسئلہ کا بہت ہی خیال تھا۔ جو ہر محفل و ہر تقریر میں بار بار دہرایا جاتا تھا۔ یہاں بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے کسی وقت بھی کسی نبی کے آنے کا خیال اپنے دل میں ہرگز نہ پیدا ہونے دینا۔ میری ہی نبوت مانتے رہنا۔ میں امی ہوں مگر خدائے واحد نے مجھے تمام شرعی علوم سے خبردار کر دیا ہے۔ میرے بعد آنے والے نبی جموتے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ کافر کہلا کر جہنم رسید ہوں گے۔

آپ دنیا کے آخری اور قیامت میں پہلے نبی ہیں پانیسویں حدیث

”عن عمرو بن قیس ان رسول اللہ ﷺ قال نحن الاخرون ونحن السابقون یوم القیامۃ“

(کنز العمال ج ۲، ص ۲۳۰)

حضرت عمرو بن قیسؓ سے روایت ہے بیشک رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ ہم سب آخری ہیں (دنیا) میں اور ہم سب سے اول ہوں گے قیامت کے دن۔
تشریح

حضور نے اس حدیث میں مذکورہ بالا تمام احادیث کی تصدیق فرما کر نہایت وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ میں اور میری امت سب سے آخر میں ہوئے ہیں۔ ہمارا ہی دور ہوگا کہ قیامت آجائے گی اور پھر ہم تمام پہلی امتوں کے ساتھ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ہم اور تمام انبیاء اور دیگر امتیں ایک ہی میدان میں جمع کر دیئے جائیں گے۔ پھر تمام مخلوق مصائب سے گھبرا کر کسی شفاعت کرنے والے کی تلاش میں ہوگی اور ہر امت اپنے اپنے انبیاء کی طرف دست التجا دراز کرے گی۔ پھر تمام انبیاء یہ کہہ کر کہ ”آخری نبی کے پاس جاؤ“ میرے ہی پاس بھیج دیں گے اور میں ان کو تسلی دے کر رب دو جہاں کی بارگاہ میں ان کی سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش بھی دے گا اور فیصلہ چکا کر ہر شخص کو اس کے ٹھکانے میں بھیج دے گا۔ مگر بھیجنے سے پہلے مجھے حکم ہوگا کہ تو اے میرے پیارے محمد ﷺ اپنی نیک امت کو ہمراہ لے کر سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ لہذا ہم سب سے پہلے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔

نتیجہ

حدیث بالا سے صاف ظاہر ہے کہ ابتدائے نبوت محمدی سے تا انتہا حساب و کتاب نبوت کا تاج محمد ﷺ کو ہی پہنایا گیا ہے۔ لہذا کوئی بھی اب نبی کہلانے کا حق دار نہیں۔
آپ آخری نبی اور ہم آخری امت ہیں جیسویں حدیث

”عن ابی امامۃ الباہلیۃ عن النبی (قال) انا اخر الانبیاء وانتم اخر الامم“ (رواہ ابن ماجہ) حضرت امامہ باہلیؓ سے روایت ہے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔

تشریح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کی امت بھی علیحدہ ہوتی ہے۔ جو اسی کا حصہ ہوتی ہے۔ جیسے فرمان باری ہے ”ولکل امۃ رسول (پ ۱۱)“ اس لئے حضرت محمد ﷺ کا ارشاد مبارک یوں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو میری امت جو سب امتوں سے علیحدہ اور آخری ہے اس کے بعد بھی کوئی امت نہیں۔

نتیجہ

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد ﷺ کو آخری نبی بتایا ہے بس اسی طرح ابتدائے نبوت محمدی سے انتہائے زمانہ تک ہم کو بھی آخری امت بتایا ہے۔ اگر حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا تو امت کیسے ہو سکتی ہے؟

اول نبی آدم تھے اور آخری محمد ہیں چوبیسویں حدیث

”عن ابی ذر قال قال رسول اللہ ﷺ یا ابا ذر اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد“ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اے ابو ذر (سب سے) پہلے نبی آدم تھے اور سب سے آخری نبی میں محمد ہوں۔

(ابن حبان فی تاریخ فی السنۃ العاشرة ص ۶۹، کنز العمال ج ۶ ص ۱۳۰)

تشریح

سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر حضرت محمد ﷺ پر ختم ہو گیا۔ اسی قسم کے بیانات مذکورہ بالا عبارات میں مرقوم ہیں جو بالکل حق اور سچ ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ احادیث مذکورہ میں شک کرنے والا، ان کو حق نہ سمجھنے والا کافر، مرتد، زندقہ جہنمی ہے۔ امہ مرحومہ کو خدا جہنم سے پناہ دے۔ آمین۔

مسجد نبوی میری ہی مسجد ہے چھبیسویں حدیث

”عن عبد اللہ بن ابراہیم ابن قارظ اشہد انی سمعت ابا ہریرۃ یقول قال قال رسول اللہ ﷺ فانسی آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد۔“ روایت ہے حضرت عبد اللہ بن ابراہیم بن قارظ سے کہ گواہی دیتا ہوں میں تحقیق میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ سے کہ کہتے تھے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ بے شک میں تمام انبیاء کا آخری نبی ہوں اور میری مسجد (مسجد نبوی) آخری مسجد ہے۔ (مسلم ج ۱ ص ۳۳۹)

تشریح

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اسی طرح ان کے نام سے مسجد نبوی بھی صرف مدینہ منورہ میں آخری مسجد ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی مسجد نبوی کہلا سکے گی۔

آپ کے بعد خلفاء ہوں گے چھیسیویں حدیث

”عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال کانت بنو اسرائیل تنسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکفرون۔“ (رواہ البخاری، مسلم، مشکوٰۃ ص ۳۳۰، کتاب الامارۃ، الفصل الاوّل ص ۳۲۰، قدیمی کتب خانہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ رسول خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ) بنی اسرائیل کی سیاست کو ان کے انبیاء سے زینت دی جاتی تھی جب کبھی بھی کوئی انتقال فرماتا تھا تو اس کا خلیفہ ان کا نبی ہوتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور خلفاء بہت ہوں گے۔

تشریح

بنی اسرائیل میں ہر نبی کا خلیفہ نبی ہی ہوا کرتا تھا۔ اب حضور ﷺ کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اور یہ کثرت ہوں گے۔ حضور ﷺ نے ان خلفاء کے لئے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ:

”لا یزال اللہ یغفرس فی هذا الدین غرساً یتعملہم فی طاعته“ ﴿یعنی اللہ ہمیشہ اس دین محمدی میں ایسے درخت لگاتا رہے گا جن سے اپنی اطاعت کے کام لے۔﴾

انہیں خلفاء کے لئے حضور ﷺ نے دعا بھی فرمائی جو درج ذیل ہے۔

دعا محمدی..... ”اللہم ارحم خلفائی وقلنا یا رسول اللہ من خلفاءک؟

(قال) الذین من بعدی الذین یروون احادیثی وسننی ویعلمونہا الناس“

دیکھئے ”جامع صغیر للامام السیوطی بحوالہ احتفال

الجمہور“ ﴿اے اللہ! تو میرے خلفاء پر رحمت فرما!﴾ (جماعت صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟) (حضور نے فرمایا) وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثیں اور سنتیں بیان کریں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے۔ ﴿

حضور ﷺ کی شریعت وہی جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، قائم و دائم رہے گی اور کوئی بھی اسے

نہ بدل سکے گا۔

میرے لئے نبوت ہے اور تمہارے لئے خلافت ہے ستائیسویں حدیث

”عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لي النبوة ولكم الخلافة“

(دیکھئے ابن عساکر اور کتب اہل بیت ص ۶۷ ج ۱۸۰)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے۔ کہا کہ فرمایا جناب رسول خدا علیہ التحیۃ والثناء نے (صرف) میرے ہی لئے نبوت ہے اور تمہارے لئے خلافت ہے۔

تشریح

اس حدیث نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ نبوت صرف اور صرف میرے لئے ہے۔ میرے بعد اور کسی کے لئے ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب قیامت تک میری امت ہو اور تم کو میرے بعد خلافت و امارت نصیب ہوگی۔ (جن کے لئے اور پر دعایمان ہوئی ہے) قوم کا امیر یا نبی کا خلفہ ہونے کا وہی شخص حق وار ہو سکتا ہے جو طلال خور، نیک چلن، راست باز اور صادق ہو۔ کذاب، دھوکہ باز، ٹھگ اور فریبی کسی صورت میں بھی قوم کا امیر اور نبی کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اے زمانہ حال کے لوگو! سمجھو اور عقل سے کام لو کہ جب ایسے بد باطن یا امیر شرعاً نہیں بن سکتے تو ان کو نبوت کس طرح مل سکتی ہے؟

فرمان خدا اور ختم نبوت اٹھائیسویں حدیث

”عن علیؑ قال ورجعت وجعاً فانبت النبی ﷺ فلقامنی مقامه وقلم

یصلس والقی علی ظرف توبه قال مرت یا ابن ابی طالب فلا بأس علیک

ملتأآت باللہ لی شیئاً الا سألت اللہ شیئاً الا اعطانیہ غیر انه قمل لی انه لا

نبی بعدی فمقت کانی ما اشتکیت“

(طبرانی کتب اہل بیت)

حضرت علیؑ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سخت درد ہوا۔ پس میں حضور ﷺ

کے پاس آیا تو حضور ﷺ نے مجھ کو اسی جگہ پر کھڑا کیا، اور آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور

مجھ پر اپنے کپڑے کا کتاڑ ڈال دیا۔ فرمایا اے علی اب تجھ پر بیماری نہیں ہے۔ جو تو اللہ سے

میرے لئے دعا کرے گا وہی دعا میں بھی تیرے لئے کروں گا اور میری دعا اللہ ضرور قبول کرے

گا۔ اس کے سوا کہ مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ بلاشبہ میرے بعد کوئی نہیں۔ پھر میں ایسا سحر دست ہوا

کہ گویا بیماری نہ تھا۔

تشریح

اس حدیث میں سرکارِ مدینہ کرم الاولادین و الاخرین ﷺ نے یہ بھی بتایا ہے کہ میری ہر قسم کی دعا اے علی تیرے حق میں قبول ہو جائے گی۔ مگر اے پیارے علی اگر ہاں جو دوسارے عالم کا سردار ہونے کے اور خدا کا برگزیدہ محبوب ہونے کے بھی تیرے لئے منصبِ نبوت کی دعائوں تو میں سچ کہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہرگز قبول نہ ہوگی۔ کیونکہ (قیل لی) میرے رب نے میرے لئے کہہ دیا ہے کہ اے میرے پیارے نبی محمد تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لئے نبوت کے علاوہ بھی تیرے لئے محمد ﷺ اپنے رب سے مانگے کا ضرور دیا جائے گا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

نوٹ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ فرمانِ الہی بھی یہی ہے کہ ”لا نبی بعدی“

اگر اب بھی نہ سمجھیں وہ تو پھر ان سے خدا سمجھے

نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں تیسویں حدیث

”عن ابی ہریرۃ مرفوعاً انه لیس یبقی بعدی من النبوة الا الرقیبا الصالحة“

(ابوداؤد سنائی)

حضرت ابو ہریرہؓ روایتا بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بیشک میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں۔ مگر نیک خواب۔

تشریح

محمد ﷺ نے فرمایا کہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ ہاں نیک بنو۔ اب جس کو اللہ چاہے گا دکھادے گا۔ جو نبوت کا ۳۶/۱۰۰واں حصہ ہے۔ اس سے یہ ہرگز نہ خیال ہو کہ نبوت کا کچھ سلسلہ تو حدیث سے ثابت ہو ہی گیا۔ نہیں ہرگز نہیں جس طرح انسان کو لوٹیاں کر کے اور ۳۶/۱۰۰واں حصہ تقسیم کر کے پھر اس کو انسان کہنے والا پاگل ہے۔ اسی طرح صرف نیک (فائدہ مند) خواب دیکھ کر نبی بن بیٹھنے والا بھی پاگل ہے۔ اور پاگل کو کامل انسان خیال کرنے والا بھی پاگل ہے۔ جس کا علاج پرہیز یا پھر عقلمند کو اللہ تعالیٰ طاقت بخشے تو جوتا ہے۔

شان صدیقی اور وصیتِ آخری تیسویں حدیث

”عن عبداللہ بن عباس ان النبی ﷺ كشف الستارة ورأسه

معصوب فی مرصنه اللذی مات فیہ والناس صفوف خلف ابی بکر فقال یا

ایہا الناس لم یبق من مبشرات النبوة الا الرویاء الصالحة یراها المسلما
اوتری له“ (مسلم نسائی)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے دروازہ کا پردہ کھولا
اور آپ کا سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ اس مرض میں جس میں کہ وفات پائی آپ نے اور لوگ صفیں
باندھتے تھے (نماز کے لئے) ابو بکرؓ کے پیچھے پس حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے لوگو! بے شک نہیں
باقی رہا کوئی جز نبوت سے مگر نیک خواب جو مسلمان دیکھتے ہیں یا اس کے لئے کوئی اور دیکھے۔

تشریح

اس حدیث میں مندرجہ ذیل فقرے قابل غور ہیں۔

۱..... ”وراسه معصوب فی مرضه الذی مات فیہ“ اور سر مبارک آپ کا بندھا
ہوا تھا۔ اس مرض کی حالت میں جس میں کہ آپ کا انتقال ہوا۔ ﴿

۲..... ”والناس صفون خلف ابی بکرؓ“ اور نماز کے لئے لوگ صفیں باندھے
کھڑے تھے ابو بکرؓ کے پیچھے۔ ﴿

۳..... ”فقال ایہا الناس انه لم یبق من مبشراة النبوة الا الرویاء
الصالحة“ پس حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے لوگو! نبوت سے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ مگر اچھے
خواب، مندرجہ بالا عبارات سے تین باتیں خوب روشن ہو جاتی ہیں۔ ﴿

اول..... حضرت ابو بکر صدیق ہی آپ کے بعد ساری امت سے بہتر انسان تھے۔ جن کی یہ
شان ہے کہ ان کو حضور نے عام جماعت کا مسجد مدینہ اور مسجد نبوی میں اپنی زندگی ہی میں امام بنا
دیا۔ اور حضرت علیؓ اور تمام اہل بیت نے حضرت ابو بکر کے پیچھے تقریباً اٹھارہ نمازیں ادا کیں۔ اگر
نبی کا انتخاب کردہ امام کسی کو پسند نہ آئے اور کوئی اس کو برا کہے یا برا کہنے والوں کا ساتھ دے تو یقیناً
وہ نبی کا دشمن ہے۔

نیز (کنز العمال ج ۶ ص ۲۸) میں حضرت ابو بکر کی فضیلت کے متعلق خود حضرت علی
الرضی کرم اللہ وجہہ سے یوں منقول ہے۔

”عن علیؓ قال قال رسول اللہ ﷺ اتسانی جبرئیل فقلت من
یہاجر معی؟ قال ابو بکرؓ وهو یلی امر امتک من بعدک هو افضل امتک من
بعدک رواہ الدیلمی“ ﴿ حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے
پاس جبریل آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ جبریل نے کہا کہ

ابوبکر اور وہ امت میں پہلے خلیفہ ہوں گے وہی آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی امت میں سب سے بہتر ہیں۔ ﴿

نوٹ..... اس حدیث میں رد ہے مرزائیوں اور شیعوں کا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو امت میں سب سے بہتر مانتے ہیں اور مرزا قادیانی کو نبوت کا مالک کہتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کسی افضل کو نبوت ملتی تو حضرت ابوبکر صدیق کو ملتی۔ کیونکہ مرزا قادیانی سے حضرت ابوبکر صدیق بدرجہا بہتر ہیں۔ اور شیعہ بھی حضرت ابوبکر کی توہین کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ حضرت علیؑ خود اعلان فرماتے ہیں کہ جبرائیل کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا اور بہتر سازی امت میں صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ہی بتایا ہے اور خلیفہ اول بھی وہی ہیں۔ پھر ان کی توہین کرنا گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوم..... حضور ﷺ نے آخری مرض میں بھی پکار پکار کر فرمایا کہ اے لوگو! میری بات میں کوئی شک نہ کرنا اور خوب سمجھ لینا کہ میرے بعد نبوت کا کوئی بھی حصہ سوا نیک خواب کے جو مسلمان دیکھتے ہیں یا کوئی اور دیکھتا ہے مسلمان کے لئے ہاتی نہیں رہا اور نبوت کے چھپالیس حصوں میں سے ایک حصہ متقی، پرہیزگار، مومن صالح مسلمان کا خواب ہے۔ اور نیز حضور نے وفات تک بھی ختم نبوت کا اعلان کرنا ضروری خیال فرمایا۔ جس کو آج کل لوگ ایک جگہ کی بات خیال کرتے ہیں۔

قیامت تک نبی نہ ہوگا اکتیسویں حدیث

”عن انس قال رسول الله ﷺ انا والساعة كهاتين“

(بخاری، مشکوٰۃ باب قرب الساعۃ الفصل الاول ص ۲۸، قدیمی کتب خانہ)

خادم رسول حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ جیسا ہوں میں اور

قیامت مانند ان (دو انگلیوں) کے۔

تشریح

اول..... یہ کہ گلے کی انگلی اور ہاتھ کی انگلی کے درمیان جس طرح کوئی چیز داخل نہیں۔

حضرت ﷺ نے فرمایا اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی نبی نہیں ہے۔

دوم..... یہ کہ جس طرح ہاتھ کی انگلی شہادت کی انگلی سے بڑھی ہوئی ہے اسی طرح میرا جوت

ہوگا قیامت سے بڑھا ہوا ہے کہ میں آگے آیا ہوں قیامت سے اور قیامت مجھے سے چلی آتی

ہے۔ (مشکوٰۃ باب قرب الساعۃ، الفصل الثانی ص ۲۸، قدیمی کتب خانہ)

شان مرتضوی تینتیسویں حدیث

”عن سعد ابن ابی وقاص قال قال رسول اللہ ﷺ لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، ابنا مقاب علی)

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے حضرت علیؑ کے لئے فرمایا کہ تم مجھ سے (ایسے ہی تعلق رکھتے) ہو جیسے ہارون موسیٰ سے رکھتے تھے مگر تحقیق شان یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

تشریح

اس حدیث میں حضرت علی مرتضیٰ کی تعریف بزرگی، زہد و تقویٰ، قدر و منزلت بیان ہو رہی ہے کہ اے میرے پیارے بھائی اور داماد سنو اور خوش ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے میرا خلیفہ اسی طرح بنایا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا تھا۔ مگر تم میں اور ہارون علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور نبی بھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے۔ اور پھر خود بھی صاحب نبوت تھے کیونکہ اس وقت نبی کا خلیفہ نبی ہی ہو سکتا تھا۔ خدا کو اسی طرح منظور تھا۔ مگر اے پیارے علی! اب چونکہ میرا خلیفہ نبی نہیں ہوگا۔ بلکہ اسی ہوگا اس لئے تم نبی نہیں ہو۔

نوٹ یہ الفاظ حضور نے کیوں بیان فرمائے؟ اس بات کا جواب حدیث ۳۳ میں ملاحظہ فرمائیں۔

بیان علی تینتیسویں حدیث

”عن علی ان النبی ﷺ قال خلقتک ان تكون خلیفک قلت التخلف عنک یا رسول اللہ قال الا ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي“ (مسلم، طبرانی، ابنا مقاب)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اے علی! میں تجھے اپنی جگہ چھوڑ کر جہاد کو جاتا ہوں۔ تاکہ تو میری جگہ (میرے بعد) خلیفہ ہو۔ (حضرت علیؑ فرماتے ہیں) میں نے کہا کیا میں آپ کا خلیفہ ہوں، اے اللہ کے رسول؟ (حضور ﷺ نے) فرمایا کیا تو رضی نہیں تو میرے لئے (ایسا ہو) جیسے ہارون کے لئے ہارون تھے مگر بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

تشریح

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے جہاد کی تیاری کی اور اپنی گدی پر مدینہ منورہ میں حضرت علی مرتضیٰ کو چھوڑا تاکہ عورتوں، بچوں، بیماروں اور کمزور بوڑھوں کی حضور ﷺ کے بعد نگرانی کر سکیں (اور شاید یہ بھی سبب تھا کہ حضرت علی کی آنکھیں بھی دکھ رہی تھیں۔) جب مجاہدین کی فوج مدینہ منورہ سے دور نکل چکی تو کسی نے حضرت علی کی جوانی اور طاقت کے بارے میں کچھ کہا تو حضرت علی نوراً مدینہ منورہ سے دوڑے اور فوج میں شامل ہو گئے۔ حضور ﷺ کو معلوم ہوا کہ علی بھی فوج میں شامل ہیں۔ تو حضور ﷺ نے پوچھا کہ تم مدینہ منورہ کو کیوں چھوڑ آئے ہو؟ تب حضرت علی نے اس آدمی کے بارے میں عرض کیا کہ مجھے ایسا کہا گیا۔ تب حضور ﷺ نے جوش بھرے الفاظ میں تمام فوج کے سامنے تقریر فرمائی کہ اے علی! لوگوں کے طعن کا خیال نہ کرو۔ تو ایسا ہی مجھ سے تعلق رکھتا ہے جس طرح ہارون موسیٰ سے رکھتے تھے۔

جب بھی وہ طور وغیرہ پر تشریف لے جاتے تھے تو ہارون علیہ السلام ان کی گدی پر رونق افروز ہوتے تھے۔ تو بھی اسی طرح میری گدی پر بیٹھ جا۔ لیکن ایک ضروری بات ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ کے بعد گدی پر بیٹھنے والے ہارون تونبی اور خلیفہ تھے اور تو میری گدی پر بیٹھنے والا امتی خلیفہ ہے۔ میرے بعد تو کوئی نبی ہی نہیں ہے۔ اب سوچو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس تقریر محمدی کی کس طرح برے طریقہ سے مخالفت کر رہے ہیں اور پھر دعویٰ کرنے والے اس تقریر محمدی کی کس طرح برے طریقہ سے مخالفت کر رہے ہیں اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم مجدد، مہدی، امام و مسیح ہیں۔ حالانکہ محمدی افعال و کردار، رفتار و گفتار کی مخالفت کرنے والے کا ٹھکانہ از روئے قرآن وحدیث دوزخ ہے۔ واللہ تعالیٰ ہم سب کو چمکائے۔ اور محفوظ رکھے۔ آمین۔ تم آمین۔

نوٹ..... تشریح بالا کی تصدیق خود حضرت علی کی زبانی حدیث ۳۴ میں پڑھئے۔

فرمان مرتضوی..... چونئیسویں حدیث

”عن علی قال بین کتفیه خاتم النبوة وهو خاتم النبیین“

(مشکل ترمذی ص ۲۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱

میں فرمایا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان پشت مبارک پر مہر نبوت تھی اور کیوں نہ ہو جب کہ وہ خاتم النبیین تھے۔ (اتنی بڑی شہادت کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر اسے کسی اسلامی حکومت کا جو تباہی سمجھا سکتا ہے)

مذکورہ بالا حدیث طویل ہے جس میں حضور کا حلیہ شریف حضرت علیؑ نے بیان فرمایا ہے۔ اور مذکورہ الفاظ حدیث کے آخر میں بیان فرمائے ہیں۔ گویا کہ حضرت علیؑ فرما رہے ہیں۔ کہ جیسے حضورؐ کے وجود مبارک میں شک نہیں۔ ایسے ہی آپؐ کے آخری نبی ہونے میں بھی شک نہیں۔ لہذا امیر الیقین و مذہب بھی ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ الفاظ مذکورہ کی مخالفت حضرت علیؑ اور حضرت محمد ﷺ کی مخالفت ہے۔ پس مخالفت سے بچو اور اللہ سے ڈرو کہیں انجام خراب نہ ہو۔

شان فاروقی پینتیسویں حدیث

”عن عقبۃ بن عامرؓ قال قال النبی ﷺ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب“ (ترمذی، مناقب ابی حفص عمر بن الخطابؓ ج ۲، ص ۲۰۹۔ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی)

عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی (بھی) نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطابؓ ہوتے۔

تشریح

اس حدیث سے حضرت عمرؓ کی کس قدر فضیلت اور بزرگی ثابت ہے کہ امت محمدیہ میں نبوت کا سلسلہ ہی بند ہے۔ اگر نبوت جاری ہوتی تو وہ نبوت مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے چیلوں کو نہ ملتی۔ بلکہ وہ حضور اور حضرت ابوبکرؓ کے بعد تمام مخلوق پر فضیلت رکھنے والے بہادر جرنیل حضرت عمرؓ کو ملتی کیونکہ حضور ﷺ نے ابوبکرؓ کی فضیلت کا چارواگ عالم میں ڈنکا بجایا ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث ملاحظہ ہو۔

حدیث شریف

”عن زبیرؓ مرفوعاً خیر امتی بعدی ابوبکر وعمر“ ﴿حضرت زبیرؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد امت میں سب سے بہتر ابوبکرؓ و عمرؓ ہیں۔﴾

بقول مرزا ایماں اگر کسی افضل، بہتر، بزرگ، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار کو حضور کی نبوت کے بعد نبوت ملتی تو ان دو بزرگوں میں سے کسی کو ملتی۔

سنئے! مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ کو نبوت کے ورق پڑھ رہے تھے۔ حضور ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر از حد غصہ ہوئے اور حضرت ابوبکرؓ بھی اس مجلس موجود تھے بلکہ خود حضرت ابوبکرؓ

نے ہی حضرت عمرؓ کو ہوشیار کیا اور ڈانٹ کر توجہ دلائی کہ اے عمر! تم نہیں دیکھتے کہ حضور کا مبارک چہرہ غصے کے مارے متغیر ہو گیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے بہت جلد معلوم کر لیا کہ سبب ناراضگی میرا تو راز کا پڑھنا ہے فوراً بول اٹھے کہ حضرت جی! میں اسی خدائے واحد پر ہی ہوں جو مجھے قرآن بھیجنے والا ہے اور اسی محمدؐ پر ایمان رکھتا ہوں جو سچا ٹھیک اور سیدھا دین (جس کا نام اسلام ہے) لے کر آیا ہے۔ اب اس تو رات کو کیونکر راہ نجات خیال کرو؟ اس کو میں ہرگز نہ پڑھوں گا، مگر پیارے نبی ﷺ نے فرمایا: "لو کان موسیٰ حیثا ما وسعه الا اتباعی" (ترجمہ: مٹھکڑا) کہ (اے عمر!) اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ جب خود نبی حضور کی نبوت کے دور میں امتی بن سکتا ہے تو کسی ذلیل فریبی غدار۔ دھوکہ باز (جو امتی کہلائے) کو کیا حق ہے کہ ہمارے محمد ﷺ کی موجودگی میں نبوت کا دعوت کرے اور فریب کا جال بچھائے۔ امت مرحومہ کے فرزند و ناکھ تو سودا و حق کی دلدور۔

جموٹے انبیاء کی اعداد و شمار چھتیسویں حدیث

”عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ انه سيكون في امتي كذا بون

ثلاثون. كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى“

(ابوداؤد ترمذی، مٹھکڑا، کتاب المغن الفصل الثانی ص ۳۶۳، ۳۶۵ قدیمی کتب خانہ غیرہ)

حضرت ثوبان سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں میرے بعد میری ہی امت میں تیس جموٹے ہوں گے ہر ایک ان میں سے گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

تشریح

اس حدیث میں حضور کی پیشینگوئی جو حضور نے اللہ تعالیٰ سے خبر لے کر بیان فرمائی ہے۔ سورج کی طرح ظاہر ہو رہی ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی نبوت اور رسالت تو صرف اور صرف میری ہی رہے گی۔ مگر کم از کم تیس آدمی تو ایسے نمک حرام بھی پیدا ہوں گے جو میرے امتی اور روحانی بیٹے کہلائے گا جو کوئی کریں گے۔ میری نبوت کی گدی پر بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ میری ہی عزت پڑا کر ڈالنے کی بے کار سعی کریں گے۔ میری ہی جیب کھڑے کو قیسیاں تیار کریں گے۔ اس لئے اے میرے سچے امتی! میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کا یقین نہ کرنا۔ بلکہ سمجھ لینا کہ وہ جموٹے اور بدکردار ہیں۔ نمک حرام اور جمل ساز ہیں۔ ان سے خود بچو اور حسب طاقت میری امت کو بچاؤ۔

قیامت اور جھوٹے نبی سینتیسویں حدیث

”عن نعیم بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي“ (بخاری ج ۶ ص ۳۵۵، کنز العمال وغیر ہم)
 نعیم بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی۔
 یہاں تک کہ ظاہر ہوں گے کم از کم تیس جھوٹے ہر ایک ان کا دعویٰ کرے گا کہ بے شک وہ نبی ہے۔
 اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا۔

تشریح

اس حدیث نے تو صاف بیان فرمادیا ہے کہ جب تک کم از کم ۳۰ جھوٹے مدعی نبوت ظاہر نہ ہوں۔ قیامت ہی نہ آئے گی۔ گویا کہ ایسے ظالم بد بخت انسانوں کا ہونا اور قیامت کی پیشینگوئی کا صحیح ہونا ضروری ہے۔
 اور سنئے! اڑتیسویں حدیث

”عن عبید الله بن عمير الليثي قال قال رسول الله ﷺ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً كلهم يزعم انه نبي قبل يوم القيامة“

(ابن ابی سیہ حدیث نمبر ۳۶۸۷۳)

عبید اللہ بن عمیر لیثی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نہ قائم ہوگی (آئیگی) قیامت یہاں تک کہ ظاہر ہوں گے۔ تیس جھوٹے، ہر ایک ان کا (جہی) دعویٰ کرے گا کہ بے شک وہ نبی ہے قیامت کے دن سے پہلے۔

تشریح

حدیث ہذا کی تشریح حدیث نمبر ۳۷ میں بیان ہو چکی ہے۔ اس آخری فقرہ ”قبل يوم القيامة“ کو مد نظر رکھ کر فرمائیے کہ حضور ﷺ نے اپنی پیشین گوئی کس قدر مضبوطی اور یقین سے بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور تیس آدمی جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے۔
 ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد جیسے تیس جھوٹے مدعی نبوت کا ہونا حضرت محمد ﷺ کی نبوت اور پیشینگوئی کی صداقت کی دلیل۔

جھوٹوں سے بچو انتالیسویں حدیث

”عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي ﷺ يقول ان بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم“
 (رواہ مسلم، بخاری ج ۴ ص ۳۳۳)

جاہر بن سمرہ سے روایت ہے کہا میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے کہ بے شک (میرے) اور قیامت کے درمیان جھوٹے بہت ہوں گے۔ (اے مسلمانو!) تم ان سے بچو۔

تشریح

ہم لکھ آئے ہیں دیکھئے حدیث نمبر ۱۱ میں رسول خدا ﷺ نے فرمایا: میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں اور تمام نبیوں کا سلسلہ مجھ ہی پر ختم کر دیا گیا ہے اور حدیث نمبر ۲ میں بھی صاف ختم نبوت کو اپنی فضیلت کا باعث بیان فرمایا اور صاف اعلان فرمایا کہ ”ارسلت الی الخلق ککافۃ و ختمت بنبی النبیون“ یعنی میں تمام جن بشر کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور مجھ پر ہی تمام انبیاء کی نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ لہذا اب جو کوئی بھی نبوت کا ڈھونگ رچائے (وہ جھوٹا مداری، دھوکہ باز، وصال اور جلسا زہے) اس لئے عرض کرتا ہوں کہ اے مسلمانو! ایسے لوگوں سے بچو اور خود ہجرت حاصل کرو۔

آخری نبی کا آخری فرمان چالیسویں حدیث

”عن الحسن مرسلًا قال قال رسول ﷺ انا رسول من ادرك حيا ويولد بعدي“

(کنز العمال ج ۶ ص ۱۰۱)

حسن بصری (تابعی) سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ہی اس شخص کا رسول ہوں جو اب زندہ ہے اور اس شخص کا بھی جو میرے بعد پیدا ہو۔

تشریح

اس حدیث کا مضمون تو روز روشن کی طرح واضح اور کھلا ہوا ہے۔ ہمارے آخری نبی ﷺ نے اس رسالہ کی آخری حدیث میں کس خوبی سے بیان فرمایا ہے کہ میں ہی اپنی زندگی والے انسانوں اور جنوں کا رسول ہوں اور میں ہی اپنے رخصت ہو جانے کے بعد پیدا ہونے والی نسلوں کا قیامت تک رسول ہوں۔ رسول ﷺ کے بعد کسی کینے بد بخت انسان کا نبی یا رسول ہونا مانتے ہیں، ان کا بخوبی رد فرمایا گیا ہے۔ اور صاف ثابت ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ہمیشہ وین جھری کا ہی ڈنکا بجا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف محمد ﷺ کی جماعت میں شامل کر کے خاتمہ بخیر فرمائے۔ آمین۔

خاتمہ

ناظرین کرام! آپ نے ازاؤل تا آخر رسالہ ہذا میں حضور ﷺ کے فرامین کے مطابق

حضور کا خاتم النبیین ہونا اور جموٹے دھوکے باز، مکار، قادیانی نبوت کا ظاہر ہونا تو پڑھ ہی لیا ہے۔
اب ان جموٹے، مکار، دھوکے بازوں کے لئے جو وعید فرمائی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

۱..... ارشاد نبوی ہے: ”الکذاب لیس بامتی (مٹکوا)“ یعنی جھوٹ بولنے والا میرا امتی نہیں۔ ارشاد مجھ ہی بالکل صاف ہے کہ جھوٹا امتی ہی نہیں جو امتی ہی نہ ہو وہ نی کیسے ہو سکتا ہے؟

۲..... فرمان محمدی ہے: ”من کذب علی متعمداً فلیتنبواہ مقعدہ من النار (بخاری مٹکوا کتاب العلم)“ یعنی جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔ جب اکثر احادیث اور آیات قرآنی سے صاف ظاہر ہے کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی احکام شرع سے توڑ پھوڑ کر اپنے لئے نبوت ثابت کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسے مدعی نبوت کا قول یا فعل سے ساتھ دے تو حدیث مذکورہ کی رو سے خیال کیجئے کہ اس کا ٹھکانا کہاں ہے۔

۳..... فرمان مصطفوی ہے: ”المکرو الخدیعة والخیانة فی النار (ابوداؤد)“ یعنی مکر کرنے والا اور دھوکا دینے والا (فحش) دوزخی ہے۔ یہاں مکار سے مراد شرع کے خلاف ترکہیں کرنے اور سوچنے والا اور دھوکے باز سے مراد مذہبی مسائل میں ہیر پھیر کر کے لوگوں کو فریب دینے والا ہے۔ اب خیال فرمائیے جب نبوت ختم ہو چکی اور سچے دلائل سے ثابت ہو چکا کہ نبوت محمدی کی موجودگی میں کوئی بھی نبی نہ ہو سکے گا۔ تو پھر جو بھی حضور ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا۔ وہ سوائے مکر، دھوکے اور فریب کے کیسے اپنی نبوت لوگوں کو منوائے گا۔ بیان بالا کی روشنی میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب نئی نبوت کا ذمہ لے لینے والا مکار، دھوکے باز، شرارتی اور دوزخی ہے۔
خدا ہمیں جموٹے نبی سے بچائے۔

تصویر کا دوسرا رخ

تائید نمبر ۱..... ہمارے مندرجہ بالا مضمون کی تائید میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کتاب (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۱۲، خزائن ج ۳ ص ۳۳۱) ”ساکنان محمد ایسا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین“ یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کا رسول ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا یہ آیت صاف دلالت کرتی ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔“

نوٹ..... تعجب ہے کہ مرزا قادیانی نے باوجود مذکورہ بالا آیت قرآنی ہونے کے جان بوجھ کر

دنیاوی مروج اور خورد و نوش کو مد نظر رکھ کر اور خود صاف مضمون لکھ کر بھی مظلوم کیا ہے۔ یعنی خود نبی
بن چیلے۔ ابو الشفیق علی عنہ!

ایک جھوٹ اور ایک سچ

تائید نمبر ۲..... حضرت ابو ہریرہؓ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پھرے میں کسی صاحب نے
چھری کرنے کی کوشش کی اور پکڑے گئے۔ نمن ہار سی طرح ہوا۔ آخری بار حضرت ابو ہریرہؓ نے
گرفت مضبوط کر کے فرمایا کہ میں تمہیں عدالت گھری میں ضرور لے جاؤں گا اور آج تمہیں ہرگز
نہیں چھوڑوں گا۔ تب انہوں نے بہت خوشامد کرنے کے بعد عرض کیا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے تو
میں آپ کو ایسا لٹو بتا دیتا ہوں جس کو پڑھنے سے چہر چھری نہ کر سکے گا۔ اور اگر کوئی کرے گا تو
کامیاب نہ ہوگا۔ اس پر ابو ہریرہؓ رضی ہو سکے اور لٹو در پالت فرمایا۔ اس چہر نے پوری آیت
الکبریٰ پڑھ کر سنائی۔ ابو ہریرہؓ نے اسے چھوڑ دیا اور عدالت گھری میں واقعہ مذکورہ عرض کیا تو
حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے ابو ہریرہؓ اور شخص جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہ گیا۔

اسی طرح..... مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں ہزار ہا جھوٹ بولے ہیں۔ وہاں بعض
باتیں سچ بھی کہ دی ہیں۔ ہمیں ان کے سچ سے اتفاق ہے۔ لہذا بطور نمونہ ان کا ایک جھوٹ اور پھر
ایک سچ بیان کرتے ہیں۔ بطور ملاحظہ فرمائیں۔

مرزا غلام احمد قادیانی..... اپنی کتاب (ایام الصلح تواریخ ۱۳۱۳ھ تا ۱۳۱۴ھ) پر عیسیٰ علیہ السلام
کی وفات کا بے کار شوبہ دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ: "قرآن شریف میں ص ۱۱۱ ابن مریم کے
دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں لیکن ختم نبوت بحال تصریح ذکر ہے اور پرانے یا نئے نبی کی
تفریق کرنا۔ یہ شرارت ہے۔ وحدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے اور حدیث "لانہی
بعسدی" میں بھی الٰہی عام ہے۔ پس کس قدر جرأت اور ولیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رکبکہ کی
خردی کر کے قصوں سر پر قرآن کو عرصا چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا
جائے۔ اور بعد اس کے جو وہی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وہی نبوت کا جاری کر دیا جائے کیونکہ
جس میں شان نبوت ہوتی ہے اس کی وہی بلاشبہ نبوت کی وہی ہوگی۔"

نوٹ..... مرزا قادیانی کی الال بات پر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حقائق تحریر ہے وہ ان کی بے
علمی یا ضد کا نتیجہ ہے جو جھوٹی ہے اور قرآن وحدیث کے سراسر خلاف ہے۔ لیکن ختم نبوت کے
حقائق جو کہ تحریر فرمایا ہے وہ جھوٹے سے سچ ظاہر ہو گیا ہے۔ لہذا ناظرین تکلیف گوارا کریں اور
ایک بار پھر پڑھ کر نتیجہ نکالیں کہ کن الفاظ میں مرزا قادیانی ہماری تائید فرما رہے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَدْرَسَةُ اَلْمَدِينَةِ الْعِلْمِيَّةِ
مَدْرَسَةُ اَلْمَدِينَةِ الْعِلْمِيَّةِ

ایمان کے ڈاکو



حضرت مولانا ابوالقاسم محمد رفیق دلاوری

فہرست

صفحہ نمبر	نام مضمون	نمبر شمار
۸۳	دیباچہ	۱
۸۴	مقدمہ	۲
۸۶	اسودعی مدنی نبوت	۳
۸۷	مسئلہ کذاب	۴
۹۱	عقار بن ابوعبید تقفی	۵
۹۸	حارث کذاب دمشق	۶
۱۰۲	مغیرہ بن سعید محلی	۷
۱۰۳	بیان بن سحان محلی	۸
۱۰۳	ابو منصور محلی	۹
۱۰۴	بہا فرید نیشاپوری	۱۰
۱۰۵	اسحاق افرس مغربی	۱۱
۱۰۹	استاد سیس خراسانی	۱۲
۱۱۰	حکیم معصع خراسانی	۱۳
۱۱۵	بابک شری	۱۴
۱۲۵	علی بن محمد ازراقی	۱۵
۱۲۸	حسین بن زکریا قرظی	۱۶
۱۳۰	علی بن فضل یمنی	۱۷
۱۳۲	محمد بن علی خلفانی	۱۸
۱۳۷	عبدالعزیز ہاسندی	۱۹
۱۳۸	سید محمد چنوری	۲۰
۱۶۱	حاتی محمد خراسانی	۲۱
۱۶۶	بایزید جائد حری	۲۲
۱۷۰	احمد ابن عبداللہ	۲۳
۱۷۳	مرزا علی محمد باب شیرازی	۲۴
۱۷۷	ملا محمد علی بارفروشی	۲۵
۱۷۹	زرین تاج معروف پیرۃ امین	۲۶
۱۸۱	مرزا حسین علی نوری معروف بہ بہاء اللہ	۲۷
۱۸۳	خاتمہ	۲۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

تقدس کے جھوٹے دعویداروں کو ہم کے لوگ گذرے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے الوہیت، نبوت، مسیحیت یا مہدویت وغیرہ قسم کا کوئی دعویٰ کیا اور جلد یا بدیر فرما دیا ان اسلام کی گرفت میں آ کر اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ دوسرے وہ جنہوں نے کسی ایسی سرزمین میں اپنے دجل کا جال پھیلا دیا جو اسلامی فرمانرواؤں کی دسترس سے باہر تھی۔

اس کتاب میں صرف ان لوگوں کے حالات زندگی معرض تسوید میں آئے ہیں جنہوں نے کسی اسلامی سلطنت میں دام تزویر بچھا کر خلق خدا کو ورطہ ہلاکت میں ڈالا اور اسلامی حکومتوں نے ان کے ناپاک وجود کو اپنی تیغ سیاست سے مستحل کر کے انہیں زندگی کی رسوائی سے نجات بخشی۔

غلام احمد قادیانی کا تعلق موخر الذکر جماعت سے ہے اس لئے اس کے حالات یہاں درج نہیں ہوئے۔ چونکہ وہ ہندوستان کی انگریزی حکومت کی پناہ میں تھا۔ کوئی اسلامی حکومت اس پر قابو نہ پاسکی۔ اس نے امیر عبدالرحمن خان والئی افغانستان کو ایک مکتوب بھیج کر قبول مرزائیت کی دعوت دی تھی اور امیر مرحوم نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ تم بذات خود یہاں آ کر ہمیں تبلیغ کرو۔ اگر تمہارا دعویٰ اسلامی تعلیمات کے معیار پر پورا اترے گا تو نہ صرف میں بلکہ افغانستان کی ساری رعایا بھی تمہارے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائے گی۔ مگر چونکہ غلام احمد کاٹل جانے کے انجام سے واقف تھا۔ اس لئے وہاں جانے کی اسے جرأت نہ ہوئی۔ غلام احمد کی طرح اور بھی بہت سے خود ساختہ نبی تھے جو مسلمان حکمرانوں کی گرفت سے محفوظ رہے۔ اس تالیف میں دو مدعیان خدا کی، پندرہ مدعیان نبوت، چار مدعیان مسیحیت، چار مدعیان مہدویت، ایک مدعی امامت اور ایک مدعیہ مظہر فاطمہ زہراء کے حالات درج ہوئے ہیں۔ مدعیان مسیحیت میں سے دو شیخ بھیک مہدوی اور ایم بزلہ مہدوی مدعیان مسیحیت کا تذکرہ حاجی محمد خراسانی کے واقعات کے ضمن میں اس لئے حوالہ قرطاس ہوا کہ یہ دونوں دوسرے مدعیوں کی طرح موت کے گھاٹ اتارے گئے تھے۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے خلق کرنے والا جھوٹا مدعی اسلامی حکومتوں کے کس سلوک کا مستحق ہے۔

ابوالقاسم رفیق دلاوری، لاہوری!

مقدمہ

ختم نبوت کا عقیدہ

نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا سلسلہ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی ذات گرامی پر منقطع ہو گیا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر سطح ارضی کے شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر ملک، ہر زمانہ، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر مذہب و مسلک کے کلمہ گو قریباً چودہ صدیوں سے برابر متفق چلے آتے ہیں۔ یہی وہ اصل الاصول ہے جس کی بنیادوں پر ایمان کی پوری قومی عمارت کھڑی ہے۔ اسی کی بناء پر ملت و موجدین کی وحدت و استحکام کا مدار ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس عقیدہ میں تزلزل واقع ہو تو اس کا اثر محض معتقدات ایمانیہ ہی پر نہیں پڑے گا بلکہ یہ تمدنی، معاشی، سیاسی، اور بین الاقوامی ہر اظہار سے مسلمانوں کے لئے سخت ہلاکت آفریں ثابت ہوگا۔

مدعی نبوت کا ارتداد

سلف اور خلف کے تمام علمائے امت اس پر بھی متفق چلے آئے ہیں کہ ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو کوئی دعوائے نبوت کرے وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ممالک اسلامیہ میں قرن اول سے لے کر آج تک تمام مدعیان نبوت برابر موت کے گھاٹ اتارے جاتے رہے۔ بشرطیکہ کوئی اسلامی حکومت ان پر قابو پا سکی۔ البتہ اگر کوئی جتنی قابو پانے سے پہلے تابع ہو گیا تو پھر اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔

(کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ کام ہر شخص انفرادی طور پر بھی کر سکتا ہے جس طرح حدود کا کام حکومت وقت کا کام ہے۔ اسی طرح قتل مرتد کا حق بھی صرف حکومت کا کام ہے۔ انفرادی طور پر ایسے معاملات کو قطعاً ہاتھ میں نہیں لیا جاسکتا)

نزول مسیح علیہ السلام

حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی حیات اور قرب قیامت کو آسمان سے ان کے نازل ہونے کا عقیدہ بھی اسلامی مسلمات میں داخل ہے۔ یہ عقیدہ قریباً چالیس صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام قرب قیامت کو نازل ہوں گے تو عہدہ نبوت پر سرفراز رہنے کے باوجود شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں گے اور ان کی حیثیت امت کے مجدد اعظم کی ہی ہوگی۔ پس یہ امت محمدی کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس دین کی

تائید و تصدیق کے لئے ایک اولوالعزم رسول بھیجا جائے گا۔

بعض مغربیت زدہ لوگوں کا ذہن اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ کس طرح کوئی شخص ہزار ہا سال کے بعد دنیا میں واپس آ سکتا ہے۔ لیکن جو شخص قرآن پر اور حضرت خیر المرسلین ﷺ کے ارشادات گرامی پر ایمان رکھتا ہے اس کو اس عقیدہ پر یقین رکھنے میں کوئی تردد و غلبان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کلام پاک میں عزیر علیہ السلام کے سو سال کے بعد زندہ ہونے کا واقعہ مذکور ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف تین سو نو سال تک غار میں بحالت خواب پڑے رہے۔ پس اگر وہ امور خدائے قدیر کے لئے ممکن تھے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو ہزار ہا سال تک زندہ رکھ کر دوبارہ دنیا میں بھیجنا بھی اس ذات بے ہمتا کے لئے مشکل نہیں۔

ظہور مہدی علیہ السلام

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نزول مسیح علیہ السلام سے کچھ مدت پیشتر حضرت محمد بن عبداللہ معروف بہ مہدی علیہ السلام جو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی اولاد میں سے ہوں گے مکہ معظمہ میں ظہور فرما ہوں گے اور تھوڑے دنوں میں تمام عرب ان کے زیر نگیں ہو جائے گا۔ وہ سات سال تک بدر حکومت رہیں گے۔ نصاریٰ سے ان کی بڑی لڑائیاں ہوں گی۔ جن میں خدائے موفیٰ ان کو مظفر و منصور کرے گا۔ ان فتوحات کے بعد مہدی علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت دمشق میں قیام فرما ہوں گے تو ایک دن جب نماز عصر پڑھنے کے لئے صفیں درست کر رہے ہوں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے سفید شرفی بینار پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔

نماز کی صفیں دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام بغرض ادائے نماز اہل ایمان میں آ شامل ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام ان سے نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے۔ مگر وہ فرمائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے کہ خدائے برتر نے امت محمدی کو بڑا شرف بخشا ہے۔ اس پہلی نماز میں تو مہدی علیہ السلام امام ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد تمام نمازوں میں حضرت مسیح علیہ السلام ہی بیچہ افضلیت کے امامت فرمایا کریں گے۔

قتل و جال اور مدفن مسیحی

کچھ دنوں کے بعد مسیح علیہ السلام و جال اکبر یعنی ایک کانے یہودی سردار کو جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہوگا اور لوگوں کو عجیب و غریب معجزے دکھا کر گمراہ کر رہا ہوگا قتل کریں گے۔ چونکہ مسیح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اس لئے یہودی، نصاریٰ اور تمام دوسرے

ادیان کے پیردان پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تمام ملتیں مٹ جائیں گی اور صرف ایک دین اسلام دنیا میں باقی رہ جائے گا۔ تمام دعوتی اور تبلیغی فریضے سے فراغت پا کر حضرت مسیح علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں گے اور وہاں شادی کریں گے اور ان کے اولاد ہوگی۔

کچھ مدت کے بعد جب مسیح علیہ السلام کا بیاناہ حیات لبریز ہو جائے گا تو مدینہ منورہ کی زمین ایک اور پیغمبر کو اپنے دامن میں لینے کے لئے اپنا آغوش شوق پھیلا دے گی اور آپ افضل الانبیاء والرسل ﷺ کے مقبرہ مبارک میں دفن کئے جائیں گے۔

اس رسالہ میں ان مشاہیر کے کچھ جزوی حالات حوالہ قرطاس کئے جاتے ہیں جنہوں نے خدائی، پیغمبری، مسیحیت یا مہدویت کے دعوؤں کے ساتھ خروج کر کے خلق خدا کو گمراہ کیا اور آخر کار اپنی اپنی اسلامی حکومت کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچے۔ واللہ اعلم!

..... اسود عسلی مدعی نبوت

اسود نے حضور سید کون و مکان علیہ التحیہ والسلام کے آخری ایام سعادت میں یمن کے اندر دعوائے نبوت کیا۔ اہل نجران اور قبیلہ مذحج نے اس کی متابعت اختیار کی۔ اسود کا قبیلہ عسلی قبیلہ مذحج ہی کی ایک شاخ تھا۔ جب اسود کی جمعیت بڑھی تو اس نے تموڑے ہی دنوں میں پہلے نجران پر اور پھر یمن کے اکثر دوسرے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ انجام کار یمن کے دار الحکومت صنعاء کا رخ کیا۔ وہاں کے عامل شہر بن ہاذان نے اس کا مقابلہ کیا۔ لیکن مغلوب ہو کر جرعہ شہادت لے لیا۔ جب آنحضرت ﷺ کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے مسلمانان یمن کو لکھ کر بھیجا کہ جس طرح بن پڑے اسودی فتنہ کا استیصال کریں۔

اہل ایمان اس فرمان سے بڑے قومی دل ہوئے اور یمن کے مختلف علاقوں میں درپردہ حربی تیاریاں ہونے لگیں۔ لیکن دار الحکومت صنعاء کے مسلمان اسود کے مقابلہ میں اپنی حربی کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ اس لئے انہوں نے مصلحت و صواب دید اس میں دیکھی کہ عسکری اجتماع کے بجائے عقلی سرگرمیوں سے اس کی جان لیں۔ اسود نے شہر بن ہاذان کے واقعہ شہادت کے بعد ان کی بیوی آزاد کو جبراً گھر میں ڈال لیا تھا اور آزاد کے عم زاد بھائی حضرت فیروز دہلیسی جو شاہ حبشہ کے خواہر زادہ تھے آزاد کو اسود کے پیچھے بیداد سے آزاد کرانے کے لئے سخت فکر مند تھے۔

مسلمانوں نے آزاد کو اپنا راز دار بنایا اور اس کے مشورہ کے بموجب ایک رات چند مسلمان نقب لگا کر اسود کے محل میں گھس گئے۔ فیروز دہلیسی نے جو ایک قومی العجہ جوان تھے اچانک

اسود کی گردن اور منڈی جا پکڑی اور بڑی پھرتی سے مردوز کر اس کی گردن توڑ دی اور اسے آنا قانا بستر پر ہلاک کر دیا۔

اسود کی ہلاکت کے بعد ایل ایمان نے اس کے پیروؤں اور خواہوں کو مغلوب کر کے چس وہی روز میں یمن کی حکومت بحال کر لی۔ شہر بن باذان کی جگہ حضرت معاذ بن جبل انصاریؓ صنعا کے حاکم قرار پائے۔ سید دو جہاں رضی اللہ عنہما نے وحی الہی سے اطلاع پا کر فرمایا تھا کہ اسود فلاں رات اور فلاں وقت مارا جائے گا۔ چنانچہ جس وقت وہ قعر عدم میں پہنچا، اس صبح کو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آج رات اسود مارا گیا۔ صحابہ عرض پیرا ہوئے۔ یا رسول اللہ! کس کے ہاتھ سے ہلاک ہوا؟ فرمایا ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک باہرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیروز دلیمی۔ چند روز کے بعد جب یمن کا قاصد اسود کے مارے جانے، اسلامی فرمانروائی کے بحال ہونے کی خبر لے کر مدینہ الرسول پہنچا تو اس وقت حضرت سرور عالم و عالمیان علیہ الصلوٰۃ والسلام رحمت الہی کے آغوش میں استراحت فرما چکے تھے اور امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیقؓ نے مسند خلافت کو اپنے مبارک قدموں سے زینت بخشی تھی۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبرؓ کو اپنے عہد خلافت میں سب سے پہلی جو بشارت ملی وہ اسود ہی کے قتل کا مرثوہ تھا۔ اسود ی قتنہ کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لئے راقم السطور کی کتاب ”ائمہ تلیس ص ۱۶۷۸“ کی طرف رجوع فرمائیے۔

۲..... مسیلہ کذاب

جب فخر بنی آدم حضرت احمد مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی رسالت کا غلطہ اقصائے عالم میں بلند ہوا تو قبیلہ بنو حنیفہ نے قبول اسلام کے بعد ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا۔ مسیلہ بھی اس وفد میں شریک تھا۔ وفد کے دوسرے ارکان کی طرح مسیلہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسیلہ ذاتی وجاہت اور قابلیت کے لحاظ سے اپنے قبیلہ میں ممتاز اور طلاق لسانی اور فصاحت و انشا پر وازی میں اقران و امثال میں ضرب المثل تھا۔ اس لئے اس نے بیعت کرنے کے بعد بارگاہ نبوت میں درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرما دیں۔ یہ درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گذری۔ اس وقت کعبور کی ایک ٹہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مسیلہ! اگر تم خلافت کے بارہ یہ شاخ خراب بھی مجھ سے طلب کر دو تو میں تمہاری خواہش پوری نہیں

کروں گا۔ مسیلہ متنبی تھا کہ آنحضرت ﷺ سے اپنی نبوت میں شریک بنالیں۔ لیکن آپ ﷺ کے اس حق پر وہانہ جواب نے اس کے نقل امید کو بالکل خشک کر دیا۔

جب مسیلہ ادھر سے مایوس ہوا تو بوقت مراجعت اس کے دل میں خود نبی بننے کے خیالات موجزن ہوئے اور اپنے قبیلہ میں پہنچ کر لوگوں سے کہنے لگا کہ جناب محمد رسول اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اپنی نبوت میں اسے بھی شریک کر لیا ہے اور اپنی من گھڑت وحی والہام کے افسانے سنا سنا کر لوگوں کو راہ حق سے منحرف کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض زود اعتقاد لوگ سرور انبیاء ﷺ کی نبوت کے ساتھ مسیلہ کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔

جب مسیلی اغوا کوشیوں کی اطلاع آستان نبوت میں پہنچی تو حضور سید المرسلین ﷺ نے قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک ممتاز رکن رحال بن عنقوہ کو جو نہار کے لقب سے مشہور تھا اس غرض سے پیامہ روانہ فرمایا کہ مسیلہ کو سمجھا بجا کر راہ راست پر لائے۔ مسیلہ یوالتان اور خوش بیان تھا۔ رحال نے مسیلہ کو راہ راست پر لانے کی بجائے الناس کا اثر قبول کر لیا اور سرور کائنات ﷺ کے ساتھ مسیلہ کی بھی نبوت کا اقرار کر کے اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) فرماتے تھے کہ مسیلہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ بنو حنیفہ نے اس کی شہادت پر وثوق کر کے مسیلہ کی نبوت تسلیم کر لی اور سارا قبیلہ اس کے دام ارادت میں پھنس کر مرتد ہو گیا۔

کچھ دنوں کے بعد بنو حنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ الرسول گیا۔ ان لوگوں کو مسیلہ کی تقدیس و طہارت میں بڑا غلو تھا۔ یہ لوگ مسیلہ کے شیطانی الہامات کو صحابہ کرامؓ کے سامنے بڑے فخر سے وحی الہی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت خیر الانام ﷺ کو ارکان وفد کی اس ماذف ذہنیت کا علم ہوا اور آپ ﷺ نے یہ بھی سنا کہ بنو حنیفہ نے اسلام سے منحرف ہو کر مسیلہ کا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے تو حضور ﷺ نے ایک خطبہ دیا۔ جس میں حمد اور ثنائے الہی کے بعد فرمایا کہ مسیلہ ان تیس مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو درجال امور سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس دن سے اہل ایمان مسیلہ کو مسیلہ کذاب کہنے لگے۔

کچھ مدت کے بعد مسیلہ نے کمال جسارت و بیباکی کے ساتھ حضرت فخر الانبیاء ﷺ کے نام ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا۔ ”مسیلہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام۔ مظلوم ہوا کہ امر نبوت میں میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سر زمین نصف ہماری (یعنی بنو حنیفہ کی) اور نصف قریش کی ہے۔ لیکن قوم قریش زیادتی اور بے انصافی کر رہی ہے۔“ اور یہ مکتوب اپنی قوم کے دو مخلصوں کے ہاتھ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ آپ ﷺ نے ان دو قاصدوں

سے پوچھا کہ مسیلہ کے بارہ میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مارنے کا حکم دیتا۔ اس روز سے دنیا میں یہ اصول مسلم اور زبان زد خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ آپ ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح جھوٹے نبی واجب القتل ہیں۔ اسی طرح ان کو سچائی ماننے والے بھی گردن زدنی ہوتے ہیں۔ حضرت سید موجودات ﷺ نے اس چٹھی کا یہ جواب لکھوایا۔ ”من جانب محمد رسول اللہ بنام مسیلہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی بیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے اور عاقبت کی کامرانی متقیوں کے لئے ہے۔“

اس کے چند ہی روز بعد آفتاب رسالت رحمت الہی کے شفق میں مستور ہو گیا اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے عنان خلافت ہاتھ میں لی۔ حضرت صدیق اکبر نے مسیلہ کی سرکوبی کے لئے پہلے حضرت عکرمہ بن ابی جہل کی سرکردگی میں کچھ فوج یمامہ کی طرف روانہ فرمائی اور اس کے حقائق شرمیل بن حسنہ کو کچھ سپاہ دے کر بغرض ملک روانہ فرمایا۔ حضرت عکرمہ نے حالات پر قابو پائے اور ماحول کا کافی مطالعہ کئے بغیر نہایت عجلت کے ساتھ شرمیل کی آمد سے پہلے ہی لڑائی چھیڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عکرمہ گلوبزیمت ہوئی۔ مسیلہ اور اس کے بیرونی کے شادیاں بجاتے میدان جنگ سے واپس ہوئے۔

اب امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر نے سیف اللہ خالد بن ولید کو ایک لشکر گراں کے ساتھ مسیلہ کے مقابلہ میں جانے کا حکم دیا اور وہ دار خلافت سے بادورق کی سی تیزی کے ساتھ یمامہ کو روانہ ہوئے۔ اس اثناء میں حضرت عکرمہ کی طرح شرمیل نے شباب زدگی سے کام لے کر حضرت سیف اللہ کی آمد سے پہلے ہی مسیلہ کی حربی قوت کا اندازہ کئے بغیر مرتدین بنو ضیفہ سے مقابلہ شروع کر دیا۔ جس میں انہیں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب حضرت خالدؓ کو مسلمانوں کی مکرر ہزیمت کا علم ہوا تو شرمیل کو سخت ملامت کی اور فرمایا ہماری آمد کا انتظار کئے بغیر کیوں پیش قدمی کی تمہاری عجلت پسندی کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کی جمعیت پہلے سے بھی فزوں تر ہو گئی ہے اور اس کے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔

جب مسیلہ کو معلوم ہوا کہ اسلام کے نامور سپہ سالار خالد بن ولید اس کی سرکوبی کے لئے آئے ہیں تو اس نے بھی اپنے بیروں کو عقبہ بقاء کے مقام پر لاج جمع کیا۔ مسیلہ کی طرف سے مجاہدین

مرادہ ایک جداگانہ دستہ فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلہ پر آیا۔ مسیلہ تک پہنچنے میں ایک دن کا راستہ باقی تھا کہ حضرت خالد نے شریح بن حسنہ کو مقدمہ الجیش کا سردار مقرر کر کے پیش قدمی کا حکم دیا۔ اتفاق سے رات کے وقت بجاع سے بڑھ بیٹھ ہو گئی۔ مسلمانوں نے نہایت بے جگری سے مرتدین پر پہلے بول دیا اور بجاع کے ساتھیوں کو مارتے مارتے ان کھلیان کر دیا۔ بجاع قید کر لیا گیا۔ اس کے رفقاء میں سے اس کے سوا کوئی نہ بچا۔

اب حضرت خالد اور رئیس المرتدین مسیلہ میں معرکہ آرائی شروع ہوئی۔ اس محاربہ میں مسیلہ کے ہمراہ چالیس ہزار فوج تھی اور اسلامی لشکر صرف تیرہ ہزار شمار میں آیا تھا۔ حضرت خالد نے پہلے اتمام حجت کے لئے مسیلہ اور اس کے پیروؤں کو از سر نو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ مگر انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ دوسرے صحابہ کرام نے بھی پند و موصلعت بہتری تدبیریں چلائیں۔ لیکن مسلمی گم کردگان راہ کے والہانہ یقین و اعتقاد کی گرجوشی میں کچھ فرق نہ آیا۔ اس معرکہ میں امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کے بھائی زید بن خطاب حضرت عمرؓ کے عالی قدر صاحبزادہ عبداللہ بن عمرؓ اور امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیقؓ کے صاحبزادہ جناب عبدالرحمن بن ابی بکرؓ بھی شریک تھے۔

یہ لڑائی بڑی خوفناک تھی۔ یہ اسلام اور کفر کی ایسی زبردست آویزش تھی کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو ایسے شدید معرکہ سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ کئی دن کی معرکہ آرائی کے بعد ضم فوج مسلمانوں کے راہت اقبال پر چلی۔ مسیلہ مارا گیا۔ اکیس ہزار مرتدین قہر ہلاکت میں پڑے اور حسب بیان ابن خلدون ایک ہزار اسی مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد نے مرتدین کے سردار بجاع سے سونے، چاندی، اسلحہ اور آدھے یا چوتھائی قیدیوں کی شرط پر مصالحت کر لی۔

اسٹن میں ایک قاصد امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیقؓ کا یہ فرمان لے کر یہاں پہنچا کہ اگر خدائے عزیز مرتدین پر فتح یاب دے تو بنو حنیفہ میں سے جس قدر بقیہ السیف عرصہ بلوغ کو پہنچ چکے ہوں وہ سب بجز ارتداد اول کئے جائیں اور ان کی عورتیں اور بچے لوٹ ڈی غلام بنائے جائیں اور اسلام کے سوا ان سے کوئی چیز قبول نہ کی جائے۔ ”وان یقتلہم کل قتلۃ وان یسبوا النساء والذراہی ولا یقبل من احد غیر الاسلام“ (البدایہ والنہایہ و ابن کثیر ج ۶ ص ۳۶۶)

لیکن امیر المؤمنین کا فرمان پہنچنے سے پہلے حضرت خالدؓ معاہدہ کی تکمیل کر چکے تھے۔ اس لئے اس حکم کا تو پوری طرح نفاذ نہ ہو سکا اور لشکر اسلام کو اس سونے، چاندی، اسلحہ اور نصف یا ربع اسیران جنگ سے زیادہ کچھ نہ مل سکا۔ (تاریخ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۰۴) ورنہ بالغوں کے قتل اور

مرتدوں کے اہل و عیال کو لوٹڑی غلام بنالیے کے بعد بنو حنیفہ کے تمام منقولہ اور غیر منقولہ الماک مسلمانوں کے حیطہ تصرف اور ملک میں آجاتے۔ بنو حنیفہ کے جو اسیر لوٹڑی غلام بنائے گئے انہی میں سے ایک لوٹڑی حضرت علی مرتضیٰ کے حصے میں آئی۔ حضرت علیؑ کے نامور فرزند محمد بن حنیفہ جن کا کسی قدر تذکرہ مختار ثقفی کے حالات میں آئے گا۔ اسی لوٹڑی کے لطن سے تھے۔ ”وقد تسرى على بن ابي طالب بجارية منهم وهي ام ابنه محمد الذي يقال له محمد بن الحنفية رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ (الہدایۃ النہایۃ ج ۶ ص ۳۲۵)

لندن کے ایک جلسہ میں جو کابل میں مرزائی مرتد نعمت اللہ کے سنگسار ہونے کے خلاف مرزا محمود کی کوششوں سے منعقد ہوا۔ مرزا محمود نے بیان کیا کہ: ”حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں جو لوگ مرتد ہوئے ان کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ صرف اس وقت ان سے جنگ کی گئی جب تک کہ انہوں نے حکومت سے بغاوت جاری رکھی۔“ (الفضل قادیان مورخہ ۲۸ اکتوبر ۱۹۲۳ء)

مگر یہ خیال سراسر غلط ہے۔ کیونکہ قانون شریعت میں جن لوگوں کے خلاف خروج و بغاوت کے جرم میں لشکر کشی کی جاتی ہے ان کے اسیروں کو لوٹڑی غلام نہیں بنایا جاتا۔ خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں مگر پیروان مسیلمہ کے خلاف جو فوج کشی کی گئی اس میں امیر المؤمنین کا حکم صریح پہنچنے سے پہلے بھی جزوی طور پر ان کے اہل و عیال کو لوٹڑی غلام بنایا گیا۔

اور ظاہر ہے کہ مسیلمہ نے رسول خدا ﷺ کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا۔ غلام احمد قادیانی کی طرح وہ بھی آپ کو نبی تسلیم کرتا تھا۔ لیکن ساتھ غلام احمد قادیانی کی طرح اپنی نبوت کا بھی مدعی تھا۔ مگر اس کے باوجود کافر اور ملت اسلام سے خارج قرار دیا گیا اور یہ بھی مسلم ہے کہ مسیلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ بھی رجال بن عنفوہ کے بیان پر وثوق کر کے نیک نیتی کے ساتھ مسیلمہ پر ایمان لایا تھا۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ان کو معذور نہ سمجھا بلکہ ان کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف فوج کشی کی۔

۳..... مختار بن ابو عبیدہ ثقفی

مختار ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفیؓ کا فرزند تھا۔ لیکن خوارج کے ہتھے چڑھ کر خارجی ہو گیا۔ وہ اہل بیت سے سخت عناد رکھتا تھا۔ لیکن سیدنا حضرت حسینؓ کی شہادت کے واقعہ ہائلہ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کربلا کے قیامت خیز واقعات سے سخت سینہ ریش ہو رہے ہیں اور استمات قلوب کا یہ بہترین موقع ہے اور اس نے یہ بھی اندازہ

لگایا کہ اہل بیت کا بغض اس کے ہام ترقی پر پہنچنے میں سخت حائل ہے تو اس نے خارجی مذہب چھوڑ کر حب اہل بیت کا دم بھرنا شروع کر دیا۔

۶۳ھ میں جب یزید بن معاویہ مرا تو اہل کوفہ نے یزید کے عامل عمرو بن حریت کو کوفہ کی حکومت سے برطرف کر کے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے بیعت کر لی۔ جنہوں نے یزید کے بعد ججاز اور عراق کی عتاق فرما کر روائی اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ مرگ یزید کے چھ مہینہ بعد عتاق کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کو قاتلین حسینؓ سے جنگ آزما ہونے کی دعوت دینی شروع کی اور یولا میں (حضرت حسینؓ کے سوتیلے بھائی) محمد بن حنفیہ کی طرف سے دزیر اور امین ہو کر تہارے پاس آیا ہوں۔ عتاق کوفہ کے گلی کوچوں اور مسجدوں میں جاتا اور حضرت حسینؓ اور دوسرے اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے ٹسوے بہانے لگتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تحریک جڑ پکڑنے لگی اور رجوع خلاق شروع ہوا۔ یہاں تک کہ ہزاروں آدمی اس کے جھنڈے تلے جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔

اب عتاق اپنی حکومت قائم کرنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ چنانچہ ارادہ کیا کہ کوفہ پر قبضہ کر کے حکومت کی داغ بیل ڈالے۔ چنانچہ اس نے ۱۳ ربيع الاول ۶۶ھ کی رات کو خروج کرنے کا عزم معمم کر لیا۔ عبداللہ بن مطیع کو جو حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی طرف سے حاکم کوفہ تھا بتایا گیا کہ عتاق عتاق فریب خروج کر کے کوفہ پر قبضہ کیا چاہتا ہے۔ اس لئے اس نے شرفائے شہر کی قیادت میں فوج اور پولیس کے آدمی بھیج کر شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ اس انتظام کا یہ مقصد تھا کہ عتاق اور اس کے پیروں کو فروغ ہو کر خروج سے باز رہیں۔ اس سے پہلے عتاق نے مضامین کوفہ کے ایک مقام پر بڑی خاموشی کے ساتھ حربی تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور وہ رزم دیکھار کے لئے بھڑک رہا تھا۔ اس لئے ناکہ بندی کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔

عتاق شہر معہود کو طلوع فجر تک فوج کی ترتیب و آراستگی میں مصروف رہا۔ یہ اطلاع پا کر سرکاری جمعیت بھی مقابلے پر آمادہ ہوئی اور تڑکے ہی دونوں طرف سے حملہ ہوا۔ دن بھر ٹکوار چلی۔ آخر سرکاری فوج کی ہزیمت ہوئی اور عتاق نے قصر امارت کا محاصرہ کر لیا۔ تین دن کے بعد جب ابن مطیع کی قوت مدافعت جواب دے نہ سکی تو اس کے ایک فوجی افسر شیف ابن ربیع نے اس سے کہا کہ اب آپ نہاچے تہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں اور شاہدوں کو بچا سکتے ہیں۔ ابن مطیع نے کہا اچھا بتاؤ کیا کیا جائے۔ شیف نے کہا میری رائے میں مناسب ہے کہ آپ اپنے اور ہمارے لئے امان طلب کیجئے۔ ابن مطیع نے جواب دیا کہ مجھے عتاق سے امان مانگتے ہوئے نفرت ہوتی ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ ججاز اور بصرہ ہنوز امیر المؤمنین (عبداللہ بن زبیرؓ) کے زیر نگیں ہیں۔

اس کے بعد ابن مطیع قصر امارت سے نکل کر ابوموسیٰ کے مکان میں جا چمپا۔ ابن مطیع کے آدمیوں نے دروازہ کھول دیا۔ مختار قصر میں داخل ہوا اور مطیع کے آدمیوں نے اس سے بیعت کر لی۔ صبح کو شرفائے کوفہ اس سے مسجد اور قصر کے دروازے پر ملاتی ہوئے اور کتاب وسنت اور اہل بیت کے خون کی انتقام جوئی کی شرط پر بیعت کی۔ مختار نے کوفہ کے بیت المال میں نوے لاکھ کی رقم پائی۔ جس میں ایک بڑا حصہ اس نے اپنی فوج میں تقسیم کر دیا۔ ان ایام میں کوفہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور اس کے توابع دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس فتح سے مختار حجاز مقدس اور بصرہ کی ولایت کو چھوڑ کر باقی تمام علاقوں پر قابض ہو گیا جو ابن زبیر کے زیر نگیں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ اس نے اپنے اعلیٰ ترین اوج و عروج کی تصویر اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور نظر آیا کہ اسلامی دنیا کا ایک معتدبہ حصہ اس کے علم اقبال کے سامنے سر نیا ز جھکائے ہوئے ہے۔

عمال کا تقرر

اب اس نے کوئی رییس امراہیم بن اشتر کے چچا عبداللہ بن حارث کو آرمینیا کی حکومت تفویض کی۔ عبدالرحمن بن سعید کو موصل کا گورنر بنایا۔ اسحاق بن مسعود کو مدائن کی سر زمین دی۔ اسی طرح دوسرے علاقے بھی ممتاز سرداروں کے زیر فرماں کر کے اپنی اپنی حکومتوں پر روانہ کر دیا۔ اس اثناء میں مختار کو معلوم ہو چکا تھا کہ ابن مطیع ابوموسیٰ کے مکان میں چمپا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن مغرب کے وقت ابن مطیع کے پاس ایک لاکھ درہم کی رقم گراں بیج دی اور کہلا بھیجا کہ اس کو اپنی ضروریات پر خرچ کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ جہاں تم اقامت گزریں ہو اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بے زری اور تجمی دستی نے تمہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ دشمن کے ساتھ حسن سلوک کی یہ ایک قابل تعریف نظیر ہے۔

قاتلین حسینؑ سے انتقام

کوفہ اور اس کے صوبجات پر عمل و دخل کرنے کے بعد مختار نے ان اشیاء کے خلاف دارو گیر کا سلسلہ شروع کیا جو کہ بلا میں حضرت حسینؑ اور خاندان نبوت کے دوسرے ارکان کے قتل و استہلاک میں شریک تھے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد، شمر ذی الجوشن، غولی بن یزید، حصین بن نمیر، زید بن رقاد، جبانی، عمرو بن حجاج، زبیدی، عبدالرحمن بکلی، مالک بن نسر، ہذلی، حکیم بن فضال طائی، عثمان بن خالد جعفی، عمرو بن مصلح صیداوی، مخزوم خوار کے حوالے کر دیئے گئے۔ اسی طرح مختار نے بہت سے دوسرے دشمنان آل رسول کا بھی قلع قمع کیا جو صاحب اس دارو گیر کی پوری تفصیل دیکھنا چاہیں۔ وہ راقم الحروف کی کتاب ”ائمہ تلبیس“ کی طرف رجوع فرمائیں۔

محبت اہل بیت بننے کی غرض و غایت

اوپر لکھا ہے کہ مختار کو ابتداء میں اہل بیت نبوت سے کوئی محبت و ہمدردی نہ تھی۔ بلکہ خارجی المذہب ہونے کے باعث اہل بیت کا دشمن تھا۔ لیکن اس کے بعد مصلحتاً اپنے تئیں محبت اہل بیت ظاہر کر کے مقاتلین حضرت حسینؑ کے درپے انتقام ہوا۔ پس بزیادیوں کا قلع قمع جو اس سے صورت پذیر ہوا اس کی تہ میں جب جاہ و ریاست کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے اس سے کہا اے ابا اطلق! تم کس طرح اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے لگے۔ تمہیں تو ان حضرات سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ تھا؟ کہنے لگا کہ: ”جب میں نے دیکھا کہ مروان نے شام پر تسلط جمالیا۔ عبداللہ بن زبیرؓ نے مکہ اور مدینہ میں حکومت قائم کر لی۔ نجد و میامہ پر قابض ہو گیا ہے اور ابن حازم نے خراسان دہالیا ہے تو میں کسی عرب سے ہٹا نہیں تھا کہ چپ چاپ بیٹھ رہتا اور حصول مملکت کے لئے ہاتھ پاؤں نہ مارتا۔ میں نے جدوجہد کی اور ان بلاؤں پر عمل و دخل کر کے ان کا ہم پایہ ہو گیا۔“

(الدعا و تاریخ ابن جریر طبری)

مختار کا دعوائے نبوت

جب مختار نے قاتلین اہل بیت کے قہس نہیں کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس قسم کی بہجت افزا خبریں فضائے عالم میں گونج رہی تھیں کہ مختار نے دشمنان اہل بیت کے گلے پر چھری رکھ کر مجان اہل بیت کے زخمیے دل پر ہمدردی و تسکین کا مرہم رکھا ہے تو بیروان ابن سبا اور غلام شیبہ نے اطراف و اکناف ملک سے سٹ کر کو فکارخ کیا اور مختار کی حاشیہ نشینی اختیار کر کے تملیق و چاپلوسی کے اہبار لگا دیئے۔ ہر شخص مختار کو آسمان تعلق پر چڑھاتا۔ بعض خوشامدیوں نے تو اسے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ اتنا بڑا کار عظیم و خطیر جو اعلیٰ حضرت کی ذات قدسی صفات سے ظہور میں آیا ہے۔ نبی یا وحی کے بغیر کسی سے ممکن الوقوع نہیں۔

اس تملیق و خوشامد کا لازمی نتیجہ جو ہو سکتا تھا وہی ظاہر ہوا۔ مختار کے دل و دماغ پر انانیت و پندار کے جراثیم پیدا ہوئے جو دن بدن بڑھتے گئے اور انجام کار اس نے بساط جرات پر قدم رکھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔

(الفرق بین الفرق مطبوعہ مصر ص ۳۳)

اس دن سے اس نے مکافات و مراسلات میں اپنے آپ کو مختار رسول اللہ لکھنا شروع کر دیا۔ دعوائے نبوت کے ساتھ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ خدائے برتر کی ذات نے مجھ میں حلول کیا ہے اور جبریل امین ہر وقت میرے پاس آتے ہیں۔ مختار نے اخف بن قیس نامی ایک رئیس کو یہ خط لکھا تھا۔

السلام علیکم! بنو معمر اور بنو ربیعہ کا براہو۔ اخف! تم اپنی قوم کو اس طرح دوزخ کی طرف لے جا رہے ہو کہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ہاں تقدیر کو میں بدل نہیں سکتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجھے کذاب کہتے ہو۔ مجھ سے پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ میں ان میں سے اکثر سے فائق و برتر نہیں ہوں۔ اس لئے اگر مجھے کاذب سمجھا گیا تو کچھ مضائقہ نہیں (تاریخ ابن جریر طبری) ایک دفعہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کہا کہ مختار نزول وحی کا مدعی ہے۔ انہوں نے فرمایا مختار سچ کہتا ہے۔ خدائے برتر نے اس وحی کی اطلاع اس آیت میں دی ہے۔ ”ان الشیطن لیوحون الی اولیائہم“ (شیطان اپنے دوستوں پر وحی نازل کیا کرتے ہیں)

مختاری کا ذیاب کے متعلق مخبر صادق کی پیشین گوئی

مختار کے جھوٹے ہونے کے متعلق خود مخبر صادق ﷺ کی پیشین گوئی بھی کتب حدیث مروی ہے۔ چنانچہ ترمذی نے عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔ ”فی ثقیف کذاب ومبید“ (قوم بنو ثقیف میں ایک کذاب ظاہر ہوگا اور ایک ہلاک) اس حدیث میں کذاب سے مختار اور ہلاک سے حجاج بن یوسف مراد ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ حضرت اسماء ذات الصلاقیہ نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے ہم سے فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ظاہر ہوگا اور ایک ہلاک۔ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا یعنی مختار کو اور ہلاک کو تو ہے۔

اسی طرح عدی بن خالد سے مروی ہے کہ حضرت خیر البشر ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تین دجالوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میں نے گزارش کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے تو ہمیں کانے دجال اور کذاب الکذابین مسئلہ کے متعلق اطلاع دی تھی۔ اب یہ تیسرا دجال کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فتنہ گر ہوگا جسے لوگ عارف باللہ سمجھیں گے۔ حالانکہ وہ ایک ایسا دجال ہوگا جو سیاہ بیضیے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ آل محمد ﷺ کی محبت ظاہر کر کے بندگان خدا کو کھا جائے گا۔ حالانکہ اسے میری سنت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا۔ (حاکم، طبرانی، ابن خزیمہ) مختار کا بہت سا الہامی کلام بھی تھا۔ جو اس نے وحی الہی کی حیثیت سے پیش کیا جو حضرات اس منطقی و صحیح کلام سے لطف اندوز ہوتا چاہیں۔ وہ علامہ عبدالقاہر کی کتاب (الفرق بین الفرق ص ۳۳، ۳۴) اور (کتاب الدعاء ص ۶۳، ۶۴) کی طرف رجوع فرمائیں۔

مصعب بن زبیرؓ کو مختار پر فوج کشی کرنے کی تحریک

ابراہیم بن اشتر کوئی مختار کا دست راست تھا۔ مختار کو جس قدر عروج نصیب ہوا وہ سب ابراہیم بن اشتر کی شجاعت والواہزی اور حسن تدبیر ہی کا رہن منت تھا۔ ابراہیم ہر میدان میں مختار

کے دشمنوں سے لڑا اور اس کے علم اقبال کو ثریا تک بلند کر دیا۔ لیکن جب ابراہیم کو معلوم ہوا کہ عتار نے علی الاعلان نبوت اور نزول وحی کا دعویٰ کیا ہے تو وہ نہ صرف اس کی اعانت سے دست کش ہو گیا۔ بلکہ بلا وجہ پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ دیکھ کر کوفہ کے ان اہل ایمان نے جو عتار کی مارقانہ حرکتوں سے نالاں تھے۔ بصرہ جا کر مصعب بن زبیرؓ کو، عتار پر حملہ آور ہونے کی تحریک کی۔ عتار نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے کوفہ اور اس کے مملکت کی حکومت جمین لی تھی۔ اس کے علاوہ ابن زبیرؓ کی مخالفت میں بہت سی دوسری خون آشامیوں کا بھی مرتکب رہ چکا تھا۔ اس لئے ان کے بھائی مصعب بن زبیرؓ بہت دلوں سے انتقام کے لئے دانت بٹس رہے تھے۔ جب روسائے کوفہ نے حملہ آور ہونے کی تحریک کی تو مصعب ایک لشکر جرار لے کر کوفہ کی طرف بڑھے۔ جب عتار کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے دوپہ سالاروں کے ماتحت اپنی فوج روانہ کی۔ جب لشکروں کی ٹڈ بھیل ہوئی تو عتار کے دونوں پہ سالار احمد بن حمید اور عبداللہ بن کمال میدان جانتاں کی نذر ہو گئے اور بصریوں نے عتار کی فوج کو مار مار کر اس کے دھوئیں بکھیر دیئے۔ جب عتار کو اپنے پہ سالاروں کی ہلاکت اور اپنے لشکر کی بربادی کا علم ہوا تو کہنے لگا کہ موت کا آنا لازمی امر ہے اور میں جس موت میں مرنا چاہتا ہوں وہ وہی موت ہے جس پر ابن حمید کا خاتمہ ہوا۔

جب مصعب کی فوج نے خشکی اور تری کے دونوں راستے عبور کر کے پیش قدمی شروع کی تو عتار نے بھی جنس نہیں کوفہ سے جنبش کی۔ عتار نے سلیمان کے سنگم پر ایک بند بندھا کر دریائے فرات کا پانی روک دیا۔ اس طرح فرات کا تمام پانی معاون دریاؤں میں چڑھ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصری فوج جو کشتیوں پر سوار ہو کر چلے آ رہی تھی ان کی کشتیوں کچڑ میں پھنس گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر بصریوں نے کشتیاں چھوڑ دیں اور پانیادہ پیش قدمی شروع کر دی۔ جب عتار کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر حرواء کے مقام پر مورچہ بندی کی۔ اسے میں مصعب بھی حرواء پہنچ گئے۔ جو ولایت بصرہ کو کوفہ کی حد قاصد ہے۔

اب آتش حرب شعلہ زن ہوئی۔ اس لڑائی میں عتار کی فوج کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور وہ مقابلہ کی تاب نہ لا کر سخت بد حالی کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ جتنی دیر تک فوج برسر مقابلہ رہی عتار نہایت بے جگری سے لڑتا رہا۔ آخر فوج کی ہزیمت پر وہ بھی پسپائی پر مجبور ہوا اور کوفہ پہنچ کر قصر امارت میں محصن ہو گیا۔ دوسرے دن عتار کی ہزیمت خوردہ فوج بھی کوفہ پہنچ گئی۔ عتار کی فوج کا ایک افسر اس سے کہنے لگا کہ آپ نے وحی آسانی سے اطلاع پا کر ہم سے فتح و ظفر

کا وعدہ نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ ہم دشمن کو مار بھگائیں گے۔ مختار نے کہا کیا تم نے کتاب اللہ میں یہ آیت نہیں پڑھی۔ ”ویمحوا اللہ ما یشاء ویثبت وغنہہ ام الکتب“ (حق تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بحال رکھتا ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں لوح محفوظ ہے)

قصر امارت کا محاصرہ اور محصورین کی بد حالی

مختار اپنے بیس ہزار پیر و حروراء لے گیا تھا۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ماری گئی۔ کچھ کو فدا پس آ کر اپنے اپنے گھروں میں روپوش ہو گئے اور آٹھ ہزار دام افتادہ مختار کے پاس قصر میں جا داخل ہوئے۔ مصعب نے کوفہ آ کر قصر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ قریباً چار مہینہ تک جاری رہا۔ مختار ہر روز اپنے رسالے کے ساتھ قصر میں سے برآمد ہوتا اور محاصرین سے دودو ہاتھ کر کے واپس جاتا۔ محصورین کی حالت دن بدن نازک ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ اہل شہر بھی جو اس خود ساختہ نبی کے مخالف تھے دلیر ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب کبھی مختار کے سوار محاصرین پر حملہ کرنے کو قصر سے نکلتے، مکالوں کی چھتوں سے ان پر ایشیں، پتھر، کچھڑ اور غلیظ پانی ڈالا جاتا۔ محاصرین نے سامان رسد کی آمد بالکل مسدود کر رکھی تھی۔ اسلئے محصورین کی حالت سخت زبوں ہو گئی۔

مختار کی ہلاکت

جب محاصرہ کی سختی ناقابل برداشت ہو گئی تو مختار نے اپنے دام افتادوں سے کہنے لگا یاد رکھو کہ محاصرہ جس قدر طویل ہوگا تمہاری طاقت جواب دہتی جائے گی۔ اس لئے بہتر ہے کہ باہر کھلے میدان میں داد شجاعت دیں اور لڑتے لڑتے عزت سے جانیں دے دیں اور اگر تم بہادری سے لڑو تو میں اب بھی فتح کی طرف سے مایوس نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ اٹھارہ آدمیوں نے رفاقت اور جان بازی پر آمادگی ظاہر کی۔ اب مختار خوشبو اور عطر لگا کر باہر نکلا اور اٹھارہ آدمیوں کی رفاقت میں مقابلہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں تمام ساتھی طعمہ اجل ہو گئے۔ آخر مختار خود بھی ان مقتولوں کے ڈھیر پر ڈھیر ہو رہا۔

اب بصری فوج نے مختاریوں کو پابجولاں باہر نکالا اور مصعب نے سب کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ سب کے سب نہنگ شمشیر کے حوالے کئے گئے۔ مقتولوں کی تعداد چھ ہزار تھی۔ مصعب کے حکم سے مختار کے دونوں ہاتھ کاٹ لئے گئے اور مسجد کے پاس کیلوں سے ٹھوک کر تشہیر کے لئے نصب کر دیئے گئے۔ مصعب نے مختار کی بیوی عمرہ بنت نعمان سے پوچھا کہ مختار کے دعوائے نبوت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ اس نے کہا وہ خدا کا نبی تھا۔ اس جواب پر مصعب نے اسے قید خانہ

میں بھیج دیا اور اس کے متعلق اپنے بھائی جناب عبداللہ بن زبیر کو لکھ بھیجا کہ عتار کی بیوی کہتی ہے کہ وہ نبی تھا۔ اس سے کیا سلوک کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ کے خواہر زادہ تھے لکھ بھیجا کہ اگر اس کا بھی عقیدہ ہے تو موت کے گھاٹ اتار دی جائے۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں اسے حجرہ اور کوفہ کے درمیان لے گئے۔ پولیس کے ایک آدمی نے جس کا نام مطرقہ، تکوار کے تین ہاتھ رسید کئے۔ عمرہ نے عرب کے دستور کے بموجب اپنے اعزہ کو پکارا۔ عمرہ کے بھائی ابان بن نعمان نے یہ فریاد سنی تو فوراً مطرقہ کی طرف چھپنا اور زور سے اس کے پیچھے رسید کیا۔ مطرقہ کو چڑ کر مصعب کے پاس لے گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ یہ اپنی ہمشیرہ کے قتل کا وحشت انگیز منظر دیکھ کر کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ (ابن جریر طبری و ابن اثیر)

۳..... حارث کذاب دمشقی

حارث بن عبدالرحمن دمشقی ایک قرشی کا غلام تھا۔ حصول آزادی کے بعد یاد الہی کی طرف مائل ہوا اور بعض اہل اللہ کی دیکھا دیکھی رات دن عبادت الہی میں مصروف رہنے لگا۔ سترہ رات سے زیادہ غذا نہ کھاتا۔ کم سوتا، کم بولتا اور اس قدر پوشش پر اکتفا کرتا جو ستر پوشی کے لئے ضروری تھی۔ اگر یہ زہد و ورع، ریاضتیں اور مجاہدے کسی مرشد کامل کے زیر ہدایت عمل میں لائے جاتے تو اسے قال سے حال تک پہنچا دیتے اور معرفت الہی کا نور کشور دل کو جگمگا دیتا۔ لیکن چونکہ غلام احمد قادیانی کی طرح بے مرشد تھا۔ شیطان اس کا رہنما بن گیا۔

شیاطین کا طریق اغوا

شیاطین کا معمول ہے کہ وہ طرح طرح کی نورانی شکلوں میں بے مرشد ریاضت کشوں کے پاس آ کر انواع و اقسام کے سبز باغ دکھاتے ہیں۔ کسی سے کہتے ہیں کہ تو ہی مہدی موعود ہے۔ کسی کے کان پھونکتے ہیں کہ آنے والا صبح تو ہی ہے۔ کسی کو نبوت و رسالت کا منصب بخش جاتے ہیں۔ کسی کو حلال و حرام کی شرعی پابندیوں سے مستثنیٰ کر جاتے ہیں۔ بے مرشد حابد جو علمی بصیرت میں کامل نہیں ہوتا۔ اس نورانی شکل کو شیطان نہیں سمجھتا۔ بلکہ اپنی حماقت سے یہ یقین کر لیتا ہے کہ اسے خود اس کے معبود برحق نے اپنا جمال مبارک دکھایا ہے اور ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ اسی ذات برتر نے اسے نبوت یا مسیحیت یا مہدویت کے منصب جلیل پر سرفراز فرمایا ہے۔

حارث پر جنود ابلیس کی نگاہ التفات

جب جنود ابلیس نے حارث کو اپنی نگاہ التفات سے سرفراز کر کے اس پر الہام و اللقاء کے دروازے کھولے تو اس کو ایسے ایسے جلوے دکھائی دینے لگے جو پہلے کبھی مشاہدہ سے نہیں گزرے تھے۔ اس کے سر پر کسی سمیٹا لٹس شیخ طریقت کا گل سعادت لٹھا لگن نہیں تھا۔ جس کی طرف رجوع کرتا اور وہ اسے ابلیسی اغوا کو شیوں پر متنبہ کر کے صراصر ضلالت سے بچاتا۔ اس نے اپنے باپ کو جو موضع حولہ میں رہتا تھا لکھ بھیجا کہ جلد آ کر میری خبر لو۔ کیونکہ مجھے بعض ایسی چیزیں دکھائی دینے لگی ہیں جن کی نسبت مجھے خدشہ ہے کہ کہیں شیاطین کی تلکبوس نہ ہو۔ یہ پڑھ کر احمق باپ نے اس کو درطہ ہلاکت سے نکالنے کی بجائے اللہ اس کے سامنے ضلالت و غلٹ کا جال بچھا دیا اور لکھ بھیجا بیٹا! تو اس کام کو بے خطر کر گزر جس کے لئے تمہیں حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ (ترجمہ) کیا میں تم کو ہلاؤں کہ شیاطین کس کے پاس آیا کرتے ہیں۔ وہ ایسے شخص پر نازل ہوتے ہیں جو دروغ گو بد کردار ہو۔ (۲۶: ۲۲۱) اور تو نہ دروغ گو ہے اور نہ بد کردار۔ اس لئے کسی قسم کے اوہام اپنے پاس نہ چسکنے دے۔

لیکن حارث کے باپ کا یہ استدلال قطعاً جہالت پر مبنی تھا۔ کیونکہ اس سے اگلی آیت کے ملانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت ان دروغ گو و بد کردار کا ہنوں کے باپ میں نازل ہوئی تھی۔ جنہوں نے غیب دانی کے دجاوی کے ساتھ تقدس کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ آیت کے مفہوم میں قطعاً یہ چیز داخل نہیں کہ شیاطین کا ہنوں کے سوا دوسروں کو اپنی وحی و اللقاء سے نہیں نوازتے۔

حارث کے استدراجی تصرفات

چونکہ حارث بڑا عابد ریاضت کش تھا اور لٹس کشی کا شیوہ اختیار کر کے اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کر لئے تھے۔ اس سے عادت مستمرہ کے خلاف بعض محیر العقول افعال صادر ہوتے تھے۔ مگر یہ افعال جو محض لٹس کشی کا ثمرہ تھے۔ ان کو تعلق باللہ سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ مسجد میں ایک پتھر پر انگلی مارتا تو وہ صبح پڑھنے لگتا۔ موسم گرما میں لوگوں کو موسم سرما کے پھل اور میوے اور جاڑے میں تابستان کے پھل پیش کرتا بعض اوقات کہتا آد میں تمہیں موضع دیر مراں (ضلع دمشق) سے فرشتے نکلے دکھاؤں۔ چنانچہ حاضرین برائی العین دیکھتے کہ نہایت حسین و جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار چارہے ہیں۔

یہ وہ وقت تھا جب کہ شیاطین ہر روز کسی نہ کسی نوری شکل میں ظاہر ہو کر حارث کو یقین

دلدار ہے تھے کہ تو خدا کا نبی ہے۔ ایک دن شہر کا ایک رئیس قاسم نامی اس کے پاس آیا اور پوچھا تم کس بات کے مدعی ہو؟ کہنے لگا میں نبی اللہ ہوں۔ قاسم نے کہا اے خدا کے دشمن! تو جو بتا ہے۔ نبوت تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات گرامی پر ختم ہوگئی۔ اب کوئی شخص منصب نبوت پر سرفراز نہیں ہو سکتا۔ دمشق جہاں حارث کذاب مدعی نبوت تھا۔ خلفائے بنو امیہ کا دار الخلافہ تھا اور ان ایام میں خلیفہ عبدالملک دمشق کے تحت سلطنت پر متمکن تھا۔ قاسم نے جھٹ قصر خلافت میں جا کر خلیفہ عبدالملک کو بتایا کہ یہاں ایک شخص نبوت کا دعویدار ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن حارث اس سے پیشتر دمشق سے بھاگ کر بیت المقدس چلا گیا تھا اور وہاں خاموشی اور رازداری کے ساتھ لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت دے رہا تھا۔

بیت المقدس میں حارث کے بعض مرید ایک بصری کو اس کے پاس لے گئے جو بیت المقدس میں نو وارد تھا۔ جب بصری نے توحید الہی کے متعلق حارث کی نکتہ آفرینیاں سنی تو اس کا گردیدہ ہو گیا۔ لیکن جب حارث نے بتایا کہ میں نبی مبعوث ہوا ہوں تو بصری نے کہا کہ میں تمہارا دعوئے نبوت تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ نبی نبوت کا دروازہ حضرت نبی آخر الزمان ﷺ کی بعثت کے بعد بند ہو چکا ہے۔ حارث نے کہا نہیں نہیں تم سوچو اور غور کرو۔ میری نبوت کے یہ یہ دلائل ہیں۔ بصری بغیر کسی حریہ جیل و جنت کے وہاں سے چلا آیا اور وہاں سے دمشق جا کر خلیفہ سے ملا اور حارث کے دعوئے نبوت کی شکایت کی۔

خلیفہ عبدالملک نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ بصری نے بتایا کہ وہ بیت المقدس میں فلاں جگہ چھپا ہے۔ خلیفہ نے چالیس فرغانی سپاہی اس کے ساتھ کروئے۔ یہ لوگ بیت المقدس پہنچے اور اس کو گرفتار کر لیا اور زنجیر گردن میں ڈال کر اس کے دونوں ہاتھ گردن سے باندھے اور لے چلے۔ جب درہ بیت المقدس میں پہنچے تو حارث نے قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ ”قل ان ضللت فانما اضل علیٰ نفسی وان اھتدیت فبما یوحی الیٰ ربی“ (اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں (بغیر مجال) راہ راست کو چھوڑ دوں تو یہ حق فراموشی مجھی پر وہاں ہوگی اور اگر راہ ہدایت پر مستقیم رہوں تو یہ اس کلام پاک کی بدولت ہے جس کو میرا رب مجھ پر نازل فرما رہا ہے۔) اس آیت کا پڑھنا تھا کہ گلے اور ہاتھ کی زنجیر ٹوٹ کر زمین پر جاگری۔ یہ دیکھ کر پیادوں کو کچھ بھی اچھا نہ ہوا اور انہوں نے زنجیر اٹھا کر دوبارہ اس کے ہاتھ گلے سے باندھے اور لے چلے۔ جب دوسرے درے پر پہنچے تو حارث نے مکرروہی آیت پڑھی اور زنجیر دوبارہ کٹ کر

زمین پر آ رہی۔ پیادوں نے از سر نو زنجیر کو اٹھایا اور سہ بارہ جکڑ کر دمشق لے چلے۔ پیادوں کے مضطرب نہ ہونے اور اس کو پورے اطمینان سے مکرر سہ کر رہ جکڑ لینے کی وجہ یہ تھی کہ بصری ہر دفعہ پیادوں سے کہہ دیتا تھا کہ یہ غبیث بڑا شعبہ باز ہے۔ آخر دمشق پہنچ کر اس کو خلیفہ عبدالملک کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے پوچھا کیا واقعی تم مدعی نبوت ہو۔ حارث نے کہا: ہاں۔ لیکن میرا یہ دعویٰ کچھ سن گھڑت نہیں ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وحی الہی کے بموجب کہتا ہوں۔

خلیفہ نے ایک قوی ہیکل محافظ کو حکم دیا کہ اس کو نیزہ مار کر ہلاک کر دو۔ نیزہ مارا گیا۔ لیکن کچھ اثر انداز نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر حارث کے ہیر دکنے لگے کہ انبیاء اللہ کے جسم پر ہتھیارا اثر نہیں کرتے۔ خلیفہ نے محافظ سے کہا شاید تم نے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ نہیں مارا؟ اب کی مرتبہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر وار کیا تو وہ بری طرح زخم کھا کر گر اور جان دے دی۔ یہ ۶۹ھ کا واقعہ ہے۔

(دائرة المعارف ج ۶ ص ۶۳۳، الدعاء ص ۷۳، ۷۴)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے کتاب ”الفرقان بین ادلیاء الرحمن و ادلیاء الشیطان“ میں لکھا ہے کہ حارث کی جھکڑیاں اتارنے والا اس کا کوئی شیطان دوست تھا اور اس نے گھوڑوں کے جو سوار دکھائے تھے وہ ملائکہ نہیں بلکہ جنات تھے۔

قاضی عیاض کا بیان

قاضی عیاضؒ ”الشفاء فی حقوق دار المصطفیٰ“ میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حارث کو قتل کرا کے سولی پر لٹکوا دیا۔ خلفاء و سلاطین اسلام نے ہر زمانہ میں مدعیان نبوت کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے اور علمائے معاصرین ان کے اس عمل خیر کی تائید و تحمیل کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جھوٹے مدعیان نبوت مفتری علی اللہ ہیں۔ خدائے برتر پر بہتان باندھتے ہیں کہ اس نے ان کو منصب نبوت سے نوازا ہے۔ یہ لوگ حضرت خیر الاممؐ کے خاتم النبیین اور لانا نبی بعدہ ہونے کے منکر ہیں۔ علمائے امت اس مسئلہ پر بھی متفق اللفظ ہیں کہ مدعیان نبوت کے کفر سے اختلاف رکھنے والا بھی دائرہ ملت سے خارج ہے۔ کیونکہ وہ مدعیان نبوت کے کفر اور تکذیب علی اللہ پر خوش ہے۔

(نیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض ج ۳ ص ۵۷۵)

محمودی غلط اندیشی

مرزا محمود نے جلسہ لندن میں جو کابل میں نعمت اللہ مرزائی مرتد کے رجم کے خلاف مرزا محمود کی کوششوں سے منعقد ہوا، بیان کیا کہ: ”حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں جو لوگ مرتد ہوئے ان کو کسی نے قتل نہ کیا تھا۔ صرف اس وقت تک ان سے جنگ کی گئی جب تک انہوں نے حکومت

سے بغاوت جاری رکھی۔“
 مگر یہ بیان سراسر جہالت و کوری اور ابلہ فریبی ہے۔ حارث کذاب نے حکومت کے خلاف بغاوت میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ہاں جو اس کے خلیفہ وقت نے اس کو محض و عوائے نبوت کے جرم میں اپنے سامنے قتل کرا کے اس دینی فتنہ کا سدباب کر دیا۔

۵..... مغیرہ بن سعید عجمی

مغیرہ بن سعید عجمی پہلے امامت کا اور پھر نبوت کا مدعی ہوا۔ کہا کرتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ اور لشکروں کو منہزم کر سکتا ہوں۔ جب خالد بن عبداللہ قسری کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے حاکم عراق تھا مغیرہ کے عوائے نبوت کا علم ہوا تو ۱۱۹ھ میں اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اس کے چھ مرید بھی پکڑے آئے۔ خالد نے مغیرہ سے دریافت کیا کہ کیا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر اس کے مریدوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس کو نبی یقین کرتے ہو۔ انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا۔
 زندہ نذر آتش

خالد نے مغیرہ کو عوائے نبوت کی وہ بڑی سے بڑی سزا دی جو اس کے قتلہ و داغ میں سزا سکی۔ اس کے لئے سرکنڈوں کے گٹھے اور نفظ منگوا یا۔ خالد نے مغیرہ کو حکم دیا کہ ایک گٹھے کو اٹھالے۔ مغیرہ اس سے رکا اور ہچکچایا۔ خالد نے حکم دیا کہ اس کو مارو۔ معامار پٹنے لگی۔ مغیرہ نے گھبرا کر ایک گٹھا اٹھا لیا۔ اب اس کو اس گٹھے سے ہاتھ دیا گیا۔ اب اس پر اور گٹھے پر رون نفظ ڈال کر اس کو آگ دکھادی گئی اور مغیرہ تھوڑی دیر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔

(الفرق بین الفرق مطبوعہ مصر ص ۲۳۳)

مرزائیوں کے لئے سامان عبرت

معلوم نہیں اس کے مریدوں کو بھی یہی وحشیانہ سزا دی گئی یا کسی اور طریقہ سے ان کی جان لی گئی۔ مرزائیوں نے بھی ایک ایسے شخص کو جس کا کریکٹر عام ہزاری لوگوں سے بھی بہتر نہ تھا خدا کا نبی تجویز کر رکھا ہے۔ انہیں ان واقعات سے عبرت پزیر ہونا چاہئے۔ مغیرہ نے حکومت کے خلاف باغیانہ خیالات کو ہرگز دل میں جگہ نہیں دی تھی۔ لیکن اس کے ہاں جو اسے نظر انداز نہ کیا گیا۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کے قتلِ عاطفت کی بجائے کسی اسلامی عملداری میں ہوتا تو اس کا اور اس کو نبی ماننے والوں کا بھی یہی حشر ہوتا جو حارث کذاب اور مغیرہ کا ہوا۔

۶..... بیان بن سمعان تمیمی

بیان بن سمعان تمیمی، مغیرہ بن سعید علی کا معاصر تھا۔ دونوں ایک ہی قبیلے کے چنے پنے تھے۔ فرقہ بھائیہ جو غلامی اور انفس کی ایک شاخ ہے اسی بیان کا پیرو ہے۔ نبوت کا مدعی تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کے ذریعہ زہرہ کو بلا لیتا ہوں اور لشکروں کو منہزم کر سکتا ہوں۔ ہزاروں انسان نما ذمہ و مورخوں کے عقائدی کے سنہری چال میں پھنس کر اس کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ اس نے امام محمد باقرؑ جلیل القدر اہل سنتی کو بھی اپنی نبوت کی دعوت دی تھی اور اپنے خط میں جو عمر بن حفص کے ہاتھ امام ممدوح کو بھیجا، لکھا تھا کہ میری نبوت پر ایمان لاؤ تو سلامت رہو گے اور ترقی کرو گے۔ تم نہیں جانتے کہ خدا کس کو نبوت پر سرفراز فرماتا ہے۔

بیان کو اس کے اس دعوے کی وجہ سے بیان کہتے تھے کہ مجھے قرآن کا صحیح ”بیان“ سمجھایا گیا ہے اور آیات قرآنی کا وہ مطلب و مفہوم نہیں جو عوام سمجھتے ہیں۔ عوام سے اس کی مراد علمائے اسلام تھے۔ اس قسم کا دعویٰ کچھ بیان پر موقوف نہیں تھا۔ بلکہ ہر جھوٹا مدعی خود مصیب و حق پرست بننا اور حالمین شریعت کو خطا کا رتا بتایا کرتا ہے۔

اوپر لکھا گیا کہ خالد بن عبداللہ قسری عامل کوفہ نے مغیرہ علی کو نذر آتش کر دیا تھا۔ بیان بھی اسی وقت گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا تھا۔ جب مغیرہ جل کر خاک سیاہ ہو گیا تو خالد نے بیان کو بھی حکم دیا کہ سر کندوں کا ایک گٹھا تھام لے۔ چونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ مغیرہ کو گٹھانہ اٹھانے پر مار پڑی تھی۔ فوراً لپک کر ایک گٹھا بغل میں لے لیا۔ خالد نے کہا تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اپنے اسم اعظم کے ساتھ لشکروں کو ہزیمت دیتے ہو۔ اب یہ کام کرو کہ مجھے اور میرے عملہ کو جو تیرے در پنے قتل ہیں ہزیمت دے کر اپنے آپ کو بچالو۔ مگر جھوٹا تھا۔ لب کشائی نہ کر سکا۔ آخر مغیرہ کی طرح اس کو بھی جلا کر بے نشان کر دیا گیا۔ (تاریخ طبری ج ۸ ص ۴۴۱، کتاب الفرق ص ۲۲۸)

۷..... ابو منصور عجمی

ابتداء میں حضرت امام جعفر صادقؑ کا معتقد اور اہل غلو میں سے تھا۔ جب امام ہمام نے اسے مارا تو عتقاد کی بناء پر اپنے ہاں سے خارج کر دیا تو اس نے دعوائے امامت کی ٹھان لی۔ چنانچہ اخراج کے چند روز بعد یہ کہنا شروع کیا کہ میں امام محمد باقر کا خلیفہ و جانشین ہوں۔ ان کا درجہ امامت میری طرف منتقل ہو گیا ہے۔ یہ دعویٰ اپنے تئیں خالق بچوں کا ہم شکل بتاتا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ امام محمد باقر کی رحلت کے بعد آسمان پر بلایا گیا اور معبود برحق نے میرے سر پر ہاتھ بھیر کر فرمایا

کہ بیٹا لوگوں کے پاس میرا پیغام پہنچا دے۔

ابومنصور اس امر کا بھی قائل تھا کہ نبوت حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی ذات گرامی پر ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ رسول اور نبی قیامت تک مبعوث ہوتے رہیں گے۔ ابومنصور کی یہ بھی تعلیم تھی کہ جو کوئی امام تک پہنچ جاتا ہے اس سے تمام تکلیفات شرعیہ اٹھ جاتے ہیں اور اس کے لئے شریعت کی پابندی لازم نہیں رہتی۔ اس کا بیان تھا کہ جبرائیل امین نے پیغام رسانی میں خطا کی۔ بھیجا تو انہیں حضرت علیؑ کے پاس تھا لیکن وہ غلطی سے محمد مصطفیٰ ﷺ کو پیغام الہی پہنچا گئے۔ (غنیۃ الطالبین) اس فرقے کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

جبریل کہ آمد زہر خالق بے چوں در پیش محمد شد و مقصود علی بود
کہا کرتا تھا کہ قیامت اور جنت و دوزخ کچھ بھی نہیں۔ یہ محض ملاؤں کے ڈھکوسلے
ہیں۔ جب یوسف بن عمر ثقفی کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا والی تھا ابومنصور
کی تعلیمات کفریہ کا علم ہوا اور دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہزار ہا بندگان خدا تباہ ہو رہے ہیں تو اس کو
مقرر کر کے کوفہ میں سولی چڑھا دیا۔ (الفرق بین الفرق، الملل والنحل شہرستانی)

۸..... بہا فرید نیشاپوری

ابو مسلم خراسانی کے عہد دولت میں جو خلافت اہل عباس کا بانی تھا، بہا فرید نام ایک
فہم سیراوند نامی ایک قصبہ میں جو ضلع نیشاپور میں تھے ظاہر ہوا، نبوت و وحی کا مدعی تھا۔ دعوائے
نبوت کے تھوڑی مدت بعد چین گیا اور وہاں سات سال تک مقیم رہا۔ مراجعت کے وقت دوسرے
چینی مخالف کے علاوہ ہزرگ کی ایک نہایت باریک قیص بھی ساتھ لایا۔ اس قیص کا کپڑا اس قدر
باریک تھا کہ قیص آدی کی مٹھی میں آ جاتی تھی۔ چونکہ اس زمانہ تک لوگ زیادہ باریک کپڑوں سے
ردشاس نہ ہوئے تھے۔ بہا فرید نے اس قیص سے معجزہ کا کام لینا چاہا۔

چین سے واپس آ کر رات کو وطن پہنچا۔ کسی سے ملاقات کئے بغیر رات کی تاریکی میں
سیدھا مجوس کے مندر کا رخ کیا اور مندر پر چڑھ کر بیٹھ رہا۔ جب صبح کے وقت پجاریوں کی
آمد و رفت شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے نیچے اترا شروع کیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیرت
زدہ ہوئے کہ سات سال تک غائب رہنے کے بعد اب یہ بلندی کی طرف سے کیوں گھر آ رہا ہے۔

لوگوں کو متوجہ دیکھ کر کہنے لگا حیرت کی کوئی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم
نے مجھے آسمان پر بلایا تھا۔ میں برابر سات سال تک آسمانوں کی سیر و سیاحت میں مصروف رہا۔

وہاں مجھے جنت کی خوب سیر کرائی۔ میں نے دوزخ کا بھی معائنہ کیا۔ آخر رب کردگار نے مجھے شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ قیص پہنا کر زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں ابھی آسمانوں سے نازل ہو رہا ہوں۔

اس وقت مندر کے پاس ہی ایک کسان مل چلا رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے خود اسے آسمان کی طرف سے اترتے دیکھا ہے۔ پھاریوں نے بھی اس کے اترنے کی شہادت دی۔ بہا فرید کہنے لگا کہ خلعت جو مجھے آسمانوں سے نازل ہوا، زیب تن ہے۔ غور سے دیکھو کہ کہیں دنیا میں بھی ایسا ہار یک اور نفیس کچرا تیار ہو سکتا ہے؟ لوگ اس قیص کو دیکھ کر محو حیرت تھے۔ الغرض آسمانی نزول اور عالم بالا کے معجزہ مخلص پر یقین کر کے ہزار ہا لوگ اس کے پیرو ہو گئے۔ اس کے دین کے احکام بڑے معکمہ خیز تھے۔

بہا فرید کا قتل

بہا فرید مدت تک اغوائے خلق میں بلا مزاحمت مصروف رہا۔ آخر جب ابو مسلم خراسانی نیشاپور آیا تو مسلمانوں اور مجوسیوں کا ایک مشترک وفد اس کے پاس پہنچا اور شکایت کہ کہ بہا فرید نے دین اسلام اور دین مجوس میں رخنہ اندازیاں کر رکھی ہیں۔ ابو مسلم نے عبداللہ بن شعبہ کو اس کے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بہا فرید کو اطلاع مل گئی کہ اس کی گرفتاری کا حکم ہوا ہے۔ فوراً نیشاپور سے راہ فرار اختیار کی۔ عبداللہ بن شعبہ نے تعاقب کر کے اسے کوہ بادغیس پر جا لیا اور گرفتار کر کے ابو مسلم کے سامنے لا حاضر کیا۔ ابو مسلم نے دیکھتے ہی اس پر خنجر خونخوار کا وار کیا اور سر قلم کر کے اس کی نبوت کا خاتمہ کر دیا۔

ابو مسلم نے حکم دیا کہ اس کے گم کردگان راہ پیرو بھی گرفتار کر لئے جائیں۔ وہ بہا فرید کی گرفتاری سے پہلے ہی وفد کے جانے کی خبر سن کر بھاگ چلے تھے۔ اس لئے بہت تھوڑے افراد ابو مسلم کی فوج کے ہاتھ آئے۔ اس کے پیرو بہا فریدی کہلاتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بہا فرید ایک خشکیں گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گیا تھا اور کسی مستقبل زمانہ میں آسمان سے نازل ہو کر اپنے اعداء سے انتقام لے گا۔ (آثار الہامیہ، القرون الثانیہ، بیروتی)

۹..... اطلق اخرس مغربی

اطلق ملک مغرب کا رہنے والا تھا۔ اہل عرب کی اصطلاح میں مغرب شمالی افریقہ کے اس حصہ کا نام ہے جو مراکش، تیونس، الجزائر وغیرہ ممالک پر مشتمل ہے۔ اطلق ۱۳۵ھ میں اصفہان

میں ظاہر ہوا۔ ان ایام میں ممالک اسلامیہ پر خلیفہ سفاح عباسی حکمران تھا۔ اہل سیر نے اس کی دکان آرائی کی جو کیفیت لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس نے صحف آسمانی، قرآن، تورات، انجیل اور زیور کی تعلیم حاصل کی۔ پھر مجمع علوم رسمہ کی تکمیل کے بعد زہانہ و راز تک مختلف زبانیں سیکھتا رہا۔ مختلف قسم کی صنایعوں اور شعبہ ہازیوں میں مہارت پیدا کی اور ہر طرح سے ہاکمال اور ہالغ اہنگر ہو کر اصفہان آیا۔

دس سال تک گونگا بنا رہا

اصفہان پہنچ کر ایک عربی مدرسہ میں قیام کیا اور دس سال تک کی مدت ایک تنگ و تاریک کونٹری میں گزار دی۔ یہاں اس نے اپنی زبان پر ایسی مہر سکوت لگائے رکھی کہ ہر شخص اسے گونگا یقین کرتا رہا۔ اس مدت میں کسی کو کبھی وہم و گمان بھی نہ ہوا کہ یہ شخص بھی فوت گو یابی سے بہرور ہے یا یہ شخص علامتہ دہر اور یکتائے روزگار ہے۔ اسی بنا پر یہ آخر میں یعنی گونگے کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ دس سال تک ہمیشہ اشاروں و کتابوں سے اظہار مدعا کرتا رہا۔ ہر شخص سے اس کا رابطہ مودت قائم تھا۔ کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہ ہوگا جو اس کے ساتھ اشاروں، کتابوں سے تھوڑا بہت مذاق کر کے تفریح و طبع نہ کر لیتا ہو۔

اتنی صبر آزما مدت گزار لینے کے بعد آخروہ وقت آ گیا جبکہ وہ اپنی مہر سکوت توڑنے اور کشور قلب پر اپنی قابلیت اور لطف و گویائی کا سکہ بٹھائے۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ ایک نہایت ظہیر قسم کا روغن تیار کیا۔ اس روغن میں یہ صفت تھی کہ اگر کوئی شخص اسے چہرے پر مل لے تو اس وجہ حسن و جلی بے ہوا ہو کہ شدت انوار سے اس کے نورانی طلعت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا مشکل ہو۔ اسی طرح اس نے خاص قسم کی دور نگار شخص بھی تیار کر لیں۔ اس کے بعد ایک رات جب کہ تمام لوگ بخواب تھے اس نے وہ روغن اپنے چہرے پر ملا اور شخص جلا کر سامنے دکھادیں۔ ان کی روشنی میں ایسی چمک دک اور ستائی و طرعی بے ہوا ہوتی کہ کہیں غمخیز ہوتی تھیں۔ اب اس نے اس زور سے چیخا شروع کیا کہ مدرسہ کے تمام بچے جاگ اٹھے۔ اب وہ نماز پڑھنے لگا اور ایسی خوش الحانی اور حمدیہ کے ساتھ قرآن پڑھنے لگا کہ بے بے کاری بھی شش کر اٹھے۔

جب مدرسہ کے مصلحین اور طلبہ نے دیکھا کہ گونگایا واذ بے قرأت کر رہا ہے اور قوت گویائی کے ساتھ اسے اعلیٰ وجہ کی فصاحت اور فن حمدیہ کا کمال بھی بٹھا گیا ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ اس کا چہرہ ایسا درخشاں ہے کہ گونگے نہیں ٹھہر سکتی تو لوگ سخت حیرت زدہ ہوئے۔ اس کا ہر طرف چہرے ہونے لگا اور شہر میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ رات کی تاریکی میں جوق دو جوق آ رہے تھے۔ خوش

اعتقادوں نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ دن نکلنے پر شہر کے قاضی صاحب چند رو سائے شہر کو ساتھ لے کر اس بزرگ ہستی کا جمال مبارک دیکھنے کے لئے مدرسہ میں آئے۔ قاضی صاحب نے نہایت نیاز مندانہ لہجہ میں التماس کی کہ حضور والا اسرار شہر اس قدرت خداوندی پر متحیر ہے۔ اگر حقیقت حال کا چہرہ بے نقاب فرمایا جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔

اسلئے جو اس وقت کا پہلے سے شہر تھا نہایت ریاکارانہ لہجہ میں بولا کہ آج سے کوئی چالیس دن پہلے فیضان الہی کے کچھ آثار نظر آنے لگے تھے۔ دن بدن القائے ربانی سرچشمہ میرے ہاتھن میں موجزن ہوا۔ حتیٰ کہ آج رات خدائے قدوس نے اپنے فعل مخصوص سے اس عاجز پر علم و عمل کی وہ وہ راہیں کھول دیں کہ مجھ سے پہلے لاکھوں رہروان منزل اس کے تصور سے بھی محروم رہے تھے اور وہ اسرار و حقائق منکشف فرمائے کہ جن کا زبان پر لانا مذہب طریقت میں ممنوع ہے۔

البتہ مختصراً اتنا کہنے کا مجاز ہوں کہ آج رات دو فرشتے حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس آئے۔ مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور پھر کہنے لگے ”السلام علیک یا نبی اللہ“ میں یہ سن کر گھبرایا کہ واللہ اعلم ایہ کیا ابتلاء ہے۔ ایک فرشتہ بزبان فصیح یوں گویا ہوا: ”یا نبی اللہ افتتح فاک باسم اللہ الازلی“ (اے اللہ کے نبی۔ بسم اللہ پڑھ کر ڈرامنہ تو کھولنے) میں نے منہ کھول دیا اور دل میں بسم اللہ الازلی کا ورد کرتا رہا۔ فرشتے نے ایک سفیدی چیز میرے منہ میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ البتہ اتنا جانتا ہوں کہ شہد سے زیادہ شیریں، کستوری سے زیادہ خوشبودار، برف سے زیادہ ٹھنڈی تھی۔ اس نعمت خداوندی کا اسلئے سے نیچے اترتا تھا کہ میری زبان گویا ہو گئی اور میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔

یہ سن کر فرشتوں نے کہا محمد (ﷺ) کی طرح تم بھی رسول اللہ ہو۔ میں نے کہا میرے دوستو! تم یہ کیسی بات کہہ رہے ہو۔ مجھے اس سے سخت حیرت ہے۔ بلکہ میں تو عرق انفعال میں ڈوبا جاتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے خدائے قدوس نے تمہیں اس قوم کے لئے نبی مبعوث فرمایا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاری تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ (ﷺ) کو خاتم الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔ اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ کہنے لگے درست ہے۔ مگر محمد (ﷺ) کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری بالبعث اور ظلی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا نیوں نے انقطاع نبوت کے بعد ظلی بروزی نبوت کا ڈھکوسلہ اسی اسحاق سے اڑایا ہے۔ ورنہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالحین میں اس معطلہ غیر نبوت کا کہیں وجود نہیں۔

اسحاق کے معجزات باہرہ

اس کے بعد اسحق نے حاضرین سے بیان کیا کہ جب ملائکہ نے مجھے ظلی نبوت کا منصب تفویض فرمایا تو میں نے اس سے معذرت کی اور کہا دوستو! میرے لئے تو نبوت کا دعویٰ بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ کیونکہ بوجہ معجزہ نہ رکھنے کے کوئی شخص میری تصدیق نہ کرے گا۔ فرشتے کہنے لگے تمہارے معجزے یہ ہیں۔ جتنی آسمانی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں تمہیں ان سب کا علم دیا گیا۔ حرید براں کئی زبانیں اور متعدد رسم الخط تمہیں عطا کئے۔ اس کے بعد فرشتے کہنے لگے کہ قرآن پڑھو۔ میں نے قرآن اس ترتیب سے پڑھ کر سنا دیا۔ جس ترتیب سے نازل ہوا تھا۔ پھر انجیل پڑھائی وہ بھی سنادی۔ تورات، زبور اور دوسرے آسمانی صحیفے پڑھنے کو کہا تو وہ بھی سنادیے۔ ملائکہ نے صحف آسمانی کی قرأت سن کر فرمایا: ”قم فانسذر الناس“ (اب کمرہمت ہامدہ لو اور غضب الہی سے ڈراؤ) یہ کہہ کر فرشتے رخصت ہو گئے اور میں جھٹ نماز اور ذکر الہی میں مصروف ہو گیا۔

زود اعتقادوں کی ہلاکت آفریں خوش اعتقادی

عوام کی عادت ہے کہ جو نبی نفس امارہ کے کسی بیماری نے اپنے دجالی تقدس کی ذیلی بجانی شروع کی اس پر لوگ پروانہ دار مگرنے لگے۔ اسحق کی تقریریں کر عوام کا پائے ایمان ڈگمگا گیا اور سینکڑوں ہزاروں حرماں نصیب نقد ایمان اس کی نظر کو بیٹھے اور جن ہدایت یافتہ لوگوں کا دل نور ایمان سے روشن تھا وہ بیزار ہو کر چلے گئے۔ حاملین شریعت نے گم کردگان راہ کو بہتیرا سمجھایا کہ افسوس دجال کذاب اور ہزن دین دایمان ہے۔ لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں کچھ فرق نہ آیا۔ بلکہ جوں جوں علمائے امت انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش فرماتے تھے تو ان کا جنون خوش اعتقادی اور زیادہ ترقی کرتا تھا۔

عسا کر خلافت سے معرکہ آرائیاں

تھوڑی مدت میں اسحق کی قوت اور جمعیت یہاں تک ترقی کر گئی کہ اس کے دل میں ملک گیری کی حوس پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے عمال کو مقہور و مغلوب کر کے بصرہ، عمان اور ان کے توابع پر قبضہ کر لیا۔ یہ معلوم کر کے خلیفہ منصور نے لشکر کشی کا حکم دیا۔ عسا کر خلافت یلغار کرتی ہوئی پہنچیں اور رزم و پیکاری کا سلسلہ شروع کیا۔ بڑے بڑے معرکے ہوئے۔ آخر سپاہ خلافت مظفر و منصور ہوئی اور اسحق مارا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پیرواب تک عمان

میں پائے جاتے ہیں۔

(کتاب الاذکیاء لابن جوزی و کتاب الخوار و کشف الاسرار للعلامة عبدالرحمن بن ابوبکر المدمشی المعروف بالجویری)

۱۰..... استاد سیس خراسانی

جن ایام میں اسلامی سیاسیات کی ہاگ ڈور خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے ہاتھ میں تھی استاد سیس نامی ایک مدعی نبوت اطراف خراسان میں ظاہر ہوا۔ دعویٰ نبوت کے بعد عامۃ الناس اس کفر سے اس کے دام تزویر میں پھنسے کہ چند ہی سال میں اس کے پیروؤں کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ گئی۔ اتنی بڑی جمعیت دیکھ کر اس کے دل میں استعمار اور ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی اور وہ خراسان کے اکثر علاقے دبا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر مرد روز کے عامل اہم نے ایک لشکر مرتب کیا اور استاد سیس سے جا بھڑا۔ مگر اس کی قوت بہت بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے اہم کے لشکر کا بیشتر حصہ بالکل غارت کر دیا اور خود اہم بھی میدان جالستان کی نذر ہو گیا۔

اہم کے مارے جانے کے بعد خلیفہ نے اور بھی سپہ سالار فوجیں دے کر روانہ کئے۔ مگر یا تو وہ مارے گئے یا سرکوب ہو کر واپس آئے۔ جب استاد سیس نے خلیفہ کے آخری سپہ سالار کو پسا کیا ہے تو اس وقت خلیفہ منصور بردان کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ عسا کر خلافت کی پیہم ہزیموں اور پامالیوں پر خلیفہ سخت پریشان ہوا۔ آخر خازم بن خزیمہ نامی ایک نہایت جنگ آزمودہ فوجی سردار کو اس غرض سے ولی عہد سلطنت مہدی کے پاس نیشاپور بھیجا کہ اس کی صوابدید کے بموجب استاد سیس کے مقابلہ پر جائے۔ مہدی نے اسے تمام فسیب و فزاز سمجھا کر چالیس ہزار کی جمعیت سے روانہ کیا۔ خازم کی اعانت کے لئے اور بھی آزمودہ کارا فر روانہ کئے گئے۔ بکار بن مسلم عقلی ایک اور مشہور سپہ سالار بھی خازم کے ماتحت روانہ کیا گیا۔

آخر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کئی دن تک قتل و خونریزی کا ہانڈا گرم رہا۔ عسا کر خلافت نے طاغوتیوں کو مار مار کر ان کے پرستے اڑادیئے اور اتنی تلوار چلائی کہ میدان جنگ میں ہر طرف مردین کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ ان محاربات میں سیس کے قریباً سترہ ہزار آدمی کام آئے اور چودہ ہزار قید کر لئے گئے۔ سیس بقیہ السیف میں ہزار فوج کو پہاڑ کی طرف لے بھاگا اور وہاں اس طرح جا چھپا جس طرح خرگوش شکاریوں کے خوف سے کھیتوں میں جا چھپتا ہے۔ خازم نے جا کر پہاڑ کا محاصرہ کر لیا۔ اتنے میں شاہزادہ مہدی نے ابو عون کی قیادت میں بہت سی کمک بھیج دی۔ ابو عون اپنی فوج لے کر اس وقت پہنچا جب استاد سیس محصور ہو چکا تھا۔

سیس کا قتل

سیس نے محاصرہ کی شدت سے تنگ آ کر ہتھیار ڈال دیئے اور اپنے تئیں بلا شرط خازم کے سپرد کر دیا۔ استاد سیس اپنے بیٹوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ سیس تو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ معلوم نہیں اس کے بیٹوں کا کیا حشر ہوا۔ خازم نے فی الفور مہدی کے پاس مشرودہ فتح لکھ بھیجا۔ جو ٹہکی یہ بہت افزاء خیر مہدی کے پاس پہنچی اس نے اپنے باپ خلیفہ منصور کے پاس فتح و نصرت کا تہنیت نامہ لکھا۔ یاد رہے کہ یہی مہدی خلیفہ ہارون رشید کا باپ تھا۔ جو منصور کی رحلت پر خلیفۃ المسلمین ہوا۔ کہتے ہیں کہ استاد سیس خلیفہ مامون کا نانا یعنی مراحل مادر مامون کا باپ تھا اور اس کا بیٹا غالب جس نے فضل بن اہل بدمکی کو قتل کیا تھا خلیفہ مامون (بن ہارون رشید) کا مامون تھا۔

(تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن جریر طبری، تاریخ کامل ابن اثیر)

۱۱..... حکیم مقنع خراسانی

حکیم مقنع کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثر مؤرخین نے عطاء لکھا ہے اور بعض نے ہشام یا ہاشم بتایا ہے۔ حکیم کے لقب سے مشہور تھا۔ مرد کے پاس ایک گاؤں میں جس کو "کازہ کیمن وات" کہتے تھے، ایک فریب دھوئی کے گھر پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے وقت کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک دن یہی فریب دھوئی کا لڑکا تاریخ عالم کے صفحات پر شہرت دوام کا خلعت حاصل کرے گا۔ نہایت طہار و ذہین تھا۔ اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر علم و فضل کی طرف متوجہ ہوا۔

مقنع نے اپنی تمام بے سرو سامانیوں کے باوجود علوم نظریہ میں وہ درجہ حاصل کیا کہ نواح خراسان میں کوئی شخص اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ خصوصاً علم بلاغت، حکمت و فلسفہ، شجہہ و تہلیل، طلسمات و سحر اور غیر نجات میں سرآمد روزگار تھا۔ اس نے اپنی جودت طبع سے عجیب و غریب ایجادیں اور صنائع و بدائع کے ذریعہ سے بہت جلد آسمان شہرت پر چکنے لگا۔ لیکن اس کی خلقت میں ایک ایسا عجیب تھا جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں گونہ فرق پڑتا تھا۔ وہ یہ کہ نہایت کریمہ النظر، پست قامت، حقیر اور کم رونق شخص تھا اور اس پر طرہ یہ کہ واحد العین تھا۔ یعنی اس کی ایک آنکھ کافی تھی۔ جسے دیکھ کر لوگوں میں اس کی طرف سے وحشت و فرت پیدا ہوتی تھی۔

مقنع اس عجیب کے چھپانے کے لئے ایک چمکدار مصنوعی چہرہ اپنے منہ پر چڑھائے رکھتا تھا اور بغیر اس نقاب کے کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاتا تھا۔ اس تدبیر سے اس نے لوگوں کی فرت کو گرویدگی سے بدل دیا اور اسی نقاب کی وجہ سے لوگوں میں مقنع (نقاب پوش) مشہور ہو گیا۔ چہرہ

چھپائے رکھنے کی اصلی بناء تو یہ تھی۔ لیکن جب کوئی شخص اس سے نقاب پوشی کی وجہ دریافت کرتا تو کہہ دیتا کہ میں نے اپنی شکل و صورت اس لئے تبدیل کر رکھی ہے کہ لوگ میری رویت ضیاء پاش کی تاب نہیں لاسکتے اور اگر میں اپنا چہرہ کھول دوں تو میرا نور و نیا دافینا کو جلا کر خاکستر کر دے۔

دعویٰ خدائی

چونکہ دینی تعلیم سے بالکل بے بہرہ تھا اور علوم نظری میں کمال حاصل تھا۔ اس لئے اس کے ہفتوں کی بنیادیں فلسفیوں کے خیالات پر مبنی تھیں۔ اس کا بدترین مذہبی اصول مسئلہ تاسخ تھا۔ جس کی بناء پر الوہیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ میرے پیکر میں ظاہر ہوا ہے۔ لیکن متعین نے خدائی مسند صرف اپنے لئے خالی نہ رکھی۔ بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کو مظہر خداوندی قرار دیا اور کہا کہ خدائے قدوس سب سے پہلے آدم علیہم السلام کی صورت میں جلوہ گر ہوا اور یہی وجہ تھی کہ ملائکہ کو ان کے سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ درندہ کیونکر جائز اور ممکن تھا کہ ملائکہ فرشتہ کے سجدے کے مامور ہوتے اور انہیں انکار کی وجہ سے مستوجب عذاب اور مردود ابدی ہو جاتا۔

لیکن یہ زعم بالکل باطل ہے۔ کیونکہ بناء پر تحقیق آدم علیہ السلام فی الحقیقت مسجود نہیں تھے بلکہ محض جہت سجدہ تھے۔ متعین کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد حق تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے جسد میں طول کیا۔ پھر یکے بعد دیگرے ذات خداوندی تمام انبیاء کی صورتوں میں ظاہر ہوتی رہی۔ انجام کار خدائے برتر صاحب الدولۃ ابو مسلم خراسانی کی صورت میں جلوہ گر ہوا اور اب رب العزت اسی شان سے میرے پیکر میں جلوہ فرمایا ہے۔ میں اس زمانہ کا ادتار ہوں۔ اس لئے ہر فرد بشر پر لازم ہے کہ مجھے سجدہ کرے اور میری پرستش کیا کرے۔ تاکہ فلاح ابدی کا مستحق ہو۔ ہزار ہا ظلمات پسند حراماں نصیب اس کے دعوائے الوہیت کو صحیح جان کر اس کے سامنے سر بسجود ہونے لگے۔ یہ شخص ابو مسلم خراسانی کو جسے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے اس کی فدا رپوں کی بناء پر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ حضرت سید الاولین و الاخرین علیہ السلام سے (معاذ اللہ) افضل بتاتا تھا۔

یہ تو اس کی زندقہ نوازی کا حال تھا۔ اب اس کی تعلیمات کا اخلاقی پہلو ملاحظہ ہو۔ اس نے تمام محرمات کو منہاج کر دیا۔ اس کے پیرو بے تکلف پرانی عورتوں سے ناجائز تہنوع حاصل کرتے تھے۔ اس کے مذہب میں مردار اور خنزیر حلال تھا۔ متعین نے انجام کار صوم و صلوات اور تمام دوسری عبادتیں بے طرف کر دیں۔ اس کے پیرو مسجدیں بنواتے اور ان میں مؤذن کو کرکھتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص وہاں نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن یہاں تک جان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا پردہ سنی مسلمان ان کی مسجد میں چلا جائے تو مسجد کا مؤذن اور متعین کے دوسرے سیاہ دل پیرو موقع ملنے پر

اس کے خون سے ہاتھ رنگین کر کے اس کی نعش کو مستور کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ مسلم حکمرانوں کی طرف سے ان پر بڑی بڑی سختیاں ہوئیں۔ اس لئے اب وہ ایسا کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔
 متقع کا ہوس استعمار اور قلعوں کی تعمیر

جب متقع کا حلقہ مریدین بہت وسیع ہو گیا تو اس نے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی تدبیریں شروع کیں۔ چنانچہ اس غرض کے لئے اس نے دو زبردست قلعے تعمیر کرائے۔ ایک کو ویشی کہتے تھے اور دوسرے کا نام سیام تھا۔ قلعہ سیام پہاڑ میں واقع تھا اور مضبوطی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس کی فیصل کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ سو سے زیادہ بڑی ایشیوں جو اس زمانہ میں قلعوں کی تعمیر کے لئے تیار کی جاتی تھیں دیواروں کی عرض میں لگی تھیں۔ اس کے علاوہ قلعہ کے ارد گرد ایک نہایت عریض خندق تھی اور قلعہ کی قوت مدافعت کا یہ عالم تھا کہ اس میں کئی سال کا سامان رسد اور اسلحہ جنگ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہر وقت مہیا رہتا تھا۔ متقع نے اور بھی چھوٹے چھوٹے قلعے تعمیر کرائے۔

تعمیر قلعہ جات کے بعد متقع نے ان میں مضبوطی سے قدم جمائے اور نہایت بیباکی سے خراسان کے مختلف علاقوں میں اہل ایمان کے خلاف دھاوا چڑھی چاوی۔ ان ایام میں بخارا اور صغد میں باغیوں اور دوسرے شوریدہ سردوں کی ایک جماعت پیدا ہو چکی تھی۔ جن کو بیضہ کہتے تھے۔ گوان لوگوں کو متقع کی خانہ ساز خدائی سے تو کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن اپنے سیاسی مصالح کے پیش نظر متقع کے ساتھ ہو گئے تھے۔ علاوہ ترکوں سے بھی متقع کو بڑی تقویت پہنچی جو ہنوزہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ اسلام کے بدترین دشمن تھے اور اکثر اوقات سرحدی علاقوں میں تخت و تاج کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب متقع اور اس کی اتحادی جماعتوں کا یہ معمول ہو گیا کہ جہاں موقع پایا مسلمانوں پر حملہ کر کے قتل و غارت کا میدان گرم کیا اور فرو چکر ہو گئے۔

یہ حالات دیکھ کر خلیفہ مہدی عباس نے ابوالحسن جنید اور لیث بن لہر کو فوج دے کر ہمدان متقع کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ لیکن اسلامی لشکر کو ہزیمت ہوئی۔ لیث کا بھائی بن لہر اور اس کا برادر زاد حسان اس معرکہ میں کام آئے۔ جب خلیفہ مہدی کو اس ہزیمت و ناکامی کا علم ہوا تو اس نے ان کی کمک پر ہوشیار سپہ سالار جبریل بن یحییٰ کو روانہ کیا اور باغیان بخارا و صغد کے مقابلہ میں اس کے بھائی یزید بن یحییٰ کو مامور فرمایا۔ چار مہینہ تک رزم و پیکار کا ہزار گرم رہا۔ بالآخر لشکر خلافت مظفر و منصور ہوا اور اس نے ہنوک شمشیر قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ متقع کے سات سو بیروہنگ شمشیر کا لقمہ بنے۔ ہزیمت خوردہ اشیاء میں سے جو زندہ بچے وہ بھاگ کر قلعہ سیام میں چلے گئے جہاں خود متقع موجود تھا۔

مگر جبریل نے بھی ان کی جان نہ چھوڑی۔ اعداء کا تعاقب کرتا اور بھگوڑوں کو مارتا
 کاٹا بجلی کی طرح قلعہ سیام پر جا کڑکا اور اس وقت تک ان کا چچا نہ چھوڑا جب تک وہ قلعہ میں نہ جا
 چھپے۔ اب ظیفہ نے ایک اور سہ سالار معاذ بن مسلم کو ستر ہزار فوج اور چند آدمیوں کو رفوی
 سرداروں کے ساتھ متعین کی سرکوبی کے لئے روانہ فرمایا۔ معاذ کے مقدمہ انگوش کا اصرار علی سعید
 بن عمرو حرمیشی تھا۔ اس کے بعد ایک اور مشہور سہ سالار عقبہ بن مسلم بھی ایک بڑی جمیعت کے ساتھ
 ہاتھ موعدین میں آ شامل ہوا۔ ان دونوں نے اتفاق راستے سے طواغیت کے مقام پر متعین کے لشکر
 پر حملہ کیا۔ متعین کی جمیعت پہلے ہی جھلے میں ٹوٹ گئی اور اس کے جنگ آور سخت بے ترتیبی سے
 ہماگ نکلے اور سیکڑوں کی طرح رہے۔ ہزیمت خوردہ فوج نے قلعہ سیام میں متعین کے پاس جا دم لیا۔
 یہ دیکھ کر متعین نے فوراً قلعہ ہندی کی اور تمام مورچوں کو مضبوط کیا۔ معاذ بن مسلم نے فی
 الفور محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد خود معاذ بن مسلم اور سعید بن عمرو حرمیشی میں کشیدگی ہو گئی۔
 سعید نے ظیفہ ہندی کے پاس معاذ کی شکایت لکھ بھیجی اور یہ بھی درخواست کی کہ اگر مجھے تمہارا متعین
 کے مقابلہ پر مامور فرمایا جائے تو میں اس کا فوراً قلع قمع کر سکتا ہوں۔ ظیفہ ہندی نے اس کی
 درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ سعید بن عمرو حرمیشی بلا مشاورت معاذ متعین کے مقابلہ پر مستعد ہوا۔
 لیکن معاذ نے پھر بھی بے نیسی سے کام لیا اور اسلامی عزت و ناموس کا لحاظ کر کے اپنے بیٹے کو سعید
 کی مدد پر بھیج دیا۔ کاش ہمارے مسلم رہنما معاذ کی مثال سے سبق آموز ہو کر اسلامی مفاد پر ذلت و
 کفر ہان کرنے کی عادت کر لیں۔

ملتان سے دس ہزار کھالوں کی روانگی

سعید حرمیشی صحت تک اس کوشش میں منہمک رہا کہ اسلامی لشکر کسی طرح شہر کو محصور کر
 کے نصیب قلعہ تک پہنچے۔ مگر کوئی تدبیر ساز کار نہ ہوئی۔ مساعی تعمیر کو شروع ہونے تک دس سال گذر
 گئے۔ لیکن یہاں ہوز روز اول تھا۔ اس صحت میں اسلامی لشکر کو بہت سا جانی اور مالی نقصان
 برداشت کرنا پڑا۔ کیونکہ موسمی غرابوں کے علاوہ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ متعین کے بیرو
 اسلامی لشکر پر جو کیلے میدان میں محاصرہ کئے پڑا تھا۔ ہر وقت قلعہ سے پھر چلا تے اور سنگ باری
 کرتے رہتے تھے۔ لیکن ہا اہم جد مشکلات سعید نے صحت نہ باری اور اپنی جدوجہد کو نہایت
 اولوالعزمی کے ساتھ جاری رکھا۔ اب اس نے لوہے اور گلوٹی کی بہت لمبی لمبی پیر صیاں بنوائیں
 تاکہ ان کو شہر کے دھلے سروں پر رکھ کر پار ہو جائیں۔ لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ کیونکہ شہر کی
 چوڑائی مسلمان انجینئروں کے اعزازہ سے زیادہ تھی۔

اب سعید نے خلیفہ مہدی کو لکھا کہ بہت جتن کئے۔ لیکن قلعہ تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ کسی طرح خندق کو پاٹ دیا جائے۔ ان ایام میں متحدہ ہندوستان میں سندھ اور پنجاب کا جنوبی حصہ خلافت بغداد کے زیر نگیں تھا۔ خلیفہ نے اپنے حال سندھ کو لکھا کہ گائے تیل اور بھینس کی جس قدر رکھالیں فراہم ہو سکیں جلد ان کے بھجوانے کا انتظام کیا جائے۔ شاید اس زمانہ میں یا اسلامی قلمرو میں بوریاں نہ ملتی ہوں گی۔ ورنہ ریت بھرنے کے لئے کھالوں سے زیادہ کارآمد تھیں۔ فرمان خلافت کے بموجب ملتان سے دس ہزار رکھالیں بھیج دی گئیں۔ سعید نے ان کھالوں میں ریت بھر دیا اور ان کو خندق میں ڈالوانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں خندق پٹ گئی اور محاصرین قلعہ کی دیواروں کے پاس پہنچ گئے۔

اب حصار شکن آلات سے کام لیا جانے لگا اور ساتھ ہی قلعہ پر حملے شروع کر دیئے گئے۔ متفق کے بیروں نے یہ حالت دیکھی تو عالم یاس میں گھبرا کر محلی طور پر سعید سے امان طلب کی۔ سعید نے امان دے دی۔ چنانچہ میں ہزار آدمی قلعہ سے باہر نکل آئے۔ اب متفق کے پاس صرف دو ہزار جنگ آور باقی رہ گئے۔

متفق کی خدائی کا خاتمہ

جب سعید نے محاصرے میں زیادہ سختی کی تو متفق نے اپنی ہلاکت کا یقین کر کے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور بقول بعض مورخین جام زہر پلا پلا کر سب کو نذر اجل کر دیا اور انجام کار خود بھی جام زہر پی لیا۔ مرتے وقت اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگا کہ بعد از مرگ مجھے آگ میں جلا دینا تاکہ میری لاش دشمن کے ہاتھ میں نہ جائے۔ لشکر اسلام نے قلعہ میں داخل ہو کر متفق کا سر کاٹ لیا اور خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر چوپائے اور مال و اسباب تھا پہلے اس کے جلانے کا حکم دیا پھر ساتھیوں سے کہا کہ جس کسی کو اس بات کی خواہش ہو کہ میرے ساتھ خلد بریں پہنچ جائے وہ میرے ساتھ اس آگ میں کود پڑے۔ سب خوش اعتقادوں نے حکم کی تعمیل کی اور آگ میں کود کر خاک سیاہ ہو گئے۔

جب اسلامی لشکر قلعہ میں داخل ہوا تو کسی انسان یا چار پائیہ کا نام و نشان نہ پایا۔ یہ ۱۶۳ھ کا واقعہ ہے۔ اس کے اکثر پیرو جو اکناف ملک میں زندہ رہ گئے اس کے فقدان سے اور زیادہ قہقہے میں پڑے اور یہ اعتقاد کر بیٹھے کہ متفق آسمان پر چلا گیا ہے۔ متفق کے وہ معتقد جو لڑائیوں میں اس سے علیحدہ ہو گئے تھے اس کے فقدان کی خبر سن کر بہت تاسف کرتے تھے کہ متفق جو فی الحقیقت خدا تھا انہوں نے ہم نے اخیر تک اس کا ساتھ نہ دیا۔ ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ آسمانوں پر چڑھ جاتے۔

مفتوح کی آتش فتنہ چودہ سال تک شعلہ زن رہ کر ۱۶۳ھ میں منطقی ہوئی۔

(ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، کتاب الفرق بین الفرق، تاریخ کامل اور بعض دیگر کتب)

۱۲..... بابک خرمی

بابک کا باپ جسے عبداللہ کہتے تھے مدائن کا ایک تیلی تھا۔ اس نے آذربائیجان کی سرحد پر ایک گاؤں میں جو بلال اباذ کے نام سے موسوم تھا سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہ عالم شباب میں اپنی پیٹھ پر تیل کا برتن رکھ کر رستاق کے دیہات میں تیل بیچا کرتا تھا۔ لیکن بابک کی پیدائش کے چند ہی روز بعد اس کا باپ کوہ سلمان کو گیا اور وہیں مارا گیا۔ بابک کی ماں دایہ گری کا کام کرنے لگی۔

آذربائیجان کے پہاڑوں میں ایک قصبہ بڈ کے نام سے مشہور تھا۔ اس سلسلہ کوہ میں دور رئیس برسر اقتدار تھے، جن میں ہانم رقابت تھی۔ ایک کو ابو عمران کہتے تھے اور دوسرے کا نام جاویدان تھا۔ کوہ بڈ کی ملکیت کے متعلق ان میں جھگڑے قصبے برپا رہتے تھے۔ دونوں کی یہی تہمت تھی کہ اس سر زمین کو اپنے حریف کے خار و جو سے پاک کر کے بلا شرکت غیرے ریاست کا مالک ہو جائے۔ ایام گرامش دونوں رئیس ہر سال متصادم دیرس پیکار رہتے۔ لیکن موسم سرما کے شروع میں جب برف پڑنے لگتی تو مجبوراً عہدہ جوئی سے دست بردار ہو جاتے۔

ایک سال جاویدان دو ہزار بکریوں کا ریوڑ لے کر بڈ سے شہر زنجان کی طرف روانہ ہوا جو قزوین کی سرحد پر ہے۔ وہاں بکریاں فروخت کر کے بڈ کی طرف مراجعت کی۔ راستے میں جب موضع بلال اباذ پہنچا تو شدید برف باری شروع ہو گئی۔ جس کے باعث انقطاع سفر ناگزیر تھا۔ جاویدان نے موضع بلال اباذ کے آدمی سے کہا کہ کوئی ایسا مکان بتاؤ جہاں میں چند روز قیام کر سکو۔ وہ شخص اسے بابک کی ماں کے پاس لے گیا۔ بابک اور اس کی ماں نے اس کی بڑی خاطر مدارات کی۔ جاویدان جتنے دن وہاں رہا، بابک نے اپنی خدمت گزاری سے اس کو بہت خوش کیا۔ جاتے وقت جاویدان بابک کی ماں سے کہنے لگا کہ اگر تم اپنا بیٹا میری ملازمت میں دے دو تو میں پچاس درہم ماہانہ تنخواہ دوں گا اور یہ رقم ہر مہینہ تمہارے پاس پہنچایا کرے گی۔ بابک کی ماں رضامند ہو گئی اور بابک جاویدان کے ساتھ کوہ بڈ میں چلا گیا۔

تھوڑے دنوں میں جاویدان اور ابو عمران میں پھر سلسلہ رزم و پیکار شروع ہوا۔ ابو عمران مارا گیا اور جاویدان نے اس کے تمام املاک پر قبضہ کر لیا۔ بابک ایک جوان رعنا تھا۔ جاویدان کی جو رو اس پر فریفتہ ہو گئی اور دونوں میں قاسقانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ تھوڑے عرصے

میں جاویدان مر گیا اور اس سے مختصر کہ کسی کو اس کے مرنے کی اطلاع ہو۔ اس کی بیوی رات کے وقت باہک سے کہنے لگی کہ جاویدان مر گیا ہے اور میری خواہش ہے کہ تمہیں برسر حکومت کر کے تم سے باقاعدہ شادی کروں۔ باہک کہنے لگا میں تمہارے شوہر کا ایک اوتلی خادم تھا۔ لوگ میری متابعت پر کس طرح رضانمند ہوں گے اور تمہاری قوم میرے ساتھ تمہارے عقد نکاح کو کیونکر گوارا کرے گی؟ عورت نے کہا میں نے ایک حیلہ جو بیز کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں لوگوں کو اپنے ڈھب پر لانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔

باہک نے پوچھا تم نے کیا حیلہ تراشا ہے؟ بولی میں تمام قوم کو جمع کر کے ان سے کہوں گی کہ جاویدان نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا کہ آج رات میں نے مرنے کا قصد کیا ہے۔ لیکن میری روح تن سے مفارقت کرتے ہی باہک کے بدن میں داخل ہو جائے گی اور اس کی روح سے متحد ہو جائے گی۔ میرے بعد باہک ہی میری قوم کا سردار ہوگا۔ وہ جہاں وہ کو ہلاک کر کے قوم کو از سر نو زندگی بخشنے کا اور قوم کے درمیان لوگوں کو آسان عزت پر بٹھائے گا۔ یہ سن کر باہک کا ساغر دل خوشی سے چمک گیا اور کہا: ہاں کوئی ایسی شق تدبیر کرو۔ دوسرے دن عورت نے جاویدان کے لشکر کو جمع کر کے اس کے مرنے کی اطلاع دی۔ عباہ سپاہ پوچھنے گئے اس نے مرنے سے پہلے ہم لوگوں کو بلا کر تین وصیت نہ کی؟ عورت نے اپنی تین فریادوں سے سب کو مطمئن کر دیا۔ قائدین لشکر کہنے لگے ہمیں حسب وصیت اس نوجوان کی متابعت منظور ہے۔ چنانچہ سب نے اس سے بیعت کی اور عورت نے باہک سے باقاعدہ نکاح کر لیا۔

شرمناک اخلاقی تعلیم

اقبال کی کامرانی دیکھو کہ کس طرح ایک اوتلی خادم آسان عزت پر نمودار ہوا اور اس کا رایت اقبال و لفظ سپہر بریاست سے باہمیں کرنے لگا۔ باہک پہلے اسماعیلی تھا۔ پھر مزدکی بنا۔ پھر خود ایک فرسے کی باغالی سے باکبہ، طرمیہ، سعید اور حرمیہ و غیرہ ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ پہلے تو اپنے اندر جاویدان کی روح بتاتا تھا۔ پھر یہ کہنا شروع کیا کہ خدا کی روح نے میرے اندر دخول کیا ہے۔ اس نے اپنے ہردوں کو عقیدہ نکاح کی تعلیم دی اور خود کی طرح کہتا تھا کہ رو میں انسانوں اور حیوانوں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ چونکہ اس نے ہر قسم کے مذہبی اور اخلاقی قیود اٹھا کر پیش و پشت کا بازار گرم کیا۔ ہر دوں کو حرام کاری، شراب نوشی اور دوسرے فواحش سے کی اجازت دی۔ یہاں تک کہ شرمات ابھی سے کسی عقد مناکحت جاتو کر دیا۔ اس بناء پر اس کے ہر دوں کو فرم یہی کہنے لگے۔ کیونکہ فرم پیش و فرج کو کہتے ہیں۔ باوجودیکہ باہک کی اخلاقی تعلیم دنیا بھر کے فواحش کا

مجموعہ اور سخت لڑتے انگیز تھے۔ تاہم جاوید ان کی قوم کے علاوہ وہ علم اور اہل امدان و اصفہان نے بھی اپنی قسمت اس سے وابستہ کر دی۔

خلافتِ اسلامیہ کے خلاف علمِ بغاوت و خود سری

جب ہابک کے پیروؤں کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ گئی تو اس نے ۲۰۱ھ میں خلافتِ اسلامیہ کے خلاف علمِ بغاوت و خود سری بلند کر دیا۔ ان ایام میں خلیفہ مامون عباسی بغداد کے تختِ خلافت پر متمکن تھا۔ تین سال تک تو مامون کو بعض داخلی الجھنوں نے ہابک کی طرف متوجہ ہونے کا موقعہ نہ دیا۔ اس کے بعد ۲۰۲ھ میں خلیفہ مامون نے عیسیٰ بن محمد عامل آرمینیا و آذربائیجان کو حکم دیا کہ ہابک کے قلع قمع کا انتظام کرے۔ لیکن وہ بعض مجبور یوں کی بنا پر اس ہم کو سرانجام دینے سے قاصر رہا۔ ۲۰۹ھ میں خلیفہ نے علی بن صدقہ معروف بہ زریق کو آرمینیا اور آذربائیجان کی حکومت سپرد کی اور ساتھ ہی جنگِ ہابک کی تاکید فرمائی۔ زریق نے ایک قریب کار سپہ سالار احمد بن جنید کو بائیں جمیعت کے توڑنے اور ہابک کو اسیر کر لانے پر متعین کیا۔ لیکن ابن جنید ہابک کو زندہ کرنے کے بجائے خود ہی شکست کھا کر قید ہو گیا۔

ہابک کی ایک اور کامیابی

۲۱۲ھ میں مامون نے محمد بن حمید طوسی کو موصل کی حکومت پر فائز کر کے ہابک پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ محمد طوسی نے ہابک پر چڑھائی کی اور اس کو مغزوم کر کے دامن کوہ تک جا پہنچا۔ ہابک نے دامن کوہ میں مقابلہ کیا اور پھر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ طوسی نے جوشِ کامیابی میں اس کا تعاقب کیا۔ جب کوئی تین کوس تک چڑھ گیا تو ہابکوں نے کھین گاہ سے نکل کر وادی طوسی پر حملہ کیا اور ہابک بھی لوٹ کر محاط طوسی پر ٹوٹ پڑا۔ طوسی کا لشکر گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ہابکوں کی ایک جمیعت نے محمد طوسی کو چاروں طرف گھیر لیا۔ محمد نے نہایت ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ لیکن زخمی ہو کر گر اور شہید کر دیا۔ جب پھر بارگاہِ خلافت میں پہنچی تو خلیفہ کو سخت صدمہ ہوا۔ خلیفہ ہابک کی سرکشی اور اس کے فتوحات سے آگے بگولا ہو رہا تھا اور انتقام کے لئے ہر وقت و انتہا پیتا تھا۔ لیکن انتقامات ایسے پیش آئے کہ اس کے بعد کوئی اور ہم ہابک کی سرکوبی کے لئے نہ آسکے اور ملک الموت نے پیامِ اجل آ گیا۔

ہابک کی پہلی دو ہزیمتیں

ہابک نے شہر بڑکوا بنا جلا و دامن بنا رکھا تھا۔ اس نے اکثر شاہی قلعوں کو جو اردن تیل اور

آذربائیجان کے درمیان واقع تھے۔ ویران و سمار کر دیا تھا۔ جب خلیفہ مقتسم ۲۱۸ھ میں اپنے بھائی مامون کا جانشین ہوا تو اس نے ابوسعید محمد بن یوسف کو ہابک کی مہم پر مامور کیا۔ چنانچہ ابوسعید نے ان قلعہ جات کو جنہیں ہابک نے سمار کر دیا تھا از سر نو تعمیر کرایا اور انہیں فوج، آلات حرب اور غلہ کی بڑی مقدار سے مضبوط و مستحکم کیا۔ اس اثناء میں ہابک کے کسی سریرہ نے ان بلاد پر بشنون مارا۔ ابوسعید نے اس کا تعاقب کیا اور نہایت اولوالعزری سے لوٹ کر تمام مال واپس لیا۔ بیشمار ہابکیوں کو قتل اور اکثر کو گرفتار کیا اور مقتولوں کے سر اور کثیر التعداد قیدی ایک عرضداشت کے ساتھ خلیفہ مقتسم کے پاس بھیج دیئے۔ یہ پہلی ہزیمت تھی جو ہابکیوں کو عسا کر خلافت سے نصیب ہوئی۔

دوسری ہزیمت محمد بن عیث کے ذریعہ سے ہوئی جو ہابک کا معین و مددگار تھا۔ محمد بن عیث آذربائیجان کے ایک تلعہ میں فروکش تھا اور ہابک کے سرایا اور افواج کو رسد پہنچایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ہابک کی پہلی ہزیمت کے بعد ہابک کا ایک سپہ سالار عصمت نامی اس قلعہ کی طرف سے ہو کر گذرا۔ ابن عیث نے اس کی دعوت کی اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا۔ لیکن رات کے وقت حالت غفلت میں اس کو گرفتار کر کے خلیفہ مقتسم کے پاس بھیج دیا اور عصمت کے تمام رفقاء کو قتل کر ڈالا۔ خلیفہ نے عصمت سے ہابک کے بلاد اور قلعوں کے اسرار و خفایا دریافت کئے۔ عصمت نے تمام اسرار اور جنگی مواقع ظاہر کر دیئے۔ تاہم خلیفہ نے اسے رہا نہ کیا اور ایک فوجی سردار افشین حیدر کو جبال کی عملداری مرحمت فرما کر ہابک کے مقابلہ میں بھیجا۔ افشین نے میدان کارزار میں پہنچ کر رسد کا انتظام کیا اور راستوں کو خطرات سے پاک کرنے کے خیال سے تھوڑی تھوڑی مسافت پر چوکیاں بٹھائیں اور کارآزمودہ اور تجربہ کار فوجی افسروں کو گشت اور دیکھ بھال پر متعین کیا۔

ہابک کی تہیم کا میا میاں

اس کے بعد خلیفہ نے بنا کبیر کو فوج کثیر اور مال و اسباب کے ساتھ افشین کی کمک پر روانہ کیا۔ یہ سن کر ہابک بنا کبیر پر بشنون مارنے کے قصد سے چلا۔ جاسوسوں نے افشین تک یہ خبر پہنچا دی۔ افشین نے بنا کو لکھ بھیجا کہ تم قافلہ کے ساتھ نہر تک آؤ اور قافلہ کی روانگی کے بعد پھر اردنیل کو مراجعت کرو۔ بنائے اس ہدایت پر عمل کیا۔ لیکن پھر ہابک نے یہ خبر پا کر کہ بنا کا قافلہ قلعہ نہر کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ اپنے چیدہ چیدہ سپاہیوں کے ہمراہ نکل کھڑا ہوا۔ جس دن بنائے سے ملنے کا وعدہ تھا افشین اس روز چپکے سے نکل کر اردنیل کو چلا گیا اور بنا کو بجفاقت تمام ابوسعید کے مورسہ پر لے آیا۔ اس اثناء میں ہابک قافلہ تک پہنچ گیا۔ واپسی قلعہ نہر بھی قافلہ کے ہمراہ تھا۔ بنا

سے تو ہابک کی مدد بھیڑ نہ ہوئی البتہ دائمی قلعہ نہر سے مقابلہ ہوا۔ ہابک نے ان لشکریوں کو جو قلعہ کے ساتھ تھے تہ تیغ کر کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔

پھر اثنائے راہ میں ہابک افسہین کے فوجی سرداروں میں سے ہشتم نامی ایک افسر سے دو چار ہو گیا۔ اس کو بھی زک دی۔ ہشتم ایک قلعہ میں جا چھپا۔ ہابک نے وہاں پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن اسی اثناء میں افسہین اپنا لشکر لے ہوئے آ پہنچا اور دفعۃً ہابکیوں پر حملہ کر دیا۔ اس ناگہانی حملہ سے ہابکیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ نہایت بے سرد سامانی سے ہابک کھڑے ہوئے۔ ہابکی لشکر کا بیشتر حصہ اس معرکہ میں کام آیا۔ ہابک بقیۃ السیف کے ہمراہ بھاگ کر ہوقان پہنچا۔ لیکن وہاں سے پلٹ کر ایسی چال چلا کہ افسہین کے لشکر کا راستہ کاٹ دیا۔ رسد اور غلہ کا آنا موقوف ہو گیا۔ اب افسہین کا لشکر رسد نہ آنے سے بھوکوں مرنے لگا۔ افسہین نے دائمی مراہ سے رسد طلب کی۔ لیکن جب وہاں سے آئی تو اثناء راہ میں ہابکیوں نے اس کو لوٹ لیا۔ یہ خبر پا کر بغا اپنا تمام مال و اسباب کسی طرح ہابک کے ہاتھوں سے بچا کر افسہین کے لشکر گاہ میں لایا اور لشکریوں میں تقسیم کر دیا۔

عساکر خلافت کی ہزیمتیں

اب افسہین نے مطمئن ہو کر اپنے سپہ سالاروں کو ہابک پر حصار ڈالنے کی غرض سے بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قلعہ بند سے چھ میل کے فاصلہ پر پہنچ کر مورچے قائم کئے اور بغا نے قریہ بند میں داخل ہو کر لڑائی چھیڑ دی اور سخت کشت و خون کے بعد اپنی فوج کا بڑا حصہ اس معرکہ کی نذر کر کے محمد بن حیدر سپہ سالار کے مورچے میں داخل آیا۔ اب بغا نے افسہین سے امداد طلب کی۔ افسہین نے اپنے بھائی فضل، ابو جوشن، احمد بن غلیل اور جناح الاحور کو بغا کی کمک پر روانہ کیا اور حکم دیا کہ فلاں روز اور فلاں وقت ہابک پر یکبارگی حملہ کرنا۔ میں بھی اسی دن وقت معہود پر اس سمت سے حملہ آور ہوں گا۔ سوہ اتفاق سے وہ لوگ برسات اور شدت سرما کی وجہ سے یوم مقرر پر حملہ نہ کر سکے اور افسہین نے تہما حملہ کر دیا۔ تاہم ہابک تاب مقاومت نہ لاکر پیچھے ہٹا۔ افسہین نے بڑھ کر اس کے مورچے پر قبضہ کر لیا۔

دوسرے دن بغا وغیرہ کثرت باراں اور شدت سرما سے تنگ آ کر کسی قائد کی رہبری سے ایک پہاڑی پر جو افسہین کے لشکر گاہ کے قریب تھی چڑھ گئے۔ یہاں بھی انہیں اسی سردی اور بارش سے سابقہ پڑا۔ مزید براں برف بھی پڑ گئی۔ ہاتھ پاؤں جناب وے بیٹھے۔ دودن اسی حالت میں گذرے۔ ادھر ہابک نے موقع پا کر افسہین پر شیخون مارا اور اسے لڑکر پیچھے ہٹنے پر مجبور

کیا۔ دوسری طرف بغا کی فوج نے قلعہ ورسد کے تھڑ جانے کی وجہ سے شروع ہی جانا شروع کیا۔ بغا نے مجبور ہو کر قلعہ بند کے عزم سے اور نیز بطرض دریاقت حال افسین وہاں سے کوچ کیا۔ دور نکل آنے پر افسین کا حال معلوم ہوا۔

اب بغا ہابک کے خوف سے پھر اسی پہاڑی کی طرف لوٹا اور کثرت فوج اور سنگی راہ کی وجہ سے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ہابک کے چھس سپاہیوں نے تعاقب کیا۔ بغا نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا اور بڑی سرعت سے اس ٹھگ اور دشوار گزار راستہ کو طے کیا۔ اس اثناء میں رات کی سیاہ چادر عالم کائنات پر محیط ہو گئی۔ بغا نے مال و اسباب کی حفاظت کے خیال سے دامن کوہ میں ڈیرے ڈال دیئے اور چاروں طرف سپاہیوں کو پہرے پر متعین کیا۔ ٹھگے ماندے تو تھے ہی سب کے سب سو گئے۔ ہابک نے چھاپہ مارا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ بغا بحالت تباہ خندق اول میں چلا آیا جو اسل کوہ میں واقع تھی۔

بغداد سے مزید افواج کی روانگی

جب خلیفہ معتمد کو عسا کر خلافت کی متواتر ہزیموں اور ناکامیوں کا علم ہوا تو اس نے جعفر خیاط کی سرکردگی میں ایک فوج گراں افسین کی کمک پر روانہ کی اور تیس لاکھ درم مصارف جنگ کے لئے بیجی۔ اس فوج اور مالی امداد سے افسین قوی دل ہو گیا اور اس کی قوت بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ فصل ریح کے اوائل میں ہابک سے معرکہ آراء ہونے کی غرض سے آہستہ آہستہ قلعہ بند کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کے وقت سپاہیوں کو پہرے پر متعین کرتا اور رات ہی کے وقت گشت کرنے کے لئے فوج بھیجتا۔ جس کے ساتھ خود بھی جاتا۔ رفتہ رفتہ قلعہ بند کے بالمقابل ایسے مقام پر پہنچا جہاں تین پہاڑیاں ایک دوسری سے متصل واقع تھیں۔ ان تینوں پہاڑیوں کے بیچ میں ایک وسیع میدان تھا۔ افسین نے یہیں مقام کیا اور ایک راستہ کو رکھ کر باقی تمام راہوں کو پھروں سے چن ویلا۔ انہی پہاڑیوں کے قریب ہابک کا لشکر بھی پڑا تھا۔

افسین کا طریق جنگ

افسین روزانہ نور کے ٹرے کے نماز صح ادا کر کے نفاہہ جھراتا۔ لشکر کی اس نفاہہ کی آواز سن کر چار ہو جاتے۔ پھر مقابلہ شروع ہوتا۔ جب تک مصروف قتال رہتا نفاہہ جھارتا اور جنگ کو روکا نظر ہوتا نفاہہ بند کر دیا جاتا اور جب فوج قوی کا ارادہ ہوتا تو نور کا کوہ پر ایک لشکر متعین کیا جاتا جس اس قدر قوی قلعہ کی محافظت کرتا۔ ادھر ہابک نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ جب افسین قلعہ اور ہوا تو چھ سپاہیوں کو اسی گمانی کے نیچے کہیں گاہ میں بٹھا دیتا اور اس کی عادت تھی کہ

ہمیشہ معدودہ چند آدمیوں کو ساتھ لاتا اور ہائی فوج کیمین گاہ میں رہتی۔ اٹھین نے ہر چند تجسس کیا مگر یہ راز نہ کھل سکا۔

اٹھین عموماً جعفر خیاط، احمد بن غلیل اور ابوسعید کو تین تین دستہ فوج کے ساتھ یکے بعد دیگرے میدان کارزار میں بھیجتا اور خود ایک بلند مقام پر بیٹھ کر لڑائی کا منظر دیکھتا۔ اس مقام سے ہابک کا قلعہ اور محل سرائے بھی دکھائی دیتا تھا۔ اٹھین نماز ظہر ادا کر کے مراجعت کرتا۔ اس کے واپس ہوتے ہی اس کی فوجیں بھی یکے بعد دیگرے میدان جنگ سے ترتیب وار واپس آ جاتیں۔ ہابک اس طولانی جنگ سے گھبرا گیا۔

رضا کار مجاہدین کی شجاعت

ایک روز حسب معمول لشکر اسلام واپس ہوا۔ اتفاق سے جعفر خیاط پیچھے رہ گیا۔ ہابک کا لشکر میدان خالی کچھ کر قلعہ بذ سے نکل پڑا۔ جعفر خیاط نے بڑھ کر حملہ کر دیا اور ہاواں بلند اپنے لشکریوں کو پارا۔ جعفر کی فوج خیم پر ٹوٹ پڑی اور لڑائی دوبارہ چڑھ گئی۔ جعفر کی فوج میں مطوعہ یعنی رضا کاروں کا بھی ایک گروہ تھا۔ جو جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے لشکر اسلام میں شامل ہو گئے تھے۔ ان رضا کاروں نے اٹھین کی مرضی پائے بغیر از خود اس شدید پانچواں حملہ کیا کہ وہ دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ کسندیں ڈال کر قلعہ پر چڑھ جائیں گے۔ یہ دیکھ کر جعفر نے اٹھین سے پانسو تیر اندازوں کی امداد طلب کی۔ اٹھین نے کہا بیجا کہ تم امدادی فوج کا انتظار نہ کرو۔ جہاں تک ممکن ہو آہستہ آہستہ حکمت عملی سے واپس چلے آؤ۔ کیونکہ جنگ کا عنوان خطرناک ہو رہا ہے۔ اس عرصہ میں رضا کار مجاہد حملے کرتے ہوئے قلعہ بذ تک پہنچ گئے۔ ہابک کے وہ سپاہی جو کیمین گاہ میں تھے یہ سمجھ کر کہ دشمن قلعہ تک پہنچ گیا ہے۔ کیمین گاہ سے نکل آئے۔ اٹھین پر اس قلعہ کا سارا راز اور کیمین گاہ کا حال کھل گیا۔ جعفر آہستہ آہستہ لڑتے لڑتے اپنے مورچے کی طرف واپس آ گیا۔

قائد اعظم سے رضا کار مجاہد کی شکایت

جعفر نماز مغرب ادا کر کے اٹھین کے پاس آیا۔ اٹھین نے عدول حکمی اور خلاف مرضی جنگ میں اقدام کرنے سے اظہار ناراضی کیا۔ جعفر اپنے قائد اعظم کے امداد سے پیچھے پر اظہار طالع کرنے لگا۔ لیکن دونوں نے معقول وجوہ پیش کئے اور صفائی ہو گئی۔ اب رضا کاروں نے حاضر خدمت ہو کر گفت و رسد و مصارف کی شکایت کی۔ اٹھین نے جواب دیا کہ جو شخص قلت مصارف اور گرفتگی کی تکلیف پر مہر کر سکے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ ورنہ اپنا راستہ لے۔ امیر المؤمنین کے لشکر میں بظلمہ تعالیٰ جنگ آوروں کی کمی نہیں۔ رضا کار مجاہدین یہ کہتے ہوئے

واپس ہوئے کہ ہم تو قلعہ بڈ کو ہات کی ہات میں فتح کر لیتے مگر امیر عسکرناحق التواء ڈال کر ہم لوگوں کو ثواب جہاد سے محروم کرتا ہے۔ اگر ہم کو اب بھی حملہ کا حکم دے تو ہم دشمن کو اپنی تلوار کے جوہر دکھادیں۔ جاسوسوں نے یہ بات افشین کو جانتی اس نے مجاہدوں کو طلب کر کے تسلی دی اور علی الصباح جنگ کرنے کا حکم دیا۔ جس وقت رضا کاروں نے دھاوا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا خود بھی اسی وقت حملہ کرنے کا وعدہ کیا۔

قائد اعظم افشین نے ان لوگوں کو مال و اسباب، پانی، خوراک اور آلات حرب خاطر خواہ دے کر خوب قوی پشت کیا۔ زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھالانے کے لئے فخریوں پر ٹھہرائیں رکھوایں اور جعفر کو اسی مورچے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا جہاں تک کل پیش قدمی کی تھی۔

قلعہ کی فصیلیں توڑنے کے لئے سفر مینا کی روانگی

دوسرے دن افشین نے تیر اندازوں، نفاطوں اور نامی گرامی جنگ آزماؤں کو منتخب کر کے ایک لشکر مرتب کیا اور رضا کار مجاہدوں کو اپنے ساتھ ہونے میدان جنگ میں آیا۔ باکیوں نے قلعہ سے تیر باری شروع کی۔ جعفر کی فوج اپنے کو ہابک کے حملوں سے بچاتی ہوئی قلعہ بڈ کی فصیلوں تک پہنچ گئی۔ اب جعفر کمال مرواگئی و استقلال سے دروازہ بڈ پر پہنچ کر لڑنے لگا۔ یہاں تک کہ دوپہر ڈھل گئی۔ افشین نے حسب ضرورت ان لوگوں کے لئے کھانا اور پانی روانہ کیا اور سفر مینا کو بھی قلعہ بڈ کی فصیلوں کے توڑنے کے لئے کدالوں اور پھاڑوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ دیکھ کر ہابک قلعہ کا دروازہ کھول کر نکل آیا اور اپنے پر زور حملہ سے رضا کاروں کو قلعہ کی فصیل سے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد حالت یہ ہوگئی کہ کبھی تو ہابک کا لشکر رضا کاروں کو قلعہ کی فصیل سے پسپا کر دیتا تھا اور کبھی رضا کار باکیوں کو مار مار کر قلعہ میں بھگا دیتے۔

قلعہ بڈ پر لشکر اسلام کا قبضہ

دوسرے دن پھر لڑائی شروع ہوئی۔ ہابک نے عنوان جنگ بگڑا ہوا دیکھ کر افشین کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے جنگ سے صرف اتنی مہلت دو کہ میں اپنے اہل و عیال کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کر سکوں۔ بعد ازاں قلعہ بڈ کی کھینیاں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ افشین نے ہنوز نفی یا اثبات میں کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اتنے میں خبر پہنچی کہ عساکر اسلام نے قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے اور خدا کے فضل سے اس کے بلند میناروں پر خلیفۃ المسلمین کا جند انصب ہو گیا ہے۔ افشین سجدہ شکر بجالا کر قلعہ میں داخل ہوا۔ بہت سا مال قیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔

بابک کی ماں اور بھائی کی گرفتاری

بابک نے اپنے اہل و عیال کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ بھاگتے وقت جس قدر مال داسباب اٹھا سکا اٹھا لے گیا۔ افسہین نے حکام آرمینیا کو بابک کے فرار کا حال لکھ کر اس کی گرفتاری کے نہایت تاکید و احکام بھیجے۔ اتنے میں جاسوس نے آکر اطلاع دی کہ بابک اس وقت فلاں وادی میں ہے۔ افسہین نے فی الفور چند آدمی اس کی گرفتاری پر متعین کئے۔ اتنے میں بابک اس وادی سے اپنے بھائیوں عبداللہ اور معاویہ اور اپنی ماں کو ساتھ لے کر محرم آرمینیا نکل کھڑا ہوا۔ اتفاق سے ان محافظین میں سے اس پر کسی کی نظر پڑ گئی جو گرفتاری کے لئے متعین کئے گئے تھے۔ محافظ نے اپنے سردار ابوسفاح کو اطلاع دی کہ بابک بھاگا جا رہا ہے۔ ابوسفاح نے تعاقب کا حکم دیا۔ انہوں نے ایک چشمہ پر جا کر اسے گھیر لیا۔ بابک خود تو تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ لیکن اس کی ماں اور اس کا بھائی معاویہ گرفتار کر کے افسہین کے پاس بھیج دیئے گئے۔

بابک کی گرفتاری

اب بابک جبال آرمینیا میں جا کر روپوش ہوا۔ جاسوس اس کے تعاقب میں تھے۔ اتنے میں بابک کا زورا ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو کچھ زر نقد دے کر کھانا لانے کو بھیجا۔ اتفاق سے پولیس کے افسر اعلیٰ ہل بن ساہاٹ نے اس کو دیکھ لیا۔ چال ڈھال سے تاز گیا کہ بابک کا آدمی ہے۔ ہل بن ساہاٹ اس شخص کو لئے ہوئے بابک کے پاس آیا۔ بابک کا چہرہ پولیس کو دیکھتے ہی فق ہو گیا۔ ہل بن ساہاٹ اس کو دم پٹی دے کر قلعے میں لے آیا اور چپکے سے افسہین کو اس کی اطلاع بھیج دی۔ افسہین نے دو ذمی افراد کو بابک کی گرفتاری پر مامور کیا۔ انہوں نے جا کر اس کو گرفتار کر لیا اور افسہین کے پاس لے آئے۔ افسہین نے اس حسن خدمت کے صلہ میں افسر پولیس کو ایک لاکھ درم نقد اور ایک جواہر نگار بیٹی انعام دی۔

اس کے بعد عیسیٰ بن یوسف والئی بلقان نے عبداللہ برادر بابک کو جو کچھ دنوں سے اس کے پاس پناہ گزین تھے افسہین کی طلبی پر اس کے پاس بھیج دیا۔ افسہین نے دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ کرو یا اور بابک کی گرفتاری کی اطلاع بارگاہ خلافت میں بھیج دی۔ خلیفہ نے شوال ۲۲۲ھ میں افسہین کے نام حکم بھیجا کہ اپنے دونوں قیدیوں کو لے کر بغداد آؤ۔

افسہین کی غیر معمولی عزت افزائی

مرزندے لے کر سامرا تک ہر منزل پر خلیفہ معتمد کے حکم سے افسہین کا انتہائی عزت

واجترام سے استقبال کیا جاتا تھا اور خلیفہ کا خاص خاصہ طلعت فاخرہ اور ایک راس عربی گھوڑا لائے ہوئے انھیں سے ملتا تھا۔ جب انھیں سامرہ کے قریب پہنچا تو خلیفہ معتمد کا بیٹا داؤد باللہ راہبین سلطنت کو لئے ہوئے بغرض استقبال سامرہ سے باہر آیا اور کمال توقیر سے قصر مطیرہ میں ٹھہرایا۔ انھیں نے اسی قصر میں باہک کو بھی اپنے ذبحرماست رکھا۔ خلیفہ کے حکم سے انھیں کے سر پر تاج رکھا گیا۔ اسے بیس قیمت خلعت پہنایا گیا۔ اس کو بیس لاکھ درہم انعام دیئے اور دس لاکھ درہم اس کی فوج میں تقسیم کئے گئے۔

قتل کے وقت باہک کا استقلال

انہی ایام میں جب کہ باہک قصر مطیرہ میں مقید تھا۔ خلیفہ معتمد محل میں آیا اور باہک کو سر سے بڑھ تک بنظر غور دیکھتا رہا اور چلا گیا۔ دوسرے دن خلیفہ دربار عام میں رونق افروز ہوا۔ لوگوں کو حسب مراتب دربار عام سے قصر مطیرہ تک بٹھایا اور حکم دیا کہ باہک کو ہاتھی پر سوار کر کے دربار میں حاضر کریں۔ کسی شخص نے باہک سے کہا تم اپنی زندگی میں ایسی ایسی بد کردار یوں کے مرتکب رہے جو تم سے پہلے شاید کسی انسان سے سرزد نہ ہوئی ہوں گی۔ اب ان کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن اب تجھے صبر سے کام لینا چاہئے۔ باہک نے کہا تو عقرب میرے ثبات و استقلال کو دیکھے گا۔

خلیفہ نے اس کا ایک ہاتھ قطع کرنے کا حکم دیا۔ جس کی فوراً قبیل ہوئی۔ باہک نے جھٹ کئے ہوئے ہاتھ کے کون سے اپنا چہرہ رنگ لیا۔ کسی نے پوچھا چہرہ سرخ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بولا ایسا نہ ہو کہ خون نکلنے سے چہرہ بیلا پنڈ جائے اور یہ لوگ کبھی نہیں کہ باہک موت سے ڈر گیا۔ اس کے بعد اس کے اعضا قطع کئے گئے۔ اس اثناء میں اس کی طرف سے اضطراب و پے چینی کی کوئی اولیٰ علامت بھی ظاہر نہ ہوئی۔

عمار باہک کے مالی و جانی نقصانات

انھیں آخری نیم میں بڑا بڑا ہتھیار باہک ظہ اور مصارف سفر و قیام کے علاوہ جس روز میدان جنگ میں جاتا تھا دس ہزار درہم پورے صرف میں لاتا تھا اور جس دن اپنے مورچے میں رہتا تھا پانچ ہزار خرچ کرتا تھا۔ باہک کا تیسویں سال تک صمد رہا۔ ان معرکوں میں دو لاکھ تکین ہزار پانچ سو اور دوسری روایت کے بموجب ایک لاکھ تکین ہزار مسلمان جرحہ شہادت سے حیراب ہوئے۔ سات ہزار چھ سو مسلم خراجین اور سیک ہاکیوں کے خونِ ظلم سے چھلانے گئے۔ ان سب قیدیوں کو بغداد لاکر ایک وسیع احاطہ میں ٹھہرایا گیا۔ ان میں سے جس کسی کا کوئی والی وارث آتا تو

اس سے شہادت لی جاتی اور بعد موت ولایت و وراثت اس کے حوالے کر دیا جاتا۔
(تاریخ ابن خلدون، کامل ابن اثیر، کتاب الفرق بین الفرق)

۱۳..... علی بن محمد ازاراتی

علی بن محمد مشہور درویشی مضافات سے ہیں پیرا ہوا۔ مذہب شوافع کے فرقہ ازاراتی سے تعلق رکھتا تھا۔ اہلداد میں بچہ معاش پر مشغول تھے کہ ایک دفعہ مصلح عباسی کے بعض حاشیہ لکھنوں کی مدد و توسیعت میں قصیدے لکھ کر کچھ انعام حاصل کر لیتا تھا۔ ۲۳۹ھ میں بغداد سے بحرین گیا اور دعوائے نبوت کر کے اغوائے ملکی میں مصروف ہوا۔ کہتا تھا کہ مجھ پر بھی کلام الہی نازل ہوا ہے۔ اس نے اپنا ایک حیلہ آسانی بنا رکھا تھا۔ جس کی بعض صورتوں کے نام سبحان، کہتے اور مس وغیرہ تھے۔ کہتا تھا کہ خدا نے برقعے میری امامت و نبوت کی اتنی نشانیاں ظاہر کی ہیں جو محدود و محدود سے خارج ہیں۔ بحرین کے اکثر قبائل نے اس کی متابعت اختیار کی۔ اس شخص نے ۲۵۲ھ سے لے کر ۲۵۷ھ تک اٹھارہ سال کا طویل زمانہ عالم اسلام میں بولی و سماج کڑی بچا رکھی تھی۔

عربی غلاموں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے کی عجیب جہال

قریب پانچ سال تک بحرین میں امامت گزیر رہنے کے بعد ایک دن اپنے دام اتناؤں سے کہنے لگا کہ مجھے خدا نے عظیم دیا ہے کہ یہاں سے بصرہ جاؤں اور وہاں کے لوگوں کو شہادت اخروی کا راستہ دکھاؤں۔ چنانچہ چند ہجرتوں کی سعیت میں بصرہ چلا آیا۔ بصرہ میں وہ ایک عجیب جہال چلا۔ اس نے اپنی قوم و جماعت کو غیر معمولی ترقی دینے کے لئے اعلان کیا کہ جو جو عربی غلام میری پناہ میں آ جائیں گے میں ان کو آزاد کروں گا۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربی غلام اطراف و اکناف ملک سے ہماگ ہماگ گرا اس کے پاس آئے شروع ہوئے۔ اس طرح ایک جم غفیر جمع ہو گیا۔ اس نے ایک پر جوش تقریر کر کے ان کو ملک و مال سے بہرہ مند کرنے کا یقین دلایا۔ حسن سلوک اور احسان کرنے کی قسم کھائی۔ ایک دفعہ میں گزرتے پر "ان الله اشقى من من الضل سفقین انظہمہم و اموالہم بان لهم الجنة" لکھ کر ریاض بنایا اور ایک بلند مقام پر بھبھ گرا دیا۔

غلاموں کا آقاؤں کو مارنا اور قہر کرنا

اس اقدام سے ڈگنی غلاموں کے آقاؤں کا رنگ پھلا پڑ گیا۔ آٹا ایک ایک دوڑو کر کے اپنے غلاموں کی نسبت کچھ بٹنے کو آئے۔ علی نے اشارہ کر دیا۔ ڈگنی غلاموں نے اپنے آقاؤں کو مارنا اور قہر کرنا شروع کیا۔ شرفائے بصرہ یہ دیکھ دیکھ کر دم بخور ہو گئے۔ آخر علی نے ان تمام

آقاؤں کو جنہیں حبشی غلاموں نے قید کر رکھا تھا رہا کر دیا۔ زنگی غلام ملک کی ہر طرف سے جوق جوق اس کے جھنڈے تلے آ کر اپنے کو غلامی سے آزاد کراتے جا رہے تھے۔ یہ شخص ہر وقت اپنی ولولہ انگیز تقریروں سے حبشیوں کو ابھارتا اور انہیں ملک و مال پر قبضہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ حبشیوں کی ایک کثیر تعداد اس کے جھنڈے تلے مرنے مارنے کو ہر وقت تیار تھی۔

اہل شہر نے آئندہ خدشات کے پیش نظر باہم اتفاق کر کے اس کاٹنے کو نکال دینا چاہا اور بڑی جمعیت کے ساتھ اس پر چڑھ آئے۔ لیکن ہزیمت اٹھائی اور ان کے سینکڑوں آدمی کام آئے۔ اہل بصرہ نے ان حالات سے خلیفہ کو مطلع کیا۔ دربار خلافت نے حعلان نامی ایک ترک افسر فوج کے ساتھ اہل بصرہ کی کمک پر بھیجا۔ لیکن اس نے شکست کھائی۔ علی نے کامیابی کے ساتھ اس کے لشکر گاہ کو لوٹا۔ اہل بصرہ کی اکثریت زنگیوں کے خوف سے شہر خالی کر کے اطراف و جوانب بلاد میں بھاگ گئی۔ اس طوفان بلا کے فرو کرنے کو دربار خلافت سے یکے بعد دیگرے دو اور سپہ سالار بھیجے گئے۔ مگر دونوں ہزیمت کھا کر اور مال و اسباب چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زنگی مال و دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت علی کا رایت اقبال کامیابی کی فضا میں لہرا رہا تھا۔

علی کے فتوحات

علی نے ۳۵۲ھ میں بزور تیغ ایلہ میں کھس کر وہاں کے عامل عبید اللہ بن حمید اور اس کی مختصر سی فوج کو تہ تیغ کیا اور شہر کو آگ لگا دی۔ ایلہ جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ اب اہواز تک سارا علاقہ علی کے قبضہ اقتدار میں تھا۔ اس کے بعد علی نے اہواز کو چالوٹا اور وہاں کے عامل ابراہیم بن مدبر کو گرفتار کر لیا۔ ۳۵۷ھ میں خلیفہ معتمد نے ایک مشہور سپہ سالار سعید بن صالح کو زنگیوں کی سرکوبی پر متعین کیا۔ سعید نے علی کے مستقر پر پہنچ کر ان پر حملہ کیا اور انہیں میدان جنگ سے بھگا دیا۔ لیکن جب وہ دوبارہ اپنی قوت مجتمع کر کے برسر مقابلہ ہوئے تو سعید کو اس معرکہ میں ناکامی ہوئی اور اس کے اکثر ساتھی کام آگئے اور وہ خائب و خاسر وارا لختلافہ سامرا (متصل بغداد) واپس آ گیا۔

اب خلیفہ معتمد نے جعفر بن منصور خیاط کو جو باہک کی لڑائیوں میں نام پا چکا تھا زنگیوں کی گوشمالی پر متعین فرمایا۔ جعفر نے جا کر پہلے تو کشتیوں کی آمد و رفت روک دی۔ جس سے زنگیوں کی رسد بند ہو گئی۔ اس کے بعد زنگیوں سے جنگ کرنے کو روانہ ہوا۔ مگر شکست کھا کر بحرین چلا آیا۔ جس وقت سے جعفر زنگیوں سے شکست کھا کر بحرین آیا تھا ان کے مقابلہ پر جانے سے جی چراتا اور کشتیوں کی اصلاح، خندقوں کی کھدائی اور مورچہ بندی پر اکتفا کر رہا تھا۔ اب علی نے اپنے ایک سپہ سالار ابن ریان کو جعفر پر محاصرہ ڈالنے کی غرض سے بصرہ پر از سر نو چڑھائی کرنے کو بھیجا۔

اس نے نصف شوال ۲۵۷ھ میں بصرہ کو بزدور تفتح کیا اور وہاں کے باشندوں کو نہایت سفاکی سے قتل و غارت کر کے واپس آیا۔ اس پر بھی اس کے بے رحم دل کو تسکین نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ قتل و غارت کرتا ہوا بصرہ گیا۔ اہل بصرہ نے امان طلب کی۔ ابن ریان نے امان دے کر تمام اکابر شہر کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو سب کو جرعہ مرگ پلا دیا۔

جب بصرہ کی تباہی و برباوی کی خبریں، سامرہ (بغداد) پہنچیں تو خلیفہ معتمد نے ایک سپہ سالار محمد کو جو مولد کے لقب سے مشہور تھا ایک لشکر جزار کے ساتھ بصرہ کی جانب روانہ کیا۔ اہل بصرہ نے روز و رات جوشیوں کے ظلم و جور کی داستانیں سنائیں۔ مولد نے اہل بصرہ کو اور اپنے لشکر کو مرتب کر کے زگیوں پر دھاوا کیا۔ علی نے اپنے فوجی افسر یحییٰ بن محمد کو مولد کے مقابلہ پر بھیجا۔ دس روز تک لڑائی ہوتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ علی نے ابولیف اصفہانی کو یحییٰ کی کمک پر بھیجا اور حالت غفلت میں شیخون مارنے کی ہدایت کی۔ زگیوں نے اسلامی لشکر پر شیخون مارا۔ رات بھر اور پھر صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی۔ مغرب کے وقت مولد نے شکست کھائی۔ زگیوں نے اس کے لشکر گاہ کو لوٹ لیا۔ زگیوں نے جامدہ تک منہزم لشکر کا تعاقب کیا۔

شاہزادہ ابو العباس کی روانگی

اس کے بعد مسلسل نو سال تک یہ حالت رہی کہ دار الخلافہ بغداد سے سپہ سالار فوجیں دے کر بھیجے جاتے تھے۔ لیکن وہ زگیوں کی تاب مقاومت نہ لاتے اور تمام مال و اسباب اعداء کی نذر کر کے بھاگ آتے رہے۔ آخر خلیفہ نے سالہا سال کی ہزیموں سے ملول ہو کر اپنے پیچھے ابو العباس معتضد بن موفق کو (جو آئندہ چل کر خلیفہ معتمد کے بعد سریر خلافت پر متمکن ہو کر معتضد باللہ کے لقب سے مشہور ہوا) زگیوں کی مہم پر روانہ کیا۔ ابو العباس ربیع الثانی ۲۶۶ھ میں دس ہزار پیادہ و سوار فوج کی جمیعت سے زگیوں کی طرف روانہ ہوا۔ علی نے اس مہم کے لئے بے شمار فوجیں فراہم کی تھیں۔ علی نے سن رکھا تھا کہ ابو العباس ایک نوجوان شاہزادہ ہے جسے معرکہ آرائی میں مطلق چل نہیں۔ اس لئے علی نے یہ خیال پختہ کر لیا کہ اول تو ابو العباس ہماری کثرت سپاہ سے مرعوب ہو کر برسر مقابلہ نہ آئے گا اور اگر اس کی جرأت بھی کی تو پہلے حملہ میں اس کے دانت ایسے کھٹے کر دیئے جائیں گے کہ مدت العمر لڑائی کا نام نہ لے گا۔

اسلامی لشکر کی پہلی فتح

ابو العباس نے ایک قصبہ میں جس کا نام صلح تھا پہنچ کر فریق مخالف کی خبریں لانے کے لئے جاسوس دوڑائے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ زگیوں کا لشکر بھی آ پہنچا ہے۔ ان کا پہلا حصہ

تصہ صلح کے اس کنارے پر ہے اور آخری حصہ ٹھیک واسط تک پھیلا ہوا ہے۔ ابوالعباس ان کے مقابلہ میں متعارف راستہ چھوڑ کر غیر معروف راہ سے روانہ ہوا۔ سر راہ نعیم کے مقدمہ الحش سے بڑھ چلا ہوئی۔ ابوالعباس نے پہلے تو اپنی زبردست پیادہ سے دژگیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ مگر پھر مصلح خود پیچھے کو ہٹا۔ دژگی اس کی اس لہجائی سے قوی دل ہو کر بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگے۔ ابوالعباس نے اس سے پیشتر دریا کی راہ سے جنگی کشتیوں کا ایک بیڑا بھی روانہ کر دیا تھا۔ جس کی قیادت ابو جزہ نصیر کے سپرد تھی۔ اس وقت نصیر بھی وہاں سے قریب ہی اپنی فوج کو ایک طرف لئے پڑا تھا۔ جب دژگی بڑھ بڑھ کر حملہ آور ہونے لگے تو ابوالعباس نے لکار کر کہا نصیر! کیا دیکھتے ہو۔ یہ سکتے اب آگے نہ بڑھنے پائیں۔ نصیر یہ آواز سن کر ایک دوسری جانب سے جس طرف کہ دژگیوں کو کوئی وہم و گمان نہ تھا اپنا ڈھیل دل لئے ہوئے نکل پڑا۔ دژگی حواس باختہ ہو گئے۔ چوکو سوجھائی نہ دیا کہ کیا کریں۔ عالم سراہنگی میں دریا کی طرف بھاگے۔ ابوالعباس نے رومال (یا جھنڈی) کے اشارے سے جنگی کشتیوں کی فوج کو بھی معاً حملہ کا حکم دیا۔ الغرض ہمیشی چاروں طرف سے حملہ کی زد میں آ گئے۔ آخر جدھر راستہ پایا سخت بدحوا سی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے چھوکوں تک تعاقب کیا اور نعیم کے لشکر گاہ میں جو کچھ تھا لوٹ لیا۔ یہ پہلی فتح تھی جو شامی فوج کو سالہا سال کی متواتر اور مسلسل ہزیموں کے بعد دژگیوں کے مقابلہ میں نصیب ہوئی۔

ابوالعباس کی دوسری فتح عظیم

اس کے بعد ابوالعباس نے واسط سے ایک کوشن ہٹ کر پڑاؤ کیا۔ اب دونوں فریق از سر نو اپنی اپنی سپاہ کی اصلاح اور ضروریات حرب کی ترمیم میں مصروف ہوئے۔ ایک ہفتہ کے بعد دژگیوں کا ایک سپہ سالار سلیمان بن جامع اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر کے تین طرف سے حملہ کرنے کی غرض سے ابوالعباس کی طرف بڑھا اور فوج کے چند دستوں کو کشتیوں پر سوار کر کے براہ دریا حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھانپ کر ابوالعباس اور نصیر نے اپنی ہمت و توجہ دریا کی حملہ کی روک تھام پر مہذبوں کی اور اس کے مقابلہ میں اپنی فوج کو خشکی پر دست بردست لانے کا اشارہ کیا۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوا۔ دوپہر تک آتش حرب شعلہ زن رہی۔ ظہر کے وقت دژگی ہمت ہار بیٹھے اور نہایت افراتفری اور سہرتی کے ساتھ بحرف جان بھاگنے لگے اور اس کے بعد ان میں عام بھگدڑ مچ گئی۔ لشکر اسلام عظیم کو موت کے گھاٹ اتارنے اور قید کرنے میں مشغول ہوا۔ دژگیوں کی تمام جنگی کشتیاں گرفتار کر لی گئیں۔ ہزار ہا دژگی موت کے گھاٹ اترے۔ ابوالعباس فتح کے پھرے سے اڑاتا ہوا اپنے لشکر گاہ پر واپس آیا۔

باپ کا بیٹے کی کمک پر آنا

ان دو کامیابیوں کے بعد عسا کر خلافت کے لئے فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد زنگیوں کو بہت سی اور ہزیمتیں ہوئیں۔ جن کی تفصیل بخوف طوالت قلم اعزاز کی جاتی ہے۔ جب زنگیوں کے خانہ ساز نبی کو اپنی ناکامیوں کا علم ہوا تو اس نے اپنے دونوں سپہ سالاروں سلیمان بن جامع اور ابن ابان کو حفرق و منتشر ہو کر لڑنے پر ملامت کی اور دونوں کو مجموعی قوت سے ابو العباس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت تک ابو العباس تنہا زنگیوں کے مقابلہ پر لڑ رہا تھا اور اس نے نصرت الہی کے بل پر نو عمری اور نا تجربہ کاری کے باوجود نہایت نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ جب ابو العباس کے والد اور خلیفہ المسلمین کے بھائی موفی کو عسا کر خلافت کے فتوحات کا حال معلوم ہوا تو سجدہ شکر بجالایا اور جب یہ سنا کہ سلیمان اور ابن ابان یکجا ہو کر اس کے بیٹے ابو العباس پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں تو خلیفہ نے استصواب رائے سے پہلے قیس ۲۶۷ھ میں ایک فوج گراں کے ساتھ بغداد سے کوچ کیا۔ جب واسط پہنچا تو اپنے ہونہار فرزند ابو العباس سے ملا۔ موفی نے ابو العباس کے فوجی السروں کو خلعت گراں پہنا سے اور فوج کو انعامات سے سرفراز فرمایا۔

دشمن کا قتل عام، ہزاروں زنگی اسیر

دوسرے دن موفی نے نہر شداد پر چاکر قیام کیا۔ تیسرے دن ابو العباس نے محاصرے کے قصد سے مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ موفی بھی دریا کی راہ سے مدینہ کی طرف بڑھا اور ۸ ریح الثانی ۲۶۷ھ کو دونوں باپ بیٹا نے دو طرف سے مدینہ پر دھاوا کیا۔ زنگیوں کو موفی کی آمد کی خبر نہ تھی۔ دریا کی طرف سے حالت غفلت میں جھرمٹ ہانڈہ کر ابو العباس کے مقابلہ پر جمع ہوئے۔ آتش جنگ شعلہ زن ہوئی۔ دفعہ موفی نے دریا کی طرف سے حملہ کر دیا۔ جی جی جو ٹہمی اس اچانک اور غیر متوقع حملہ سے بدحواس ہو کر حفاظت شہر کے طرف مائل ہوئے ابو العباس کے سپاہی بھی انہی کے ساتھ شہر میں کھس پڑے۔ صحفیوں کا خوب قتل عام ہوا اور ہزاروں قید ہوئے۔ قریباً ڈیڑھ ہزار مسلمات زنگیوں کے ہنڈے ظلم سے رہا کی گئیں۔ بے حساب رسد و غلہ ہاتھ آیا۔ زنگیوں کا سپہ سالار شمرانی اپنی بیٹی کی ہزیمت خوردہ فوج کو لے کر جنگل میں جا چھپا۔

شہر منصورہ پر لشکر اسلامی کی یلغار

اس کے بعد ایک زنگی السرنے رات کے وقت ابو العباس کے پاس آ کر امان کی درخواست کی۔ ابو العباس نے امان دے کر زنگی سپہ سالار سلیمان بن جامع کا حال دریافت کیا۔

اس نے بتایا کہ ابن جامع اس وقت شہر منصورہ میں ہے۔ ابوالعباس نے جا کر اپنے والد کو اس سے مطلع کیا۔ موفق نے فوراً منصورہ کی طرف بڑھنے کا حکم صادر کیا اور خود بھی اس کے بعد ہی کوچ کر دیا۔ منصورہ کے قریب پہنچ کر دو میل کے فاصلہ پر مورچہ بندی کی۔ دوسرے دن زگیوں سے مقابلہ ہوا۔ دن بھر لڑائی ہوتی رہی۔ آخر مغرب کا وقت آ گیا۔ موفق اپنے کیمپ (لشکر گاہ) کو واپس آیا اور خود ساختہ نبی کی فوج نے منصورہ کو مراجعت کی۔ موفق نے آخر شب میں بیدار ہو کر اپنے لشکر کو مرتب کیا اور جنگی کشتیوں کو دریا کی راہ سے منصورہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ اس اثناء میں سپیدہ صبح نمودار ہوا۔ موفق نے نماز صبح باجماعت ادا کر کے دیر تک مالک الملک جل سلطانہ کی جناب میں حضور قلب سے دعا کرتا رہا۔ جونہی افق پر سرخی نمایاں ہوئی۔ دھواؤں کا حکم دے دیا۔

منصورہ کی تسخیر

عسا کر خلافت کا ایک دستہ ابوالعباس کے زیر قیادت شیر غزاں کی طرح ڈکارتا ہوا شہر پناہ کے قریب پہنچ گیا۔ دوپہر تک بڑے زور شور سے لڑائی ہوتی رہی۔ آخر زگیوں کے پیر اکھڑ گئے۔ عسا کر خلافت نے تعاقب کیا۔ زگیوں نے اپنی خندقوں کے پاس پہنچ کر پھر لڑائی شروع کر دی۔ اتنے میں جنگی کشتیاں دریا کی راہ سے شہر کے کنارے پر پہنچ گئیں۔ خلیفہ کی دریائی فوج نے خشکی پر اتر کر شہر کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس اثناء میں ابوالعباس کا دستہ فوج خندق پر لکڑی کا مختصر ساہل بنا کر عبور کر گیا۔ زگیوں نے گھبرا کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ غرض زنگی بری طرح منہزم ہوئے۔ ہزاروں قتل اور ہزار ہا قید کئے گئے۔ ابن جامع بقیۃ السیف کو لے کر بھاگ گیا۔ موفق نے کامیابی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا۔ دس ہزار مسلم خواتین اور بچوں کو جن میں زیادہ تر سادات کے زن و فرزند تھے خانہ سازی کے پیر و دوں کی غلامی سے نجات دلائی گئی۔ سلیمان بن جامع کے اہل و عیال بھی گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور مرتدین میں متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ جن میں لشکر خلافت مظفر و منصور رہا۔ موفق نے غنیم کے اکثر بلاد فتح کر لئے۔ زگیوں کا نامور سپہ سالار ریحان بن صالح اور بہت دوسرے زنگی امان کے طالب ہوئے۔

شہر مختارہ کا محاصرہ

اب مسلمانوں نے شہر مختارہ کا محاصرہ کیا۔ موفق نے رات کے وقت نقشہ جنگ اور فیصلوں کی کیفیت کا معائنہ کرنے کے لئے شہر کے ارد گرد چکر لگایا۔ فیصلیں نہایت مستحکم تھیں۔ چاروں طرف چوڑی چوڑی خندقیں شہر کو اپنے آغوش عاطفت میں لئے ہوئے تھیں۔ علی الصباح ابوالعباس کو دریا کی راہ سے کشتیوں کے ساتھ بڑھنے کا حکم دیا اور خود فوج مرتب کر کے خشکی کی راہ

سے مختارہ پر وہاں کیا۔ ابوالعباس نے نہایت چابک دستی سے اپنی جنگی کشتیوں کو شہر پناہ سے چاٹلایا۔ قریب تھا کہ جنگی پراتر پڑتا۔ زنگیوں نے دیکھ لیا۔ شور و غل مچاتے ہوئے دوڑ پڑے اور منجھتیوں سے سنگ ہاری شروع کر دی۔ یہ رنگ دیکھ کر موفق نے اپنے فرزند کو دھکیلے آنے کا اشارہ کیا۔ ابوالعباس کی کشتیوں کے ساتھ زنگیوں کی دو کشتیاں بھی ملاحوں کے ساتھ چلی آئیں۔ ان لوگوں نے انان کی درخواست کی۔

موفق نے نہ صرف انہیں انان دی بلکہ انعام و اکرام سے بھی نوازا اور مرہون منت کیا۔ اس حسن سلوک کا یہ اثر ہوا کہ طالبان انان کی آمد شروع ہو گئی۔ علی نے یہ رنگ دیکھ کر فوراً دہانہ دریا پر چند آدمیوں کو مامور کیا۔ تاکہ اس کی جنگی کشتیاں حریف کے سایہ عاطفت میں جا کر طالب انان نہ ہوں۔ ۱۵ شعبان ۲۶ھ کو پچاس ہزار اسلامی لشکر کا سیلاب دریا جنگی کی طرف سے مختارہ کی طرف بڑھا۔ اس منکرہ میں زنگیوں کی تعداد تین لاکھ کے قریب تھی۔ مگر موفق نے قلت تعداد کے باوجود اس خوبی سے شہر کا محاصرہ کیا کہ حریف کے دانت کھٹے کر دیئے۔

شہر موفقیہ کی تاسیس و تشہید

موفق مختارہ کو حالت محاصرہ میں چھوڑ کر وہاں سے قریب ایک مقام پر خیمہ زن ہوا۔ وہاں موفقیہ نامی ایک شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ شہر کا بنیادی پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا۔ فوجی چھاؤنی اور جنگی کشتیاں بنانے کا حکم دیا۔ تھوڑے دنوں میں فوجیوں، سرداروں اور عوام کے بے شمار مکان ہو گئے۔ جامع مسجد بن گئی اور دارالامارۃ کی تعمیر بھی تکمیل کو پہنچ گئی۔ آبادی کے لئے تمام ممالک محروسہ میں تہار کے نام گشتی فرمان بھجوا دیئے۔ آنا فانا ہر قسم کے سامان اور نایمجان کی دکانیں کھل گئیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات زندگی کا دوسرا سامان بکثرت مہیا ہونے لگا۔ موفق ایک مہینہ تک اسی انتظام میں مصروف رہا۔

لشکر اسلام پر حالت نماز میں حملہ کرنے کی سازش

علی نے طول محاصرہ اور طوالت قیام بلا قتال سے مضطرب و پریشان ہو کر ابن ابان سپہ سالار کو حالت غفلت میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا اور ہدایت کر دی کہ رات کی تاریکی میں بغیر روشنی کے دریا عبور کرو اور نہایت تیزی سے چار پانچ کوس کا چکر کاٹ کر صبح صادق نمودار ہونے پر ایسے وقت میں کہ موفق کی فوج اداۓ نماز میں مصروف ہو۔ پس پشت سے حملہ کر دو۔ تم جو نبی حملہ کرو گے میں بھی معاً مقابلہ پر پہنچ جاؤں گا۔ اس قرارداد کے بموجب ابن ابان آدھی رات سے پہلے اپنی فوج سمیت دریا عبور کر گیا۔ جاسوسوں نے موفق کو اس کی اطلاع دی۔

موفق نے فی الفور اپنے لائق فرزند کو ابن ابان کی مدافعت و معرکہ آرائی پر روانہ کیا۔ ابوالعباس نے ہمیں جنگی جہاز اور پندرہ جنگی کشتیاں دریا کی حفاظت پر مامور کیں تاکہ ابن ابان بحالت ہزیمت و فرار دریا عبور نہ کر سکے اور خود ایک ہزار سواروں کی جمعیت سے اس راستہ پر جا کر کمینہ گاہ میں چھپ رہا۔ جس طرف سے ابن ابان آنے والا تھا۔ جو نبی ابن ابان اس راہ سے گزرا ابوالعباس نے حملہ کر دیا۔ اعداء اس اچانک و غیر متوقع حملہ سے بے اوسان ہو کر بھاگے۔ عباسی سواروں نے تلواریں بے نیام کر کے زنگیوں کو اپنی شمشیر زنی کا خوب محنت مشق بنایا۔ زنگی بدحاشی کے عالم میں دریا کی طرف بھاگے۔ بحری فوج عبور کی راہ میں حائل ہوئی۔ اکثر زنگی کام آئے۔ بہتیرے دریا میں ڈوب مرے اور بے شمار قید کر لئے گئے۔ صبح ہوتے ہوتے لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔

خانہ ساز نبی کا پھوٹ پھوٹ کر رونا

طلوع آفتاب سے پہلے اختتام جنگ کے بعد ابوالعباس نے میدان جنگ ہی میں نماز صبح باجماعت ادا کی۔ پھر قیدیوں اور مقتولوں کے سروں کو لئے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موفق نے اسے فرط محبت سے گلے لگا لیا۔ دعائیں دیں۔ لڑائی کے حالات سنے اور دوپہر کے قریب حکم دیا کہ قیدیوں اور مقتولوں کے سروں کو کشتیوں میں بار کر کے جنتی کے محل سرائے کے سامنے دکھلانے کی غرض سے لے جاؤ۔ علی جنتی اور اس کے پیروؤں کو ہنوز اس واقعہ کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ سحر سے آپس میں کہنے لگے موفق نے یہ اچھا رنگ جمایا ہے۔ زنگی و لادروں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش میں ان سیاہ بخت جھبیوں کو قیدی بنا لیا ہے جو شامت اعمال سے اس کے پاس جا کر امان کے خواہاں ہوئے اور یہ تمام سرمصنوعی ہیں۔ انسانوں کے سرمیں مگر خوب نقل اتاری ہے۔

چاسوں نے جا کر گردہ مرتدین کا یہ مقولہ موفق کے گوش گزار کیا۔ موفق نے حکم دیا کہ ان سروں کو بھینچوں (جنگی گوبھنوں) میں رکھ کر مصوروں کے پاس بھیج دو۔ جب ایسا کیا گیا تو مصورین میں ایک ہنگامہ قیامت برپا ہو گیا۔ جو دیکھتا چلانے لگتا۔ علی جنتی بھی سروں کو دیکھنے کو آیا۔ ضبط نہ کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

بڑے بڑے زنگی سوراخوں کی درخواست امان

اسنے میں زنگیوں کی رسد آنی بند ہو گئی اور شہر کا فلعہ بھی قریب الاختتام ہوا۔ علی کے بڑے بڑے سوراخ اور نامی سردار فاتحہ کشتی اور شدت محاصرہ سے تنگ آ کر شہر سے نکلے اور امان کی درخواست کی۔ علی نے اپنی روز افزوں اتھری کا احساس کر کے اپنے دو افسروں کو دس ہزار فوج کی

جمیعت شہر کی غربی جانب سے نکل کر تین طرف سے عسا کر خلافت پر حملہ آور ہونے اور رسد کی آمد بند کرنے کا حکم دیا۔ جاسوسوں نے جھٹ یہ خیر موفق تک پہنچائی۔ جب زگیوں نے دریا سے خشکی پر اترنے کا قصد کیا تو خلیفہ کے لشکر نے اچانک حملہ کر دیا۔ ہزاروں لگے ہوئے۔ سیکڑوں نے دامن دریا میں جا بھرا کیا اور ہاتی نامہ گرفتار ہو گئے۔ زگیوں کی چار سو کشتیاں گرفتار کر لی گئیں۔ اس معرکہ سے زگیوں کی رہی سہی قوت بھی ٹوٹ گئی۔ اس پر طرہ یہ کہ چونکہ موفق کے پاس پناہ گزیوں کی تعداد ہونا لمبوا ہوتی جاتی تھی۔ اس لئے محاصرین کی قوت ترقی پذیر اور محصورین کی جمیعت رو بہ زوال تھی۔

نہر اتراک کے عبور کرنے کی کامیاب کوشش

اب موفق نے نہر اتراک کی جانب سے عام حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور حکم دیا کہ نہر کے عبور کرنے کا پورا سامان رات ہی سے مہیا رکھا جائے۔ موفق نے اپنے افسروں سے فرمایا کہ خدا پر توکل رکھو۔ اسلام کی عزت رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ضرور ہم کو ہمارے ارادوں میں کامیاب فرمائے گا۔ سرداران فوج علی الصباح تیار ہو کر موفق کے خیمہ کے پاس آئے اور سلامی دی۔ موفق نے لشکر کو مرتب کر کے نہر اتراک کے عبور کرنے کا حکم دیا اور خود بھی بتاریخ ۲۶ رومی الحجہ ۲۶ھ "بسم اللہ مجردہا و مرسہا" پڑھتا ہوا لشکر کے ساتھ چلا۔ شہر کا یہ حصہ جس طرف موفق کا لشکر سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا نہایت مضبوط تھا۔ موقع موقع پر تختیاں نصب تھیں۔ آلات حرب بھی بکثرت موجود تھے۔ علی حتمی، سلیمان بن جامع اور ابن ابان بھی اسی طرف تھے اور بظاہر یہاں کی تخیر بالکل بحال نظر آتی تھی۔

نہ تیروں کی برسات کا خوف نہ سنگباری کی پروا

علی نے اسلامی لشکر کو اس طرف بڑھتے دیکھ کر سنگ باری کا حکم دیا۔ تختیاں نہایت تیزی سے چلنے لگیں۔ تڑاڑ پتھر برسنے لگے۔ تیرا تڑاڑ نے روح و تن کا فیصلہ کرنے کو تیز کمانیں اٹھائیں۔ ایسی حالت میں نہر کا عبور کرنا، اور پھر عبور۔ بعد شہر پناہ کی دیواروں کے قریب پہنچنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جب اسلامی لشکر نہر کے قریب پہنچا تو دشمن کے جاں ستاں وز ہر گداز حربی منظر کو دیکھ کر آگے بڑھنے سے رک گیا۔ موفق نے لاکار کر کہا میرے شیر واکیا یہ تختیاں جن سے یہ سیاہ بخت جیتی پتھر پھینک رہے ہیں تمہارے عزم و ثبات اور مردانگی کی راہ میں حائل ہو جائیں گی؟ مجھے یقین ہے کہ تمہاری جو امرودی اور دلاوری کے مقابلہ میں ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آواز نہ تھی بلکہ ایک برق روشنی جو چشم زدوں میں لشکر کی اس طرف سے دوسرے سرے تک دوڑ گئی۔

جاں نثاران ملت بے تامل بات کی بات میں نہر عبور کر گئے۔ نہ تیروں کی برسات کا خوف کیا، نہ سنگباری کی کچھ پرواہ کی۔

فصیل شہر پر دولت عباسیہ کا پھریرا

اب موفق کا لشکر شہر پناہ کی دیوار کے نیچے پہنچ کر اسے منہدم کرنے اور بیڑھیاں لگا کر اس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہادر سپاہی فصیل شہر پر چڑھ گئے اور لڑ بھڑ کر اس پر قبضہ کر بی لیا۔ دولت عباسیہ کا علم نصب کر دیا گیا۔ منجیقوں اور آلات حصار کھنی میں آگ لگا دی۔ زنگیوں کا ایک جم غفیر مارا گیا۔ دوسری طرف ابوالعباس زنگی سپہ سالار ابن ابان سے مصروف پیکار تھا۔ ابوالعباس نے اس کو پہلے حملہ میں شکست دی اور ہزاروں زنگی تہ تیغ ہوئے۔ ابن ابان ہزیمت کھا کر بھاگا اور فوراً شہر پناہ کا دروازہ بند کر لیا۔ ابوالعباس کا فتح مند لشکر شہر حصار کی دیواروں تک پہنچ گیا اور اس میں ایک روزن کر کے بزور تیغ گھس پڑا۔ سلیمان بن جامع سینہ سپر ہو کر مقابلہ پر آ گیا۔ دیر تک گھمسان کارن رہا۔ آخر ابوالعباس اپنی فوج لے کر واپس آ گیا اور زنگیوں نے فوراً اس روزن کو بند کر دیا۔

شہر پناہ میں دوسرے متعدد دشگاف

مگر دوسری طرف موفق کی فوج نے شہر پناہ کی دیواروں میں متعدد دشگاف کر لئے اور شہر پناہ کی خندق پر ایک ہنگامی پل بھی بنا لیا۔ جس سے تمام لشکر شاہی بسہولت عبور کر لیا۔ یہ دیکھ کر زنگیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ شاہی فوج بعض کو کھل اور بعض کو گرفتار کرتی رہی، ابن ہمعان تک چلی گئی اور اس پر قبضہ کر کے آگ لگا دی۔ اس مقام پر زنگی خوب جان توڑ کر لڑے۔ مگر آخر کار شکست کھا کر اپنے گمراہ کنتہ کے پاس جادہ لیا۔ علی خود سوار ہو کر میدان کارزار میں آیا اور اپنے لشکر کو جوش دلا دلا کر لڑانے لگا۔ مگر کسی کے قدم نہ تھمتے تھے۔ ہر جہتی لڑنے پر بھانے کو ترجیح دیتا تھا۔ آخر علی کے خاص الخاص افسر بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں رات کی تاریکی فاتح فوج کے حملے کی راہ میں حائل ہو گئی اور موفق اپنی فوج کو لے کر واپس آ گیا۔

دوپلوں کا انہدام فوج کی علی کے خزانوں و دفاتر تک پیش قدمی

اب موفق نے انہدام شہر پناہ کی طرف متان توجہ کامل طور پر منعطف کی اور راستہ کے قرار خ کرنے میں بھی سرتوڑ کوشش کرنے لگا۔ اکثر خود بھی لشکریوں کے ساتھ شہر پناہ کی دیوار منہدم کرنے میں شریک ہو جاتا تھا اور کبھی جوش میں آ کر بھی شمشیر بکف میدان جنگ میں جا پہنچتا تھا۔ آخر کئی روز

کی جنگ اور شبانہ روز کی جانکاہیوں کے بعد نہر سلمیٰ کی جانب شہر پناہ کا بہت بڑا حصہ منہدم ہو گیا۔ شہر کی شمالی جانب دو پہل تھے۔ جن پر اس وقت تک محاصرین کا قبضہ نہ ہوا تھا۔ محصورین عموماً انہی پلوں سے عبور کر کے شاہی لشکر پر اچانک آپڑتے تھے اور نقصان کثیر پہنچا کر واپس چلے جاتے تھے۔ موفق نے ان پلوں کی حالت سے مطلع ہو کر ایسے وقت میں جب کہ زنگیوں سے گھسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک دستہ فوج مزدوروں کی معیت میں ان کے توڑنے کو بھیج دیا۔ زنگیوں نے مزاحمت کی مگر ناکام رہے۔ شاہی لشکر نے اس کو دوپہر تک منہدم کر دیا۔ اس کے بعد موفق کی ہمرکاب فوج ایک اور جانب سے شہر پناہ کی دیوار کو توڑ کر شہر میں گھس پڑی اور قتل و غارت کرتی ہوئی ابن شمعان کے مکان تک بڑھ گئی۔ جہاں علی منتہی کے خزانہ و دفاتر تھے۔ زنگیوں نے ہر چند مزاحمت کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد شہر پناہ کی دیوار منہدم ہو گئی اور فتح کے آثار نمایاں ہو چلے۔

موفق کا مجروح ہونا اور جنگ کا سہ ماہ التواء

مگر سوء اتفاق سے ۲۵ جمادی الاول ۲۶۹ھ کو ایک معرکہ میں موفق کے سینہ پر آب تیر آ لگا۔ چونکہ زخم بہت گہرا تھا صاحب فراش ہو گیا۔ لڑائی ملتوی ہو گئی۔ آخر تین مہینہ کے بعد زخم پوری طرح مندمل ہوا اور موفق نے بڑی دھوم دھام سے غسلِ صحت کیا اور عسا کر اسلامیہ میں پھر چہل پہل نظر آنے لگی۔ لشکریوں کے دل خوش اور چہرے بپاش ہو گئے۔ لیکن زنگیوں نے اس مدت التواء میں شہر پناہ کی منہدم دیواروں کو پھر درست کر لیا اور حفاظت کے لئے جا بجا فوجیں متعین کر دیں۔ موفق نے حصولِ صحت کے بعد پھر دھاوا کیا اور شہر پناہ کے توڑنے کا حکم صادر فرمایا۔ اسلامی فوجیں سیلاب کی طرح شہر پناہ کی دیواروں سے نہر سلمیٰ کے قریب جا کر ٹکڑے کھانے لگیں۔ جنگ کا بازار گرم ہو گیا۔ زنگی لشکر غازیانِ اسلام کی مدافعت پر کمر بستہ تھا اور مسلمان تھے کہ جان پر کھیل کر پلے پڑتے تھے۔

بحری بیڑے کی شاندار کارگزاری

اس اثناء میں موفق نے جنگی بیڑے کو شیخی نہر ابن نصیب کی جانب سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ امیر البحر نے حکم پاتے ہی اپنے بیڑے کو اس تیزی سے وہاں پہنچا دیا کہ زنگیوں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ وہ دوسری طرف بے خبری میں اپنی حربی طاقت سے نہر سلمیٰ کے قریب عسا کر اسلامیہ سے مصروفِ پیکار رہے۔ ادھر بحری فوج نے زنگیوں کے ایک محلِ سرائے کو جلا دیا۔ جو کچھ پایا لوٹ لیا اور مکانِ محل کو گرفتار کر لیا۔ عسا کر خلافتِ غروب کے وقت مظفر و منصور میدانِ کارزار سے فرود گاہ پر واپس آئے۔

اگلے دن نماز صبح ادا کر کے دھاوا کیا۔ اسلامی مقدمہ الجیش الکلا کے محل تک قتل و غارت کرتا ہوا پہنچ گیا۔ ابن ابان زنگی سپہ سالار نے نہروں میں جو محل سرائے کے چاروں طرف تھیں پانی جاری کرنے اور خلیفہ المسلمین کے لشکر کے بالمقابل متعدد خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ تاکہ اسلامی لشکر الکلا کے محل تک نہ پہنچنے پائے۔ موفق نے حریف کی اس کارروائی سے مطلع ہو کر ایک دستہ فوج کو خندق اور نہر کے پاسٹے پر متعین کیا اور ایک دسی فوج کو علی کے محل پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔

کشتیوں کی چھتوں پر مانع احراق ادویہ کا ضہاد

موفق کی خواہش تھی کہ بحری بیڑہ زنگی اعیان و عمامہ کو نذر آتش کر دے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جوئی جنگی کشتیاں شہر بنہاہ کے قریب پہنچیں اور پرے آسمہاری اور سنگ ہاری ہونے لگتی۔ اس لئے مجبوراً کشتیوں کو پیچھے ہٹا پڑتا تھا۔ موفق نے کشتیوں کی چھتوں کو کڑی کے موٹے چھتوں سے پاٹ کر انہیں مانع احراق ادویہ سے رکنے کا حکم دیا۔ نفاطین اور نامی جنگ آوروں کی ایک جماعت کو اس کام پر متعین کیا جو رات بھر اہتمام جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے نہ سوئی۔ اگلے دن نماز صبح کے بعد ہی لڑائی پھیر دی گئی۔ موفق نے زنگیوں کی جمعیت کو پراگندہ و منتشر کرنے کی کوشش میں ابوالعباس کو حکم دیا کہ بحری بیڑے کو ساتھ لے کر زنگی سپہ سالاروں کے مکانات نذر آتش کرنے کا انتظام کرے۔ اس اثناء میں تمام جنگی جہازوں کی چھتوں پر ایسی دواؤں کا ضہاد کر دیا گیا تھا کہ جن پر آگ مطلقاً اثر نہ کرتی تھی۔

زنگی عمامہ کے سر بھلک محل نذر آتش

اسلامی بیڑہ زنگی محل کی جانب دجلہ کی طرف سے بڑھا۔ زنگیوں نے اس پر آتش ہاری شروع کی مگر بے نتیجہ رہی۔ جنگی بیڑہ نہایت تیزی اور چابکدستی سے آتش ہاری کرتا ہوا علی کے محل کے نیچے جا لگا۔ اب نفاطین نے روغن نفت کی پچکاریاں بھر بھر کر محل پر پھینکی شروع کیں۔ چنانچہ اس ترکیب سے قعر کی بیرونی عمارت جلا کر خاک سیلا کر دی گئی۔ تمام زنگی مکین محل سرائے کے اندر جا چھپے۔ دجلہ کے کنارے پر جس قدر مکانات تھے اسلامی بیڑے نے سب کو آگ لگا دی۔ بڑے بڑے عالی شان ایوان و قصور آگ کا ایذا منہاں رہے تھے۔ آگ نے تمام مال و اسباب کو چشم زدن میں نیست و نابود کر دیا اور جو کچھ اس عام آتش زنی سے بچ رہا اسلامی فوج نے پہنچ کر لوٹ لیا۔ قریش اور سادات کی بے شمار خواتین زنگیوں کے قبضے سے واگزار کرائی گئیں۔ زنگی سرداروں کے سر بھلک محل جل کر تودہ خاک ہو گئے۔

محصورین کی بد حالی، انسان انسانوں کو کھانے لگے

علی اپنے اور اپنے سرداروں کے مکانات جل جانے کے بعد حصیب کی مشرقی جانب چلا گیا۔ تاجراورد کا عمار بھی ادھر کو اٹھ گئے۔ رسد کی آمد بالکل مسدود ہو گئی۔ شہر کے تمام ذخائر تمام ہو گئے اور ضعف و اضمحلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ محصورین نے پہلے تو گھوڑوں اور گدھوں کا صفایا کیا۔ پھر انسانوں نے انسانوں کو کھانا شروع کیا۔ مگر بایں ہمہ علی کی جبین استقلال میں ذرا شکن نہ پڑی۔

موفق نے عتقارہ کی شہر پناہ کو نہر غربی تک جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس سمت میں علی کے ممتاز فوجی افسر ایک چھوٹے سے قلعہ میں حفاظت کا سامان کئے پناہ گزین تھے۔ جب کوئی موفق کا لشکر مصروف جدال ہوتا تو یہ دائیں بائیں سے کل کر حمل آور ہوتے اور سخت نقصان پہنچاتے تھے۔ موفق نے اس قلعہ کو بھی فتح کر لیا اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے جم غفیر نے قید کی مصیبت سے نجات پائی۔

شہر پر قبضہ اور علی حنیئی کا قتل

۲۷ محرم ۲۷ھ کو اسلامی لشکر نے شہر عتقارہ پر پوری طرح قبضہ کر لیا اور باقی ماندہ مسلم قیدیوں کو رہائی نصیب ہوئی۔ ظلیل اور ابن ابان گرفتار ہو گئے۔ علی چند فوجی افسروں کو ساتھ لے کر نہر سفیانی کی طرف بھاگ گیا۔ موفق نے تعاقب کیا اور نہایت تیزی سے اس کے سر پر جا پہنچا۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بہت سے جیشی افسر مارے گئے۔ کئی ایک بھاگ گئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ علی تاب مقاومت نہ لاکر بھاگ کھڑا ہوا۔ آخر معجزانہ نہر ابی حصیب تک جا پہنچا۔ موفق نے اس کا تعاقب کر کے اسے جالیا اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا لیا۔ موفق نے سجدہ شکر ادا کی اور مظفر منصور اپنے خرگاہ میں لوٹ آیا۔ دو بڑے افسر پانچ ہزار زگیوں سمیت گرفتار ہوئے۔ موفق نے اس مہم کو سر کر کے بلاد اسلامیہ میں زگیوں کی واپسی اور ان کو امن دینے کا گشتی فرمان نافذ کر دیا اور امن و امان قائم کرنے کے خیال سے چند روز تک اپنے ہنا کردہ شہر موثقیہ میں مقیم رہا۔

بغداد میں چرغاں

موفق نے ابوالعباس کو بغداد بھیج دیا۔ ابوالعباس ۱۵ جمادی الثانی ۲۷ھ کو بغداد پہنچا۔ اہل بغداد نے بڑی خوشیاں منائیں۔ عوام نے چرغاں کیا۔ زگیوں کے خانہ سازی

آخر رمضان ۲۵۵ھ میں خروج کیا تھا۔ انجام کار اپنی حکومت کے چودہ برس چار مہینے بعد کیم رصفہ ۲۷۰ھ کو مارا گیا۔ وہ پونے چار سال ابوالعباس اور موفق سے برسر مقابلہ رہا۔ اس کے مارے جانے کے بعد اس کے تمام مقبوضات از سر نو عباسی علم اقبال کے سایہ میں آ گئے۔ ابن اثیر اور ابن خلدون نے زگیوں کے گمراہ کنندہ کا نام علی بن محمد کی بجائے حبیت لکھا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اسی کا دوسرا نام یا لقب ہو۔

دشمن اہل بیت

علی بن محمد اہل بیت نبوت کا بدترین دشمن تھا۔ خصوصاً امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سخت عناد رکھتا تھا۔ اس حرمان نصیب نے ایک تخت بنا رکھا تھا جسے جامع مسجد کے صحن میں بچھواتا اور اس پر بیٹھ کر حضرت علی مرتضیٰ پر معاذ اللہ سب و شتم کرتا۔ اس کے پیرو بھی اس شیطنت میں اس کے ہم سفر ہوتے۔ اس نابکار نے ایک مرتبہ اپنے لشکر میں سادات کرام کی خواتین محترمہ کو دو دو تین تین درم میں بذریعہ نیلام عام فروخت کیا تھا اور ایک ایک جوشی نے دس دس سیدائیاں گھر میں ڈال رکھی تھیں۔

علی بن محمد اور اس کے زنگی پیروؤں کی چیرہ دستیوں کے واقعات (تاریخ کامل ابن اثیر ج ۷ ص ۱۳۳۲-۶) تک سنہین وار درج ہیں۔ تاریخ کامل کے علاوہ تاریخ ابن خلدون، کتاب الاشیاع فی اشرط الساعۃ اور تاریخ الخلفاء للسیوطی بھی اس کے ماخذ ہیں۔

۱۴..... حسین بن زکریا قرمطی

حسین بن زکریا نے اجماعاً درجہ کا طہ اور قرمطی ہونے کے باوجود مہدییت کا مدعی تھا۔ ہادیہ نشینوں کے اکثر قبائل نے اس کو مہدی موعود یقین کرتے ہوئے اس کی پیروی اختیار کی۔ اس کے چہرے پر ایک گل تھا جس کی نسبت کہا کرتا تھا کہ یہ حق تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی گل کی وجہ سے صاحب الشامہ کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ اپنے نام کے ساتھ مہدی امیر المؤمنین لکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا عم زاد بھائی عیسیٰ بن مہدی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے نزدیک تم ہی مدثر ہو جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اس نے خوش ہو کر عیسیٰ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔

جب حسین قرمطی کی جمعیت زیادہ ہوئی تو اپنے مریدوں کو مرتب مسلح کر کے دمشق پر ۳۷ھ دوڑا اور جاتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق عرصہ تک محصور رہا۔ بلاخر اہل دمشق نے ننگ

آ کر کوئی بڑی رقم نذر کر کے اس سے مصالحت کر لی۔ یہاں سے اس نے جمہور کا رخ کیا اور اس کو مسخر کر کے منبروں پر اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ پھر حماة اور معرة النعمان پر فوج کشی کی۔ ان مقامات پر قتل و غنہب کا بازار گرم کیا اور اپنی شقاوت پسندی سے عورتوں اور بچوں تک سے درگزر نہ کیا۔ یہاں سے عنان توجہ بعلبک کی طرف موڑی اور وہاں پہنچ کر قتل عام کا حکم دے دیا۔ بعلبک میں یہ قیامت برابر اس وقت تک برپا رہی جب تک معدودہ چند آدمی کے سوا شہر کی تمام آبادی بے نام و نشان نہ ہو گئی۔

بعلبک کے بعد سلمیہ کا رخ کیا۔ اہل شہر نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے۔ حسین نے ان کو دم دلا سہ دے کر اور امان کا وعدہ کر کے اطاعت پر آمادہ کیا۔ وہاں کے باشندوں نے شہر کے دروازے کھول دیئے۔ اس سیاہ دل نے شہر میں داخل ہوتے ہی عہد امان کو ہالائے طاق رکھ دیا اور بعلبک کی طرح یہاں بھی قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ یہاں تک کہ مکتبوں کے صغیر سن بچے اور چوپائے بھی اس کی تیغ جھاسے نہ بچ سکے۔ اس کے بعد سلمیہ کے دیہات میں جا نکلا اور بادیہ نشینوں کو قتل کرتا اور قیدی بنا تا پھر۔

اور ان ایام کے حکمراں طبقہ کی یہ غفلت کس قدر ماتم انگیز تھی کہ وہ اس قسم کے دجالوں اور فتنہ انگیزوں سے کوئی تعرض نہ کرتے تھے۔ جب تک وہ فخر ٹھوٹک کر حکومت کے مقابلے پر نہ آ جاتیں اور ملک کے کسی بڑے حصے پر عمل و دخل کرتے ہوئے بے گناہ رعایا کو تباہ و برباد نہ کر لیں۔ حسین قرظطی ہر طرف و عدنا تا پھر اور دربار خلافت کو اس وقت تک ہوش نہ آیا جب تک اس نے ممالک محروسہ کے ایک حصے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی۔

اس وقت ممالک اسلامیہ پر خلیفہ مکتفی کی فرمانروائی تھی۔ اس نے ۲۹۱ھ میں بہ نفس نفیس لشکر آراستہ کر کے اس کی گوشمالی پر کربلا آمدی۔ حسین اس وقت حماة کے باہر ایک میدان میں پڑا تھا۔ خلیفہ نے اپنی فوج کے ہراول کو بڑھنے کا حکم دیا۔ حماة کے باہر دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں۔ سخت جدال و قتال کے بعد حسین کو ہزیمت ہوئی۔ ہزاروں قرظطی مارے گئے اور بقیۃ السیف حلب کی طرف بھاگے۔ خلیفہ نے ابن طولون کے حریت یافتہ غلام کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جو منزل بہ منزل اسکو شکست دیتا جاتا تھا اور منہزمین کمال بے سروسامانی کے ساتھ گیدڑوں کی طرح بھاگے چلے جا رہے تھے۔ اس اثنا میں خلیفہ نے ایک اور فوج حسین کے تعاقب اور سرکوبی کے لئے یحییٰ بن سلیمان کی قیادت میں روانہ کی۔ یحییٰ نے کاتبے چھانٹتے قرظطیوں کا بیری طرح صفایا کیا۔

حسین بخوف جان مضافات کوفہ میں روپوش ہو گیا۔ اس کے دونوں معاون دست راست مدثر اور مطوق بھی اس کے ہمراہ تھے۔ آخر حسین بہ تہذیب بیت وحبہ پہنچا۔ جاسوسوں نے جو سایہ کی طرح ساتھ لگے تھے دائی وجہ کو اس کی آمد کی اطلاع کر دی۔ حاکم بچہ نے شیوں کو گرفتار کر کے خلیفہ المسلمین کے پاس بوقت بھیج دیا۔ خلیفہ نے حسین کو پہلے دوسو روے لگوائے۔ اس کے بعد صلیب پر چڑھا دیا۔ اس کے دونوں ساتھی حضرت شمشیر کے حوالے کئے گئے۔ خلیفہ نے اس ہم سے فارغ ہو کر اپنے لشکر ظفر بیکر کے ساتھ بغداد کو مراجعت کی۔ (تاریخ کامل ابن اثیر ج ۷)

۱۵..... علی بن فضل یمنی

۲۹۳ھ میں اسمعیلی فرقہ کا ایک ہیرو علی بن فضل نامی ضلع صنعاء کے کسی گاؤں سے صنعاء دار الحکومت یمن میں اس دعوے کے ساتھ آیا کہ وہ نبی اللہ ہے۔ ان ایام میں خلیفہ ملکی باللہ عباسی کی طرف سے اسد بن ابوجعفر یمن کا عامل تھا۔ علی بن فضل بہت دنوں تک اہل صنعاء کو اپنی خانہ ساز نبوت کی دعوت دیتا رہا۔ لیکن کوئی شخص تصدیق پر آمادہ نہ ہوا۔ جب تمام کوششیں رائیگاں ثابت ہوئیں تو اس نے کسی عقلی تدبیر سے لوگوں کو رام کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک دروا جس کو بصرہ میں داؤخن اور مصر میں اسماء الدردیل کہتے ہیں۔ حاصل کر کے اس کا گودا لیا۔ اسی طرح چھ اور اجزاء (۱) چھبلی کی چربی (مجم جردون) جس کے خالص ہونے کی یہ پیمان ہے کہ اسے آگ پر ڈالا جائے تو آگ فوراً بجھ جاتی ہے۔ (۲) کاغج کا چونہ۔ (۳) شکر۔ (۴) شکر۔ (۵) پارہ۔ (۶) زلف زفر ام کے۔

اسی طرح ان تمام اجزاء کا نصف وزن (ساز سے تین جزء) گائے کا گوبر اور ان اجزاء کا دلیق (یعنی پونے دو جزء) گھوڑے کی پیشانی کے بال لے کر کوشی دواؤں کو ہار یک کیا اور چوبیس گھنٹہ تک ہمار کی گھر گولیاں بنا کر ان کو سایہ میں خشک کیا۔ اس کے بعد ایک دھڑ رات کے وقت ایک بلند مکان پر چڑھ کر یہ گولیاں دیکھتے ہوئے لوگوں پر ڈال دیں۔ ان سے سرخ رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام فصائے مہیڈ پر عید ہو گیا اور ایسا مسموم ہونے لگا کہ کرہ ہوا کہ نازین کیا ہے۔ مگر اس نے کوئی ایسا شخص کیا کہ دھوئیں کے اندر بے شمار ناری حلقوں دکھائی دینے لگی۔ یہ ناری آدھی آگ کے گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور وہ آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔

یہ وحشت ناک مشہور کیے کر لوگ گھبرا گئے اور ان پر یہ دہرہ سوار ہوا کہ چونکہ ایک نبی اللہ

کی دعوت ٹھکرادی گئی ہے۔ اس لئے خدائے شہید اعظم کی طرف سے نزول عذاب کا خوفناک منظر دکھایا گیا ہے۔ یہ خیال کر کے ہزار ہا حماقت شعار جمعی دستاں قسمت نے اپنی متاع ایمان اس کے سپرد کر دی۔ ان سرگھسٹکان کوئے ضلالت میں سیکڑوں لکھے بڑھے لوگ بھی تھے۔ جنہیں طلی جہلاء کہنا زیبا ہے۔ طلاء امت نے بہتر اِسبھایا کہ اس شعبہ گر کے کمروں میں آ کر سعادت ایمانی سے محروم نہ ہوں۔ مگر کون سنتا تھا۔ ان پر اس عیار کا پوری طرح جادو چل چکا تھا۔ بجز غلیل الصحراء افراد کے کوئی راہ راست پر نہ آیا۔

علی بن فضل کی مجلس میں ایک شخص نکار کر کہا کرتا تھا "اشهد ان علی ابن الفضل رسول اللہ" لیکن معلوم ہوتا کہ دعوائے رسالت کے ساتھ ہی وہ خدائی کا بھی مدعی تھا اور ممکن ہے کہ دونوں دعویٰ میں تقدیم تاخیر ہو۔ ابن فضل جب کسی عہدہ کے نام کوئی تحریر بھیجتا تو عنوان تحریر یہ ہوتا من باسط الارض وواحبها و منزلزل الجبال و مرسلها علی بن الفضل السی عبده فلان ابن فلان (یہ تحریر زمین کے پھیلانے اور ہانکنے والے اور پہاڑوں کے ہلانے اور ٹھہرانے والے علی بن فضل کی جانب سے اس کے فلاں بن فلاں بندے کے نام ہے) اس نے بھی اپنے مذہب میں تمام عمر مات کو حلال کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ ہادہ نوشی اور بیٹیوں تک سے نکاح بھی جائز دروا تھا۔ انجام کار بعض اکابر اسلام غیرت ملی اور ناموس اسلامی سے مجبور ہو کر اس کے درپے ہلاکت ہوئے اور ۳۰۳ھ میں اس کو جام زہر پلوا کر قہر عدم میں پہنچا دیا۔ علی بن فضل کا تینا تیس سال تک مسجد رہا۔

(کتاب القار و کشف الاسرار للعلو میری و مذہب اسلام بحوالہ نزہت البلیس و مدیۃ الانیس)

لیکن تعجب ہے کہ صنعاء کے حکام نے انیس سال کا طویل زمانہ اس کی مزاج پر ہی کیوں نہ کی اور لوگوں کے متاع ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے لئے اسے اتنا طویل عرصہ کیوں کھلا چھوڑ دیا۔ غلام احمد قادیانی تو نصاریٰ کی عملداری میں تھا۔ اس لئے اس کو حکام کی طرف سے..... کسی عاجل ضمیمہ کے بھگتنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن ناموس ہے کہ کوئی شخص اسلامی قلمرو میں رہ کر زیادہ مدت تک طاعت حنفی میں برخیزا نمازوں کو تار نہ رہے اور خدا کی عاجز مخلوق پر رحم کر کے اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کیا جائے۔ جو نبی اس نے دعوائے نبوت کی رٹ لگائی تھی حکام کا دینی، اخلاقی اور سیاسی فحوض تھا کہ اس کی رگ جان کاٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیتے یا کم از کم قید و جمن کی نذر کرتے۔

۱۶..... محمد بن علی شلغمانی

ابو جعفر محمد بن علی معروف بابن ابی العزراقر موضع شلغمان کارہنہ والا تھا۔ جو واسط کے مضافات میں ہے۔ ابتداء میں شیعہ امامیہ کے فقہائے اکابر میں اس کا شمار تھا اور اس مذہب کے اصول و عقائد پر کتابیں لکھی تھیں۔ لیکن جب ابوالقاسم حسین بن روح سے جس کو شیعہ لوگ اس خیال سے باب کہتے تھے کہ وہ امام محمد بن حسن عسکری کی طرف سے ان کی غیبی وصیت کبریٰ کے زمانہ میں وکیل تھا۔ اس کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تو اس نے خود امام مختفی کے باب ہونے کا دعویٰ کیا اور شیعوں میں ایک ایسا مذہب مسلک پیدا کیا جس کی بنیادیں انتہائی غلو اور تراخ ذات باری کی سطح پر قائم تھیں۔

شیعیت سے ترقی کرنے کے بعد اس نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ عزوجل کی روح آدم علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی۔ ان کے بعد شیث علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے انبیاء و اوصیاء اور آئمہ کے جسموں میں حلول کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اس نے حسن بن علی عسکری کے جسم میں حلول کیا۔ اس کے بعد خود اس (یعنی شلغمانی) میں حلول کر گئی۔ شلغمانی کہتا تھا کہ میں بنی ظاہر و باطن، اذول و آخر اور قدیم ہوں۔ رازق اور تام ہوں اور تام سے مراد وہ ذات ہے جو ہر صفت سے موصوف ہو سکے۔

سابق وزیر اعظم کا دماغی اختلال

شلغمانی ۳۲۰ھ میں بغداد آیا۔ اس وقت خلیفہ قاہر باللہ آل عباس کے تحت خلافت پر متمکن تھا۔ بغداد کے ہزار ہا آدمی اس کے گردیدہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ کئی ایک ذی اقتدار اور صاحب اثر افراد نے بھی اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ جن میں حسن بن قاسم جیسا زبیرک و فرزانہ روزگار مدبر بھی جو اس سے پیشتر خلیفہ مقتدر باللہ کا وزیر اعظم رہ چکا تھا داخل تھا۔ اسی طرح بسطام کے دونوں بیٹے ابو جعفر اور ابو علی جو امرائے بغداد میں سے تھے۔ وہ بھی (معاذ اللہ) اس کی (من گھڑت) خدا کی پرایمان لے آئے۔ اگر دار الحکومت سے کسی دور دست مقام پر یا کسی نصرانی حاکم کے زیر حکومت رہ کر خدا کی کا یہ حال پھیلاتا تو اس سے شاید کوئی تعرض نہ کیا جاتا اور غلام احمد قادیانی کی طرح اسے یہ کہنے کا موقع ملتا کہ چونکہ ایک طویل مدت سے بلا حراحت اپنے دعوائے خدا کی پر قائم ہوں۔ اس لئے سچا خدا ہوں۔ مگر کسی اسلامی سلطنت بالخصوص اسلامی دار الخلفاء میں اس کی خدائی دیر پائیں ہو سکتی تھی۔

جب شلغمانی کا فتوح سے بڑھا اور لوگ جو جو اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر اس کو رب العالمین ماننے لگے تو دربار خلافت کو اس کی طرف سے تردد لاحق ہوا۔ خاقانی وزیر اعظم نے اس کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر شلغمانی کو اس کی اطلاع ہو گئی اور وہ بغداد میں روپوش ہو کر نہایت خاموشی کے ساتھ موصل چلا گیا۔ حکومت نے دیکھا کہ یہ فتنا ب د ب دیا گیا ہے۔ اس کی گرفتاری کا کچھ اہتمام نہ کیا۔ لیکن ڈیڑھ دو سال کے بعد اس نے پھر بغداد میں آ کر سر اٹھایا۔ خلیفہ الرضی باللہ نے جو اسی سال مسند خلافت پر رونق افروز ہوا تھا اس کی گرفتاری کا موکد حکم جاری کر دیا۔ اس وقت ابن مقلدہ وزیر اعظم تھا۔ اس نے بیدار مغزی اور حکمت عملی سے کام لے کر اس نئے پروردگار عالم کو گرفتار کر لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔

اس کے بعد اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس کے موثین و معتقدین کے بہت سے خطوط اور رقعات برآمد ہوئے۔ جن میں شلغمانی کو ایسے القاب سے یاد کیا تھا۔ جن کا اطلاق و استعمال بجز ذات رب العالمین کے بشرخا کی نسبت ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ ابن مقلدہ نے علماء کو جمع کیا اور شلغمانی کے سامنے وہ خطوط پیش کئے۔ اس نے تسلیم کیا کہ یہ تمام خطوط میرے ہی نام پر بھیجے گئے تھے۔ لیکن تقیہ کر کے کہنے لگا کہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ میرے عقیدے وہی ہیں جو دوسرے شیعوں کے ہیں۔ میں نے اپنی زبان سے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ میں معبود اور رب العالمین ہوں اور ان لوگوں نے جو میری نسبت ایسے تعریفی الفاظ استعمال کئے تو یہ ان کی غلطی ہے۔ دوسروں کی غلطی کا الزام مجھ کو نہیں دیا جاسکتا۔ انہی خطوط کی بناء پر اس کے دو معتقد بھی گرفتار کئے گئے جو بغداد کے معززین میں سے تھے۔ ایک ابن ابی عون اور دوسرا ابن عبدوس۔

شلغمانی دربار خلافت میں

اب یہ دونوں حاشیہ بردار اور خود شلغمانی خلیفہ الرضی باللہ کے دربار میں پیش کئے گئے۔ خلیفہ نے ان دونوں مریدوں کو حکم دیا کہ اگر تم شلغمانی سے اپنی برادری ظاہر کرتے ہو تو دونوں زور زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ پہلے تو اس کے حکم کی تعمیل سے گریزاں رہے۔ لیکن جب مجبور کئے گئے تو جبراً قہراً آمادہ ہوئے۔ ابن عبدوس نے ہاتھ بڑھا کر تھپڑ مار دیا۔ مگر ابن ابی عون نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ کانپ گیا اور ساتھ ہی دلی عقیدت کا جو جوش ہوا تو بڑھ کر شلغمانی کے سر اور داڑھی کا بوسہ دیا اور بے اختیار اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا۔ ”اللہ وسیدی و رزاقی“ (اے میرے معبود! میرے سردار اور میرے رازق!) اب کیا تھا خلیفہ کو ایک حجت و دہان ہاتھ آ گئی۔ بولا تم تو کہتے تھے کہ مجھے دعوائے الوہیت نہیں تو اس شخص نے تجھے ایسے الفاظ

سے ہوں محض طب کیا؟ اس نے جواب دیا کہ قرآن میں ہے کہ ”ولا تزرزوا زرۃ وذر
 احبیر“ (حق تعالیٰ ایک کے گناہ کا مواخذہ دوسرے سے نہیں کرتا) میں نے اپنی زبان سے یہ
 بات بھی نہیں کہی کہ میں معبود اور رب الارباب ہوں۔

اس پر ابن عبدون نے تھپڑ مارا تھا بولا ہاں یہ الوہیت کے مدعی نہیں ان کا تو یہ دعویٰ
 ہے کہ امام منتظر کے باب ہیں اور ابن روح کی جگہ پر ہیں۔ لیکن اس امر کی قابل وثوق شہادتیں پیش
 ہوئیں کہ ماخوذین کا انکار محض دفع الوقتی اور خوف قتل پختی ہے۔ ورنہ شلفغانی بالقطع خدائی کا مدعی
 ہے اور یہ کہ جب کبھی اس کے پیروؤں نے اسے ذات خداوندی سے متصف و مخاطب کیا ہے۔ اس
 سے اس نے انکار نہیں کیا۔ ہاں ہمہ غلیفہ نے حکم دیا کہ اس کے خیالات و عقائد کی تحقیق کی جائے۔
 مشرکانہ و ملحدانہ اصول و عقائد

اس کے دین کا پہلا اصول یہ تھا کہ شلفغانی ہی وہ اللہ الہیت ہے جو حق کو ثابت کرتا
 ہے۔ وہی ہے جس کی جانب الخاظ الاول و قدیم اور ظاہر باطن سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ذات ہاری
 تعالیٰ کے متعلق شلفغانی کا یہ عقائد تھا کہ وہ ہر چیز میں اس کے ظرف و تحمل کے ہو جب حلول کرتا
 ہے اور جب کسی بیکرنا سوتی میں داخل ہوتا ہے تو اس سے ایسی قدرت اور ایسے معجزات ظاہر ہوتے
 ہیں جو اس کے خدا ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ الٰہی یہ تھا کہ اس نے ہر چیز کے لئے ایک خدا اس نام پر ظاہر کیا کہ جس کی ضد
 ہے وہ ثابت ہو جائے۔ پس ضد ہی ہر حق کی دلیل ہے اور دلیل حق خود حق سے انجمل و برتر ہوتی
 ہے۔ ہر چیز کے ساتھ جو چیزیں موافق و مشابہ ہوتی ہیں بمقابلہ ان کے اس چیز کی ضد اس سے زیادہ
 قریب ہوتی ہے۔ اس کا مظہر یہ ہے کہ جب رب العالمین نے ابوالبشر آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی
 تو جس طرح وہ خود آدم علیہ السلام میں حلول کر کے نمایاں ہوا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے اہلیس
 یعنی ان کی ضد میں حلول کر کے بھی خود ہی نمودار ہوا اور گویا ہر ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے
 تھے۔ مگر دراصل دونوں بیکروں میں خود ہی تھا۔

پھر جب آدم علیہ السلام صفاستی سے غائب ہو گئے تو لاہوت (خدائے برتر) متفرق
 و منتشر ہو کر پانچ ناسوتیوں میں جدا جدا ظاہر ہوا اور اسی طرح اہلیس بھی پانچ اہلیسوں میں سمٹ گیا۔
 اب لاہوتیت اور لیس علیہ السلام کے بیکر میں جمع ہو گئی۔ یعنی مکمل خدا نے اور لیس (علیہ السلام)
 میں حلول کیا۔ اسی طرح وہ ضد بھی پانچوں اہلیسوں میں سے سمٹ کر اور لیس علیہ السلام کی ضد یعنی
 ان کے مخالف و معاصر اہلیس میں جمع ہو گئی۔ اور لیس علیہ السلام اور ان کے معاصر اہلیس کے بعد

پھر الوہیت دونوں ضدوں کی حیثیت سے ناسوتیوں اور اہلبیسوں میں منتشر ہوئی اور چند روز بعد لوح علیہ السلام اور ان کے معاصر اہلبیس میں جمع ہوئی۔ پھر منتشر ہوئی۔ اسی طرح مختلف انبیاء و رسل میں منتشر ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اہلبیس میں مجتمعاً ظاہر ہوئی۔ عیسیٰ کے بعد وہ حواریوں میں تقسیم ہوئی اور چند روز گزار کر حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے معاصر اہلبیس میں ظاہر ہوئی اور اب وہی الوہیت خود شلغمانی اور اس کے معاصر اہلبیس میں نمایاں ہے۔

بدترین رخص و الحاد

شلغمانی کا بدترین رخص اور حضرت علیؑ کی محبت کا غلو یہاں تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ جناب موسیٰ کلیم اور سیدنا محمد رسول اللہ علیہما الصلوٰۃ والسلام کو (معاذ اللہ) خائن بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ ہارون نے موسیٰ کو اور علیؑ نے جناب محمد (ﷺ) کو لوگوں کی طرف بھیجا کہ ہماری شریعت کی دعوت دو۔ مگر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور لوگوں کو غرض ملفوظ کی طرف بلانے کی جگہ اپنی دعوت دینی شروع کی۔

اس کے ساتھ ایک عجیب بات یہ تھی کہ شلغمانی کے نزدیک حضرات حسن اور حسینؑ، حضرت علیؑ کے فرزند نہ تھے۔ کیونکہ اس کے اعتقاد کی رو سے حضرت علیؑ رب العالمین ہیں اور اس کے ذم میں جس پیکر میں ربوبیت مجتمع ہو کر نمودار ہوتی ہے اس کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ وہ تو خدا ہے اور خدا کی شان ”لم یلد ولم یولد“ ہے۔ شلغمانی کی تعلیم کے بموجب جنت اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں۔ بلکہ شلغمانی کے مذہب کے ماننے اور اس کی معرفت کا نام جنت ہے اور اس کے مذہب سے انکار کرنے اور اس کے اصول سے جا مل رہنے کا نام دوزخ۔ ملائکہ سے اس کے ذم میں ہر وہ شخص مراد تھا جو عارف حق اور اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔

شلغمانی کہتا تھا کہ جو شخص اللہ کے کسی دوست کی مخالفت کرے اور اس سے مقابلہ کرتا رہے وہ ماجور ہے۔ کیونکہ ولی کے فضائل کا اظہار اس کے بغیر صورت پذیر نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی دشمن اس پر لعن طعن کرے۔ پس مخالف ولی سے افضل ہے۔ اسی بناء پر وہ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام سے فرعون کو اور حضرت سرور کائنات ﷺ سے (معاذ اللہ) ابو جہل کو اور حضرت علیؑ سے حضرت معاویہؓ کو افضل بتاتا تھا۔

شلغمانی شریعت کے انتہائی شرمناک احکام

یہ تو شلغمانی کے عقائد تھے۔ اب ذرا اس کے آئین مذہب کی شان ملاحظہ ہو۔ اس کا اعتقاد تھا کہ علیؑ نے جناب محمد (ﷺ) کو رسول بنا کر کبر آئے قریش اور جبامہ عرب کے پاس

بھیجا۔ ان کے دل ٹیڑھے تھے۔ محمد (ﷺ) نے ان کو حکم دیا کہ رکوع و سجود کریں۔ نماز پڑھیں۔ علیؓ نے محمد (ﷺ) کو اصحاب کہف کی مدت خواب یعنی ساڑھے تین سو سال تک مہلت دے دی اور اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اتنا زمانہ تک محمد (ﷺ) کی شریعت ہی پر عمل کیا جائے۔ لیکن اس مدت کے گزرتے ہی ان کی شریعت مسترد ہو جائے گی اور اس کی جگہ نئی شریعت عرصہ وجود میں آئے گی۔

مگر ساڑھے تین سو سال کی مدت کے پورے ہونے میں ابھی اٹھائیس سال باقی تھے کہ دربار خلافت نے الوہیت کا وہ سارا کھیل ہی بگاڑ دیا جو شلغمانی کے پیکر ناسوت میں سے عجیب و غریب قسم کی ایلیمی صدا میں بلند کر رہی تھی۔ شلغمانی کے مسائل شریعت یہ تھے۔

غسل جنابت اور نماز روزہ بالکل چھوڑ دیا جائے۔ یہ تکلیف محمد (ﷺ) نے عربوں کو ان دنوں دی تھی۔ لیکن عہد حاضر میں اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔ موجودہ دور میں تو یہ تکلیف لوگوں کے مناسب حال ہے کہ اغیار کو اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتے دیکھیں اور غصہ نہ آئے۔ بندے پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے لئے دولتیں جمع کر دیں۔ پس ہر انسان اپنے ذوی الارحام اور محرمات ابدیہ تک کے ساتھ مقاربت کر سکتا ہے۔ بلکہ اہل حق (شلغمانی کے دام افتادوں) کو چاہئے کہ ہر شخص جو دوسرے سے افضل ہوا اپنے سے کم درجہ والوں کی عورتوں سے حسبہ اللہ مقاربت کرے تاکہ ان میں اپنا نور پہنچائے اور جو کوئی اس سے انکار کرے گا وہ کسی آئندہ زندگی میں عورت کے پیکر میں پیدا کیا جائے گا۔ شلغمانی نے اس شرمناک موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام کتاب الحاستہ السادہ رکھا تھا۔

فرض شلغمانی شہوت پرستی کے رواج دینے میں اپنے کسی پیش رو سے کم نہیں تھا۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو اس آئین کے رائج کرنے میں اس نے مزدک کے بھی کان کاٹے تھے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس ناچار نے فعل خلاف وضع فطرت یعنی قوم لوط علیہ السلام کو بھی جائز کر رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ یہ شخص محض زندقہ ہی نہیں تھا بلکہ اول درجہ کاشہوت پرست اور بد معاش بھی تھا جس کا نصب العین یہ تھا کہ دنیا شہوت پرستی، زنا کاری اور اغلام کا گہوارہ بن جائے۔ گو حضرت علیؓ خود بھی ابن ابی طالب تھے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ آل ابوطالب میں سے اکثر نے امامت کے دعوے کئے تھے۔ شلغمانی کے نزدیک تمام طالبیوں اور عباسیوں کا قتل کرنا موجب ثواب تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس شخص نے دین اسلام اور خلافت آل عباس کے استیصال کے لئے بارود بچھانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔

شلفغمانی کا قتل

شلفغمانی اور اس کے انص بیروؤں کے مقدمہ کی تحقیقات خاص خلیفہ راضی باللہ کے دربار میں ہوا کرتی تھی۔ ان صحبتوں میں فقہاء اور قضاة کے علاوہ سپہ سالار بھی شریک ہوتے تھے۔ آخر فقہاء نے فتویٰ دے دیا کہ شلفغمانی اور اس کا رفیق ابن ابی عون مباح الدم ہیں اور ان کی فرد قرار داجرم میں برأت کا کوئی پہلو نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ شلفغمانی اور ابن ابی عون ۲ رذیلقعدہ ۳۲۲ھ کو مصلوب کر دیئے گئے۔ جب صلیب پر دونوں کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا تو لاشیں اتار کر جلا دی گئیں۔ شلفغمانی کے پیر و بجائے اس کے کہ اٹھائیس سال گزرنے کے بعد اس دن کا جلوہ دیکھیں۔ جس دن (معاذ اللہ) شریعت مصطفوی (علی صاحبہا التحیہ والسلام) کو مٹانے کا شلفغمانی خواب پورا ہوتا اور اس کی جگہ شلفغمانی شریعت جاری ہوتی بھاگ بھاگ کر منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے ان کے یقین و اذعان میں کوئی فرق نہ آتا۔

سابق وزیر اعظم کا قتل

شلفغمانی کے مصلوب ہوتے وقت اس کا معزز بیچ حسن بن قاسم سابق وزیر اعظم شہر رقبہ میں تھا۔ خلیفہ نے اس کے قتل کا حکم بھیج دیا اور اس کا سر عبرت روزگار بننے کے لئے بغداد میں لایا گیا۔ ابن ابی عون جس نے تھپڑ مارنے کی عوض شلفغمانی کی داڑھی چوم کر اس کو اپنا خالق و رازق بتایا تھا۔ بہت بڑا اویب اور بلند پایہ مصنف تھا۔ کتاب النواحی، کتاب الجوابات المسکتة، کتاب التشبیہات، کتاب بیت مال المعرور، کتاب الدواوین، کتاب الرسائل اس کی مشہور تصنیفیں ہیں۔ (مجم الادب یا قوت حموی مطبوع لندن ص ۲۹۶، ابن خلکان جلد اول ص ۱۹۰، کتاب الفرق بین الفرق ص ۲۳۹، تاریخ کامل ابن اثیر ج ۸ ص ۹۲، ۹۳)

۱۷..... عبد العزیز باسندی

عبد العزیز موضع باسند علاقہ صفائیاں کا رہنے والا تھا۔ اس نے ۳۲۲ھ میں دعوائے نبوت کر کے ایک پہاڑی مقام میں دام تزویر بچھایا۔ یہ شخص بڑا شعبدہ باز تھا۔ پانی کے حوض میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتا تو مٹی سرخ دیناروں سے بھری ہوتی تھی۔ اس قسم کی شعبدہ بازیوں اور نظر بندیوں نے ہزار ہا تہی وستان قسمت کے زور و قوت ایمان کو متلاطم کر دیا۔ لوگ پروانہ دار اس کی طرف دوڑے اور اس کی خاک پا کر سرمہ چشم بنانے لگے۔

باسندی کی صدائے دعوت اس نظام اور بلند آہنگی سے اٹھی کہ اہل شاش اور دوسرے

لوگوں نے بھی اپنی قسمت اس کے ساتھ وابستہ کر دی۔ جب اس کی جمعیت زیادہ بڑھی تو اس نے اہل حق کے خلاف علانیہ ستیزہ کاری شروع کر دی۔ صدہا ارباب ایمان اس کی ظلم رانی کے قتل ہو کر روضہ رضوان میں چلے گئے۔ جب اس کی عربدہ جونیوں نے خطرناک صورت اختیار کی تو وہاں کے حاکم ابوعلی بن مظفر نے اس کی سرکوبی کے لئے ایک جمیش روانہ کیا۔

ہاسندی بلند پہاڑ پر چڑھ کر محض ہو گیا۔ لشکر اسلام نے محاصرہ ڈال دیا۔ کچھ مدت کے بعد جب سامان رسد اختتام کو پہنچا تو محصورین کی حالت دن بدن اہتر ہونے لگی اور طاقت جسمانی جواب دے بیٹھی۔ آخر لشکر اسلام پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے طاغوتیوں کو مارتا کر ان کے دھوئیں بکھیر دیئے۔ ہاسندی کے ہزار ہا پیر و نذرانہ اجل ہوئے۔ خود ہاسندی بھی قصر ملاکت میں پہنچ گیا۔ اسلامی سپہ سالار نے اس کا سر کاٹ کر ابوعلی کے پاس بھیج دیا۔

(تاریخ کامل ابن اثیر)

۱۸..... سید محمد جوہنوری

سید محمد جوہنوری مدعی نبوت کی ولادت ۸۴۷ھ میں بمقام جوہنور ہوئی جو ہندوستان کے صوبہ اودھ میں ہے۔ علوم ظاہری سے فارغ ہو کر شیخ دانیال چشتی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایک مدت تک ریاضات شاقہ میں مصروف رہا۔ ذکر و فکر کے سوا سید کو کسی طرف توجہ نہ تھی۔ اوائل میں کسی سے ہدیہ و نذرانہ قبول نہ کرتا تھا اور عسرت کے ساتھ بسر اوقات کرتا تھا۔ اس کی ہر ادا سے بزرگانہ انکسار اور رویشی کی شان نمایاں تھی۔

اس وقت دہلی میں خاندان تعلق کا آفتاب لب ہام تھا۔ احمد آباد گجرات میں سلطان محمود بیکرہ جیسے بااقبال ہاوشاہ کی تلوار چمک رہی تھی۔ دکن میں خاندان بھمنیہ کا ستارہ اوج پر تھا۔ مالوہ میں سلطان غیاث الدین اور احمد نگر میں احمد نظام الملک، بحری سریر آرائے سلطنت تھے۔ ان کے علاوہ چند خود مختار ایسی ریاستیں تھیں جو زیادہ تر ہندو راجاؤں کے زیر حکومت تھیں۔ جوہنور کا علاقہ ریاست دانا پور کی عملداری میں داخل تھا۔ جہاں کا مسلمان حاکم میر حسین سید جوہنوری کا مرید تھا اور میر حسین ایک ہندو راجہ ولیپ رائے والی گوڑا کا ہاجلہ دار تھا۔ کچھ مدت کے بعد میر حسین والئی دانا پور اور راجہ ولیپ رائے میں کسی بات پر نزاع و محاصرت برپا ہوئی۔ جس کا نتیجہ رزم و پیکار تھا۔ اس لڑائی میں جوہنوری اپنے ڈیڑھ ہزار فقراء کے ساتھ جنہیں فوج پیرا گیاں کہتے تھے میر حسین کی کمک پر گیا۔ سید اپنے مریدوں سمیت لڑتے لڑتے راجہ کے قریب پہنچ گیا اور دونوں

برسر مقابلہ ہوئے۔ راجہ کا شمشیر بکف ہاتھ سید پر حملہ کرنے کے لئے بلند ہوا۔ مگر وار خالی گیا۔ اب سید نے نہایت پھرتی سے تلوار کا ایک ہاتھ اس زور سے مارا کہ پہلی ہی ضرب نے دیپ رائے کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور وہ بے جان ہو کر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر راجہ کی فوج بے اوسان ہو کر بھاگی۔ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ میر حسین متقول راجہ کی عملداری پر بھی قابض ہو گیا۔ دیپ رائے کے بہت سے قرابت دار مشرف ہایمان ہو کر سید کے حلقہ مریدین میں داخل ہو گئے۔ ان میں راجہ کا ایک بھانجا بھی تھا۔ سید نے اس کا نام میاں دلا در رکھا۔

یہاں تک تو سید کی زندگی صلحانے امت کی طرح نہایت پاکیزہ تھی۔ لیکن افسوس کہ اس کے بعد سید اپنے موقوف ہدایت پر قائم نہ رہ سکا۔ جس کی تقریب یہ پیدا ہوئی کہ سید نے ہجرت کا قصد کیا اور زن و فرزند اور چند جان نثار مریدوں کی معیت میں جہاں گروی اور ہادیہ پیائی کا طریقہ اختیار کیا۔ جب سید دانا پور کے جنگل میں پہنچا تو ابلیس نے اس پر اپنا بیچا اغوا مارا اور ایک نورانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے مخاطبہ و مکالمہ کا شرف بخشا اور الہام کیا کہ تو ہی وہ مہدی آخر الزماں ہے جس کے ظہور کی بشارتیں حدیثوں میں موجود ہیں اور اس مطلب کے الہام بڑی کثرت سے پے در پے ہوئے۔ سید نے مہدویت کے الہام اپنے رفقاء سفر سے بیان کئے جنہوں نے بے چون و چرا ان کی تصدیق کی۔

افسوس کہ سید کے ساتھیوں میں کوئی بھی ایسا ذی علم اور صاحب فہم و فراست نہیں تھا جو حق گوئی سے کام لے کر سید سے کہتا کہ جناب والا! آپ کی مہدویت کے جملہ الہام شیطانی ہیں۔ کیونکہ خبر صادق علیہ السلام نے سچے مہدی کی جو علامتیں بیان فرمائی ہیں وہ آپ کی ذات میں مفقود ہیں اور جس ذات شریف نے آپ کو منصب مہدویت بخشا ہے اس کا تو فرض منہمی ہی یہ ہے کہ اولاد آدم کو راہ حق سے پھیر کر قعر ہلاکت میں ڈالے۔ مہدو یہ یعنی سید جو نہوری کے ہیرو لکھتے ہیں کہ سید نے عالم روایا میں یا نیم بیداری کی حالت میں ایک نورانی فرشتہ کو دیکھا جو سید کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ تو ہی مہدی موعود ہے۔ یہ صحیح ہے کہ سید نے کسی نورانی ہستی کو دیکھا۔ لیکن مہدوئی نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ سید کو مہدویت کی بشارت دینے والا کوئی ملک مقرب نہیں بلکہ ابلیس لعین تھا جس کا جنود مختلف رنگوں اور طرح طرح کی نورانی شکلوں میں ظاہر ہو کر اور ہر قسم کے مزہ باغ دکھا کر ہر وقت زہاد و عباد کو راہ حق سے پھیرنے میں کوشاں ہے۔ ابلیس لشکر کے بیچا اغوا سے وہی بچ سکتا ہے جو اپنے ہر الہام و القاء کو شریعت کی کسوٹی پر کس کر دکھے لے اور منزل طریقت کا جورا ہر دیا عابد شریعت حقد اور مسلک سلف صالح کو معیار بنانے کا عادی نہیں۔ ممکن نہیں کہ وہ جنود ابلیس کی دستبرد

سے بچ سکے۔ اگر جو پوری بھی نورانی پیکر کو دیکھ کر احادیث نبویہ کی طرف رجوع کرتا تو پھر شکن نہ تھا کہ غول شیطانی اسے راہ حق سے پھیرنے میں کامیاب ہوتا۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ ایلٹیس کے ایک ہی پرتو جمال سے لوگوں کی آنکھوں پر چربی چھا جاتی ہے۔

اب سید چندیر میں پہنچا۔ جب علمائے کرام کو اس کے دعوائے مہدویت کا علم ہوا تو مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔ چونکہ تمام الہامی ممالک میں احتساب جاری تھا۔ اس لئے سید کو وہاں سے خارج ہونا پڑا۔ وہاں سے شہر مندو دار السلطنت مالوہ میں آیا۔ لیکن علماء کی مخالفت کے باعث قیام میں دشواریاں پیش آئیں۔ اس لئے مندو سے روانہ ہو کر چمپاینیر کا عزم کیا جو گجرات کا ضیاء دار کا دار السلطنت تھا۔ مندو میں بہت سے لوگ معتقد ہو کر سید کے ہمراہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر جامع مسجد میں قیام کیا۔ یہاں بھی سید کے ترک و انقطاع کا غلغلہ بلند ہوا۔ یہاں تک کہ سلطان محمود پیکرہ نے بھی جو نہایت اولوالعزم اور خدا پرست بادشاہ تھا سید کے حلقہ مریدین میں داخل ہونے کی ٹھان لی۔ لیکن چند علماء جو حسب الحکم پہلے آ کر سید سے ملاقات کر گئے تھے مانع ہوئے اور بتایا کہ یہ شخص مہدویت کا مدعی ہے۔ بادشاہ نے مرید ہونے کا ارادہ فریغ کر دیا۔ یہاں بھی علمائے کرام کی مخالفت کے باوجود بہت سے لوگ سید کے مرید ہوئے۔ کیونکہ جن محرومان قسمت کا جذبہ حق فراموشی کج روی کے لئے بے قرار ہو وہ کسی طرح زلیغ و ضلال سے منہ نہیں موڑ سکتے۔

وہاں سے سید احمد نگر آیا۔ یہ شہر سلطنت نظام شاہیہ کا پایہ تخت تھا جو دہلی کی پانچ ہمسر اسلامی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ یہ مقام سید کی آمد سے پیشتر ہی مہدوی تحریک سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس بناء پر دار السلطنت احمد نگر میں سید کا استقبال نہایت گرمجوشی سے ہوا۔ لوگوں کے دلوں پر سید کی عظمت یہاں تک چھائی کہ خود سلطان احمد نظام شاہ بجزی سید کا مرید ہو گیا۔ اس وجہ سے سید کا آستانہ مرجع خاص و عام بن گیا۔ قریب قریب ساری رعایا سید کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئی اور سید کا مذہب مہدویہ دکن میں بالاستقلال قائم ہو گیا۔ احمد نظام شاہ بجزی کی رحلت کے بعد اس کا بیٹا برہان نظام الملک کے نام سے تخت سلطنت پر بیٹھا۔ یہ بادشاہ فرقہ مہدویہ سے کمال حسن اعتقاد رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ سید جو پوری کے انتقال کے بعد سید کے اخص مریدوں کو گجرات کا ضیاء دار سے احمد نگر بلا لیا اور کمال اعتقاد سے سید جو پوری کے پوتے کو اپنی حور طلعت لڑکی نذر کر کے اپنی دامادی کا اعزاز بخشا۔ اس ناکھدائی سے مہدوی فرقہ کا پایہ رفعت فرق فرقہ تک بلند ہو گیا اور جو پوری مہدویت سلطنت کی آغوش میں ترقی کرنے لگی۔ اہل ملک کی اس بے راہ روی کو دیکھ کر علمائے حق لبو کے گھونٹ پیتے تھے مگر کوئی بس نہ چلتا تھا۔

گلبرگہ اور احمد آباد سے اخراج

معلوم ہوتا ہے کہ سید ایک مقام پر جم کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بعض مقامات سے تو وہ خارج البلد کیا جاتا تھا اور بعض سے وہ خود بخود رخصت ہو جاتا تھا۔ کیونکہ اس کا نصب العین تو مختلف عملداریوں میں پھر کر اپنی خانہ ساز مہدویت کا ڈھنڈورا پیٹتا تھا۔ اس لئے وہ احمد نگر سے کوچ کر کے شہر احمد آباد بیدر پایہ تخت برید شاہید میں آیا۔ اس وقت ملک قاسم برید وہاں کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما تھا۔ یہاں ملاذیاء اور قاضی علاؤ الدین نے بیعت کی اور سید کے ہمراہ ہوئے۔ یہاں سے سید نے عنان عزیمت گل برگہ کو پھیر دی جو خاندان بہمدیہ کا پایہ تخت تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے سید محمد گیسو دراز چشتی کے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھی۔ سید گیسو دراز، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ تھے۔

ایک مختصر سے قیام کے بعد جب علماء نے سلطان سے شکایت کی کہ اس شخص کے جموٹے و عودوں نے ایوان مذہب میں تزلزل ڈال رکھا ہے تو یہاں سے اخراج کا حکم ملا۔ یہاں سے سید بندر دابھوال پہنچا اور ۹۰۱ھ میں بیت اللہ کے شوق زیارت میں جہاز پر سوار ہوا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر اسے سرور عالم ﷺ کی یہ مشہور پیشین گوئی یاد آئی کہ لوگ مہدی کے ہاتھ پر رکن اور مقام کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس لئے سید جو پوری نے یہاں کھڑے ہو کر اپنے پیروؤں سے بیعت لینے کی خواہش کی امداد اس طرح سید از خود نبی ﷺ کی پیشین گوئی کا مصداق بن گیا۔

واپسی پر شہر احمد آباد آیا اور مسجد تاج خاں سالار میں فروکش ہوا۔ جب اس کے دعوائے مہدویت اور انوائے خلق کا چرچا نہ بلکن زد خاص و عام ہوا تو علمائے گجرات نے سلطان محمود گجراتی سے شکایت کی کہ ایک شخص لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور اس کے خار و وجود سے بے شمار مفساد پیدا ہو رہے ہیں تو ہواشاہ نے اخراج کا حکم دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر شہر نہروالا حیدران پٹن علاقہ گجرات میں لب حوض مقام کیا۔ لطف یہ کہ جو پوری جدھر کا بھی رخ کرتا عربی مدار اس کے طلبہ ہر طرف سے مناظرہ و مباحثہ کے لئے ٹوٹ پڑتے۔ یہاں سید مذہبی مناظرہ میں بری طرح مغلوب و لا جواب ہوا اور علماء کی کوشش سے جو پوری کو یہاں سے بھی خارج کرادیا۔ حیدران پٹن سے نکل کر قصبہ بدلی میں نزول کیا اور ایک مجمع میں اپنے جسم کا چمڑا دو انگلیوں سے پکڑ کر کہا کہ جو شخص اس ذات کی مہدویت سے منکر ہو وہ کافر ہے و دین ہے۔ مجھے خدائے برتر سے بے واسطہ احکام ملتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے۔ میں نے تجھے علم اولین و آخرین اور بیان یعنی معانی قرآن کا فہم اور خزانہ ایمان کی کنجی عطا کی جو کوئی تجھ پر ایمان لایا وہ مؤمن و مؤمنہ ہے اور جو منکر ہوا

وہ کافر چننی ہے۔ لیکن یہاں سے بھی خارج کیا گیا۔

اب جو پوری جالور پہنچا۔ پھر جالور سے ناگور اور ناگور سے دلایت سندھ کے شہر نصر پور میں داخل ہوا۔ یہاں سے اس کے کثیر التعداد پیرو جو ہار ہار کے اخراج اور سفر کی صعوبتیں جھیلتے جھیلتے سخت بیزار اور بد اعتقاد ہو گئے تھے، ترک رفاقت کر کے گجرات کو واپس چلے گئے۔ جو پوری نے غضب خداوندی سے لاکھ ڈرایا دھمکایا۔ مگر کسی نے ایک نہ سنی اور گجرات کا سید حاراستہ لیا۔ سید کی ایک اہلیہ شکر خاتون بھی انہی میں داخل تھی۔ نصر پور سے شہر ٹھٹھہ میں آیا جو سندھ کا دار الحکومت تھا۔ چونکہ علمائے سندھ نے اس کے قدم سے پہلے ہی لوگوں کو جو پوری فتنہ سے متنبہ کر دیا تھا اور یہاں اس کے خلاف ہر طرف غیظ و غضب کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے سید اور اس کے دام افتادوں کو فاقوں مارنے کی ٹھان لی اور سید کے پاس پیغام بھیجا کہ اہل سندھ کو بے دین کرنے سے باز رہو۔ ورنہ یاد رکھو کہ اناج کا ایک دانہ بھی تمہارے حلق تک نہ پہنچنے دیں گے۔ لیکن وہ اس پیغام کو خاطر میں نہ لایا۔ مسلمانوں نے ”عدم تعاون“ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اس کے محدود آذوقہ کا واحد ذریعہ بھی بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے چوراسی آدمیوں نے گرسنگی اور فاقہ کشی کے مصائب میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے جان دی۔ جو پوری نے بشارت دی کہ فاقہ کش جاں سپاروں کو اولوالعزم رسولوں کے مدارج و مقامات عطا ہوئے ہیں۔

جب حاطین شریعت نے دیکھا کہ جو پوری اب بھی مغویانہ کوششوں سے باز نہیں آیا تو ناچار بادشاہ سے اس کی شکایت کی۔ شاہ سندھ بڑا غیور اور شریعت نواز فرمانبردار تھا۔ جو پوری ہنوت کی اطلاع پا کر اس قدر برہم ہوا کہ سید اور اس کے تمام ساتھیوں کے قتل کا حکم صادر کیا۔ لیکن دریا خان مصاحب سلطانی کی کوشش سے فرمان قتل حکم اخراج سے تبدیل ہو گیا۔

انجام کار جب سید نے دیکھا کہ اس پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے۔ مسلمان ہر جگہ خشونت اور سختی سے پیش آتے ہیں اور کوئی اسلامی حکومت اسے اپنے ہاں پناہ دینے پر آمادہ نہیں تو اس نے کسی مصری ولایت میں جا کر اپنی مہدویت کے زہریلے جراثیم پھیلانے کا قصد کیا۔ چنانچہ سندھ سے خراسان کا رخ کیا۔ فارس اور عراق کے مشرقی حصے کو خراسان کہتے ہیں۔ غرض جو پوری قافلہ بہر خرابی و بربادی قندھار پہنچا۔ علمائے قندھار نے بحث و مناظرہ میں اس کو سخت پریشان کیا۔ ان کے چنگل سے مخلصی پا کر اس نے شہر فراہ کی راہ لی۔ اس وقت سید کے سر پر حزن و غم کے بادل منڈلا رہے تھے اور اس کی بے کسی قابل رحم تھی۔ لیکن۔

ہر کس کہ چمیں کند چناں آید پیش

فراہ میں بھی نہایت سخت ہاز پرس ہوئی اور سختی کا برتاؤ کیا گیا۔ پہلے ایک عہدہ دار نے جو نہایت ہیبت ناک اور آشفہ مزاج تھا جو چوہری اور اس کے رفقاء کے اسلحہ چھین لئے اور ہر ایک کے سر پر گوشہ کمان رکھ کر ایک ایک کو شمار کیا۔ پھر بولا کل کے روز تم سب زندان بلا میں ڈالے جاؤ گے تاکہ لوگ تمہارے خباثت و رذائل سے محفوظ رہیں۔ یہاں پہنچ کر جو چوہری نے ساہا سال کی خانہ بدوشی کے بعد غریب الوطنی اور در ماندگی کے عالم میں تو من حیات کی ہاگ ملک آخرت کی طرف پھیر دی۔ یہ ۹۱۰ھ کا واقعہ ہے۔ اس وقت موت کا پیام اس کے لئے عین نوید حیات تھا۔ کیونکہ دعوائے مہدویت کے بعد سے وہ جسمانی اور روحانی صدمے اٹھاتے اٹھاتے سخت نزار و بد حال ہو گیا تھا۔ میاں اللہ داد مہدوی نے اس کی قبر پر لوگوں کے سامنے ایک پرورد مرثیہ پڑھا جس کا ایک شعر یہ تھا۔

فعلش کہ بر جج پیبر شد از خدا بادا بروز حشر شفاعت گر از خدا
سید محمود کی ہلاکت

جو چوہری کے فرزند کلاں سید محمود نے سال بھر فرار کی سختیاں جھیلنے کے بعد خراسان کو الوداع کہہ دیا اور گجرات کا لھیا دار آ کر بھلوٹ میں توطن اختیار کیا۔ اب جو چوہری کے تمام مریدین سید محمود کی طرف رجوع ہوئے اور جو چوہری مہدویت کی طرف تبلیغ شروع ہوئی۔ سلطان محمود گجراتی کو اس کا علم ہوا تو اس نے سید محمود کو احمد آباد کے جیل میں قید کر کے نہایت وزنی زنجیر اس کے پاؤں میں ڈلوائی۔ اکتالیس روز کے بعد راجی سون اور راجی مرادی خواہران سلطان محمود کی سفارش سے کہ دونوں سید محمد جو چوہری کی معتقد تھیں قید من سے نجات ملی۔ لیکن زخم زنجیر کی وجہ سے پاؤں سڑ گیا۔ یہاں تک کہ ڈھائی مہینہ کے بعد پاؤں کی تکلیف سے ہلاک ہو گیا۔

سید محمود کی رحلت کے بعد خوندمیر فرقہ مہدویہ کا سرگردہ اور خلیفہ ثانی قرار پایا۔ خوندمیر پہلے شہر چن میں اقامت گزیر رہا۔ جب وہاں سے خارج کیا گیا تو ایک مہدوی ملک پیارے نے اس کو اپنی جاگیر واقع موضع کھانہیل میں لا کر رکھا۔ لیکن وہاں سے بھی اخراج کا حکم ملا۔ اس اثناء میں اس کو خبر ملی کہ شہر احمد آباد کے حاکم نے ایک مہدوی انگریز کو جمعہ مرگ پلا دیا ہے۔ خوندمیر نے مغضوب الخضب ہو کر چار مہدوی اس غرض سے احمد آباد روانہ کئے کہ جا کر ان علماء کی جان لے لیں جنہوں نے مہدوی انگریز کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ سوار علمائے مذکور کو جام شہادت پلا کر موضع بھولارہ میں واپس آئے۔ جب سلطان محمود گجراتی کو اس واقعہ ہانکہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے مہدویہ کی سرکوبی کے لئے عین الملک کی کی سربراہی میں دستہ فوج روانہ فرمایا۔ کچھ مسلمان شہری بھی

بہ نیت حصول ثواب فوج کے ساتھ ہوئے۔ خوند میر ساٹھ سوار اور چالیس پیادے لے کر مقابلہ کو نکلا۔ اس معرکہ میں اکائیس مہدوی کام آئے۔ خوند میر کی آنکھ میں ایسا تیر لگا کہ دوسری آنکھ بھی کاسہ سر سے باہر نکل آئی اور وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ اتنے میں شرف الدین مہدوی اسی سواروں کے ساتھ خوند میر کی کمک پر آیا۔ لیکن اسے شاہی فوج سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بلکہ یہ سوار مرعوب ہو کر موضع سردراں کی طرف جو وہاں سے بارہ کوس دور تھا ہٹ گئے۔ لیکن شاہی فوج نے پیچھا نہ چھوڑا اور سردراں پہنچ کر خوند میر اور اس کے بیٹے جلال الدین اور داماد وغیرہ اقرباء و مریدین کو ملا کر چون (۵۳) مہدی قتل کئے۔

بادشاہ کے سامنے مولانا شاہ طاہر کا احادیث ظہور مہدی پیش کرنا

جن ایام میں حکومت گجرات پیروان جو پوری کا قلع قمع کر رہی تھی ان دنوں سلطنت احمد نگر میں ان کا طوطی بول رہا تھا۔ سلاطین احمد نگر کو جو پوری اور اس کے پیردوں سے اس وجہ عقیدت و شناسائی تھی کہ برہان نظام شاہ بھری نے جیسا کہ اوپر لکھا گیا اپنی قمر جمال شاہزادی جو پوری کے پوتے سے بیاہ دی تھی۔ حسن اتفاق سے ۹۲۸ھ میں ترکستان کے ایک جید عالم مولانا شاہ طاہر احمد نگر آ کر برہان نظام شاہ کے ملک وزارت میں منتظم ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو ایک جھوٹے مہدی کی متابعت میں گم پا کر ارادہ کیا کہ مہدی کے ذمہ لیا کا پول کھولا جائے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کیں جن میں مخبر صادق علیہ التحیہ والسلام نے حضرت مہدی آخرا زمان کے ظہور کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ان میں سے چند حدیثیں یہاں درج کی جاتی ہیں۔

۱..... حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اگر بفرض محال دنیا کے اختتام میں ایک ہی دن باقی رہ گیا ہوگا تو بھی حق تعالیٰ اس دن کو طویل کر کے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جن کا نام نامی میرے نام (محمد) کے اور ان کے والد کا نام میرے والد (عبداللہ) کے مطابق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح معمور کر دیں گے جس طرح اس سے پہلے جو رد ظلم سے بھری ہوگی۔ رواہ ابوداؤد نے اس حدیث کی روایت کر کے خاموشی اختیار کی اور انہوں نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے جس حدیث پر میں خاموش رہوں وہ صحیح ہوتی ہے اور ابن ماجہ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔

۲..... حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ سرور عالم ﷺ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک مرد عرب کا مالک نہ ہو جائے گا۔ وہ نام میں

میرے ساتھ اشتراک رکھتا ہوگا۔ (رواہ ابو داؤد، الترمذی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح والحاکم من الطرق وقال کلھا صحیحہ) ترمذی نے حضرت ابن مسعود سے ایک اور حدیث بھی روایت کی جس میں یملک (مالک ہوگا) کی بجائے لفظ یلی (والی ہوگا) مروی ہے اور ترمذی کی یہ روایت بھی حسن صحیح ہے۔

۳..... ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کا چہرہ منور و درخشاں ہوگا۔ ان کی ناک اونچی ہوگی۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح اس سے بیشتر ظلم و عدوان سے بھری ہوگی۔ وہ سات سال تک برسر حکومت رہیں گے۔

رواہ ابو داؤد والحاکم وقال حدیث حسن صحیح واخرجه الترمذی و عبدالرزاق بسند صحیح وابن ماجہ من حدیث ابی ہریرۃ بسند صحیح

۴..... حضرت جابر انصاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اخیر زمانے میں ایک خلیفہ (یعنی مہدی علیہ السلام) ہوں گے جو کئی کئی بغیر مال و دولت تقسیم کریں گے۔

(رواہ مسلم واخرجه احمد عن ابی سعید الخدری)

۵..... صحیح مسلم کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میری امت کے اخیر میں ایک خلیفہ ہوں گے جو دونوں ہاتھوں سے مال و دولت تقسیم کریں گے۔ مگر اسے شمار نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی ان دو روایتوں میں خلیفہ امت کا اسم گرامی مذکور نہیں۔ مگر اگلی حدیث میں (جو نمبر ۶ میں سپرد قرطاس ہوگی۔ حضرت مہدی کا نام نامی کی تصریح موجود ہے)

۶..... ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص مہدی کے دربار میں حاضر ہو کر عرض پیرا ہوگا کہ مجھے کچھ عنایت کیجئے۔ وہ اس کو اس کی چادر میں اس قدر زلف نقد عطا کریں گے جس قدر کہ وہ اٹھالے جانے کی طاقت رکھتا ہوگا۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن واحمد فی مسنده بسند صحیح)

۷..... حضرت جابر انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک نہ ایک گروہ حق کی حمایت میں جدال و قتال کر کے قیامت تک غالب رہا کرے گا۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مسلمانوں کا فرمانروا عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے اور جواب دیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں کہ خدا نے امت محمدی کا بڑا اکرام

فرمایا ہے۔ (رواہ مسلم واحمد) بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ مسلمان حضرت مہدی کے اقتداء میں نماز پڑھانے کے لئے صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ جناب مہدی پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے۔ لیکن وہ انکار کر کے حضرت مہدی کو آگے کر دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب تک دونوں کی رفاقت رہے گی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی جناب مہدی سے افضل و عالی ہونے کے باعث امامت فرمائیں گے۔

۸..... حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ تم اس وقت کیسے (با برکت) ہو گے جب تم میں ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہو گا۔ (رواہ مسلم) تمہارا امام مراد مہدی علیہ السلام ہیں۔ جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ (رواہ ابو نعیم فی کتاب المہدی)

۹..... امام جعفر صادقؑ نے اپنے والد امام محمد باقر سے اور انہوں نے اپنے والد محترم زین العابدین علی بن علی بن حسینؑ سے روایت کی کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ وہ امت کیونکر ہلاک و برباد ہو سکتی ہے جس کے آغاز میں میں ہوں۔ مہدی اس کے بیچ میں ہیں اور مسیح بن مریم اس کے اخیر میں ہیں۔ (رواہ زین (مکتوٰۃ) و رواہ الحاکمی تاریخ)

(نوٹ: یہ حدیثیں مکتوٰۃ المصابیح، کنز العمال اور حج اکر لمتہ سے لی گئی ہیں)

سلطنت احمد نگر سے مہدویہ کا اخراج

سید محمد جوینوری کے پیروؤں کو مہدوی کہتے ہیں۔ یہ فرقہ ریاست حیدرآباد دکن، ریاست ٹونک، ریاست بے پور وغیرہ مقامات پر چند اذکثیر آباد ہے۔ مرزائیوں کی طرح یہ بھی بڑا مفسد گروہ ہے۔ مولانا شاہ طاہر نے بادشاہ کے سامنے حضرت مہدی آغا زمان کے متعلق احادیث نبویہ پیش کر کے مہدویت کا سارا ظلم توڑ دیا اور اس مذہب کا بطلان ایسے دلائل پیرایہ میں ثابت کیا کہ برہان شاہ کا مزاج اس فرقہ کی طرف سے سخت برہم ہوا اور بادشاہ کو اس عقد سے کہ ایک مہدوی کو اپنی لڑکی دے بیٹھا سخت کوفت و پشیمانی ہوئی۔ بادشاہ نے اس جماعت کو قرب و اختصاص سے یکسر محروم کر دیا اور علمائے دربار کو سرزدیش کی کہ جس خوبی سے شاہ طاہر نے اس مذہب کا بطلان میرے ذہن نشین کیا ہے۔ انہوں نے کیوں نہ کیا۔ اب برہان شاہ نے جوینوری کے پوتے سے اپنی بیٹی کی طلاق حاصل کی اور حکم دیا کہ تمام مہدوی میرے حدود مملکت سے نکل جائیں۔ اس طرح مدت مدید کے بعد سلطنت احمد نگر کو مہدوی شرد و فتن کے گرداب سے نکلنا نصیب ہوا۔

مکہ معظمہ کے چار فتوے

اس وقت مہدویہ کی شکستہ حالی قابلِ عبرت تھی۔ مسلمان حکمرانوں نے ان کے خلاف مواخذہ و احتساب کا کوئی پہلو اٹھانہ رکھا۔ خصوصاً ہجرات کا ٹھنڈا وار میں تو یہ لوگ تشدد اور پکڑ دھکڑ کا بری طرح آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ بالخصوص ۹۵۲ھ سے جب کہ حضرت شیخ علی متقی گجراتی علیہ الرحمۃ نے مکہ معظمہ سے مذاہب اربعہ کے مفتیوں کے چار فتوے جن میں ایک فتویٰ حضرت شیخ ابن حجر مکی مؤلف صواعقِ معرفتہ کا بھی تھا، شاہ گجرات کے پاس بھجوائے۔ علامہ حضرت علی متقی گجراتی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے استاد الاستا اور حدیث کی مشہور کتاب ”کنز العمال“ کے جامع و مؤلف تھے۔ ان فتاویٰ میں لکھا تھا کہ اگر مہدویہ اپنے عقائد باطلہ سے توبہ نہ کریں تو شاہ اسلام پر (بجہرم ارتداد) ان کا قتل واجب ہے۔ شاہ گجرات نے ان فتووں کے بموجب جو چوہری کے خلیفہ شاہ نعمت کی گرفتاری کا حکم دیا۔

جو چوہری کے فرزند اور خلیفہ کی جاں ستانی

جب سرکاری پیادے شاہ نعمت کو گرفتار کر کے لے چلے تو راستہ میں سید علی بن سید محمد جو چوہری نے پیادوں سے پوچھا کہ اگر اس بزرگ کی بجائے تمہیں حضرت مہدی علیہ السلام کا فرزند ہاتھ لگے تو اس بزرگ کو رہا کر دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور رہا کر دیں گے۔ سید علی کہنے لگا کہ میں مہدی یدِ العلوم کا فرزند ہوں۔ انہوں نے شاہ نعمت کو چھوڑ کر سید علی کو پکڑ لیا اور گاڑی میں ڈال کر دارالسلطنت لائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانہ میں ڈال دو۔ سید زادہ عرصہ تک قید رہا۔ یہاں تک کہ گجرات کے فرمانروا سلطان مظفر نے قضا کی اور سلطان بہادر شاہ تخت نشین ہوا۔ جب سلطان بہادر شاہ نے ہم دکن سے خاطر خواہ فراغت پائی تو ملک پیر محمد مہدوی نے جس سے اس جنگ میں بڑے کارنامے ظہور میں آئے تھے اپنے حسن خدمات کے صلہ میں بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمارے پیر زادہ کو جو زمانہ وراثت سے شاہی قید خانہ میں مجبوس ہے تخلصی بخشا جائے۔ بادشاہ نے صدر خاں وزیر اعظم کو حکم دیا کہ پیر زادہ مذکور رہا کر دو۔ صدر خاں نے عرض کیا کہ وہ تو مدت سے تنگ اجل کا لقبہ بن چکا اور مخفی طور پر راز داں مصاحب کو دوڑا کر حکم بھیجا کہ مہدی زادہ کو فی الفور موت کے گھاٹ اتار دو۔ چنانچہ وار و فوج مجلس نے فوراً نیچے اور تختے رکھ کر اسے ہلاک کر کے تہ خانہ میں پہنچا دیا۔ شاہ نعمت بھی سولہ مہدویوں کے ساتھ تیرا جل کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ دیکھ کر ملک الہ داد جو کہ جو چوہری کے خاص مریدوں میں تھا گجرات سے بھاگ کر مارواڑ پہنچا اور موضع پارکر میں رہنے لگا۔ وہاں ان لوگوں کو بڑے بڑے مصائب و نوازل سے سابقہ پڑا۔ یہاں تک کہ قاتلوں مرنے لگے۔ لیکن حالت یہ تھی کہ ہر شخص اپنے اپنے احوال و مقامات باطنی کا دعویٰ کر کے ہی

تسکین و شہیت کی آنکھیں روشن کر لیتا تھا۔ شاہان اسلام کے محکمہ احتساب نے انہیں کبھی ایک جگہ ٹھہرا کر غور و کوشیوں کا موقع نہ دیا۔ ظاہر ہے کہ شاہان شریعت پناہ اس فتنہ انگیز تحریک کو ٹھنڈے دل سے کیونکر گوارا کر سکتے تھے جو فساد فی الدین کا موجب تھی۔ وہ صلیب پرست انگیز نہیں تھے جنہوں نے غلام احمد قادیانی کی رسی دراز کر رکھی تھی۔ مہدوی آتش فتنہ کی چنگاریاں گجرات اور دکن سے اڑا کر دہلی آگرہ اور بنگالہ تک جا پہنچیں۔ لیکن حکومتوں کی بروقت مداخلت نے ان شراروں کو زیادہ بھڑکنے کا موقع نہ دیا۔

شیخ عبداللہ نیازی اور شیخ علانی پہلے خفی چشتی تھے۔ پھر اغوائے شیطانی نے ان کو مہدویت کے پہلو میں لائٹھایا۔ شیخ نیازی حج بیت اللہ کے لئے گیا۔ واپسی پر جونپوری کے کسی گرجے سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے فقروں میں آکر مہدوی مذہب قبول کر لیا۔ اس کے بعد قصبہ میانہ ریاست بے پور میں سکونت اختیار کر لی۔

ایک مرتبہ سلطان سلیم شاہ بن شیر شاہ پنجاب کو آ رہا تھا تو بیانہ کے بالمقابل بھرسور کی منزل پر پہنچا۔ اس کو عبداللہ نیازی کی مہدویت کا حال معلوم ہوا تو حاکم بیانہ کو جو عبداللہ نیازی کا مرید تھا حکم بھیجا کہ وہ شیخ کو حاضر کرے۔ جب لشکر گاہ میں پہنچا تو لشکریوں نے بادشاہ کے حکم سے اس کو پینٹا شروع کیا۔ بہت دیر تک مار پڑتی رہی۔ آخر سلیم شاہ لشکر سمیت روانہ ہو گیا اور لوگ شیخ عبداللہ کو اٹھالے گئے۔ لیکن انجام کار قائم توفیق الہی نے آخر عمر میں مہدویت سے تائب کر کے الملحق کے زمرہ میں داخل کر دیا۔ جب شیخ عبداللہ ہنوز مہدویت کی دلدل میں پھنسا تھا اس کے ایک مہدوی مرید شیخ علانی کو سلیم شاہ نے ہندویہ کی طرف جو سرحد دکن پر واقع ہے جلا وطن کر دیا۔ لیکن جب اطلاع ملی کہ علانی ہندویہ پہنچ کر لوگوں کو دھڑلے سے مہدوی بنا رہا ہے تو بادشاہ بہت تاملایا۔ مخدوم الملک مولانا عبداللہ سلطان پوری نے بادشاہ کو صلاح دی کہ علانی کو ہندویہ سے طلب کر کے اس پر حد شرعی لگائی جائے۔ چنانچہ علانی کو واپس آگرہ بلایا گیا۔ جب وہ دارالسلطنت میں پہنچا تو سلیم شاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے سامنے تازیانہ لگاؤ۔ جلا نے تیسری ہی ضرب لگائی تھی کہ طائر روح نے نفس عنصری سے پرواز کر کے اسفل السالمین کی راہ لی۔

مہدوی کفریات

مہدوی کہتے ہیں کہ سید جونپوری کی مہدویت کی تصدیق فرض اور اس کا انکار کفر ہے اور ۹۰۵ھ سے جب کہ مہدی علیہ السلام (یعنی جونپوری) نے مہدویت کا دعویٰ کیا جس قدر مسلمان دنیا میں گزرے یا قیامت تک پیدا ہوں گے سب اس انکار کے کافر مطلق ہیں۔

۲..... گو سید جو پنوری امت محمدی میں داخل ہیں۔ لیکن خلفائے راشدین اور تمام دوسرے صحابہ سے افضل ہیں۔

۳..... سید جو پنوری حضرت احمد مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء و مرسلین بالخصوص اولوالعزم رسولوں سے افضل ہیں۔

۴..... گو سید جو پنوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں۔ لیکن رتبہ میں آپ کے برابر ہیں۔ دونوں میں سروم بھی کمی بیشی نہیں ہے۔

۵..... احادیث نبویہ خواہ کسی ہی روایات صحیحہ سے مروی ہوں لیکن کوئی حدیث اس وقت تک صحیح اور قابل اعتماد نہیں ہے جب تک سید جو پنوری کے اقوال احوال اور الہامات کے مطابق نہ ہوں۔

۶..... سید جو پنوری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمان ہیں۔ ان کے سوا دوسرے لوگ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ عیسیٰ (علیہم السلام) ناقص الاسلام تھے۔ کوئی پیغمبر نیم مسلم تھا۔ کوئی ٹٹ اور کوئی ربیع البیتہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوسری مرتبہ آسمان سے نازل ہوں گے تو پورے مسلمان ہو جائیں گے۔ مہدوی کتاب ”انصاف نامہ“ کے بارہویں باب میں لکھا ہے کہ میاں خونہ میر نے سید جو پنوری سے کہا عالم انسانیت میں صرف دو مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ ایک آپ اور دوسرے محمد رسول اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) میراں محمد جو پنوری نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ بعض انبیاء کا سر مسلمان ہوا تھا۔ بعض کا داہنا پہلو کسی کے دونوں پہلو، مگر ہم دونوں سر تا پا مسلمان ہوئے ہیں۔

۷..... مہدوی کہتے ہیں کہ صحیح مہدی علیہ السلام کا اعتقاد رکھنا فرض ہے۔ صحیح کے یہ معنی ہیں کہ انبیاء اولیاء اور دوسرے مؤمنین اور مومنات کی روحیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سید جو پنوری کے حضور میں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کا داخلہ اور موجودات دیکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان ارواح کو حکم دیتا ہے کہ تم نے جس خزانہ سے نور لیا تھا پھر اسی عمل سے مقابلہ کر کے صحیح کرو۔

۸..... مہدویہ کی کتاب ”بیخ فضائل“ میں لکھا ہے کہ سید محمد جو پنوری نے اپنے داماد خونہ میر سے فرمایا کہ جس طرح بندہ کے پاس ارواح کی صحیح ہوتی ہے اسی طرح تمہارے پاس بھی ہوا کرے گی۔

۹..... کہتے ہیں کہ سید جو پنوری صاحب شریعت ہیں۔ شریعت جو پنوری شرع محمدی کے بعض احکام کی تاریخ ہے۔

۱۰..... مہدویہ کے نزدیک بعض صفات الوہیت میں حق تعالیٰ کے شریک ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب ”شواہد الولایت“ کے اکتیسویں باب میں لکھا ہے کہ مہدی علیہ السلام (جو چنپوری) نے فرمایا کہ مجھے جملہ موجودات کے احوال اس طرح معلوم ہیں جس طرح صراف سونے چاندی کو ہاتھ میں لے کر ہر طرف پھراتا ہے اور کما ہوا حقہ بچھاتا ہے۔

۱۱..... مہدویہ کی کتاب بیخ فضائل میں لکھا ہے کہ سید جو چنپوری نے اپنے خلیفہ میاں دلاور کے حق میں فرمایا کہ میاں دلاور پر عرش سے تحت المری تک ہر چیز اس طرح روشن ہے جس طرح ہاتھ میں رانگی کا دانہ ہو۔

۱۲..... مہدویہ کے زعم بیہودہ میں مہدی جو چنپوری کے اصحاب کا دہچہ محمد رسول اللہ (ﷺ) کے برابر ہے۔ چنانچہ کتاب ”شواہد الولایت“ کے اکتیسویں باب کی سینتیسویں خصوصیت میں لکھا ہے کہ جناب رسالت مآب نے مہدی کے اصحاب کا مرتبہ اپنے مرتبے کے برابر فرمایا ہے اور کتاب ”بیخ فضائل“ میں لکھا ہے کہ ایک روز میاں عبدالرحمن نے یہ حدیث پڑھی کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ مہدی کے اصحاب میرے بھائی اور مرتبہ میں میرے برابر ہیں۔ شاہ نظام مہدوی نے سن کر کہا کہ یہ صفت عوام اصحاب مہدی کی ہے۔ بڑے اصحاب کا مرتبہ اس سے بھی اور آگے ہے۔

۱۳..... کتاب بیخ فضائل میں لکھا ہے کہ ایک دن سب مہدوی صف بستہ بیٹھے تھے۔ جو چنپوری کے خلیفہ دلاور نے اپنی بیوی خود بخود اسے کہا: دیکھو ایہ وہ لوگ ہیں جو مرسلین کا مقام رکھتے ہیں اور کہا کہ مرسل اسے کہتے ہیں کہ ہتر جبریل اس پر وحی لائیں۔ لیکن بارہ آدمی ان سے بھی فاضل تر ہیں۔

۱۴..... مہدوی کتابوں میں لکھا ہے کہ مہدی جو چنپوری کے نواسے سید محمود بن خود میر کے ساتھ لڑکپن میں (معاذ اللہ) خدا ہی سے کھیل کر تاتھا۔

۱۵..... مہدویہ کی کتاب شواہد الولایت کے آٹھویں باب میں لکھا ہے کہ شیخ مہاجر مہدوی نے مردہ زندہ کیا اور حضرت مہدی موعود (جو چنپوری) نے اس کو صیسی علیہ السلام کا قائم مقام بتایا۔ مصنف کتاب مذکور لکھتا ہے کہ ذات مہدی کے فیض یاب کو چاہئے کہ مقام صیسی علیہ السلام پر فائز ہونے کے باوجود ”تم ہاؤن اللہ“ کہنے سے احتراز کرے۔

(اس فصل کے مندرجات طبقات اکبری، منتخب التواریخ بدایونی اور ہدیہ مہدویہ سے ماخوذ ہیں۔ راجد ولیپ رائے سے جوڑائی ہوئی اس کی تفصیل بہت مدت پہلے امرتسر کے ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ اغلب ہے کہ مضمون نگار نے کسی مہدوی کتاب سے اخذ کی ہوگی)

مولانا محمد زمان شاہ جہانپوری شہید نے اپنی کتاب ”ہدیہ مہدویہ“ میں بہت سے اور

مہدی کفریات بھی جمع کئے ہیں جو حضرات ان کفریات کی تردید معلوم کرنا چاہیں، وہ کتاب ”مہدیہ مہدویہ“ مطبوعہ کانپور (صفحات ۱۶ تا ۳۳) کی طرف رجوع کریں۔

۱۹..... حاجی محمد خراسانی

حاجی محمد کا تولد اور نشوونما فراہ واقع خراسان میں ہوا۔ سید جوہنوری کا مرید اور مسیحیت کا مدعی تھا۔ مہدویہ کی کتاب ”شواہد الولاہیت“ میں لکھا ہے کہ حضرت مہدی موعود (سید جوہنوری) نے فرمایا کہ اکثر انبیاء اور اولوالعزم رسول دعا مانگا کرتے تھے کہ بارخدا یا ہمیں امت محمدی میں پیدا کر کے مہدی (جوہنوری) کے گروہ میں داخل فرما۔ چنانچہ دیوان مہدی میں جو ایک مہدی کا کلام ہے لکھا ہے۔

بل چہ عالم کہ ز آدم و موسیٰ زیحییٰ و خلیل از موسیٰ

بودہ غایت بصحبتش ہوسے ہرچہ ہست از ولایت است ظہور

نقطۂ آن دائرہ مفضلان شد متمنلے ہمہ مرسلان

خواست زحق ہریکے از اولین رب اجعلنی لمن الآخیرین

سید جوہنوری نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سوا کسی کی یہ دعا

قبول نہ ہوئی۔ چونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم امت محمدی اور میرے گروہ میں داخل ہیں۔ اس لئے وہ

عنقریب آ کر میری ملاقات سے شرف اندوز سعادت ہوں گے۔

معلوم نہیں کہ حضرت ابن مریم علیہ السلام نے آ کر مہدی جوہنوری سے ملاقات کی تھی

یا نہیں۔ ہاں! مہدویہ کی ایک روایت میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جوہنوری کے داماد اور خلیفہ

خوند میر سے ملنا ضرور مذکور ہے۔ چنانچہ مہدویہ کی کتاب ”انصاف نامہ“ کے اشعار میں باب میں

لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میاں خوند میر نے فرمایا کہ میں آج رات پوری توجہ سے بیٹھا تھا اور میرا جی

(یعنی سید جوہنوری) کو چشم خود دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا میرا جی! مہتر عیسیٰ کب آئیں گے؟

فرمایا نزدیک۔ میں نے پوچھا آپ کے ساٹھ سال بعد آئیں گے۔ کہا نزدیک۔ پھر پوچھا آپ

کے چالیس سال بعد آئیں گے؟ کہا نزدیک۔ میں نے دریافت کیا دس سال بعد آ جائیں گے؟

کہا نزدیک۔ اس کے بعد ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ دیکھو! مہتر عیسیٰ حاضر ہیں۔ خود ان سے

پوچھ لو۔ میاں خوند میر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ سے

بہت سی باتیں دریافت کیں۔ لیکن یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ کب تشریف لائیں گے۔

ظاہر ہے کہ وہ تنفس جس سے خود میرے ملاقات کر کے باتیں دریافت کیں وہ یقیناً کوئی ایلیس زادہ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان اس سے کہیں ارفع ہے کہ وہ دنیا میں نازل ہو کر جھوٹے مدعیوں کی امت سے ملاقاتیں کریں۔ شیاطین اس قسم کے مخاطبہ مکالمہ سے بختورے نہایتی راہ زوان منزل تقدیس کو چکھے دیتے رہتے ہیں۔ کسی ریاکار عابد نے ایک دفعہ کسی مجبور و غلام شیطان کا جلوہ لیا تو بس وہ ہمیشہ کے لئے شیطان بھول جلیوں میں پھنسا رہ گیا۔ غرض یہ کہ جس طرح مہدی ایلیس کا ساختہ پر واضح تھا اسی طرح وہ عیسیٰ بھی جنود ایلیس میں سے تھا۔ جو خانہ ساز مہدی کا اشارہ تھا۔

پیران جو پوری کی دوسری روایت میں ان کے مہدی نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ کتاب شیخ فضائل میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ میراں جی (یعنی سید جو پوری) قضائے حاجت کے لئے جا رہے تھے۔ راستہ میں ان کے مرید حاجی محمد خراسانی نے ان سے پوچھا میراں جی! حضور تو تشریف لائے۔ عیسیٰ کب قدم فرمائیں گے؟ اس سوال کا جوابی وہ احادیث نبویہ ہیں جن میں مہدی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دمشق کے سفید مشرقی منار پر نازل ہونا مذکور ہے۔ سید جو پوری نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا کہ بندہ کے پیچھے ظاہر ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو عیسیٰ مہدی کی موت کے بعد ظاہر ہونے والا تھا وہ عیسیٰ ہی تھا اور نہ مہدی ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشادات نبویہ کے خلاف ابن مریم کو اپنے پیچھے آنے والا ظاہر کیا۔ شیخ فضائل میں ہے کہ جو نبی مہدی موجود ہے فرمایا کہ عیسیٰ، بندہ کے بعد ظاہر ہوں گے۔ حاجی محمد خراسانی کو حضرت عیسیٰ روح اللہ کا مقام حاصل ہو گیا۔ حالانکہ ارشادات نبویہ میں خود ذات باہرکات حضرت ابن مریم علیہ السلام کا نزول اجمالاً مذکور ہے نہ یہ کہ ان کی بجائے کوئی دوسرا ان کا حرمہ مقام حاصل کر کے انوائے خلق کا باعث ہے۔

پھر بھی انصاف سے دیکھا جائے تو ماننا ہے گا کہ حاجی خراسانی ہمارے قادیانی مسیح موجود سے پھر بھی حرمے میں رہا اس کو بے تکلف مقام سمیت حاصل ہو گیا۔ حالانکہ غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ بن مریم بننے کے لئے بڑی جانکام حالتوں سے گزرنا پڑا تھا۔ مثلاً غلام احمد پہلے مرد سے عورت بنا۔ پھر حاملہ ہوا۔ پھر اسی مہینہ کے بعد اس حمل سے لڑکا پیدا ہوا۔ اس پیدائش کے بعد مریم تو کہیں غائب اور مفقود ہو گئی اور لڑکا جو حرمہ ہوا وہ عیسیٰ بن مریم بن گیا۔ اس طرح غلام احمد قادیانی عیسیٰ بن مریم بنا۔ غرض قادیانی کو عیسیٰ بن مریم بننے کے لئے بڑے پانچ پیلے پڑے تھے۔ لیکن حاجی خراسانی کا خیال یہ تھا کہ وہ جسٹ میں عیسیٰ کا مقام پر پہنچ گیا۔

فرقہ مہدویہ کی کتاب بیخ فضائل میں مذکور ہے کہ مقام بیسوی پر پہنچ جانے کے باوجود حاجی محمد خراسانی کو اپنے بیروہرشد کی زندگی میں دعوائے مسیحیت کی جرأت نہ ہوئی۔ البتہ جونپوری کی رحلت کے بعد سندھ میں مگر ٹھہر کر طرف جا کر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ سچے مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام کے عہد عروج میں بذات خود جسدِ غضری کے ساتھ دمشق کے شرفی بیچارے پر نازل ہوں گے۔ بہر حال جب خراسانی نے مسیحیت کا دعویٰ کیا تو یہ امر جونپوری کے فرزند و جانشین سید محمود پر سخت شاق گذرا۔

سید محمود نے دیکھا کہ اس کے باپ کا ایک معمولی مرید جو نے دعویٰ کی بدولت ہامِ رفت پر پہنچنے والا ہے تو اس کے دل میں اپنی دکانداری کے مانع پڑنے کے خدشہ سے حسد پیدا ہوا۔ اس بناء پر اپنے دو خاص مرید خراسانی کے قتل پر مامور کئے۔ اس اثناء میں جب سندھ کے غیور حکمران کو معلوم ہوا کہ جونپوری کا ایک نام لیوا دعوائے مسیحیت کے ساتھ مطلق خدا کو گمراہ کر رہا ہے تو اس نے خراسانی کو زیرِ حراست کرنے کا حکم دیا۔ آخر اس کا سر قلم کر کے عبرت روزگار بننے کے لئے شہر کی عام گزرگاہ پر لٹکا دیا گیا۔ جب ان دو آدمیوں کو جو خراسانی کے قتل پر متعین ہوئے تھے معلوم ہوا کہ حاجی خراسانی مارا گیا ہے تو وہ سید محمود کے پاس واپس آ گئے۔ شاہِ دلاور مہدوی نے خراسانی کے قتل کی خبر سن کر بشارت دی کہ وہ ایمان سلامت لے گیا۔ غرغره کے وقت اس کی توپ بول ہوگی اور سید محمود کو اس کی ہلاکت کی اطلاع ہوئی تو بولا کہ حاجی محمد نے مہدی علیہ السلام یعنی جونپوری کی تصدیق کی تھی۔ اس لئے ضائع نہ ہوا۔

خونِ خاکِ انجام کا دھڑکا

اسلامی سلطنتوں میں تقدس کے دکانداریوں سے کبھی سلوک ہوتا رہا ہے جو خراسانی سے کیا گیا۔ اسی خونِ خاکِ انجام کے پیشِ نظر ہمارے قادیانی کونہ توج کے لئے کبھی کہ مظلوم جانے کی جرأت ہوئی اور نہ امیر عبدالرحمن دہلوی افغانستان کی دعوت پر کامل کا رخ کیا۔ غلام احمد نے امیر صاحب کو لکھ بھیجا تھا۔ میں مرسل بزدانی، مسیح زمان اور مہدی دوران ہوں۔ مجھ پر ایمان لا کر مجھ سے تعاون کرو۔ امیر صاحب نے اس کے جواب میں مرزا قادیانی کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ بے کلکا افغانستان چلے آئیے۔ اگر کتابِ وسعت کی روشنی میں آپ کے دعوؤں میں صداقت ہوگی تو نہ صرف میں خود بلکہ میری تمام رعایا بھی آپ کی پیروی کرے گی۔ لیکن باطل کی مجال نہیں تھی کہ ایک اسلامی گمراہ میں قدم رکھنے کا خطرہ گوارا کرتا۔

معلوم ہوا کہ کتاب ”ہدیہ مہدویہ“ کے صفحات ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴ پر مدعی مسیحیت کا نام شیخ محمد

خراسانی اور صفحات ۲۳۳، ۲۳۵ پر حاجی محمد فرہی لکھا ہے۔ بظاہر دو جدا گانہ ہستیاں معلوم ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ فراہ یافرہ خراسان ہی کا ایک شہر ہے۔ اس لئے شیخ محمد خراسانی اور حاجی محمد فرہی ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ محکم البلدان دیکھنا ہوگا۔

شیخ بھیک مہدوی

بعض ناواقف گمان کرتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی ہی وہ شخص ہے جس نے متحدہ ہندوستان میں سب سے پہلے خانہ ساز مسیحیت کی ذیلی بجا کر خلق خدا کو گمراہ کیا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ قادیانی سے پہلے بھی متحدہ ہندوستان میں متعدد مسیحان کذب شعار گذر چکے ہیں۔ جن میں قادیانی آخری ہے۔ مخبر صادق علیہ السلام کی پیش گوئیوں میں مذکور ہے کہ ظہور مہدی علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد حضرت مسیح علیہ السلام دمشق کے سفید شرتی بینار پر نزول فرمائیں گے۔ چونکہ مہدوی لوگ جو چوہری کو سچا مہدی یقین کرتے تھے۔ اس لئے وہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے لئے چشم براہ تھے۔ لیکن ان کے خلاف توقع مسیح علیہ السلام قدم فرمانہ ہوئے۔ کیونکہ ان کی تشریف آوری تو سچے مہدی کے ظہور سے وابستہ ہے۔

آخر جو چوہری کے مریدوں میں ایک شخص جس کو شیخ بھیک کہتے تھے۔ مسیح موعود بن بیٹھا۔ جو چوہری کے حیر و چوہری کو ”میراں جی“ کہتے تھے۔ اس دعوے کے بعد جب شیخ بھیک، میراں جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا تجھ کو عیسیٰ کس نے بنایا؟ کہنے لگا اسی نے جس نے آپ کو منصب مہدویت بخشا۔ میاں جی نے کہا تو جھوٹا مسیح ہے۔ کیونکہ تیری ماں تو فلانی تھی۔ آنے والے مسیح علیہ السلام تو جناب مریم طاہرہ کے فرزند ہوں گے اور ڈانٹ کر کہا اگر تو دوبارہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔

اس وقت تو شیخ بھیک پر اس وعظ و تلقین کا کچھ اثر نہ ہوا۔ لیکن چند روز کے بعد خود ہی اس دعویٰ سے تائب ہو گیا۔ میراں جی نے کہا آپ بالائے آسمان سے کس طرح اتر آئے؟ پھر خود ہی کہہ دیا کہ ہاں یہ بھی ایک مقام تھا۔

ابراہیم بزلہ مہدوی

مہدویہ کی کتاب ”انصاف نامہ“ میں لکھا ہے کہ جو چوہری کے مریدوں میں ابراہیم بزلہ نے بھی عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس سے بھی کہا تھا کہ تو جھوٹا مسیح ہے۔ کیونکہ سچے مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام مبارک مریم ہے اور تیرے ماں باپ فلانے ہیں۔

(ہدیہ مہدویہ ص ۱۷۳)

معلوم نہیں کہ میان بزلہ اس کے بعد تائب ہو کر سنبھل گیا یا قادیانی مرزے کی طرح
برابر اپنی عنفونت فشاں مسیحیت سے فضائے عالم کو کھد کر تارہا۔

موقع کی رعایت سے یہاں سچے مسیح موعود علیہ السلام کی تشریف آوری سے متعلق
حضرت سرور انامہ علیہ السلام کے چند ارشادات گرامی سپرد قسطاں کئے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو
بسہولت معلوم ہو سکے کہ ان مدعیان مسیحیت کے وعوڈوں میں صداقت کا کہاں تک کوئی شائبہ تھا۔

احادیث نزول مسیح بن مریم علیہ السلام

..... ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیہلک اللہ فی زمان

المسیح ابن مریم الملل کلھا الا الاسلام (رواہ احمد ج ۲ ص ۴۳۷، وابوداؤد ج ۲

ص ۱۳۵، قال ابن حجر فی الفتح حدیث صحیح) ” حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام

ملتوں کو معدوم کر دے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ حضرت ابن حجر

عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ﴿

..... ۲ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسی ذات برتر کی قسم کہ جس

کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ابن مریم حاکم عادل ہو کر تم میں اتریں گے۔ پھر صلیب کو

توڑ دیں گے اور خنزیر کو ہلاک یعنی معدوم کر دیں گے اور جزیہ کو اٹھادیں گے اور مال کی بڑی کثرت

ہوگی۔ یہاں تک کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا۔ لوگوں کو عبادت اور توجہ الٰہی اللہ سے اس قدر شغف

ہوگا کہ لوگوں کو ایک ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہوگا۔

(رواہ البخاری ج ۱ ص ۴۹۰، مسلم ج ۱ ص ۸۷، وابوداؤد الترمذی)

..... ۳ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا کی قسم! ابن مریم حاکم

عادل کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے۔ پس صلیب کو توڑ دیں گے۔ خنزیر کو ہلاک کر ڈالیں

گے اور جزیہ کو برطرف کر دیں گے۔ جوان اوٹھیاں چھوٹی پھریں گی۔ ان پر کوئی سواری نہ کرے گا۔

لوگوں کے دلوں سے کینہ اور حسد و بغض جاتا رہے گا۔ لوگوں کو مال و زر کی طرف بلائیں گے۔ لیکن

کوئی قبول نہ کرے گا۔ (رواہ مسلم)

..... ۴ نواس بن سحمانؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ان اشغال و اعمال

میں مصروف ہوگا کہ خدائے برتر تا کہاں مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ سفید مینار کے پاس

جو دمشق کے مشرق میں واقع ہے اپنے دونوں ہاتھ دفرشتوں کے پردوں پر رکھے ہوئے

اتریں گے۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو ہاتھوں سے موتیوں کی مانند نقرئی رنگ کے قطرے گریں گے کوئی کافر ایسا نہ ہوگا کہ جسے ان کے سانس کی بھاپ لگے گی اور وہ ہلاک نہ ہو جائے گا۔ ان کی سانس منجمد ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت مسیح و جلال کو تلاش کریں گے اور اسے باب لد میں قتل کر دیں گے۔ (رواہ مسلم)

۵..... حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے ایسی ذات پاک کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ابن مریمؑ اور وہا سے (جو کہ خود دین کے درمیان ایک جگہ سے۔ نووی) حج کا احرام باندھے ہوئے گزریں گے (یعنی شام سے آتے ہوئے۔ رواہ مسلم) لیکن ریلوی کوٹھک ہے اسے یاد نہیں رہا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے حج کا احرام بتایا تھا یا عمرہ کا یا قرآن کریں گے۔ حاجاً اور معتماً اور یوشینینہما!

(رواہ مسلم ج ۱ ص ۳۰۸، مسند احمد ج ۲ ص ۵۱۳، ابوبکر بن ابی شیبہ و اخرج احمد و ابن جریر و ابن عساکر و ابن عساکر و ابن عساکر) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری کسی (خوشگوار) حالت ہوگی جب کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا نام تم ہی میں سے ہوگا۔ (رواہ البخاری و مسلم) ”تمہارا نام“ اس سے مراد مہدی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔

۷..... حضرت جابر انصاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے قیامت تک کوئی نہ کوئی جماعت حق پر قائل کرتی رہے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ مسلمانوں کا حاکم ان سے کہے گا۔ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت مسیح فرمائیں گے نہیں! تم ہی نماز پڑھاؤ کہ خدا نے اس امت کو بڑا شرف بخشا ہے۔ (رواہ مسلم)

۳۰..... بایزید جالندھری

بایزید روشن شہر قتی پنجاب میں بمقام جالندھر ۹۳۱ھ میں پیدا ہوا۔ نبوت کا دعویٰ تھا۔ اس کا قول تھا کہ جبریل اللہ صبرے پاس رب العالمین کی طرف سے پیغام لاتے ہیں اور میں خالق کون و مکان کو اپنی زبان خدا تکھوں سے دیکھتا ہوں اور جلا تو وسط جبریل علیہ السلام بھی خداوند عالم سے بالمشافہ گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ بایزید کی غلط فہمی تھی۔ وہ واقعی اپنی دوا تکھوں سے کئی نہایت حسین

۱..... مسئلہ ایک مسکین ہے۔ یہاں سے تقدس کے لئے گاڑی بدل جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی نسبت صاحب مختلف الراء نے مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح و جلال کو باب لد پر قتل کرے۔ (افضل نقابین سورہ ۱۶، ترجمہ ۱۹۲۳ء)

و جیل نورانی ہستی کو دیکھتا ہوگا۔ لیکن جس نورانی ہستی کو وہ از حالت و کوری خدائے برتر گمان کرتا تھا اور اس سے ہالشاہ گھنگو ہوتی تھی وہ شیطان تھا۔ کوئی بشر خواہ وہ خدائے برگزیدہ انبیاء و رسل ہی کیوں نہ تھے خدائے واحد کو دہر دینا اس برای افسوس نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ جنت میں اہل ایمان کو جو آنکھیں عطاء ہوں گی ان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ خدائے بے کیف کو دیکھیں۔

بایزید نے اپنا لقب ”روشن“ غیر رکھا تھا اور اپنے دام افتادوں سے کہا تھا کہ مجھے غیب سے عطا ہوتی ہے کہ تمہیں سب لوگ روشن ہی کہا کریں۔ چنانچہ اس کے عہد و اسے ہمیشہ اسی لقب سے یاد کرتے تھے۔ گو عاتہ العالمین میں وہ تاریک عہد کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ بایزید صاحب تصانیف تھا۔ عربی، فارسی، ہندی اور پشتو چار زبانوں میں کئی ایک کتابیں لکھیں۔ اس کی ایک کتاب ”خیر البیان“ ہے جسے چاروں مذکورہ زبانوں میں تالیف کیا تھا۔ کہتا تھا کہ خیر البیان کلام الہی ہے۔ اس میں صرف وہ باتیں ہیں جو رب العالمین نے مجھ سے ہالشاہ کہیں۔

بایزید کلام الہی کے حقائق و معارف بیان کرنے میں بے طوئی رکھتا تھا اور دلوں پر اس کے بحر علمی کا مسکہ جما ہوا تھا۔ اس کے دعوائے نبوت سے پہلے مرزا محمد حکیم خلیفہ ہمایوں بادشاہ صوبہ دار کابل نے اپنے دور پار میں کسی مسئلہ پر علمائے کابل سے اس کا مناظرہ کر لیا۔ علمائے کابل مسائل فقہ پر پوری طرح حاوی تھے۔ اس لئے وہ اپنی فقہی روایات لے کر مقابلہ کو آئے۔ مگر بایزید کے مقابلہ میں حصص روایات و محتوات سے کام نہیں چلتا تھا۔ علماء نے شکست کھائی اور صوبہ دار اس کی خوبی تعریف و تحسین گویا، شہتہ بیانی اور زور کلام کی بناء پر اس کا مستحق اور گرویدہ ہو گیا۔

بایزید کو مناظرہ و مجاہدہ اور منطقی موٹھا گانوں میں بے طوئی حاصل تھا۔ علم جہل نے اس کے دل و دماغ میں غرور و پھرار کے کیڑے بھر دیئے تھے۔ اس لئے زمانہ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ایسے لوگوں سے تو حق الہی مسلوب ہو جاتی ہے اور خدائے غیور و بے نیاز انکس ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حرام نصیب ہیں جنہیں شیاطین اپنی کھچلی مٹا کر ہر قسم کا ناخوش چھاتے ہیں اور انہوں نے اللہ کی سرگرمیوں میں جس طرح چاہتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ شیاطین کو نورانی شکلوں میں دیکھ کر انہیں خدائے برتر یقین کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے ہر حکم کے سامنے بلا تامل گردن ڈال دیتے ہیں۔

اگر بایزید ان آدمیوں کو جن میں اسے منصب نبوت پر قائم ہونے کا حزمہ ستایا جاتا تھا۔ کتاب و سنت اور مسلک سلف صالح کے معیار پر پرکھنے کی رحمت گوارا کرتا یا کم از کم اس پر کسی تنبیح و نصحی طریقہ کا اہل ماعتت سلیہ لگن ہوتا تو معاصی نہ پاتا جاتا کہ یہ سب انہوں نے شیطان

ہے۔ لیکن چونکہ عجب وغرور کی پاداش میں توفیق الہی اٹھ چکی تھی۔ دوسرے قادیانی مرزے کی طرح قطعاً بے مرشد تھا۔ اس بناء پر شیاطین کی نورانی شکلوں کو رب العالمین اور ان کی آوازوں کو خدائی مکالمہ و مخاطبہ گمان کر کے مناجات کے اسفل السافلین میں جاگرا اور دعوائے نبوت کر کے ہمہ تن اغوائے غلطی میں منہمک ہوا۔

کچھ مدت کے بعد پشاور کی طرف گیا اور غور یا خیل پٹھانوں میں جا کر رہنے لگا۔ چونکہ اس علاقہ میں علماء عتقا کا حکم رکھتے تھے۔ مزاحمت و تردید کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسے نبوت کی دکانداری میں بڑا فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ اس سرزمین میں بلا شرکت غیرے پیشوائی کا تاج و تخت حاصل کر لیا اور قریب قریب ساری قوم خیل اس کی مطیع ہو گئی۔ پھر ہشت نگر میں گیا۔ یہاں بھی اس کی دکان خدع خوب چلی۔ مگر جب اس کے دعوائے نبوت کا شہرہ ہوتا تو علماء مباحثہ کے لئے امنڈ آئے۔ ایک عالم تبحر اخوند درویشہ سے اس کا مناظرہ ہوا۔ چونکہ ختم نبوت کے مسئلہ میں کوئی منطقی الجھنیں نہیں تھیں۔ اس وجہ سے بایزید مغلوب ہو گیا۔ مگر اس کے پیرو ہمارے ہاں کے گم کردگان راہ مرزائیوں کی طرح ایسے خوش اعتقاد تھے کہ اخوند درویشہ کی تمام تر مساعی رائیگاں گئیں اور مرتدین میں سے کوئی بھی تابع نہ ہوا۔

جب بایزید کے دعوائے نبوت اور مذہبی غارت گری کا حال محسن خاں نے سنا جو اکبر بادشاہ کا صوبہ دار ہونے کے باوجود ایک دیندار حکمران تھا تو وہ بہ نفس نفیس ہشت نگر آیا اور اسے گرفتار کر کے کابل لے گیا۔ مدت تک کابل میں فقہان بلا کی مشقتیں سہتا رہا۔ آخر کسی حیلہ سے رہا ہو کر ہشت نگر واپس آیا اور اپنے تمام پیروؤں کو جمع کر کے طوطی کے پہاڑوں میں گھس گیا۔ کچھ مدت تک مورچہ بندیوں میں مصروف رہا۔ وہاں سے سیاحت کا حیلہ کر کے تیراہ آیا اور وعظ و تذکیر کے فسوں پھونک کر آفریدی اور دراکر زئی پٹھانوں کو بھی اپنے دام تزویر میں پھانس لیا۔ آزاد سرحدی قبائل کے دلوں میں اس کی عقیدت کی گرمی اس شدت سے دوڑنے لگی۔ جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے۔

سرحدی عقیدت مندوں کے دل مسخر کرنے کے بعد بایزید، اکبر بادشاہ کی اطاعت سے خارج ہو کر اس کا حریف مقابل بن گیا اور کھلم کھلا علم ستیزہ کاری بلند کر دیا۔ باوجودیکہ بایزید الحادو بے دینی میں اکبر کا شئی تھا تاہم وہ بے پناہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ اکبر بادشاہ سخت بے دین ہے اور اس کی اطاعت ہر مسلمان پر حرام ہے۔ اس نشریہ کا یہ اثر ہوا کہ اکثر سرحدی قبائل اکبر اکفر سے منحرف ہو گئے۔ بادشاہ کو بایزید کی مخالفانہ سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے ایک لشکر جزار اس کی سرکوبی

کے لئے روانہ کیا۔ لیکن شاہی لشکر خود ہی سرکوب ہو کر بھاگ آیا۔ اس فتح سے بایزید کے حوصلے اور بڑھے اور اس کی نظر میں شاہی افواج کی کوئی حقیقت نہ رہی۔

کچھ مدت کے بعد اکبر نے بایزید کے خلاف ایک فوج گراں روانہ کی اور صوبہ دار کابل کو بھی کابل کی طرف سے یورش کرنے کا حکم دیا۔ محسن خاں صوبہ دار کابل بایزید پر چڑھ آیا اور ادھر سے شاہی فوج نے اس پر یورش کی بایزید دو طرفہ فوجوں کے مقابلہ سے عہدہ برآ نہ ہو سکا اور شکست فاش ہوئی اور اس نے ہشت نگر کی طرف بھاگ کر جان بچائی۔ اب بایزید ازسرنو فرامی لشکر میں مشغول ہوا۔ لیکن اس اثناء میں موت کا فرشتہ پیام اجل لے کر آ پہنچا۔ افغانستان کے سلسلہ کوہ میں بخت پور کی پہاڑی پر اس کی قبر ہے۔

معلوم نہیں کہ بایزید نے کس سال دعوائے نبوت کیا اور کس سال مرا۔ تاہم اس کی مدت نبوت داغواء بڑی طویل تھی۔ بایزید کے متصوفانہ اقوال جن کی بناء پر سادہ لوح ظاہرین اس کو عارف باللہ اور خدا کا پیغمبر یقین کرتے تھے۔ اس کی کتاب ”حال نامہ“ میں درج ہیں۔ اس کتاب کے کچھ اقتباس کتاب ائمہ تلمیذ صفحات ۳۵۹ تا ۳۶۱ میں ملاحظہ ہوں۔

بایزید کے بعد اس کا بیٹا شیخ عمر باپ کا جانشین ہوا۔ پیر روشن کے تمام پیر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ یوسف زئی قبیلہ کے پیشوا اخوند درویزہ تھے۔ اخوند درویزہ یوسف زئیوں کو ساتھ لے کر جمونے نبی کی امت پر چڑھ دوڑے۔ اس لڑائی میں شیخ عمر اور بایزید کا ایک اور بیٹا خیر الدین مارے گئے۔ اس کا ایک بیٹا جلال الدین قید ہوا اور سب سے چھوٹا بیٹا نور الدین ہشت نگر بھاگ گیا۔

جلال الدین قید سے رہا ہو کر فتح پور سیکری گیا اور اکبر بادشاہ سے ملاقات کی۔ اکبر اسے جلالہ کہا کرتا تھا۔ فتح پور سیکری سے واپس آ کر جلالہ نے کابل کا راستہ قطعاً مسدود کر دیا اور ہرنی شروع کر دی۔ اکبر نے ۹۹۳ھ میں اپنے مشہور سپہ سالار راجہ مان سنگھ کو جو اس کی ایک ہندو بیوی کا بیٹا تھا چند دوسرے فوجی افسروں کی رفاقت میں اس کے مقابلہ کو بھیجا۔ جلالہ کئی سال تک شاہی فوجوں سے برسر مقابلہ رہا۔ ان محاربات کی تفصیل ”اکبر نامہ اور منتخب التواریخ“ میں درج ہے۔ آخری معرکہ میں بایزید کا پانچواں بیٹا کمال الدین اسیر ہوا۔ اکبر نے تادم واپس اسے قید رکھا۔ جلالہ کے بعد بایزید کا پوتا اعداد بن عمر خلیفہ بنایا گیا۔ ہزار ہا افغان اس کے حلقہ ارادت میں داخل تھے۔ جہانگیر بادشاہ نے اعداد کے خلاف ۱۰۳۵ھ میں ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ اسی لڑائی میں اعداد مارا گیا۔ اس کے دام امتدادہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی سورت ”قل هو اللہ احد“ اعداد ہی کی شان میں نازل ہوئی تھی۔

احمد اور کا پوتا عبدالقادر ناپ کا پانچویں ہوا۔ لیکن یہ ترک مخالفت کر کے شاہ جہان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے شاہ جہانی میں داخل ہو گیا۔ جلالہ کا ایک پرنس اور شاہ جہان بادشاہ کی طرف سے رشید خانی خطاب اور منصب چار ہزاری سے سرفراز تھا۔ (دستان مذاہب وغیرہ)

۲۱..... احمد بن عبداللہ سلطجاسی

ابوالعباس احمد بن عبداللہ بن محمد سلطجاسی مغربی معروف بہ ابن ابی علی مؤلف کتاب عذراء الوسائل و ہودج الرسائل مہدویت کا مدعی تھا۔ ۹۶۷ھ میں بمقام سلطجاسہ جو ملک غرب میں پیدا ہوا۔ عقوان شباب میں فارس گیا اور وہاں کے علماء سے اکتساب علوم کرتا رہا۔ پھر حج کر کے مصر گیا اور طوائف مصر سے علمی تہذیب حاصل کئے۔ اس کے بعد اس نے حضرت مہدی منتظر علیہ السلام کے ظہور کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس میں ان کے اوصاف، بیحد اور طلمات خاصہ درج کئے۔ گو اس میں ضعیف روایتوں کی بھی خوب برآمد کر رکھی تھی۔ تاہم کتاب من حیث المجموع مفید ثابت ہوئی۔

یہ تالیف گویا دعوائے مہدویت کی تہیہ تھی۔ چنانچہ ۱۰۳۱ھ میں اس نے دعوائے مہدویت کر دیا۔ ہزار ہا لوگوں نے اس کی متابعت کی۔ اس شخص کا معمول تھا کہ دو سائے قبائل اور عمائد بلاد کی طرف خطوط بھیج بھیج کر ان کو اعمال مناظر بجالانے اور سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتا اور چٹھی کے انہر میں لکھ دیتا کہ میں دعویٰ مہدی منتظر ہوں۔ جس کے ظہور کی حضرت خیر صادق نے پیش گوئی کر رکھی تھی جو میری متابعت کرے گا وہ سچ دکا مگار ہوگا اور جو کئی مختلف رہے گا۔ تعزیرات میں پھانسی ہے گا۔ یہ شخص اپنے شاگرد عقینوں سے کہا کرتا تھا کہ تم لوگ منتظر مہدی کے اصحاب سے افضل ہو۔ کیونکہ تم ایک بائبل زمانہ میں حضرت حق کے لئے کھڑے ہوئے ہو اور صحابہ کرام میں حق میں تا کی حق کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔

جب اس کے پیروؤں کی تعداد بڑھ گئی تو اس نے اہل معروف اور نجی عن اہل مکر کا دعویٰ شروع کیا۔ جس کے ضمن میں اپنے پیغمبر کو ملک گیر کی ترغیب دیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ۱۰۶۳ھ میں ہجرت کر کے اہل اہل کی اہل اہل کی اہل اہل کی اہل اہل کا شیوہ اختیار کیا۔ بھولوں کو لوٹا اور اکثر کو بلا وطن کر دیا۔ جب کوئی کہتا کہ حسب اہل اہل اہل سلطان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں تو جواب دیتا کہ میرا فیضان و نقب محض اللہ کے لئے ہے۔

ان ایام میں مراسم کی سر زمین سلطان زیدان کے زیرِ قلم تھی۔ جب زیدان کے عامل حاج میر نے اس کی روز افزوں چہرہ و ستیاں مشاہدہ کیں تو چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ اس کی سرکوبی کو نکلایا۔ ابن ابی عمی اس کے مقابلہ میں اپنے مریدوں کو لے کر نکلا۔ لڑائی ہوئی۔ جس میں حاج میر کو ہزیمت ہوئی۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ابن ابی عمی کے ہر دوں پر تھیما اثر نہیں کرتے۔ غرض دوںوں پر اس کا رعب چھا گیا۔ اس فتح کے بعد اس نے بلا حرجت کجما سے پر قبضہ کر لیا۔ وہاں ہر طرح سے عدل و انصاف کا شیوہ اختیار کیا اور مظلوموں کی خوب دلوری کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رعایا اس کو بہت چاہنے لگی۔

یہ حالت دیکھ کر مالِ تھساں بلور راشد یہ کے وفد اس کو مبارک باد دینے آئے۔ ان وفد میں فقیر نظام الدین سید جرائی معروف بہ قدوہ شہار بھی تھے۔ جب سلطان زیدان کو حاج میر کی ہزیمت کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی عبداللہ بن منصور معروف بہ زہدہ کو فوج دے کر اس کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ وہ کے مقام ہر دوں لشکروں کی قیادت میں پہنچے۔ عبداللہ کو شکست ہوئی اور اس کی فوج کے تین ہزار آدمی مارے گئے۔ اس فتح کے بعد ابن ابی عمی کی شوکت شریا سے ہاتھیں کرنے لگی۔ جب سلطان زیدان کے سپہ سالار پولس کو اس ہزیمت کی اطلاع ہوئی تو وہ سلطان سے کٹ کر ایک بڑی جمعیت کے ساتھ ابن ابی عمی کے پاس چلا آیا اور اس کو سلطان کے اہل ارادہ دنیا پر حطع کر کے اس پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دی اور اس کو یقین دلایا کہ سلطان کا مغلوب کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

مراسم پر قبضہ

پولس کی اس تحریک پر ابن ابی عمی لاؤ لشکر لے کر مراسم پر چڑھ گیا۔ سلطان زیدان ایک لشکر جرائے کر مقابلے پر آیا۔ پرنگالی نصاریٰ نے سلطان زیدان کی کمک پر مطالب ایک دست فوج روانہ کیا لیکن سلطان کو اس بات پر شہرت آئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انکار سے مدد لے۔ تاہم سلطان نے اس احسان کے عوض میں پرنگالی قیدیوں کو رہا کر دیا اور تمام قیدیوں کو پرنگالی دست فوج کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اب لڑائی شروع ہوئی۔ ابن ابی عمی نے سلطان کو شکست دی اور اس نے شہر مراسم پر عمل ہو ڈھل کر لیا۔ زیدان جان بچا کر ایک مقام پر اللہ وہ کی طرف بھاگ گیا۔

ایک عالم دین کا سلطان کو ملک واپس بولانا

کچھ مدت کے بعد سلطان زیدان ملک کے مشہور عالم فقیر ابو زکریا بھٹی بن عبداللہ

داودوی کے پاس گیا جو کوہ ورن میں مقیم تھے۔ فقیہ نجفی کے شاگردوں اور پیروؤں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ زیدان نے جا کر کہا آپ حضرات بحیثیت میری رعایا میں داخل ہیں۔ اب میں آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دشمن نے مجھے میری سلطنت سے بے دخل کر دیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں میری مدد کرو۔ فقیہ ابو زکریا نجفی نے اس دعوت کو لبیک کہا اور ۸ رمضان ۱۰۲۲ھ کو اپنے تبعین کی معیت میں مراکش کی طرف کوچ کر دیا۔ علامہ ابو زکریا نجفی نے مراکش کے مضافات میں پہنچ کر موضع جملیر میں قیام کیا اور دوسرے دن مراکش پر چڑھ دوڑے۔ ابن ابی علی بھی مقابلے پر آیا۔ فقیہ کاشغر اعداء کی صفوں میں گھس پڑا اور جو سامنے آیا اسے فنا کر کے رکھ دیا۔ غرض نسیم فتح فقیہ کے روایت کے میمون پر چلی۔ ابن ابی علی کو ہزیمت ہوئی اور وہ میدان جانتان کی نذر ہوا۔

جھوٹے مہدی کا سر شہر کے صدر دروازے پر

اب فقیہ ابو زکریا نے حکم دیا کہ ابن ابی علی کا سر کاٹ کر شہر کے صدر دروازے پر لٹکا دیں۔ مٹھا اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ اسی طرح اس کے دام امتدادوں کے سر بھی کاٹ کاٹ کر شہر کے دروازوں پر لٹکا دیئے گئے۔ اس کے بعد فقیہ صاحب مراکش کی سلطنت سلطان زیدان کے سپرد کر کے واپس آئے۔ ابن ابی علی اور اس کے پیروؤں کے سر بارہ برس تک مراکش کے دروازوں پر لٹکے رہے۔ ابن ابی علی کے باقی ماندہ پیرو کہتے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ بلکہ کچھ مدت کے لئے نظروں سے غائب ہوئے ہیں۔

تین سال تک برسر حکومت رہنے کی پیشین گوئی

شیخ یوسف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابن ابی علی اپنے استاد ابن مبارک کے پاس بیٹھا تھا۔ اتنے میں اچانک یہ کہنا شروع کیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔ استاد نے کہا احمد امانا کہ تم بادشاہ ہو جاؤ گے۔ مگر یاد رکھو کہ اس ادج عروج کے بعد نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکو گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن ابی علی صوفیوں کی ایک خانقاہ میں گیا اور کہنا شروع کیا کہ میں سلطان ہوں۔ میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب دجد و حال صوفی صاحب اس کے جواب میں کہنے لگے کہ تین سال۔ تین سال، چوتھا نہیں۔ چنانچہ وہ تین ہی سال تک برسر حکومت رہا۔

زوال پذیر حکومت کے حصول کی دعا

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ابن ابی محلی مکہ معظمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ الہی! تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول حق ہے۔ ”وتسلك الايام نداولها بين الناس“ اور ہم ان ایام کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ جب یہ حالت ہے تو بار خدایا! تو مجھے دولت و حکومت دے۔ لوگوں میں سرفرازی بخش۔ ابن ابی محلی نے بارگاہ خداوندی میں زوال پذیر حکومت کی تو درخواست کی۔ لیکن حسن عاقبت کا سوال نہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ داہب العطا یا نے اس کو دولت و حکومت سے تو چند روز سرفرازی بخشی لیکن حسن خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔

ابن ابی محلی صاحب تصانیف تھا۔ اس کی مشہور کتابیں یہ ہیں: (۱) منجنيق الصّخور في الرد علي اهل الفجور۔ (۲) وضاح۔ (۳) قسطاس۔ (۴) اصلیت۔ (۵) هورج۔ (۶) ابو علی سطلی کے رسالہ کار و غیرہ۔ (کتاب الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصی و کتاب الیواقیت الثمینہ فی اعیان عالم المدینہ تالیف محمد البشیر ظافر الازہری)

۲۲..... مرزا علی محمد باب شیرازی

اگرچہ باطنیت مرتد اندہ آزاد یوں کا دروازہ کھول کر خود کتم عدم میں مستور ہو گئی۔ مگر اس کا زہریلا اثر بابیت اور مرزائیت کی شکل میں آج تک موجود ہے۔ بابیت کا بانی مرزا علی محمد باب ۱۲۳۵ھ کو شیراز میں متولد ہوا۔ علی محمد مہدی موعود ہونے کا مدعی تھا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ ابتداء ہی سے اپنی مہدویت کی رٹ لگائی تو لوگ اس کے سننے کو تیار نہ ہوں گے۔ نہایت ہوشیاری سے ارادہ کیا کہ دعوائے مہدویت سے پہلے صاحب الزمان مہدی علیہ السلام کا باب یعنی واسطہ اور ذریعہ بنوں۔ غلام احمد قادیانی بھی ایسا ہی کرتا رہا۔ جب وہ دیکھ لیتا کہ اس کے بندگان محور پہلے دعوے کے تحمل ہو گئے تو ایک اور قدم اٹھا کر ان کے گلوں میں ایک اور دعویٰ کا طوق ڈال دیتا تھا۔

مرزا علی محمد ۱۲۶۰ھ میں جب کہ اس کی عمر پچیس برس کی تھی۔ شیراز آیا اور اپنے آپ کو باب (دروازہ) کے لقب سے متعارف کرانا شروع کیا۔ بابیت سے اس کی یہ مراد تھی کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے فیوض کا جو ہنوز پرودہ غیب میں مستور ہیں واسطہ و ذریعہ ہے۔ تھوڑی

مدت کے بعد وہ ہندی ہونے کا مدعی ہوا۔ جوڑی ظلم لوگ آقا زکار میں اس پر ایمان لائے۔ ان کو اکتاف ایران میں اپنے شہریہ کے لئے پھیلا دیا اور خاص خاص قاصدوں کو سلاطین عالم کے پاس بغرض دعوت روانہ کیا۔ مہملی علماء نے اس کی تکفیر کی اور اس کے نقل و قدر کا فتویٰ دیا۔ ملک میں علی محمد کے خلاف سخت برہمی پھیل گئی۔ حسین خان حاکم فارس نے باب کے سرگرم داعی ملا صادق مقدس کو کوڑے لگوائے اور ملا صادق مرزا علی محمد ہار فردوسی اور ملا علی اکبر ستانی تینوں کی ڈاڑھیاں منڈوا کر انہیں کوچہ بازار میں گھسیٹ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد حاکم فارس نے ملا علی کو اجابہ دیدہ پر باب کو طلب کیا اور اس کو علماء کی موجودگی میں بڑی سرزنش کی۔ اس کے جواب میں علی محمد بھی سخت کلامی پر اتر آیا۔ حاکم نے پیادوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ لاقوں اور گھونسوں سے باب کی تواضع کرنے لگے اور اس کو بہت برا لیل کیا۔

جب شاہ امیر ابن محمد شاہ کو باب کے دعوائے مہدویت اور اس کے روز افزوں حلقہ اثر کا علم ہوا تو اس نے شیعہ مذہب کے بڑے مجتہد سید نجی دارابی کو حکم دیا کہ شیراز جا کر باب کے دعوے کی حقیقت معلوم کرے۔ نجی دارابی نے شیراز پہنچ کر باب سے ملاقات کی اور اس کی باتیں سن کر اس کا گردیدہ ہو گیا اور حلقہ مرہون میں داخل ہو کر مختلف بلاد و اصناف کی سیاحت شروع کر دی اور بڑے مطہرات سے باہمی مذہب کی اشاعت کی۔ ان ایام میں شیراز ندان میں ملا محمد علی نام ایک شیعہ مجتہد کا طفولی بول رہا تھا۔ اس نے باب کی تحریریں پڑھیں تو اس پر غائبانہ ایمان لے آیا اور اسی دن بایست کی دعوت دینے لگا۔ زہانت کا اکثر باشندے باہمی ہو گئے۔

۲۱ رمضان کی رات کو بعض مخالف اس کے مکان میں گھس گئے اور دشنام دہی کے بعد باب کو بہت بری طرح زد و کوب کیا۔ اسی طرح اس کے چہرہ بھی بری طرح مارے پیئے گئے۔ اس لئے باب شیراز سے اصفہان چلا گیا۔ منوچہر خان حاکم اصفہان اس کا حتمہ ہو گیا اور درپردہ اس کا مذہب قبول کر لیا۔ اب باب کھلے بندوں اہل اصفہان کو اپنی مہدویت کی دعوت دینے لگا۔ تمام علماء اور حامیان مذہب نے مخالفت کی۔ اب بعض جو شیعہ حامیان مذہب نے اس کی سرکوبی کا قصد کیا۔ باب کو مظلوم ہوا تو وہ ایک سرائے میں چھپ گیا۔ لیکن منوچہر نے اس کو اپنی مخالفت میں لے لیا۔ منوچہر نے علماء اصفہان کو ذلیل اور لاجواب کرانے کی کوشش میں ایک مجلس مظاہرہ قائم کی۔

باد جو دیکھ سہاخشہ میں باب کا بری طرح ناخفقہ بند ہوا اور وہ کسی بات کا جواب نہ دے سکا۔ تاہم منوچہر حاکم اصفہان کی خوش اعتقادی میں کچھ بھی فرق نہ آیا۔ چھ مکتبہ دو علانیہ باب کی تائید نہیں کر سکتا تھا اور رعیت کا جوش ہرم بند رہا تھا۔ منوچہر نے غضب آور دعویٰ کی تسکین خاطر کے لئے ظاہر تو یہ حکم دیا کہ باب کو تہران بھیج دیا جائے گا۔ لیکن درپردہ اپنی غلطی خاص میں اس کو جکڑ دی اور اسے کہہ دیا کہ آپ کو میرے ماں و اسباب میں ہر طرح سے تعریف کرنے کا حق ہے۔ لیکن چار مہینوں کے بعد منوچہر مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری جائیداد باب کے نام ہے کر دی تھی۔ منوچہر کی ہلاکت کے بعد اس کا چچا سردار گرگین خان حاکم اصفہان مقرر ہوا۔ گرگین خان نے منوچہر کے گھر میں باب کی موجودگی اور منوچہر کے ساری ساری جائیداد باب کے نام ہے کر جانے کی کیفیت مرزا آقا قاسمی وزیر اعظم کو تہران لکھ بھیجی۔ وزیر اعظم نے جواب دیا کہ باب کو منوچہر کی جائیداد کا ایک حصہ بھی نہ دیں اور اس کو بہت بڑی قیمت ماکول بھیج دیا جائے۔ باب ماکول میں پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ میں رکھا گیا۔ کچھ مدت کے بعد قلعہ چہر ق میں بھیجا دیا گیا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ علماء کے فتوؤں اور ہرجم کے پھودے کے باوجود ہالی فرقہ غیر معمولی ترقی کر رہا تھا۔ کیونکہ حق کے مقابلہ میں باطل بھی برابر نشوونما پا تا اور بگ و بار لاتا ہے۔

علمائے آذربائیجان نے بادشاہ اور دوسرے علمائے سلطنت کو تہران لکھ بھیجا کہ باب اور بائبلوں پر غیر معمولی فتنہ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ لیکن انہوں نے مناسب خیال کیا کہ اسے علماء کے مقابلہ میں لاجواب کیا جائے۔ چنانچہ شاہ ایران نے اپنے ولی عہد ناصر اللہ یں کو جو آذربائیجان کا گورنر تھا لکھ بھیجا کہ باب قلعہ چہر ق سے بلا کر علماء سے مناظرہ کرایا جائے۔ باب تہران لایا گیا۔ دوسرے دن علمائے صحیحین سے مناظرہ ہوا۔

جب علماء سے گفتگو ہوئی تو یہ امر باب کی نصرت کو پہنچا کہ وہ عربی کی صرف دعو تک نہیں جانتا۔ ولی عہد ناصر اللہ یں نے باب سے کہا کہ اس جہالت و کوری کے باوجود تم صاحب الامر مہدی علیہ السلام بنے پھرتے ہو۔ میں تمہارے کُل کا حکم تو نہیں دیتا۔ البتہ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ تم صاحب الامر ہونے کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ صحیحیہ و نادیدہ ضروری ہے۔ یہ کہہ کر پیادوں کو اشارہ کیا۔ معامار پڑنے لگی۔ باب جان بچانے کے لئے چلا اٹھا۔ تو پہ کر دم، تو پہ کر دم۔ جب اچھی طرح سے مرمت ہو چکی تو اس کو دوبارہ قلعہ چہر ق میں بھیج دیا گیا۔

اس کے بعد باہیوں نے خوب ہاتھ پاؤں نکالے اور مسلح بغاوتیں شروع کر دیں۔ جن کی تفصیل قارئین کرام کو کتاب ائمہ تلبیس (صفحات ۳۸۷ تا ۳۹۴) ملے گی۔ اس وقت محمد شاہ والی ایران دنیاے فانی سے رخصت ہو چکا تھا اور ناصر الدین شاہ نیا اورنگ نشین سلطنت ہوا تھا۔ چونکہ باہیوں نے ایران میں بالکل ڈال رکھی تھی۔ اس لئے اعیان سلطنت نے فیصلہ کیا کہ باب کو نذرانہ مرگ بنا دینا چاہئے۔ جب تک وہ زندہ ہے ایران میں فضا پر سکون نہ ہوگی۔ اب باب قلعہ چہر ق سے دوبارہ تہمیر لاکر مجلس علماء میں حاضر کیا گیا۔ علماء نے بہتیرا سمجھایا کہ تم اپنے الحاد اور دعوائے مہدویت سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ کیونکہ ابلیسی کارندے اس کو وقتاً فوقتاً اپنی نورانی شکل و ہیئت میں جلوہ گر ہو کر یقین دلا جاتے تھے کہ تم وہی مہدی موعود جو جس کے ظاہر ہونے کی پیغمبر خدا ﷺ نے آج سے ہزار سال پہلے بشارت دی تھی۔ چنانچہ باب اپنے تئیں سچا مہدی گمان کرتا تھا۔ اس لئے کوئی ترغیب و ترہیب اس کے سامنے کارگر نہیں ہوتی تھی۔

حشمت الدولہ نے باب سے کہا تمہیں حامل وحی ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو دعا کرو کہ کوئی آیت نازل ہو۔ جس طرح غلام احمد قادیانی نہایت عیاری سے قرآن کی آیتوں کو اپنا کر اپنا کلام وحی بنا لیتا تھا۔ اسی طرح باب نے بھی یہی حرکت کی۔ جھٹ سورہ نور کی ایک آیت کا کلمہ سورہ ملک کی ایک آیت کے کلمے سے ملا کر پڑھ دیا۔ حشمت الدولہ نے وہ کلمات لکھوائے۔ پھر باب سے پوچھا کہ کیا یہ وحی آسانی ہے۔ بولا ہاں! حشمت الدولہ نے کہا کہ وحی مہبط وحی کے دل سے فراموش نہیں ہوتی۔ اگر فی الواقع یہ کلام وحی ہے تو ذرا دوبارہ پڑھ دو۔ مثل مشہور ہے کہ دروگھورا حافظہ نہ باشد! جب باب نے ان الفاظ کو دوبارہ پڑھا تو الفاظ میں ردوبدل اور تقدم و تاخر ہو گیا۔ حشمت الدولہ نے کہا یہ تمہارے جھوٹ اور جھیل کی تین دلیل ہے۔ آخر اس کے قتل کا حکم صادر ہوا۔

۲۸ شعبان ۱۲۶۶ھ کا دن قتل کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے آقا محمد علی تہریزی کو اس غرض سے باندھا گیا کہ گولیوں کا نشانہ بنایا جائے۔ اسے ہزار سمجھایا گیا کہ اگر جان عزیز ہے تو توبہ کر کے رہا ہو جاؤ۔ لیکن اس نے توبہ نہ کی اور کہنے لگا عشق حق سے توبہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ محمد علی کے خویش و اقارب یہ کہہ کر حکام کی خوشامد کر رہے تھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے اور دیوانے

کاقل کسی طرح روانگیں ہے۔ لیکن وہ ہر مرتبہ اپنے اقرباء کے بیان کی تردید کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں جو ہر عقل سے پوری طرح آراستہ ہوں۔ مجھے جلد قتل کرو کہ قتل ہی سے حیات ابدی ملتی ہے۔ مگر محمد علی واقعی اسحق تھا جو ایک مہدی کذاب کے پیچھے ہلاک ہونے میں حیات ابدی کا امیدوار تھا۔ محمد علی ایک ہی گولی سے شہید ہوا گیا۔

باب بھی ہاندھا گیا اور محرزہ مرزا گورنر آڈر ہانچان نے ارمن سپاہیوں کو جو بیسوی اہل مذہب تھے حکم دیا کہ اس پر ہاتھ مارو۔ یہ لوگ ہابیوں کے من گھڑت قصوں سے متاثر تھے۔ انہوں نے گولیاں ہوا میں چلا دیں۔ باب حاضرین سے مخاطب کر کے کہنے لگا کیا تم میری کرامت دیکھتے ہو کہ گولیوں کی بو چھاڑ ہوئی مگر میرے کوئی گولی نہیں لگی۔ ایک گولی اسی رسی کو جا لگی تھی جس سے باب ہاندھا ہوا تھا۔ اس سے وہ رسی ٹوٹ گئی۔ باب کھل کر بھاگا اور ایک سپاہی کی کوشری میں جا چھپا اور مکرر کہنا شروع کیا۔ لوگو! یہ میری کئی بڑی کرامت ہے کہ کوئی گولی نہ لگی بلکہ میں التارہا ہو گیا۔ اس وقت سینکڑوں غیر ہابی جہلاء غل بچارے تھے کہ باب پر گولیوں کا اثر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر سپاہیوں نے حاکم کے ایما سے باب کو جا پکڑا اور چند گھونٹے رسید کر کے گولی کا نشانہ بنا دیا۔

(مذہب اسلام بحوالہ تاریخ التوارخ)

۲۳..... ملا محمد علی بار فروشی

ملا محمد علی بار فروشی جسے ہابی لوگ قدوس کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ مرزا علی محمد باب کا سب سے بڑا خلیفہ تھا۔ مقام قدوسیہ اور رجعت رسول اللہ ﷺ کا مدعی تھا۔ رجعت رسول اللہ سے اس کی یہ مراد تھی کہ آنحضرت ﷺ از سر نو دنیا میں تشریف لاکر (معاذ اللہ) بار فروشی کے پیکر میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اس بارہ میں غلام احمد قادیانی نے ملا بار فروشی کے چہانے ہوئے لقمے کو اپنے عنوان الحاد کی زینت بنایا تھا۔ چنانچہ قادیانی نے ۵ نومبر ۱۹۰۱ء کے اشتہار میں لکھا کہ میں بروزی طور پر دینی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ خدا نے ”بمجاہد احمدیہ“ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے آنحضرت کا ہی وجود قرار دیا۔ پس اس طرح آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔“

(تخلیغ رسالت ج ۱ ص ۲۰، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۳۷)

مرزا جانی کاشانی کا بیان ہے کہ بارفروشی کے حق میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ حدیث ہے کہ جب سیاہ جھنڈے خراسان کی طرف سے آتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ باہیوں نے قانمیت کا منصب دو شخصوں کو دے رکھا تھا۔ ایک مرزا علی محمد باب کو اور دوسرا ملاح محمد علی بارفروشی کو۔ جن ایام میں مرزا علی محمد باب، ماہکوار چہرین میں نظر بند تھا، شای فوج کی طرف سے ایک تیر ملاح محمد علی بارفروشی کے منہ پر آگاکھا۔ جس سے منہ کے دانت دانہ ہائے انار کی طرح الگ الگ ہو کر گر پڑے اور اس کا نصف چہرہ بری طرح مجروح ہو گیا۔ اس کے بعد دوسو باہیوں نے قلعہ طریہ کے نزدیک رات دن کی محنت و مشقت برداشت کر کے تھوڑے ہی دنوں میں ایک قلعہ تعمیر کر لیا اور گرد و نواح کی بے گناہ رعایا کو لوٹ لوٹ کر اس میں دو سال کا اذوقہ بھی جمع کر لیا۔ ایک موقع پر شای فوج نے اس قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ قلعہ میں باہیوں کے پاس دوسو سے زیادہ گھوڑے، پچاس گائیں اور قریباً چار سو بھیڑیں تھیں۔ محصورین رسد ختم ہونے کے بعد تمام جانور بھی کھا گئے۔ آخر چار پائیوں کی طرح گھاس کھانی شروع کی۔

مرزا محمد حسین تہی اور بعض دوسرے باہیوں نے عالم اضطراب میں ملاح محمد علی بارفروشی سے کہا کہ دعا فرمائیے کہ خدائے شہید العقاب کفار بد نہاد (شای لشکر) پر عذاب نازل کرے اور ہم بلا کشوں کو اس مصیبت سے نجات بخشنے۔ بارفروشی کہنے لگا کہ جب خدا چاہتا ہے اپنے محبوبوں کے ساتھ شوخی کرتا ہے۔ اس لئے مشیت الہی پر راضی رہنا چاہئے۔ یہ جواب سن کر محمد حسین باہیوں کے بڑے بڑے دعوؤں کی قلعی کھل گئی اور وہ اپنے چند آدمیوں کو لے کر قلعہ سے برآمد ہوا اور لشکر شای کے قریب پہنچ کر کہنے لگا کہ ہابی دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں۔ لیکن عمل کسی پر نہیں۔ ان کے عقائد بھی باطنیوں کے سے تاویلی و تحریفی عقائد ہیں۔ مجھے ان کے کذب اور باطل پرستی کا یقین ہو گیا۔ اس لئے میں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ جب باہیوں کی زبونی و بد حالی انتہا کو پہنچی تو ملاح محمد علی بارفروشی نے شای لشکر کے سردار کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر ہمیں نکلنے کا راستہ دو تو ہم قلعہ خالی کر کے چلے جائیں۔ اس نے نکلنے کی اجازت دی۔ ملاح محمد علی بارفروشی دوسو تیس باہیوں کے ساتھ جو ہنوز زندہ تھے۔ قلعہ سے برآمد ہوا۔ تمام باہیوں کو طوق و سلاسل میں جکڑ کر قصبہ بارفروش میں لے گئے جو ملاح محمد علی کا وطن تھا۔

بارفروش میں منادی کی گئی کہ ملاح محمد علی باہر میدان میں نہنگ موت کے حوالے کیا جائے

کا۔ تماشائی ہر طرح سے امنڈ آئے۔ غضب ناک اہل شہر میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے محمد علی کے پاس پہنچ کر دو چار گھونٹے نہ رسید کئے ہوں یا طمانچے مار مار کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا نہ کیا ہو۔ لوگوں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیئے۔ مدارس کے طلبہ جوق در جوق آ کر اس کے منہ پر تھوکتے، گالیاں دیتے اور اینٹ پتھر پھینک رہے تھے۔ آخر ہزار ذلت و رسوائی کے بعد اس کا سرتن سے جدا کیا گیا۔ اس کے بعد تمام دوسرے بابی بھی عفریت اجل کے حوالے کر دیئے گئے۔ جب علی محمد باب کو ہار فرشتی کے مارے جانے کی خبر ملی تو وہ لگا تار انیس شبانہ روز روتا رہا۔ اس مدت میں اس نے سدرتق سے زیادہ غذا بھی نہ کھائی۔

(تھلاکاف ص ۱۸۶ تا ۲۰۸)

۲۳..... زرین تاج معروف بہ قرۃ العین

زرین تاج ایک انجوبہ روزگار عورت گزری ہے۔ اس کا باپ حاجی محمد صالح قزوین کا ایک مشہور شیعہ عالم تھا۔ والد نے اس کو گھر ہی میں اعلیٰ تعلیم دلائی۔ جب حدیث، تفسیر اور فقہ کے علاوہ الہیات و فلسفہ میں کامل دستگاہ حاصل کر چکی تو اس کی شادی ملا محمد کے ساتھ ہو گئی۔ جو مجتہد العصر ملا تقی کا فرزند اور جملہ علوم میں عالم مہتر ہونے کے ساتھ ایک جوان صالح تھا۔ میں یہ درس تو درس کا سلسلہ تھا۔ لیکن وہ اس کی آڑ میں ہابیت کی تبلیغ کرتی تھی۔ کربلا عراق میں ہے اور عراق ان ایام میں ترکی لکھرو میں داخل تھا۔ جب کربلا میں اس کی تبلیغی سرگرمیوں کا شہرہ ہوا اور کربلا کے ترک حاکم نے دیکھا کہ جو لوگ اس کے حلقہ درس میں شریک ہوتے ہیں وہ بابی ہوتے جا رہے ہیں تو حاکم نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اس کو کسی طرح اس کا علم ہو گیا۔ اس لئے نہایت مخفی طریق پر بغداد بھاگ گئی۔ وہاں پہنچ کر گورنر سے تبلیغ کی اجازت مانگی۔ گورنر نے کہا تم مسلمانوں کی متاع ایمان پر ڈاکو ڈالنے آئی۔ تم فی الفور ترکی عملداری سے نکل جاؤ۔ وہ بغداد سے کرمان شاہ اور کرمان شاہ سے ہمدان گئی۔ اس سفر میں اس نے بہت لوگوں کو باب کا پیر بنا دیا۔

مظہر فاطمہ ہونے کا دعویٰ

قرۃ العین سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مظہر ہونے کی دعویٰ ارتھی۔ اسے ہابیت میں اتنا غلو اور اتنا شغف تھا کہ غیر ہابیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ وہ ہابیوں کے سوا ہر کسی کو کافر اور ناپاک سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بازار کی پکی ہوئی چیزیں حرام

سمجھ کر نہیں کھاتی تھی۔ لیکن اس نے ان حرموں حرام و نجس چیزوں کے پاک کرنے کا ایک ڈھکوسلہ بھی بنا رکھا تھا۔ چنانچہ کہتی تھی کہ میری آنکھ حضرت سیدۃ النساء کی چشم مبارک کا حکم رکھتی ہے۔ میں جس نجس اور غیر مطہر چیز پر ایک نظر ڈال دوں وہ پاک و طیب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزوں میں آل اللہ کی نظر بھی داخل ہے۔ چنانچہ اپنے بانی معتمدین سے کہا کرتی تھی کہ کھانے کی جو چیز بازار سے خریدو، وہ میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس پر نظر ڈالوں اور وہ حلال و طیب ہو جائے۔ (نظارۃ القاف)

شاعرہ کی حیثیت سے بھی ایران میں قرۃ العین کی بڑی شہرت تھی۔ پروفیسر براؤن کو اس کے دو ہی قصیدے مل سکے۔ تخلص طاہرہ تھا جو صاحب ان قصیدوں کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب ائمہ تلخیص (صفحات ۴۱۰ تا ۴۱۲) کی طرف رجوع کریں۔ یہ دونوں قصیدے اس نے اپنے مقتدا علی محمد باب کی حمد و ثناء اور اشتیاق ملاقات میں کہے تھے۔ ان میں جو فصاحت و بلاغت، بلند خیالی اور شوکت الفاظ ہے وہ پڑھنے والوں سے خراج تحسین وصول کرے گی۔

قرۃ العین نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تہران جا کر بذات خود محمد شاہ والہی ایران کو باہیت کی تبلیغ کرے۔ جب اس کے باپ حاجی ملا صالح کو اس کا علم ہوا تو وہ بڑی جھلت سے اس کے پاس پہنچا اور بیٹی کو اس خیال سے ہار رکھ کر قزوین لے گیا۔ تھوڑے دن تو وہ امن و سکون سے رہی۔ لیکن پھر باہیت کی رٹ لگانی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خسر اور شوہر سے اس کو چپقلش شروع ہوئی۔ خسر اس کا حقیقی چچا بہتداہمصر ملا تھے۔ اب اس نے فتویٰ دے دیا کہ ملاقاتی اور ملائم دونوں کافر اور واجب العمل ہیں۔ کیونکہ جو کوئی تبلیغ حق میں مانع ہو اس کا خون حلال ہے۔ یہ فتویٰ سن کر باہیوں میں بڑی گرہموشی پیدا ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ملاقاتی کو قہر ہلاکت میں ڈالے بغیر دم نہ لیں گے۔ ایک دن نماز فجر سے پہلے چند مسخ ہابی مسجد میں جا کر چمپ رہے اور جیسے ہی قرۃ العین کے خسر ملا تھے نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے، ہابی نہیں گاہ سے نکلے اور زندہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور پھر جاں ستانی ہی پر اکتفا نہ کیا۔ بلکہ ناک کان اور اعضا و جوارح ہالکل جدا کر دیئے اور قہر و صورت ہالکل مسخ کر دی۔ قرۃ العین کے خلاف ہر طرف طوفان غضب امنڈ آیا۔ لوگ اس غرض سے ہتھیار ہاندھے پھرتے تھے کہ جہاں کہیں قرۃ العین ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اسے جب موقع ملا تو قرۃ العین قزوین سے بھاگی اور ایران کی سرحد سے نکل کر خندو و خراسان میں داخل

ہوگی۔ اس کے بعد وہ کس طرح ہست بلاکت پر ڈالی گئی۔ اس میں مورخ مختلف البیان ہیں۔ چونکہ اس کی تشریح غیر ضروری ہے۔ اس لئے علم اعداد کر دی گئی۔ (ایچ۔ سوڈا آف دی باب ص ۴۵)

۲۵..... مرزا حسین علی نوری معروف بہ بہاء اللہ

مرزا حسین علی معروف بہ بہاء اللہ ۱۸۱۷ء میں موضع نور علاقہ مازندران میں پیدا ہوا۔ اپنے سوتیلے بھائی مرزا یحییٰ معروف بہ صبح ازل سے قریباً تیس سال بڑا تھا۔ بہاء اللہ بھی ان چالیس باہیوں میں داخل تھا جو ناصر الدین شاہ ایران سے باب کے قتل کا انتقام لینے کی سازش کی تھی۔ خاص مازن قتل تین باہی ملائح اللہ تھی، صادق زنجانی اور ہاقر نجف آبادی تھے۔ تاریخ ۱۳ رجب ۱۲۶۸ھ مطابق ۱۵ ستمبر ۱۸۵۲ء شاہ شکار کے لئے سوار ہوا تو یہ تینوں شاہ کی طرف بڑھے۔ شاہ نے خیال کیا کہ شاید مظلوم و ستم رسیدہ اشخاص ہیں جو اپنی درخواست پیش کریں گے۔ اس لئے ان کو نزدیک آنے دیا۔ جب قریب پہنچے تو صادق زنجانی نے جیب سے پستول نکال کر شاہ پر چلا دیا۔ شاہ زخمی ہوا۔ لیکن بحالہ گھوڑے پر سوار رہا۔ یہ دیکھ کر فتح اللہ تھی نے جھپٹ کر شاہ کو گھوڑے سے کھینچا تاکہ زمین پر گرا کر گلا کاٹ دے۔ شاہ زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر شاہ کے ایک نوکر نے بڑھ کر فتح اللہ کے منہ پر زور سے ایک گھونسا رسید کیا اور وہ گر پڑا۔ اب ملازم نے میان میں سے تلوار نکالی اور صادق زنجانی کی گردن مار دی۔ اس اثناء میں دربار شاعی کا ایک غشی بھی پہنچ گیا اور شاہ کے جسم کی ڈھال بننے کے لئے اپنے آپ کو شاہ پر گرا دیا۔ اتنے میں اور پیادے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے زخمہ حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ شاہ کو گولی کا جو زخم لگا وہ مہلک نہیں تھا۔

اس حادثہ کے بعد جب باہیوں کے خلاف وارد گیر کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے ایران کے ہر گوشہ سے نکل کر بغداد کا رخ کیا۔ بغداد میں کثیر التعداد باہی جمع ہو گئے۔ کربلا اور نجف کے شیعہ علماء یہ دیکھ کر کہ باہی لوگ شیعہ مشاہد مشرفہ کے قریب آجھ ہوئے ہیں۔ باہیوں کے قیام بغداد کی مخالفت کرنے لگے۔ حکومت ایران نے بھی اپنے استنبولی سفیر کو ہدایت کی کہ وہ دولت عثمانیہ سے درخواست کرے کہ باہیوں کو بغداد سے کسی دوسرے علاقے میں منتقل کر دے۔ اس درخواست کے بموجب باب عالی نے باہیوں کو بغداد سے استنبول چلے جانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ چار مہینے استنبول میں رہے۔ لیکن چونکہ باہی آج کل کے مرزائیوں کی طرح بڑے مفید لوگ

تھے اور ان کا قیام امن عامہ کے لئے سخت معزز تھا۔ اس لئے تمام بابی رجب ۱۲۸۰ھ میں استنبول سے اور نہ (اڈریا نول) بھیج دیئے گئے۔ یہ لوگ ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۸۵ھ تک یعنی پانچ سال سے زیادہ مدت اور نہ میں رہے۔ اور نہ میں صبح ازل اور بہاء اللہ میں جھگڑے قضیے پر پڑتے تھے۔ دونوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ وہی باب کا اصل جانشین ہے۔ جب نزاع نے خوفناک صورت اختیار کی اور یقین آمادہ پیکار میں تو دولت عثمانیہ نے اس قضیہ میں پڑے بغیر کہ فریقین ہوا کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے، بہاء اللہ اور اس کے پیروؤں کو عکہ علاقہ شام میں جا کر قیام کرنے کا حکم دیا اور صبح ازل اور اس کے متعلقین کو جزیرہ قبرص میں جو اس وقت ترکی عملداری میں تھا۔ جا کر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ صبح ازل ۱۵ ستمبر ۱۸۶۸ء کو جزیرہ قبرص پہنچا۔

صبح موعود ہونے کا دعویٰ

جب سچے مہدی حضرت محمد بن عبد اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں ظاہر ہوں گے تو ان کی فرمانروائی کے چند سال بعد خدا کے سچے مسیح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مرزا علی محمد باب ایک جھوٹا مہدی تھا۔ جھوٹے مہدی کے ظہور کے بعد کسی جھوٹے مسیح کی آمد بھی مناسب و موزوں تھی۔ اس ضرورت کا احساس کر کے بہاء اللہ نے ایران چھوڑنے کے بعد، بغداد یا اور نہ میں صبح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ بہاء اللہ نے اپنی ایک وحی لکھی۔ ”قل یا ملاء الفرقان قد اتى الموعود الذی وعدتم فی الكتاب اتقوا الله ولا تتبعوا کل مشرک اثیم (لوح مبارک ص ۷)“ ”کہہ دوئے کہہ اے گروہ فرقان! بیشک وہ موعود آ گیا۔ جس کا تم سے آسانی کتاب میں وعدہ کیا گیا تھا۔ خدا سے ڈرو اور کسی مشرک گنہگار کی پیروی نہ کرو۔“ اس الہام میں بہاء اللہ نے ہر مسلمان کو اپنی مسیحیت کی طرف بلایا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو جس خدا کے سچے مسیح کی آمد ثانی کا مژدہ سنایا گیا تھا وہ صبح ناصر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں جو قرآن کے رو سے اب تک زندہ موجود ہیں۔ ان کے سوا ہم ہر مدعی مسیحیت کو بہاء اللہ ہو یا غلام احمد ہر دو جال کذاب یقین کرتے ہیں۔

سچے موعود کی نسبت خود بہاء اللہ کے فرزند و جانشین عبد البہاء نے لکھا تھا۔ جب مسیح آئے گا تو نشانیاں اور فوق الفطرت معجزات شہادت دیں گے کہ سچا مسیح یہ ہے۔ مسیح نامعلوم شہر آسمان سے آئے گا۔ وہ فولاد کی تار کے ساتھ آئے گا اور لوہے کے عصا کے ساتھ حکومت کرے

گا۔ (یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رعب و جلال کے ساتھ فرمانروائی کریں گے) وہ انبیاء کی شریعت کو پورا کرے گا۔ وہ مشرق و مغرب کو فتح کرے گا۔ (وہ مشرق و غرب کے تمام لوگوں کے دل مسخر کر کے انجام کار ایک ملت یعنی دین اسلام پر جمع کر دیں گے) اور اپنے برگزیدہ لوگوں (مسلمانوں) کو عزت بخشے گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ایسا امن کا راج لائے گا کہ حیوان بھی انسانوں کے ساتھ دشمنی کرنا چھوڑ دیں گے۔ بھیڑیا اور بڑا ایک ہی چشمہ سے پانی پئیں گے اور خدا کی سب مخلوق امن سے رہے گی۔ (دور بہائی مطبوعہ دہلی ص ۲) ظاہر ہے کہ یہ سب علامتیں جو عبدالمہمب نے بیان کی ہیں بہاء اللہ یا غلام احمد قادیانی یا کسی دوسرے خانہ ساز مسیح پر صادق نہیں آتیں۔ اس لئے یہ سب جھوٹے مسیح ہیں۔

بہاء اللہ نے نصاریٰ کو اپنی مسیحیت کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا۔ اے پیر وان مسیح! کیا میرا نام (بہاء اللہ) تمہارے نزدیک میری مسیحیت کے معنائی ہے۔ تم کس بناء پر شک میں پڑے ہو۔ تم لوگ شب و روز اپنے قادر مطلق (یسوع مسیح) کو پکارا کرتے تھے۔ جب وہ ازلی آسمان سے کامل جلال کے ساتھ آ گیا ہے تو تم اس کے ساتھ نہیں پھٹکتے اور بے اعتنائی کے عالم میں پڑے ہو۔ (بہائی سکرپچر مطبوعہ نیویارک ص ۱۲۴) لیکن عیسائی لوگ اس دعوت کا بے تکلف یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہم تو خود ذات بابرکات حضرت یسوع مسیح کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ اس لئے ہمیں کسی نقلی اور جعلی مسیح کی ضرورت نہیں ہے۔

پانچ خانہ ساز مسیح موعود

اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے حضرات پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہوگی کہ قادیان کے خود ساختہ مسیح موعود سے پہلے چار خانہ برانداز چمن (۱) حاجی محمد خراسانی۔ (۲) شیخ بھیک۔ (۳) ابراہیم بزلہ اور (۴) بہاء اللہ خانہ ساز مسیحیت کی مسند ترویج پر بیٹھ کر خلق خدا کو درطہ ہلاکت میں ڈال چکے تھے اور یہ کہ غلام احمد قادیانی ان کا پانچواں ضلالت کوش بھولی تھا۔

خاتمہ

حکام کا فرض

اس کتاب کے مطالعہ سے قارئین کرام پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی کہ تقدس کے جھوٹے دعویداروں کا وجود اسلام اور پیر وان ملتِ حقین کے حق میں کس درجہ زیون اور خطرناک

ہے۔ یہ ملاحظہ نہ صرف اپنے قبضین کو مردہ کر کے ان کی کشتی ایمان کو غرق کرتے ہیں۔ بلکہ اپنے کونہ ماننے والے جرم نا آشنا مؤمنین کو بھی جہنم نہیں کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتے اور محض اس قدر نہیں بلکہ اپنی اسلامی حکومت سے بغاوت کر کے اور سالہا سال تک حکمرانوں کو رزم و پیکار کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اگر یہی جانی اور مالی طاقت جو دجالوں نے اپنے حکام کے مقابلہ میں خرچ کی اور وہ طاقت جو ان دجالوں کی مدافعت میں حکام کو صرف کرنی پڑی، وہ قوم کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی کے کام آتی یا بیرونی اعدائے دین کے مقابلہ میں صرف ہوتی تو قوم ارج و عروج کی انتہائی منزلیں طے کر سکتی تھی۔

ان خدادادوں کی مارا سٹینی یہ رنگ لائی کہ اسلامی حکومتیں اغیار کے مقابلہ میں ہمیشہ ہستی اور تنزلی کے گڑھے میں پڑی رہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ داخلی اعدائے ملت تمام بیرونی دشمنان دین سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ کیونکہ مارا سٹین انسان کو جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے بیرونی دشمن سے اس کا عشر عشر بھی متصور نہیں۔ پس ظاہر ہے کہ وہ حکام بھی دجالی شرور و فتن کے شیوع کے ایک بڑی حد تک ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان فتنوں کو پھیلنے کا موقع دیا اور قوت پکڑنے سے پہلے ہی ان کو مستاصل نہ کر دیا۔ جس پودے کی جڑیں ہنوز مضبوط نہ ہوئی ہوں اس کا اکھاڑ بھینکا نہایت آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ مضبوط و محکم ہو جائے اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیل جائیں تو اس کی بیخ کنی بہت مشکل ہے۔

پس مسلم حکمرانوں کا فرض ہے کہ جو نمی کوئی بوا بھوس کوئی دجالی دعویٰ کر کے فضا کو مگر کرنا شروع کرے فوراً اس کو پھل کے دکھ دیں اور نہ صرف خدا کی کز در مخلوق کو اس دست برد سے بردت بچالیں۔ بلکہ اپنے آپ کو بھی اس کی آئندہ مارا سٹیوں سے محفوظ کر لیں۔

مادر مشفقہ پر مرتد بیٹے کا قاتلانہ حملہ

تقدس کے چھوٹے مدعی اور ان کے پیرو جو اسلام سے علاقہ توڑ کر کئے ضلالت میں سرکش و حیران ہوتے ہیں ان کے دل میں یہود و نصاریٰ سے بھی کہیں زیادہ اسلام اور اہل اسلام کی عداوت کا جذبہ موجزن رہتا ہے۔ یہاں ایک سیاہ دل قرمطی کا واقعہ لکھا جاتا ہے جس نے مرتد ہونے کے بعد اپنی واجب الاطاعت مادر مشفقہ پر محض اس قصور میں قاتلانہ حملہ کیا تھا کہ وہ دین حنیف کی پرستی۔

حکیم ابو الحسن بغدادی کا بیان ہے کہ حسین بن زکریا قرمطی کی ہلاکت کے ایام میں ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے شانے پر بہت گہرا زخم ہے۔ اس کا علاج کیجئے۔ یہ عورت زاروقطار روری تھی اور سخت غمزدہ تھی۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے اور زخم کس طرح آیا ہے؟ بولی میرا بیٹا بہت مدت سے مفقود تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں دنیا بھر کی خاک چھانی اور بہت سے شہروں اور قصبوں میں پھری۔ لیکن کوئی کھوج نہ ملا۔ آخری مرحلہ شہر رتہ سے چلی تو راستہ میں قرمطی لشکر نظر آیا۔ میں لشکر میں جا کر دیکھ بھال کرنے لگی تو اتفاق سے وہیں مل گیا۔ میں نے خیر خیریت نہ بھیجے کا شکوہ کرتے ہوئے اس کے خویش واقارب کے حالات بیان کرنے شروع کئے۔ وہ کہنے لگا ان قصوں کو جانے دو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کس دین پر ہو؟ میں نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم دین اسلام کے پیرو ہیں؟ بولا جس دین پر ہم پہلے تھے وہ باطل ہے۔ سچا دین وہ ہے جس کا میں آج کل پیرو ہوں یعنی قرمطی دین۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور وہ مجھے استغواب میں چھوڑ کر چل دیا۔

میں چند روز ایک ہاشمی خاتون کے پاس رعی جو قرمطیوں کی قید میں تھی۔ اس کے بعد بغداد واپس آنے لگی۔ جب تموڑے قاصطے پر پہنچی تو میرا ناظف بیٹا پیچھے سے دوڑتا آیا اور سخت بے رحمی اور شقاوت سے مجھ پر تگوار کا وار کیا۔ میں بری طرح مجروح ہوئی۔ اگر ساتھ والے دوڑ کر بچا نہ لیتے تو میری جان کی خیر نہ تھی۔ میں وہاں سے الٹاں و خیراں بحال جاہ بغداد پہنچی۔ ابھی حال میں جو قرمطی قیدی بغداد آئے ہیں میں نے اپنے ناہار بیٹے کو بھی دیکھا۔ وہ لمبی ٹوپی پہنے اونٹ پر سوار تھا۔ میں نے اس سے خطاب کر کے کہا خدا تیرا ابرا کرے اور اس قید محن سے تجھے کبھی جھٹسی نہ دے۔

(تاریخ کامل ابن اثیر ج ۷ ص ۱۷۳)

سقوط بغداد پر قادیان میں چراغاں

اور روز نہ جائے اغلام احمد قادیانی اور اس کی امت کو دیکھ لیجئے۔ ان کے ہاتھ میں عداوت اسلام کا آئینہ کس شدت سے شعلہ زن ہے۔ جب یورپ کی پہلی عالمگیر جنگ میں فخر البلاذ بغداد پر صلیب پرست انگریزوں کا قبضہ ہوا تو دنیا بھر کے اسلامی مصلحتوں میں ہر طرف صف ماتم چھی تھی اور کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جو سگوار نہ ہو۔ لیکن مرزا ہی اس پر خوشیاں مناتا ہے تھے اور قادیان میں چراغاں ہو رہا تھا۔ قادیان کے اخبار الفضل نے لکھا: ”میں اپنے احمدی بھائیوں کو جو ہر بات میں غور اور فکر

کرنے کے عادی ہیں۔ ایک مژدہ سنا تاہوں کہ بصرہ اور بغداد کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہماری محسن گورنمنٹ کے لئے فتوحات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس سے ہم احمدیوں کو معمولی خوشی نہیں ہوئی بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں برسوں کی خوشخبریاں جو الہامی کتابوں میں چھپی ہوئی تھیں آج ۱۳۳۵ھ میں ظاہر ہو کر ہمارے سامنے آگئیں۔ اس بات سے غیر احمدی (یعنی مسلمان) ناراض ہوں گے۔ لیکن اگر غور کریں تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں۔“ (افضل مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۱۷ء)

مسلمانوں سے کلی مفارقت اور قطع تعلق

غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ: ”تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعوائے اسلام کرتے ہیں بلکہ ترک کرنا پڑے گا۔“ (تحدہ گولڈ ویس ۱۸ ماسیہ، خزانہ ج ۱ ص ۶۴)

اور خلیفہ محمود احمد نے لکھا: ”سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں۔“

(آئینہ صداقت مؤلفہ خلیفہ محمود ص ۳۵)

اور لکھا کہ: ”ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی (یعنی غلام احمد قادیانی) کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔“ (انوار خلافت مؤلفہ خلیفہ محمود ص ۹۰)

قادیانی دل یگانوں کی مہر و محبت سے خالی

جب غلام احمد قادیانی نے اپنی خانہ زاد مسیحیت کا نغمہ چھیڑا تو ظاہری مفارقت و انقطاع کے ساتھ ہی اس کا دل یگانوں کی مہر و محبت سے یکسر خالی ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی بیابانہ بیوی محترمہ حرمت بی بی کی جو خان بہادر مرزا سلطان احمد کی والدہ تھیں اور اپنے فرزند مرزا فضل احمد کی نماز جنازہ تک نہ پڑھی خدائے برتر مسلمانوں کو تمام دجالوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین!

آج مورخہ ۲۶ رزیقہ ۱۳۷۵ھ، مطابق ۶ جولائی ۱۹۵۶ء کو بروز جمعہ بمقام لاہور یہ کتاب بجز اللہ پایہ تکمیل کو پہنچی۔

ناچیز ابوالقاسم رفیق دلاوری!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَوْلَانَا عِبْدُ الْقَدِيرِ صِدْقَانِي

مرزا نیت اور عیسا نیت



مولانا عبدالقدیر صدیقی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وان یرضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم

مرزائیت اور عیسائیت

یہ قاہرہ مصر کے اخبار الرایح کے ایک مقالہ کا ترجمہ ہے۔ جس میں مرزائیت اور عیسائیت کے تعلقات مودہ کو دکھلایا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ عیسائی پادری مرزائی لٹریچر کو کس طرح مصر میں پہنچانے کے لئے تسامی ہیں۔ خاکسار نے اس کا اخبار ”مجاہدین“ میں ترجمہ بمعہ مختصر تمہید کے شائع کرایا تھا۔ اب تبلیغ کی فرض سے اس مضمون کو ٹریٹک کی صورت میں شائع کیا جاتا ہے۔

خاکسار: محمد عبدالقہر صدیقی!

آج جب کہ مجلس احرار کی مسامی جیلہ سے مرزائیت اپنے اصلی رنگ و روپ میں ظاہر ہو چکی ہے۔ آج جب کہ مسلمان من حیث القوم حکومت سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا ہرزور مطالبہ کر رہے ہیں تو چند مسلمانوں کا نیک نیتی سے دنیاوی اغراض و مقاصد کے پیش نظر یا کسی مصالح کی بناء پر مرزائیوں کو اسلامی فرقہ قرار دینے کی ناکام سعی کرنا نہ صرف مسلمانوں کے سوا عظیم کے فیصلے سے اعتراف ہے بلکہ اسلامی روایات پر اظہارِ باہماندی کے مترادف ہے۔

قاہرہ مصر کے ترجمہ فریڈہ الرایح میں ایک مضمون ”من انفصال القادلیین“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ جس کا ترجمہ فارسی میں ”مجاہد“ کے لئے ذیل میں درج کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ مرزائیوں کو مسلمان سمجھنے میں ابھی تک گرفتار ہیں وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور سوچیں کہ اگر مرزائی لٹریچر میں اسلام کی صحیح تعلیم ہوتی یا مرزائی لٹریچر اسلامی روایات کا حامل ہوتا یا اس میں مسائل حدیث اسلامیہ کی تائید ہوتی تو کیا ایک عیسائی پادری مسیح علی مرزائی رئیس جماعت

لاہور کی تعینقات کو نشر و اشاعت کی غرض سے مصر میں لے جانا اور نہایت دیکھ بھال سے سر توڑ کوشش کرنا کہ محکمہ شریعت کے ملاحظہ اور اجازت کے بغیر یہ ذخیرہ مصر میں داخل ہو جائے۔ اگر پادری کو یہ یقین نہ ہوتا کہ مصر کا محکمہ شریعت ایسے مؤلفات کی نشر و اشاعت کی اجازت نہیں دے گا تو اس کو دوسرے مصری پادریوں کی امداد حاصل کرنے اور شیخ الازہر کی خدمت میں لہاجت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہر حال مرزا آقہ بانی اور اس کی جماعت پادری گروہ کو دہال کہتے ہیں اور دہال کا دشمن اسلام ہونا اظہر من الشمس ہے۔ جس دعوت اور تعلیم کے نشر و اشاعت میں دہالی گروہ قسماً ہی ہو وہ تعلیم و دعوت کی بکھرا سلائی تعلیم ہو سکتی ہے اور وہ گروہ کی بکھرا سلائی گروہ ہو سکتا ہے۔ فاضل مدبران انقلاب جو آج کل مرزائیوں کو اسلامی فرقہ ثابت کرنے میں خلافت عالیہ کا دیان کے مورد الطاف بنے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی توجیہ بیان کرنے کی زحمت کو ادا فرمائیں گے کہ عیسائی پادری کا مرزائی لٹریچر کو ملک مصر میں لے جانا اور اس کے داخلہ کے لئے سر توڑ کوشش کرنا آیا اسلام کی خدمت ہے یا عیسائیت کی اور یہ رشتہ مودت مرزائیت اور عیسائیت کا کن مصباح پہنچا ہے۔ اب اللع کے مقالہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”جب سے استعمار برطانی نے اپنے بندے اور غرور کا شہ پودے غلام احمد قادیانی کو دین اسلام سے ٹھٹھا کرنے کے لئے استعمال کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں اسلام کی صداوت ہے۔ غلام احمد اور اس کے قسمن کی تائید کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں کو ان سے حسن ظن پیدا ہو اور لوگوں کو ان کی کتابوں کے مطالعہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ یہ ایک مشہور امر ہے اور ہمیں اس کی بہت سی مثالیں معلوم ہیں۔ ان مثالوں میں سے آخری مثال جزویت کے ایک پادری کا قادیانی کتابوں کو ہند سے مصر کی طرف لانے کا اہتمام کرنا ہے اور مشائخ ازہر کی خدمت میں کوشش کرنا ہے کہ ان کتابوں کا داخلہ مصر میں جائز ہو جائے کہ مصر میں ہندوستان سے ایک

جزدیتی پادری آیا ہے جو بیباک جہنم کا باشندہ ہے اور اس کا نام ”پادری کورتوا“ ہے اور غالباً وہ اسلام دشمنی میں اپنے ساتھی اور ہم وطن پادری لائسنس سے کم نہیں اور وہ کتابیں جو یہ مبلغ پادری ہندوستان سے مصر میں داخل کرنے کے لئے اپنے ہمراہ لایا ہے وہ لاہوری مرزائیوں کے امیر محمد علی کی مصنفات کا مجموعہ ہیں۔ چونکہ اس قسم کی کتابوں کا داخلہ مصر میں بدیں وجہ ممنوع ہے کہ ان کتابوں میں قرآن کے معانی کی تحریف اور عقائد اسلام کی غلط تعبیر ہے۔ اس لئے محکمہ چوگی نے ان قادیانیوں کی کتابوں کے داخلہ کی اجازت میں توقف کیا اور حکم دیا کہ ملک کے قانون کے مطابق جب تک محکمہ شریعات ان کو اچھی طرح سے دیکھ نہ لے اور اپنی رائے کا اظہار نہ کر دے اس وقت تک ان کے داخلہ کی اجازت نہیں مل سکتی۔ مگر ہمارا جزدیتی دوست ان کتابوں کو مصر میں داخل کرانے کے لئے بے تاب ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے۔ بلکہ وہ مصر کے باشندوں میں سے ایک دوسرے جزدیتی پادری سے مدد حاصل کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ ادارہ ازہر میں ان کتابوں کے داخلہ کرانے کی اجازت اور سعی اور امید میں گیا اور یہی امید لے کر دونوں شیخ ازہر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ وہ ان کی امداد فرمائیں۔ مگر شیخ محترم نے ان کو اطلاع دی کہ اس معاملہ کا فیصلہ قانون کی فضاء کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ (محکمہ شریعات کا احتساب لازمی ہے) لوگ عیسائیوں کی اس خدمت کو جو وہ قادیانیوں کی کتابوں کے لئے کر رہے ہیں۔ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم مرزائیوں اور عیسائیوں کی اس مشارکت کو جو وہ دین اسلام سے ٹھٹھا خول کرنے میں کر رہے ہیں تعجب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔“

(الفتح قاہرہ موروثہ ۱۰ شعبان الحکم ۱۳۵۳ھ)

خادم العلماء: محمد عبدالقادر صدیقی، بہاول پور!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَوْلَانَا عِنَايَتِ اللّٰهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْحَيٰوةَ لِمَن يَشَاءُ لِيُذَكِّرَ

کیا مرزائے قادیانی
عورت تھی؟



مولانا عنایت اللہ لاہوری

کیا مرزا قادیانی عورت تھی؟ یا مرد؟

نبوت کمالات انسانی کا آخری مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبے اور درجے ہیں۔ جب تک انہیں حاصل نہ کیا جائے نبوت کا حصول محال اور ناممکن ہے۔ مثلاً مدعی نبوت کے لئے ضروری ہے کہ مرد ہو، عورت نہ ہو۔ مسلمان ہو صانع۔ صاحب مکالمہ و مخاطبہ ہو اور اس کے الہام قطعی سچ ہوں، جھوٹے نہ ہوں۔ چنانچہ مرزا قادیانی مدعی نبوت ہے۔ اس لئے ہر صاحب عقل، طالب صدق و صفا کو حق ہونا چاہئے کہ مراجب مذکورہ کے متعلق جو نبوت کے لئے بہلولہ بیڑھی کے ہیں۔ دل کھول کر بلا حجاب گفتگو کر سکے۔ لیکن مرزا قادیانی اور اس کے قلعہ مریدوں کی کتابوں کے مطالعہ کرنے والا تو پہلے، مرتبہ (یعنی یہ کہ مرزا مرد تھا یا عورت) میں ایسا سرگردان ہوگا کہ اس کے لئے کوئی یقینی فیصلہ کرنا سبباً لاحاصل ہوگا۔ بلکہ اہل انصاف کو تو مجبوراً عورت ہی کہنا پڑے گا۔ میں چند عبارتیں بمعہ حوالہ جات صحت و سطر پر یہ ناظرین کر کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ امکان نبوت پر گفتگو کرنا لفظ نبی کی تو ہیں ہے۔ آپ ہمیشہ کے لئے موضوع گفتگو یہ رکھیں کہ مرزا مرد تھا یا عورت؟ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے تو مسلمان تھا یا کافر۔ علیٰ ہذا القیاس بتدریج نبوت تک پہنچیں۔ مرزا قادیانی کی کتابوں میں اس قدر مواد موجود ہے کہ اس کے حواری خدا کے فضل سے ہمگی مرتبہ ہی مل ہو جائیں گے۔

(نوٹ: جو اصحاب ان عبارتوں کا جواب دینا چاہیں انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ ان کی نظیر کسی نبی کے کلام میں دکھائیں۔ غیر نبی کا الہام ہرگز قبول نہ ہوگا۔ کیونکہ نبی بسبب وسیع اطراف ہونے کے اپنے ہر کلام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ غیر نبی خواہ کتنا بڑا ہو، بسبب تنگی طرف کے غیر ذمہ دار کلموں کا صدور اس سے ممکن ہے)

مندرجہ ذیل امور مرزا کے کلام سے ثابت ہوتے ہیں:

.....۱..... پردے میں آشوب مٹانا۔

.....۲..... حیض کا آنا۔

۳..... اس سے خدا کا بد فعلی کرنا۔ (معاذ اللہ)

۴..... مرزا قادیانی کا حاملہ ہونا۔

۵..... روزہ سے تکلیف پانا۔ جو سرسمرورت کے خواص ہیں۔

۱..... پردے میں نشوونما پانا

”دو برس تک میں نے صفت مریمیٹ میں پرورش پائی اور پردے میں نشوونما پاتا

(کشتی نوح ص ۳۶، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

رہا۔“

۲..... حیض کا آنا

”باہوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے۔ مگر

خدائے تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے اور تجھ میں حیض نہیں۔ بلکہ وہ بچہ

ہو گیا۔ (وہ کا لفظ حیض ہونے کی تصدیق کر رہا ہے جو بعد میں بچہ ہو گیا۔ سوال و جواب کی بے ربطی

کو دیکھو۔ سبحان اللہ! وہ انہی صاحب۔ مؤلف ا)“

(اربعین نمبر ص ۱۹، خزائن ج ۷ ص ۲۵۲، حاشیہ حقیقت الہی ص ۱۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

۳..... خدا کا مرزا قادیانی سے بد فعلی کرنا

قاضی محمد یار بی ادویل پلیدر جو مرزا قادیانی کے خاص مرید ہیں اور بعد میں ہجرت کر

کے قادیان چلے گئے تھے۔ اصل وطن نور پور ضلع کا گنڈہ۔ اپنے ٹریکٹ نمبر ۳۳، صومہ اسلامی قربانی

مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر میں لکھتے ہیں: ”آپ پر (مرزا قادیانی) اس طرح حالت طاری

ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت (معاذ اللہ! یعنی بد فعلی کی) کا

(اسلامی قربانی ص ۱۴)

اظہار فرمایا تھا۔“

”مجھے والے کے لئے اشارہ کافی ہے۔“

قاضی صاحب کے بیان کی تائیدات خود مرزا قادیانی کی کتابوں میں بکثرت ملتی ہیں۔

اختصاراً صرف دو تین پر اتکا کرتا ہوں۔ مثلاً:

”مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔“

(براین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۳، خزائن ج ۲۱ ص ۸۱)

(افسوس قاضی صاحب نے بیان کر دیا۔ مؤلف!)

”شانك عجيب) اے مرزا تیرے حسن کی شان ہی عجیب ہے۔“

(براین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۱، خزائن ج ۲۱ ص ۷۸)

(انجام آقلم ص ۵۵، خزائن ج ۱۱ ص ۵۵) ”انت من مالنا! اے مرزا تو میرے پانی سے

ہے۔ (یعنی تجھے میرا مخصوص پانی سیراب کرتا ہے۔ مؤلف!) یحمدك الله من عرشه

ویمشی اليك! عرش سے خدا تیرے محاسن بیان کرتا ہوا تیری طرف آ رہا ہے۔ اكان للناس

عجباً! آیا اس تعلق کو لوگ جب سمجھتے ہیں۔ قل هو الله عجيب! لوگوں کو کہہ دے کہ میرا خدا

ہے ہی عجیب۔ كمثلك در لا يضاع! تیرے جیسے موتی نہیں ضائع کئے جاتے۔ انت مرادی!

میری تیرے سوا مرادی نہیں۔“

(انجام آقلم ص ۵۹، خزائن ج ۱۱ ص ۵۹) ”سرك سري! تیرا میرا ہمید ہی ایک ہے۔

خوف طوالت اجازت نہیں دیتی۔ ورنہ ہزاروں اس قسم کی عبارتیں ہیں جو قاضی صاحب کی تائید

کرتی ہیں۔ مؤلف!“

مرزا قادیانی کا خدا

مضمون بالا سے ناظرین کو ایک گونہ تشویش ہوگی کہ خدا بھی ایسے کام کرتا ہے اس

تشویش کو دور کرنے کے لئے یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ مرزا قادیانی کا خدا کون تھا۔ بلاشبہ

رب العالمین کی نسبت ایک لمحے کے لئے ایسا تصور کرنا انسان کو اسلام سے دور کر دیتا ہے۔

لیکن جب ناظرین پر مرزا قادیانی کا خدا واضح ہو جائے گا تو تصدیق کریں گے کہ ہلک سچ ہے

اور یونہی ہونا چاہئے۔

”انسی مع الرسول اجیب • اخطی واصیب! (قادیانی کا خدا) خطا بھی کرتا ہے اور کبھی خطا سے بچ بھی جاتا ہے۔“

(حقیقت الوقی ص ۱۰۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۶، البشری ج ۳ ص ۷۷، تذکرہ ص ۲۱۲، طبع سوم)

”اصلی واصوم • اسعرو انام! نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، جاگوں گا۔“

(البشری ج ۳ ص ۷۹، تذکرہ ص ۲۶۰، طبع سوم) سوؤں گا۔“

ان دو عبارتوں سے مندرجہ ذیل اوصاف مستہلک ہوتے ہیں۔ خطا کرنا، کبھی بچ جانا،

نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جاگنا، سونا۔ جو سراسر انسان کے خواص ہیں اور انسان تو رات دن ایسے کام

کرتے ہی ہیں۔ مرزا قادیانی سے کسی نے کر لیا اور فرط محبت میں آ کر مرزا قادیانی نے ا۔ سے خدا

سمجھ لیا یا کہہ دیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مرزا قادیانی کا ایک عجیب پر راز و نیاز الہام جس کے صحیح

معنی آج تک کسی نے نہیں کئے۔ خدا نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر منکشف کئے ہیں۔ لیکن

تہذیب تفصیل کی اجازت نہیں دیتی کہ اسے معرض صحافت پر لایا جائے۔ الہام یہ ہے۔ رہنا عاج!

شاہیقین حضرات زبانی دریافت کر سکتے ہیں۔ مؤلف!

۳..... مرزا قادیانی کا حاملہ ہونا

”پھر وہ مریم (یعنی مرزا قادیانی) عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی۔“

(حقیقت الوقی ص ۳۳۷، حاشیہ، خزائن ج ۲۲ ص ۳۵۰، حاشیہ)

”مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو اس مہینے سے زیادہ نہیں۔“

(کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

۵..... دروزہ سے تکلیف پانا

”پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے، دروزہ تھے مجبور کی طرف لے گئی۔“

(کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

ضروری عرضداشت

مذکورہ حوالہ جات کو دیکھ کر ایک منصف تو مجبوراً فیصلہ کرے گا کہ مرزا قادیانی ایک فاحشہ عورت تھی۔ کیونکہ ان حوالہ جات کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں اور میں چیلنج دیتا ہوں کہ غلط ثابت کرنے والے کو مبلغ دس روپیہ فی حوالہ انعام دیا جائے گا۔ لیکن جس نے خود مرزائے آنجمانی کو دیکھا یا فوٹو جو حقیقت الوتی میں دیا گیا ہے اس کی نظر سے گزرا تو وہ بھی یقیناً کہے گا کہ مرزا قادیانی عورت نہیں۔ بلکہ ایک خاصہ بھلا و ہنر مند مرد تھا اور جس کے سامنے دونوں پہلو موجود (یعنی حوالہ جات مذکورہ اور فوٹو) تو وہ مجب کس کس میں پڑ جائے گا اور اسے ضرور ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو مرزا محمود کے متعلق اخبار مہلہ اور رسالہ تائید الاسلام چہرہ میں چھپ چکا ہے اور آج تک کسی قادیانی کو تردید کی جرأت نہیں ہوئی۔ جو بمنزلہ تصدیق سمجھی جاتی ہے اور بعید نہیں کہ مرزا محمود کو یہ صفت و رافت میں ملی ہو اور بہت ممکن ہے کہ یہ سلسلہ بہت دور تک چلا جائے۔ کیونکہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو بڑے شہود سے فارسی النسل ثابت کرتے ہیں اور سبھی لوگ اولین سابقین سے ہیں۔ جنہوں نے لڑکوں سے تعلق ظاہر کیا اور عشقیہ اشعار کو لڑکوں پر چسپاں کیا۔ تاریخ دانوں پر پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ ایک جتنی گزرا ہے جس کا نام ابن ابی زکریا الطامی تھا۔ اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں نوٹسے ہازی جائز کر رکھی تھی۔ تفصیل کے لئے دیکھو (دارالہدایہ لابی رحمان الہمدونی ص ۲۳) ایک اور شق بھی باقی ہے کہ عورت کی واژمی ہو۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید لکھتے ہیں کہ لندن میں ایک عورت کی دس فٹ لمبی واژمی دیکھی گئی۔ لیکن یاد رہے میری غرض اس بیان سے توین نہیں۔ بلکہ استفسار و اظہار حق ہے۔ فی ذاتہ! میں اس معاملے میں متردد ہوں اور ناظرین سے دریافت کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب صحیح نتیجے پر پہنچا ہو تو مجھے اطلاع دے کر عند اللہ ما جور ہو۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب!

خاکسار: حمایت اللہ خوشہ چین دارالعلوم چہرہ متصل لاہور!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَنْ لَمْ یَلْمِ لِحَدِیْقَتِیْ
مَنْ لَمْ یَلْمِ لِحَدِیْقَتِیْ

میں نے مرزا ایت کیوں چھوڑی



جناب قاضی خلیل احمد سابق قادیانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

۶ عرض مدعا

معزز حضرات! میں اپنا یہ مختصر سا بیان شائع کر رہا ہوں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ احمدیت یعنی قادیانیت دراصل عیاش لوگوں کا ایک منظم گروپ ہے جس میں بھولے بھٹکے نادان اور بے سمجھ لوگوں کو پھنسا کر چندے بٹورے جاتے ہیں اور اس چندے سے عیاشیاں کی جاتی ہیں۔

خدا کرے کہ میرا یہ بیان پڑھ کر کم کردہ راہ اور بھولے بھٹکے انسان راہ راست پر آجائیں۔ نیز وہ لوگ جو غلام احمد یوں کے دھوکے دیکھے میں پھنس کر اپنے پیارے بچے اور حقیقی مذہب اسلام سے منحرف ہو کر اپنی ایمانی دولت لٹا کر کافر بننے کے لئے پرتول رہے ہیں اگر وہ لوگ بھی بچے دل سے میرے بیان کی صداقت پر غور کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ ان پر قادیانیت کی قلعی کھل جائے گی۔

خاکسار کامل یقین سے عرض کرتا ہے کہ وہ لوگ ضرور راہ مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے اور اخلاق سے گرے ہوئے شخصوں کو مصلح موعود اور مسیح موعود، نبی وغیرہ کہنا چھوڑ دیں گے جو اپنی ضلالت سے دوسروں کو گمراہ کرتے آئے ہیں۔

میرا خاندان

قارئین کرام! یہ عاجز ایک ہائر قادیانی خاندان کا چشم و چراغ۔ اس کے خاندان کے اکثر افراد نے قادیانیت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اپنی زندگیاں وقت کر رکھی ہیں اور انگریزوں کے ایجاد کردہ مذہب کی خوب تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں۔ ان کا جماعت احمدیہ میں کافی اثر و سونخ ہے اور وہ اس جماعت کے سربراہ اور سرگرم کارکنوں میں شمار ہوتے ہیں۔

چنانچہ خاکسار کو بھی ان کی صرح مرزائیت کی تبلیغ کا شوق پیدا ہوا۔ میرے شوق کو مد نظر

رکھتے ہوئے میرے والد جناب قاضی محمد صادق نے مجھے اشاعت و خدمت دین کے لئے وقف کر کے ربوہ روانہ کر دیا۔

قصر خلافت میں باریابی

چنانچہ خاکسار کو مرزا طاہر احمد صاحب ابن جناب خلیفہ بشیر الدین محمود احمد صاحب ربوہ نے اعلیٰ دینی تعلیم دلوانے کے لئے تعلیمی ادارہ میں داخل کروا دیا۔ خاکسار کا جامعہ احمدیہ میں داخل ہونا اور پھر خاص زیر سرپرستی میاں طاہر احمد صاحب یہ ایک خدائی مصلحت تھی۔ ربوہ میں میری ملاقات صاحبزادہ نعیم احمد صاحب سے ہوئی۔

اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ میرے تعلقات کافی گہرے ہو گئے۔ حتیٰ کہ مجھے ان کے ساتھ قصر خلافت میں بھی آنے جانے کا شرف حاصل ہو گیا۔ قصر خلافت میں آنے جانے کی وجہ سے خلیفہ صاحب کے دوسرے صاحبزادے بھی اس عاجز انسان پر کافی مہربان تھے۔ لیکن بعض اوقات ان کی غیر معمولی ہمدردی اور غیر معمولی محبت باعث حیرت ہوتی۔

رنگین و سنگین تماشے اور میری پریشانی

کچھ عرصہ کے بعد خاکسار کو قصر خلافت کے ماحول میں بعض رنگین و سنگین واقعات نظر آئے۔ مگر اندھی عقیدت کے نشے میں سرشار ہونے کی وجہ سے خاکسار جنت الحمقاء میں پڑا رہا۔ لیکن پھر بعض ایسے واقعات رونما ہوئے کہ مجھ پر اصل حقیقت عیاں ہونے لگی۔

مگر پھر بھی ان واقعات کی جو حقیقت میں صحیح تھے محض اندھی عقیدت کی بناء پر غلط تاویلیں کرتا رہتا تو یقیناً میری نظروں میں دنیا کی کوئی حقیقت ”حقیقت“ نہ رہتی۔ چنانچہ یہ عاجز گنہگار (خدا معاف کرے) عرصہ چھ ماہ تک اپنے ضمیر کو پکھلتا رہا۔

عصمتوں، عزتوں اور ناموسوں کو اپنے سامنے لٹے دیکھتا رہا۔ آہ جانتے ہوئے بھی جماعت کی بدنامی اور اپنی جان کے خوف سے حقیقت ظاہر کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ افسوس وہ ظالم بھی اپنے اس کسب سے باز نہ آئے جو بظاہر تقدس اور نبوت کا لبادہ اوڑھے ہوئے

تھے۔ متواتر معصوم و پاک عزتوں سے ہوئی کیلئے رہے۔ گند اچھالتے رہے اور دوسروں کو بھی اس جرم عظیم و گناہ کبیرہ میں زبردستی شریک کرتے رہے۔

ہدایت کی پہلی کرن

اس دوران میری نظروں سے مرزائیوں کی لکھی ہوئی چند کتابیں گزریں۔ ”مرتدین کے الزامات“ (مصنف مولانا محمد علی) ”دور حاضر کا مذہبی آمر“ اور ”تاریخ محمودیت“ وغیرہ جن میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ خلیفہ صاحب یعنی مرزا ابیشر الدین محمود احمد ابن مرزا غلام احمد قادیانی ایک زانی سیاہ کار، دھوکہ باز اور عیاش انسان ہے اور مذہب کے لیبل پر دوا عیش و عشرت دیتا رہتا ہے۔ ان کتابوں میں تقریباً ۳۰ خفیہ شہادتیں مومکد عذاب قسموں سے درج ہیں اور ہر ایک شہادت دہندہ نے یہ ثابت کیا کہ خلیفہ صاحب نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ خلیفہ صاحب نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے اور خلیفہ صاحب نے مجھ سے یا فلاں سے بد فعلی (اقدام بازی) کا ارتکاب کیا ہے اور ہر ایک شہادت دہندہ نے بالقابل حضرت خلیفہ صاحب سے مہبلہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ لیکن جناب خلیفہ صاحب مہبلہ کے چہ حرفی لفظ سے کچھ اس طرح وبل گئے ہیں کہ ان کے منہ سے اگر کچھ نکلتا ہے تو فقط لفظ بلا ہی نکلتا ہے جو آج کل ان کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے۔

چند شہادتیں

میں مشت نمونہ از خردارے کے طور پر ان کتابوں میں سے چند شہادتیں درج کرتا ہوں۔ یہ تمام کتابیں قابل مطالعہ ہیں۔

شہادت نمبر ۱:

میں اپنے علم، مشاہدے اور رویت یعنی دیکھوں دیکھی بات کی بناء پر خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا ابیشر الدین محمود احمد نے خود اپنے سامنے اپنی بیوی کا غیر مرد سے زنا کروایا۔ اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ اس بات پر مرزا ابیشر الدین کے بالقابل حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ محمد یوسف نازا معرفت عبدالقادر تیرتھ سنگھ ہے ہوائی روڈ عقب شاہیار ہوٹل لاہور

شہادت نمبر ۲:

مرزا گل محمد مرحوم کی دوسری بیوہ چھوٹی بیگم نے مجھے بیان کیا کہ مرزا محمود کو میں نے اپنی

آنکھوں سے ان کی صاحبزادی اور عورتوں کے ساتھ زبا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مرزا محمود سے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا! قرآن وحدیث میں اس کی عام اجازت ہے۔ البتہ اس کو عوام میں پھیلانے کی ممانعت ہے۔ (نعوذ باللہ من ذالک) میں خدا کو حاضر ناظر جان کر تحریر کر رہی ہوں شاید میری مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی اس سے کوئی سبق حاصل کریں۔
 فقط: سیدہ ام الصالحہ بنت سید امیر حسین کن آباد، لاہور

شہادت نمبر ۳:

مصری عبدالرحمن صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیر احمد نے میرے سامنے قرآن شریف ہاتھ میں لے کر یہ لفظ لکھے۔ خدا تعالیٰ مجھے پارہ پارہ کر دے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ نے میرے ساتھ بد فعلی کی ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر یہ واقعہ لکھ رہا ہوں۔

بقلم خود محمد عبداللہ احمدی سینٹ دفنچر ہاؤس مسلم ٹاؤن لاہور

قارئین کرام! یہ واقعات اور اس قسم کے کئی اور واقعات جب میں نے پڑھے تو خلیفہ

صاحب کے شعر۔

کیا بتاؤ کس قدر کمزوریوں میں ہوں پھنسا

سب جہاں بے زار ہو جائے جو ہوں میں بے نقاب

کی تشریح ہوگی۔ پہلے میں حیران تھا کہ مرزا محمود کے اعداد آخروہ کون سی کمزوریاں ہیں

جن کے بے نقاب ہونے سے جہاں ان سے بیزار ہو جائے گا اور نفرت کرنے لگے گا۔ کتاب

مذکورہ کو پڑھنے سے یہ راز بھی طشت ازہام ہو گیا۔ صاحبزادیوں اور اہل خانہ کے حالات تو مجھے

ذاتی طور پر معلوم ہی تھے۔ لیکن مرزا محمود کی یہ پاکیزہ سیرت میری نظروں سے گزری تو بے ساختہ

میرے منہ سے یہ نکل گیا۔ ایں خانہ ہمد آفتاب است!

کیا کیا بتاؤں کیا کیا دیکھا

حضرات! میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ تمام واقعات منظر عام پر

لاؤں اور انہیں قلمبند کروں جو نہایت ہی گندے اور اخلاق سے گرے ہوئے ہیں۔ اگر

صاحبزادے اصرار کریں گے تو مجھے وہ واقعات جو میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں ان کے حکم کی

تعمیل کرتے ہوئے شائع کر دوں گا۔

نیز کوئی صاحب خاندان نبوت کے پوشیدہ واقعات جانتا چاہیں تو وہ مجھ سے خود آ کر ملیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لئے وہ واقعات اپنی زبانی عرض کروں گا اور اگر کوئی صاحب مرزائیت کے متعلق اعتقادی مسائل پر گفتگو کرنا چاہیں تو وہ میرے استاذی المکرم حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی سے ملاقات کریں۔ انشاء اللہ! ان کے تمام ٹھکانے رفع ہو جائیں گے اور مرزائیت کا طلسم ہوشربا ان کے سامنے مٹی کے کھلونے کی طرح چور چور ہو جائے گا۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ جب مجھ پر ثابت ہو گیا کہ۔

ایں خانہ ہمہ آفتاب است

تفکر اور بیزاری

میرے دل میں قادیانیت کی وہ قدر اور عزت نہ رہی۔ میں نے سوچا جو لوگ خود گمراہ ہوں وہ گمراہوں کے عیق سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ وہ دوسروں کی کیا اصلاح کریں گے۔

آنکھ خود گم است۔ کرا رہبری کند

وہ لوگ کس طرح مصلح موعود کی اولاد اور نبی کی اولاد اور خود مصلح ہو سکتے ہیں اور ان کے باپ دادا کا مذہب کس طریقے سے سچا ہو سکتا ہے۔ میں نے ان تمام سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لئے یہی آسان اور صحیح طریقہ سوچا کہ سلسلہ (جماعت احمدیہ) کا لٹریچر اچھی طرح پڑھنا چاہئے۔ چونکہ میرے دل میں صاحبزادوں کے حالات دیکھ کر ویسے ہی نفرت ہو گئی تھی۔

شرمناک اڈا

لیکن جب خود مرزا محمود کے حالات نظر سے گزرے تو یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ اشاعت و تبلیغ مذہب کے نام سے شہوت رانی اور بد کرداری کا ایک شرمناک اڈا قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے قصر خلافت جو حقیقتاً قصر غلاط ہے۔ اس کے تمام رنگین و سنگین واقعات کو نظر انداز کر دیا اور مذہبی نقطہ نگاہ سے غلام احمدیت یعنی کاذبیت کو پرکھنے کے لئے اپنے طور پر تحقیق شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں بعض علماء کرام سے بات چیت شروع کی جو اس مذہب باطلہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔

مولانا منظور احمد چنیوٹی سے تبادلہ خیال

علماء کرام میں سے ایک پاک سیرت علوم باطنی و ظاہری سے پرہیز جو اس وقت میرے

استاد ہیں۔ یعنی حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی صدر مدرس جامعہ عربیہ چنیوٹ قابل ذکر ہیں۔ آپ نے میری اس طرح مدد کی جس طرح ایک صراط مستقیم کی طرح رہبری کرنے والا مرد حق کر لیا ہے۔ خاکسار ہر دوسرے تیسرے روز ربوہ سے چنیوٹ عرصہ ڈیڑھ دو ماہ تک آتا جاتا رہا۔ ہماری گفتگو عموماً حیات و ممات مسیح، رفع و نزول، اجراء و ختم نبوت، حضور پاک ﷺ کے روحانی اور جسمانی معراج کے موضوعات پر ہوتی رہی۔ ہماری بحث دودو تین تین گھنٹے تک متواتر ہوتی رہتی تھی۔ لیکن حضرت مولانا صاحب اپنا قیمتی وقت اس عاجز اور کم کردہ راہ کو راہ مستقیم پر لگانے کے لئے بے دریغ خرچ کرتے چلے گئے۔

آخر حضرت مولانا صاحب نے میرے سامنے ان تمام باطل عقائد کا جن پر مرزائیت کا دار و مدار ہے تار و پود نکھیر کر رکھ دیا۔ اس طریقہ سے کہ میری عقل و فہم کے چودہ طبق روشن ہو گئے اور میں حق و صداقت کے سامنے بہ صدق دل سر جھکانے پر مجبور ہو گیا اور اس غار ضلالت سے باہر نکل آیا۔ جس کے اندر میں اپنی سادہ لوحی اور خاندانی ماحول کی وجہ سے کئی سال تک بھٹکتا رہا اور اس طرح توفیق خداوندی نے مجھے از سر نو حلقہ بگوش اسلام ہونے کی سعادت بخشی۔ فلہ الحمد علیٰ ذالک!

متوقع مشکلات

مجھے معلوم ہے کہ اب مرزائی حضرات کی طرف سے مجھ پر طرح طرح کے الزامات اور دشنام طرازیوں کی جائیں گی۔ میرے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور سب سے بڑا پہاڑ میرا اپنا خاندان ہوگا۔ لیکن مجھے ان باتوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔

پردا نہیں جو آج زمانہ خلاف ہے

رستہ وہی چلوں گا جو ٹھیک اور صاف ہے

میری آرزو اور دعا

زمانہ ہمیشہ حق قبول کرنے والوں کی مخالفت کرتا آیا ہے اور ابد تک کرتا رہے گا۔ میں ان تمام احمدی بھائیوں اور بزرگوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی مرزائیت کو پرکھیں اور جھولی ثابت ہونے پر سچے مذہب اسلام میں داخل ہوں اور اپنی فریب کاریوں، دھوکے اور دہلیزوں

اور شام طراز یوں سے توبہ کر لیں اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شان میں بے ادبی کرنے سے باز آجائیں۔ مرزا غلام احمد حضور ﷺ کے درجہ تک کیا پہنچیں گے؟

یہاں شاہ لولاک کے قدموں کو چوما اس بلندی نے

نہیں عقل کو بھی مجال پرزنی جس جا

میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس بیان کو ٹھنڈے دل سے پڑھا جائے گا اور اس پر زیادہ

سے زیادہ غور کیا جائے گا اور میری گزارش پر عمل کیا جائے گا کہ۔

لباس خضر میں یاں سینکڑوں ریزن بھی پھرتے ہیں

اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر

بھائیو اور بزرگو! دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام منکرین اسلام کو اسلام جیسی نعمت کبریٰ عطاء

فرمائے اور مجھے اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا موقع دے۔ والسلام!

قاضی خلیل احمد صدیقی نائب، سابق محکم جامعہ عربیہ چنیوٹ

مرزا انیوں کی دوورقی کی ضروری وضاحت

اس رسالہ نے مرزا انیوں کی قطعی کھول کر رکھ دی۔ مرزائی اس سے سخت پریشان ہوئے

اور انہوں نے اس کی تردید میں ایک دوورقی خط بعنوان ”مولوی منظور احمد چنیوٹی کے نام کھلی چٹھی“

رہوہ سے شائع کیا جو بالکل جعلی اور سراسر جھوٹ ہے۔

قاضی خلیل احمد صاحب نے اس خط کے شائع ہونے کے بعد لاہور ٹیلی روڈ کی جامع

مسجد میں حلیہ بیان میں کہا کہ یہ خط من گھڑت ہے اور بالکل جعلی ہے۔ میں الحمد للہ اپنے سابقہ

بیان پر علیٰ حالہ قائم ہوں اور انشاء اللہ! قائم رہوں گا۔ میرا اس خط کے مضمون سے قطعاً کوئی تعلق

نہیں ہے۔

ہمارے پاس دو عدد خط موجود ہیں ان کے علاوہ ایک اور بیان بھی موجود ہے جس میں

خلیفہ آنجنابی مرزا بشیر الدین محمود کی چھوٹی الہیہ مہر آ پا اور چھوٹے لڑکے مرزا نعیم احمد کے متعلق

مؤکد عذاب حلیہ شہادت موجود ہے۔

اگر قادیانی حضرات براندہ منائیں اور تحریری اجازت دیں تو اسے منظر عام پر لایا جاسکتا

ہے۔ جس سے خاندانِ خلافت کے تمام راز سر بستہ آشکارا ہو جائیں گے جو قاضی صاحب نے اس

رسالہ میں اشارہ ذکر کئے ہیں۔ کیا قادیانی حضرات اس کی اجازت دیں گے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَرْزَا سَیُودِی
کتابخانہ اسلامیہ
لاہور

پاپائے ربوہ کے خلاف ایک مرید کا استغاثہ

مرزاسیوں کی روحانی شکارگاہ



عبدالرزاق مہتہ قادیانی

دیباچہ!

یہ غنڈہ گردی کیوں؟

”عبدالرزاق مہتہ“ جماعت احمدیہ کراچی میں ہی نہیں پاکستان بھر کے قادیانوں میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ ان کے والد بھائی عبدالرحمن قادیانی نے قادیانیت کی خاطر اپنے آبائی مذہب کو الوداع کہہ کر اپنا سب کچھ برطانوی سرکار کے اس خودکاشتہ پودا کے لئے وقف کر دیا اور یوں بارگاہ نبوت کا ذبہ میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ پیسہ تو ریوہ کے ”خاندان نبوت“ کی اتنی بڑی کمزوری ہے کہ وہ اس کے حصول کے لئے اخلاق شرافت و عزت کیا عصمت تک کو داؤد پر لگا دیتے ہیں۔ مہتہ صاحب کی قربانیاں رنگ لائیں اور وہ ”خاندان“ سے قریب تر ہوتے گئے۔ ان کے اخلاص میں حماقت کی حد تک اضافہ ہو گیا تو وہ مرزا محمود احمد قادیانی کی خلوتوں کے ساتھی بن گئے۔ ان کی بیگمات و صاحبزادیوں کے ساتھ ٹھہرے اڑاتے اور احمدیت کی برکات کے ترانے گاتے رہے۔ ایک مرتبہ خود مرزا محمود سے سدومیت کا بدیشی شوق بھی فرمایا۔ فونو گرافی کے رسیا ہونے کی وجہ سے انہوں نے سمجھا اور ایلورا کی فاروں کے مناظر کو کیمرے کی گرفت میں لے کر ہمیشہ کے لئے محفوظ بھی کر لیا۔ مگر آفریں ہے ان کی ہمت مردانہ پر کہ یہ سب کچھ دیکھنے اور کرنے کے بعد بھی احمدیت کی صداقت پر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ ان رنگین تصویروں کے حصول کے لئے ان کے گھر میں امور عامہ کے ذریعہ چوریاں کر دانے کی کوشش کی گئی۔ غنڈہ گردی کے کئی واقعات ظہور میں آئے۔ مگر مہتہ صاحب کا قادیانیت پر ایمان بڑھتا گیا۔ جب معاملات حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تو انہوں نے امیر جماعت احمدیہ کراچی کو ایک درخواست دی کہ مرزا ناصر احمد خلیفہ ثالث میرے خلاف جو اوجھے بھٹکنڈے استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف تحقیقات کروائی جائے۔ یہ درخواست اس لحاظ سے حماقت کا نقطہ عروج ہے کہ نام نہاد خلیفہ سالوس کا مقرر کردہ ایک امیر خود اس خلیفہ کے خلاف کیا تحقیقات کر سکتا ہے جس کی اپنی امارت اس **Appointing Authority** کے اشارہ امر و کی محتاج ہے۔ لیکن اس ضمن میں انہوں نے ان مظالم کے جو اسباب بیان کئے ہیں انہیں پڑھ کر ایک شریف انفس انسان لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ عصمت و صفت کو باز سچے اطفال بنانا تو قادیانیت کے ارکان غصہ میں سے ہے۔ قتل و عارت گری میں بھی وہ بدنام زمانہ کارلوس کے مثل و بروز ہیں۔ نطفی کا قتل تو کراچی میں ہوا ہے۔ کیا

حکومت پاکستان ان کی نقوش کا پوسٹ مارٹم کروا کر مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتی۔
 مرزا ناصر احمد تو طاہرہ خان کے عشق میں کشتہ کی نسبتاً زیادہ مقدار کھا کر زکباش ہو چکے
 ہیں۔ اب اس خاندان کا تیسرا گدی نشین مرزا طاہر احمد ظلم و تشدد کے انہی وحشیانہ جھکنڈوں سے
 کام لے کر اپنے مخالفین پر عرصہ حیات تک کر رہا ہے۔ کیا حکومت یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے
 دیکھتے ہوئے تک تک دیدم دم نہ کشیدم کے فشار میں گرفتار رہے گی۔ ہماری رائے میں جب تک
 ریوہ کی زمین کی لیز ختم نہیں کی جاتی، وہاں چند کارخانے نہیں لگائے جاتے اور ریوہ کو تحصیل کا درجہ
 نہیں دیا جاتا یہ غنڈہ گردی ہوتی رہے گی۔
 نیاز کیش، ابن الحسین گورگانی!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

بخدمت جناب سیرٹری صاحب امور عامہ جماعت کراچی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

مندرجہ ذیل واقعات مظالم جن میں ایک حصہ مظالم جماعت کراچی کی ستم ظریفیوں کا
 بھی مرہون منت ہے جس کی تفصیل قدرے بیان خدمت کرتے درخواست کرتا ہوں کہ اب جب
 کہ مظالم اپنی حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ براہ کرم آپ سے گزارش ہے کہ اس تفصیل مظالم کی روشنی
 میں کارروائی جھٹکتی فرما کر منکوحہ فرمائیں۔ یہ خیال رہے کہ یہ پچاس سالہ مظالم کی داستان ہے۔

آغاز مظالم

۱۹۳۶ء میں احرار کا شور شرابا، جماعتی انتظام سے ہر کوئی کماٹنٹ اپنے اپنے فرائض
 میں لگن، کورٹپ لیڈر کی حیثیت سے ایک اہم امر کی تحریر، مجھے میرے کماٹنٹ نے صاحبزادہ
 مرزا ناصر احمد کو انکی کوشی پہنچانے بھیجا۔ عریضہ لیتے مجھے حکم ہوتا ہے کہ یہ لائیں ابھی فلاں جگہ پہنچا
 دو۔ جواباً کہا کہ مجھے پہلے اپنے کماٹنٹ کو ان کے حکم کی تعمیل کی اطلاع دینی ہے۔ لہذا مجبور ہوں
 پس پھر کیا تھا حکم عدولی پرنس آف ویلز، ڈیکلیئر انڈینٹائی جذبہ، حماد میرے خلاف بنایا جاتا ہے کہ
 خدام الاحمدیہ (جس کے یہ حضرت کماٹنٹ تھے) کا محصل مجھے بلا مقابلہ حلقہ نے منتخب کیا۔ جسے
 ان کماٹنٹ صاحب نے رد کر کے دوسرے چناؤ کا حکم فرمایا۔ پھر مجھ پر ڈیکلیئر انڈینٹائی حکم یوں کہ اس کا
 نام چھوڑ کر کسی دوسرے کا چناؤ کیا جائے۔ ”کیوں جناب ہے نا“

یہ تو رہی جڑ مظالم! اب اس جڑ سے تناور پھر چوٹی کیو کرے؟ اب اس کے بعد وقتاً فوقتاً میرے خلاف من گھڑت مقدمات اپنے اثر و رسوخ سے امور عامہ اور اس کی ہدایات کے ذریعے جہاں قائم کروائے جاتے وہاں مجھے بدنام کرنے کے جو بھی اہلکندے استعمال کر سکتے، کرتے۔ یہاں تک کہ خلافت کی حدیوں کی گئی کہ مجھے پھانسنے کے لئے عورتوں پر خرچ کرنے سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔ ایک دفعہ مستری دین محمد عرف بلا مستری جس کے پاس ایک گھوڑی تھی۔ خلیفہ ثانی کی روداگی برائے ڈھبوزی نہر تھنے کے قریب سائیکل پر سوار چند دوست الوداع کہنے جا رہے تھے کہ یہ منصوبہ یوں بنا کہ مستری بے کوجہ پر گھوڑی چڑھانے، جان سے مروانے کا حکم دیا۔ جس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ”جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے“ امور عامہ کی ہدایات کے مطابق چار پانچ شخصوں کو میرے گھر چوری کی غرض سے داخل کیا۔ مقصد دراصل تلاش تصاویر عیاشیاں تھی۔ پہلی رات ناکامی پر دوسری صبح مجھے حضور لاہور کام سے بھجوا دیتے ہیں۔ اس طرح دوسری رات ایک کمرہ میں مصروف تلاش ہی تھی۔ جب کہ میری بیوی اور والدہ محترمہ ہی گھر پر تھیں۔ میری بیوی نے اوپر کچھ آہٹ پا کے والدہ محترمہ کو ہوشیار کیا۔ وہ ماشاء اللہ اذیر تھیں۔ لاکھ رات وہ شخص سے سر پر پاؤں رکھ کر روف چکر ہو گئے۔ (کمرہ بھی کرم بھائی کا) اب ذرا غور فرمائیں خدا کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کیا یہ موزوں و مناسب وقت تھا۔ ”کون سا“ میری بیوی ایام زنجلی کے چھٹے دن میں تھی۔ (بہ پیدائش پچھ مہدالباسط، مورخہ یکم ستمبر ۱۹۳۰ء) ۶ ستمبر ۱۹۳۰ء کو اپنے زر خرید سب انچارج چکی قادیان، ہزارہ سنگھ کو مدعو دیوان انجیر وارنٹ تلاش وغیرہ اپنی گارڈ لائے گھر کا محاصرہ امور عامہ کی سمیت میں کرنے گھر میں گھس آیا۔ وقت مقرر تھا۔ عین وقت پر ولی اللہ شاہ ظہیں بجانا سائیکل سوار ہو کر گزرا کہ آج شکار ضروری قابو آ جائے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے ناصر اعلیٰ کی سواری چوہدری فتح محمد سیال تماشا دیکھتے گزرتے ہیں۔ تلاش کرنے جو آئے تھے نہ پا کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اتنے میں انچارج صاحب چکی بھی گورداسپور سے تشریف لے آئے۔ مجھے وہاں دیکھ کر عمر سے مطلوبات لے کر حکم دیا۔ برخوردار جائے گھر۔ چکی سے باہر آ کر حضرت والد صاحب جن کے ساتھ قادیان ہی سے ایک انسان جو فرشتہ تھا، کھڑا کر دیا۔ مخاطب ہوتے کہا: آپ چاہیے۔ پھر اگر کوئی بلانے آئے بھی تو مت آئیے۔ میں دیکھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ہمدرد اور اس کے خاندان پر لاکھوں لاکھوں فضل و کرم فرمائے۔ آمین اور دوسرے دن کی ٹرین پر انچارج تھا نہ پھر گورداسپور تشریف لے

جاتے۔ اس ہزارہ سنگھ کی تبدیلی کے آرڈر لا کر اس کی میز پر ایسے مارے کہ وہ بھٹا گیا۔ اس انتہائی ظلم کی برداشت کب تک۔

تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد

تیری خاطر سے یہ سب ہار اٹھایا ہم نے

یہ دل سوز فلک شکناف صدا (حضرت والد صاحب قبلہ) جسے اہل قادیان کبھی بھی نہیں بھول سکتے، نہ ہی اس سلسلہ کا خطبہ جمعہ، فرمودہ حضور جس میں ولی اللہ شاہ کو ناکاوی پر وہ بے نقط جھاڑ پلائی کہ الامان والخلیظ۔ (غیور کے لئے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ مگر غیرت کہاں) حاضرین جملہ گواہ ہیں بعد نماز جمعہ ”الفضل“ کے دفتر جا کر ایڈیٹر صاحب خواجہ غلام نبی صاحب کے حضور منتوں خوشامدوں کے ناک رگڑے کہ یہ خطبہ شائع نہ کیا جائے۔ اس صدا کی ہاہ یوں پڑی کہ ولی اللہ شاہ پر قانع پڑ گیا۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان سے (یعنی حضرت والد صاحب قبلہ اور خاکسار) سے معافی مانگ لو۔ جس پر یوں کہا: بھائی جی سے تو معافی مانگ لی ہے۔

اب اور سنئے! ایک سکھ لڑکے نے ریلوے کوارٹر کی ایک لڑکی کو چھیڑا چھاڑا۔ نوبت پولیس تک پہنچی۔ اس سکھ لڑکے کا باپ اور چچا ممنون تو یوں ہی تھے کہ بعض سکھ گھرانوں کو ماہوار وظیفہ ملتا تھا۔ ان میں سے یہ بھی ایک تھا۔ اس لئے وہ ولی اللہ شاہ کے پاس پہنچے۔ معاملہ بتایا مگر بیٹھے شکار پر نشانہ لگانے کا انتظام ہو گیا۔ کہتے ہیں ٹکرنہ کرو جس طرح میں کہوں لڑکا بیان دے دے۔

پولیس قادیان تو خریدی ہوئی تھی۔ اس کی بجائے میری شناخت پر بیڑہ کروائی گئی۔ اس لڑکی کو ہر چند پولیس اور امور عامہ کے حواریوں نے میرا حلیہ تک بتا دیا۔ مگر اللہ کی قدرت شناخت کسی دوسرے کی ہوگئی۔ کام ختم، ذلت نے ان کا منہ چوما۔

اب چلئے! ذرا ہندو پاک کی پارٹیشن کی سیاحت کو کہ یہاں کیا گل کھلاتے ہیں۔ اہل قادیان کو بسوں کے ذریعہ بھجوانے کے لئے باقاعدہ تحریری پروگرام بنا جس میں افراد کنبہ، تاریخی روایتی، مقام، بس نمبر درج تھا۔ باقاعدہ دفتر کی مہر و مخط سرنج سیاہی سے کرتے۔ گو کہ حضرت والد صاحب نے روایتی سے قبل ہی یہ تحریر کر دیا تھا کہ میں قادیان ہی ٹھہروں گا۔ مگر پھر بھی لاہور بورڈ پر بھگنوں میں نام معذرا کنبہ درج فرما دیا جاتا ہے۔ گو یا غیرت کا جنازہ اپنے ہی ظلم سے نکالا جاتا

ہے۔ جس پر حضرت والد صاحب قبلہ نے بھی احتجاج فرمایا تو میں نے بھی اس پر کافی لکھا۔ مگر بیٹ
دھری جواب نداد۔ اب ملاحظہ فرمائیے:

ایام درویشی حضرت خلیفہ ثانی سے باقاعدہ تحریری اجازت لینے حضرت والد صاحب
قبلہ پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ موقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے بحیثیت نگران و رویشاں ڈیکٹیشن
انداز میں مکان کا تالا توڑنے، تڑوانے تلاش (حصول تصاویر) لیتے تاکام و نامراد ہوتے۔ گھر کا
کل سامان لوٹا لٹوایا گیا۔ کیوں صاحب! یہی تو ہے ناں ڈیکٹیشن۔ کیا حق تھا تالے توڑنے؟
تڑوانے لوٹ کھسوٹ کرنے کا؟ فرمائیے۔ یہ جذبہ انتقام نہیں تو کیا ہے۔

اب آئیے ذرا جماعت کراچی کے کارنامے اور ان کی حقیقت و اصلیت کہ گمنڈوں
اور غوروں کی بھی سیر ہو جائے۔ چوہدری عبداللہ خاں امیر جماعت کے ذریعے نظر عنایت یوں
ہوتی ہے کہ میری وصیت کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور، جس کی تہہ میں دراصل منہ ماگی رشوت یوں
کہ حضور کی آمد کراچی کے موقع کی تصاویر۔ از خود ہر قسم کے اخراجات اٹھاتے پیش حضور عادتاً
عقیدہ پیش کرتا۔ ان چوہدری صاحب نے بھی ایک البم ماگی۔ بعد تیاری مع بل پیش کی۔ آپے
سے باہر ہوئے۔ پیش میں نامعلوم کیا کہا؟ آخر مولوی عبدالحمید صاحب نے مجبور کر کے بل دلواویا۔
مگر پارہ چڑھتا ہی گیا۔ دوسری مرتبہ آمد حضور کے موقع پر اڈل تو شیٹیشن پر ہی ہر چند رکوانے کی
تاکام کوشش کرتا رہا اور بیچ لگوری ہوٹل میں ایک بٹے خننے کے ذریعے تختی سے لکھوانے کی بھی تاکام
کوشش کی۔ میں نے کہا وہ آئی جی پولیس بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے شکایت کرو۔ وہ مجھے نکال سکتے
ہیں۔ مگر کس کو ہمت ہوتی، ایسی چپت پڑتی کہ ہوش آجاتی۔ اب ذرا انجام دیکھو دوسروں کو ذلیل
کرنے والوں کو اللہ کیسے ذلیل کرتا ہے۔ ربوہ جا کر ایک رشتہ کی مانگ پر حضور نے جو پنجابی میں
بے نقط سنائیں اور گالیوں کی بھر مار وہ دی کہ ساری کی ساری امارت ہی دھری کی دھری رہ گئی اور
برداشت ذلت کر کے دنیا سے رخصت پائی۔

اب باری آتی ہے محترم جناب شیخ رحمت اللہ صاحب کی امارت کی جن کے کان پہلے
ہی میرے خلاف مبرے ہوئے تھے۔ رہتی سہتی کی یوں پوری ہوتی ہے کہ بیچ لگوری ہوٹل میں ایک
مسئلہ شادی پارٹی پر (جن کا ذکر خطبات الفضل وغیرہ میں برے ہی اہتمام، احتشام، نمائش محض
نمائش یا دوسروں کو نصیحت خود را فضیحت کے طور پر ہوتا) احکامات وغیرہ بیان فرماتے جانے پر شیخ

صاحب محترم کو توجہ دلائی تھی کہ آپ سے باہر ہوئے میرے خلاف خطبہ جمعہ کے سٹیج پر کھڑے ہو کے جو بھی زہرا گل سکتے تھے، اگلا۔ نہ صرف میری ذات تک بلکہ حضرت والا صاحب کی ذات گرامی کے متعلق بھی شدید قسم کے الفاظ استعمال کئے جو ناقابل برداشت تھے۔ خطبہ میں بولنا منع نہ ہوتا تو اس جگہ پر خون خرابہ ہو جاتا۔ باپ کی ذات گرامی ہو تو میرا آخری قطرہ خون حاضر تھا اور انشاء اللہ! آخری دم تک رہے گا۔ نتیجتاً پہلے تو تحریری کوشش کی کہ اس طرح ازالہ کر لیں۔ مگر نہ جی ایک طرف تو امارت کا شمار تو دوسری طرف۔ بنگلہ کی شہ۔ مجبوراً قانونی نوٹس دیا۔ جس نے ایسا نشہ ہرن کیا کہ ہوش ٹھکانے آگئے۔ (کاش اس وقت ہی اگر یہ معاملہ سلجھ جاتا تو مجھے آج اس درخواست کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہی سبھی کچھ اس وقت بھی مظہر عام پر آ جانا تھا۔ خیر اب مجھے مجبور کر دیا ہے تو ٹھیک ہے) عقل کے اندھے ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ معافی نامہ لکھ کر دینا بہت بہتر خیال فرمایا۔ اندر خانہ میری یہی ایک چال تھی کہ روز ایسے ہی سٹیج پر کرتے رہیں اور دوسری طرف ان کا خیال نہ آسکے۔ سو وہی ہوا اور تاریخ میں یہ پہلا معافی نامہ ہے جو لکھ کر دیا گیا۔ ورنہ آج تک تو معافی نامے لکھوائے ہی جاتے تھے۔ معافی نامہ لکھ کر دینے کا معاملہ جماعت کراچی خصوصاً عاملہ کے علم میں ہے۔ قانونی نوٹس ملتے صبح صبح ہی جناب چوہدری احمد عیاری صاحب نائب امیر ہر چند سر پکھتے مگر جواب دہی فرماتے: ”یہ ناممکن ہے کہ شیخ صاحب اپنے الفاظ واپس لیں۔“

کیسے ممکن ہوا اس خطبہ جمعہ کے نتیجہ میں۔ میرا خون اس قدر کھولا کہ بیان سے باہر۔ اطباء پریشان، گیس ٹریٹل علاج معالجہ کرتے رہے۔ حضرت والد صاحب کی خدمت میں سالانہ جلسہ کے موقعہ پر قادیان حاضر ہو کر جماعت کراچی کے آئے دنوں کے مظالم و ستم کے لئے درخواست دعا کی، الوداعی رخصت لیتے۔ پہلے اور آخری مرتبہ ان کے سینہ سے چپکا۔ جس پر یوں فرمایا: ”بیٹا بے فکر ہو کر جاؤ میں نے جسے درخواست دینی تھی وہی ہے۔“

غور طلب یہ کہ ظلم و ستم عروج پر تھا۔ جب میرے مولانا نے مجھے اپنے در پر عمرہ کے لئے بلوایا۔ کیسے درخواست قبول فرمائی۔ سبحان اللہ! ہوئی جہاز عصر کے قریب مجھے جدہ لے گیا۔ جلدی جلدی غسل کیا۔ احرام باندھ کر مکہ روانہ ہوئے اور دوسری رکعت نماز مغرب میں شامل ہوئے۔ سنتیں ادا کر کے سعی سے فارغ ہو کر جو دعا کے لئے بیٹھا۔ مشغول دعا تھا کہ نظارہ یوں نظر آیا کہ حرم شریف پر موسلا دھار ہارش ہو رہی ہے اور آواز یوں آئی یا نگ آج جو مانگتا ہے قبول ہے۔ واہ

رے مولا تیری قدرت اور بھید کس نے پائے قربان تیری قدرت پر جو مانگا اللہ نے دیا اور دکھایا
صرف ایک مانگ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے صحیح نہ مانگ سکا اس کا بھید اللہ ہی جانتا ہے۔

قصہ مختصر شیخ صاحب محترم کے لئے حقیقت میں بہت سخت بددعا کرتا رہا اور ایک مانگ
یہ بھی کہ الہی اب جب کہ تو نے اپنے فضل سے اپنے در پر بلا لیا ہے۔ ہم گنہگار، غریب، کمزور،
نا توں اور پھر مکی قرعہ اندازیاں تو اپنا فضل فرما اور اس فریضہ حج سے بھی نواز دے اور لالچ یوں
بڑھتا گیا کہ بچوں کی والدہ کو بھی بلوا دے۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ کہ اللہ نے قبول فرمائے۔ سال بھر
رہنے زیارتوں کے فیوض سے بار آور ہونے کے مواقع عطاء فرمائے۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا محترم
شیخ صاحب کے متعلق، ایام حج بالکل قریب آ گئے۔ مجھے حکم ہوتا ہے حج کا اور ان کے لئے عمرہ کا۔
میں شیطان کو پھونکتا کہ تو پھر و غلٹانے آ گیا۔ الغرض دوسرے جمعہ پھر تیسرے بھی وہی حال جس
کے بعد چوتھے جمعہ یہ عرض کرتے کہ الہی اگر تیری رضا یہی ہے کہ میں ان کے لئے عمرہ کروں سو
آج حاضر ہوں۔ احرام باندھنا عین عمرہ محترم شیخ صاحب کر کے، عمرہ ادا کرنے کے لئے روانہ
ہوا۔ کہا الہی اب یہ معاملہ تیرے سپرد ہے۔ میرا دل ان کی طرف سے بالکل صاف ہے۔ کوئی رنج
غم نہیں۔ الحمد للہ! آج تک محبت بیار سے ملتے ملاتے ہیں۔

مفصل خط محترم شیخ صاحب کے پاس ہوگا۔ ان سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اب رہا
وصیت کا معاملہ، مسوودہ خلیفہ ثانی کی بیماری کی وجہ سے مگر ان بورڈ میں حضرت مرزا ابیتر احمد صاحب
کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے معاملہ سلجھانے اور اصل معاملہ کا ذکر نہ فرمانے کی ناکام کوشش
کی۔ جب کہ میں ان کی ایک کتاب سیرۃ الہدی کی ایک تحریر کے مطابق اپنا حق مانگنے میں ہند
تھا۔ (وجہ ضد آگے بیان کروں گا) انہوں نے مجبور ہو کر فائل حضرت مرزا عبدالحق صاحب
ایڈووکیٹ کو جو عاتق مگران (نائب) تھے ملاحظہ کرنے کو دی۔ بعد ملاحظہ یوں تحریر فرمایا: "ان کی
طبیعت میں ضد پائی جاتی ہے۔ دوسرے جماعتی کاموں میں حصہ نہیں لیتے۔" یہ اس وجہ سے غلط تھا
کہ دوبارہ میرا مقابلہ منتخب ہونا روک دیا تھا۔ (یہ دوسرا واقعہ بلا مقابلہ روک کرنے کا ہے۔ پہلا
کماؤنٹ ڈیکلٹر مرزا ناصر احمد کا۔ پھر جماعتی کاموں میں حصہ نہیں لیتے، غلط ہوا) کیا یہی خوب واقعی
صحیح نقطہ نظر ہے کہ طبیعت میں ضد (فرمائیے ضد، حصہ قدرتی اور فکری ہے کہ نہیں) پھر بھی صدر راہجن
جس کے انچارج ڈیکلٹر صاحب بہادر تھے۔ وصیت منسوخ کروادی۔ حالانکہ منسوخی یا بحالی خلیفہ

وقت کا اختیار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میری وصیت تو منسوخ کرتے کراتے خوش ہو گئے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔

اب آخری ان کا شیوہ تقدس مآلیٰ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

خاندان میں پھوٹ، میاں بیوی میں ناچاقیاں! ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرنے کرانے، ماں باپ کو بچوں سے کٹانے (علیحدہ کرنے) کی شاطرانہ چالیں، ہر رنگ ہر چال (جائز تو ان کی ڈکٹری میں کہیں بھی نہیں ملتا) چلتے اپنا الوسیدھا کرنا، شیوہ مخلصی کے بلند ہانگ و عادی کا ڈھونگ پیٹنے نئی نسل کے رسل رسالوں پر گہری نظریوں رکھنا کہ ملازمین سے چوری چھپے کوائف وقتاً فوقتاً حاصل کرتے رہنا۔ جہاں کوئی ذرہ سا پنجہ پڑا پھر وہاں ایسے چمٹتے ہیں۔ جیسے گدھ مردار پر جس کے بعد اپنی روحانیت کا بیٹھا ہر، ہر قسم کے سبز باغ دکھاتے، دماغوں میں بھوسہ بھرنے کے وہ وہ حربے، خاندانوں کی بڑائی، عہدوں کے لالچ چہ جائیکہ کوئی ان کو جانے یا نہ جانے، جماعت میں کبھی آئے یا نہ، مقصد اپنا اثر و رسوخ جتاتے، جو تک کی طرح چپکے خون چوسنا، ان کی کاروں میں ان کے ہمراہ گھومنا پھرننا، یہ ثابت کرنا کہ جن تو ہم بلند کہتے ہیں۔ وہ ہر رنگ میں بڑے ایمان و اخلاص کے حامل ہیں۔

خاندان تمہارا، تم خاندان مغلیہ سے ہو، تو شہزادیاں ہو۔ چنانچہ یہی چال میرے خلاف استعمال کی۔ پہلے تو ہم کو مگان سے نکلوا یا یہ کہتے ہوئے کہ ظاہر وغیر ہم کو تمہاری موجودگی میں بڑس کی بات چیت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ شہزادے شہزادیوں کا درواپنہ بہن بھائیوں کو بھی اب دیا جانا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہم دگمان نہ تھا۔ ادھر سیکرٹری شپ لجنہ کے کاموں میں دلوا دی۔ مطلب ایک طرف پیسہ کھینچتا اور دوسری طرف اپنی مطلب براری (یہاں ایک سوال، مگر سے نکلوانے کا شاید آپ کو یاد ہوگا، فون پر ایک فروخت کے سلسلہ میں تھا)

اب اصل مقام غور ہے۔ ذرا توجہ سے سنئے گا۔ ایام جلسہ میں شمولیت پر یوں فون پر فون کئے کرائے جاتے ہیں کہ جلسہ میں ہمارے مگر ٹھہرنا ایک طرف مرزا انور برادر مرزا ناصر احمد تو دوسری طرف سو بیٹا بھائی مرزا طاہر۔ دیکھتے ایک دوسرے سے کیسی چاہت رکھتے ہیں کہ باسط صاحب مع الجیہ ہمارے ہاں آئیں اور کہیں قیام نہ کریں۔ مقام غور ہے۔ آخر وہ کون سے سرخاب کے پر یکدم ان کو لگ گئے جو ایک دوسرے سے بازی لینے کی فکر میں فونوں پر فون ہوتے ہیں۔

اب ذرا آپ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالئے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ تو ہیں ہی ماشاء اللہ سیکرٹری امور عامہ۔ چلئے! محترم امیر جماعت صاحب کی ذات کو ہی لیجئے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا بلاوا آیا ہو تو فرمائیے۔ آیا خیال شریف میں عقدہ حل ہوا۔ صحیح ثابت ان کے حربے ہوئے یا ابھی نہیں۔ غالباً ابھی نہیں۔ فکر نہ کریں۔ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ جناب یہ تو موٹے موٹے مظالم تھے جو عرض کر دیئے۔ اس کے علاوہ معمولی دو چار ہوں گے۔ کوشش تو کرتا ہوں کہ مختصر کروں۔ لیکن ۴۲ سالہ مظالم کو کھینچنے کے لئے آپ کو قدرے وضاحت تو چاہئے۔

حضرت محترم سیکرٹری صاحب یہ تو تھے ۴۲ سالہ مظالم۔ کرنے کرانے کے لئے ایڑی چوٹی کا پورا زور لگا لیا۔ سوال اب یہ ہوتا ہے کہ ان میں ہے کوئی ماں کا لال جو یہ بتائے، دکھائے کہ اتنے مقدمات، اتنے جموٹے منصوبے چیلے حوالے ان میں سے کتنوں میں مجھے مجرم و ملزم ثابت کیا کر دیا یا کم از کم یہی سبھی کتنوں میں مجھے کم از کم سرزنش کرتے کرتے وارننگ دیتے۔ دستخط کروائے۔ جب کہ امور عامہ کی فائلوں پر فائلیں بھری۔ بھروائیں۔ یا محض جھک مارنا مقصد تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ”فاعتبروا یا اولی الابصار“ ہاں البتہ میری، میرے خاندان کی عزت و دسروں کی نظروں میں گرانی چاہی۔ قادیان کے گلی کوچوں اور جماعت کراچی کی نظروں میں بھی کھینچا تانی فرماتے۔ بظلمیں بجاتے۔ تماشا دینی کبریائی دیکھتے دکھاتے۔ پھر تقدس مآبی کا لبادہ پہننے میں ضرور کامیاب ہوتے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک جمعہ کی نماز کے بعد سڑک پر کھڑا تھا کہ حضرت امیر جماعت چوہدری احمد مختار صاحب گزرے۔ سلام کلام ہوا۔ سبحان اللہ! کیا ہی اعزاز میں فرماتے ہیں۔ مہتہ صاحب! کوئی جلوہ دکھاؤ گویا ہمارے امیر صاحب جلوہ دیکھنے کو ترستے ہیں۔ کوشش کروں گا ان کی دلی آرزو پوری کر سکوں تاکہ خسرت تو نکل سکے۔

جلوہ بھی ایسا دکھاؤں گا کہ جو واقعی جلوہ دیکھنے کے لئے ترستے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے بھی عمر میں ایسا جلوہ نہ دیکھا ہوگا۔ بلکہ سلسلہ احمدیہ تو درکنار دنیائے اسلام کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔

پھر بھی ان کے ۴۲ سالہ مظالم ہر رنگ میں برداشت کئے۔ منہ سے لفظ تک نہ نکالا۔ شکوہ تو درکنار، اب جب کہ انہوں نے یہ اپنا آخری ذلیل حربہ کر میں چھرا گھونپنا۔ کوئی فکر نہیں تم صبر کرو وقت آنے دو۔ بے شک دل دماغ شل ہوئے۔ دماغی طور پر تار چر ہوئے۔ احساس کمتری

کا شکار ہوئے۔ نتیجتاً طبیعت میں غم و غصہ نفرت اور ضد کا بیج بویا جانا میرے بس کا روگ نہیں۔ یہ فطرتی تقاضا انسانیت ہے۔ یقیناً یقیناً آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ جس کی وجہ سے کسی مجلس میں موقع محل کے لحاظ سے بات چیت کے قابل نہیں پاتا۔ حتیٰ کہ شکل و شبہت پر ہر وقت غم و غصہ اور فکر کے آثار رہتے۔ بیوی بچوں کی وجہ سے موقع محل کے لحاظ سے بات چیت کرنے کے لئے کئی دن تلاش و دقت کے انتظار میں رہتا۔ گویا ”نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا“ ایک بات تو آپ کو بھی خوب یاد ہوگی۔ آپ کے مکان پر کسی فروخت کے سلسلہ میں حاضر ہوا تو آپ نے نہایت ہوشیاری سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں۔ بعد میں طرز گفتگو سے آپ نے اندازہ فرمایا کہ مجھے طیش سا آ گیا تھا۔ وجہ یہ کہ جھوٹ اور غلط بات برداشت سے باہر ہے۔ یہ اب بتا ہی دو کہ درخواست سے ہٹ کر میں نے کچھ نہ لکھا تھا۔ بلکہ فضا خود ہی ہٹ گئی۔ حالانکہ اصولاً اس کا فرض تھا کہ میرا جواب مدعی کو پہنچا دیتے۔ پھر جو وہ لکھتا مجھے بتا دیتے۔ لیکن نہیں۔ خود بخود طرفداری ہوئی۔ چونکہ میرے جواب سے معاملہ ختم اور جھوٹ ثابت ہونا تھا۔ مثلاً میں نے لکھا تھا کہ مدعی اپنے فارم نکاح پیش کرے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی شادی کب ہوئی اور وہ کب کا ذکر کرتا ہے کہ میری بیوی کے نام پر (مکان) تھا۔ اس طرح جماعت کراچی نے دو ایک جھوٹی درخواستیں دلوں کے مجھے جواب لکھا کہ ایک ہی جھٹکے میں معاملہ ختم۔ آج تک کسی کو دوبارہ اس فائل یا درخواست کو کھول کو دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آنے دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آخر یونہی تو کسی کا سر پھرا نہیں ہوتا کہ خواہ مخواہ ظلموں پر ظلم ڈھاتا چلا جائے۔ آخر کچھ تو وجہ ضرور ہوگی۔ سنئے!

وجہ مظالم

محترمی صبر کرتے، خاموشی سے غور و فکر کرتے۔ دل قابو میں رکھتے۔ ہوش و حواس قائم رکھتے۔ تسلی سے، سکون سے جذبات پر قابو پاتے۔ جلوؤں کا نظارہ دیکھتے (امیر صاحب محترم جلوے دیکھنے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ سبھی تو طنزیہ فرمایا: جلوہ دکھائیں) اگر صرف ”مظلیہ خاندان کی عیاشیاں“ لکھوں تو صرف اتنا لکھ دینے سے آپ کے لئے کچھ نہ پڑے گا۔ لہذا فی الحال مجبوراً مختصر اور بوقت کارروائی مفصل عرض و پیش کیا جائے گا۔ تین امور آپ نے بھی بخوبی پڑھے سنے اور عمل کئے ہوئے ہوں گے۔

..... تاریخ شاہد ہے مظلوموں سے تخت دہانج سے دستبرداری کیوں ہوئی۔ ان کی عیاشیوں

کے سبب باپ دادے تو جان ماریاں کرتے۔ سلطنتیں بٹھاتے، نام پیدا کرتے رہے۔ وقت آیا تو اولاد عیش و عشرت کی رنگ رلیوں میں غرق ہو گئی۔

۲..... ایک خاندان کی بیماری دوسرے خاندان میں (یعنی اولاد وغیرہ) میں آجاتی سنی ہوگی۔ دودھ کو ایک دفعہ جاگ لگا دی جائے تو پھر وہی جاگ کام آتی رہتی ہے۔ بعینہ اسی طرح اب یہ جاگ آخر (یعنی عیاشیوں کی رنگ رلیاں) انہی مغلیہ خاندان کی نسل ہوتے اس خاندان میں بھی لگنی ضروری تھی۔ سو گئی اور خوب لگی اور غالباً ان کی طرز عیاشیوں کو بھی مات کر دیا ہوگا۔

جناب بیکر ٹری صاحب ہوشیار باش جاگتے رہے۔ نظارہ جلوہ قریب آ رہا ہے۔ دل مضبوط کر لیجئے۔ ہوش و حواس قائم رکھئے گا۔ قادیان کے عوام ہماری اس خاندان سے وابستگی چولی دامن کا ساتھ بھتے تھے۔ ایک دن ہوتا کیا ہے۔ غور فرمائیے گا۔ حضرت خلیفہ مانی حکم فرماتے ہیں۔ عشاء کے بعد امام طاہر کے صحن والی بیڑھیوں کی طرف سے آنا۔ چنانچہ حاضر ہو کر دستک دی۔ حضور خود دروازہ کھول کر اپنے ساتھ صحن میں لے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو بڑی چار پائیاں ہیں جن پر بستر لگے ہیں۔ جن کی پوزیشن یوں تھی۔ سر ہانہ شمال قبلہ رخ والی چار پائی کے پاس لے جا کر اس پر بیٹھنے کا حکم دیا تو دوسری پر حضور لیٹ گئے۔ مقام خلیفہ کے تقدس کے خیال سے کبھی برابری میں بیٹھنے کا وہم و خیال بھی نہ ہوتا تھا۔ اسی شش و پنج میں حیران پریشان کھڑا بٹھا رہا۔ الہی کیا شامت اعمال ہے۔ کیا مصیبت آنے والی ہے کہ اتنے میں حضور تشریف لائے۔ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے فرمایا: فکر نہ کرو، شرماؤ نہیں۔ جس کے چند ہی سیکنڈ بعد چار پائی پر پچھی چادر کے نیچے سے کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ سگڑا، سنبلا کہ ایک چنگلی پیٹھ پر کھتی ہے۔ گھبراہوا ہوش و حواس گم ہی تھے کہ اب چادر کے نیچے سے کوئی ذرا زیادہ ہلتا معلوم ہوا۔ دراصل کروٹ لی گئی تھی۔ کروٹ لیتے پھر دو چار چنگلیاں کھتی ہیں۔ میں پھر بھی صم بک رہا بیٹھا تھا کہ پھر حضور آئے شرماؤ نہیں، لیٹ جاؤ۔ فرماتے چادر کے اندر منہ کر کے اس صلبہ سے کچھ کہا، جس نے نصف اٹھتے ہوئے اپنے ہانڈ مہری کر کے گرد حائل کرتے کھینچ کر اپنے اوپر لٹا لیا۔ اس کھینچنے کے نتیجے میں سر ہاتھ اچانک جو اس جسم نفیس سے لگے تو حیرانی ہوئی کہ محترمہ الف لگی پڑی ہیں۔ ادھر میں بے حس و حرکت پتھر بنا پڑا تھا۔ مجھے علم نہ ہوسکا کہ کس وقت میرے بھی کپڑے اتار چھینے اور کیسے پوری طرح اپنے اوپر لٹانے لگیں۔ بدستی کی شرارتیں کرنے۔ آخر جیت ان کی ہوئی ہار مہری۔ گویا ان ٹریڈ کو ٹریڈ کر کے مستقل ممبر

سرروحانی (یہ نام میرا دیا ہوا ہے) کا اعزاز بخشا گیا۔ ہاں یہ صاحبہ آخر کون تھیں۔ آپ حج تو ضرور کر رہے ہوں گے۔ لیکن فی الحال بغیر نام بتائے اتنا عرض کئے دیتا ہوں کہ وہ صاحبہ حضور خلیفہ ثانی کی بیٹی صاحبہ تھیں۔ بس پھر کیا تھا پانچوں گھی میں سرکڑا ہی میں والا معاملہ۔ آئے دن بلاوے۔ دن ہو یا رات، دقت یا چوکیداری کو پہلے بھی روک ٹوک نہ تھی۔ مگر اب تو بالکل ہی ختم، سیدھے اوپر بیٹیوں سے بڑھتے اب بیگمات کے پیش ہونے یا کئے جانے لگے۔ پہلے پہل تو گھروں میں پھر قصر خلافت کے ایک کمرہ ملحقہ ہاتھ روم میں جو دراصل مستقل داد عیش کی رنگ رلیوں کے لئے مخصوص فرمایا ہوا تھا۔ جہاں بیک وقت ایک ہی بیٹی اور یا بیگم صاحبہ سے خود بھی اکثر شریک رنگ رلیاں ہو جاتے۔ گویا تینوں ایک ہی چارپائی پر پڑے محومستیاں ہوتے۔ (محترم سیکرٹری صاحب امور عامہ اسلام میں پردہ کا حکم سخت بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھتے ہیں آپ کا امور عامہ خلیفہ کے اس پردہ زادہ پر کیا نوٹس لیتا ہے۔ کون سی جماعت سے خارج کرتا ہے) خیر یہ آپ کی دوسری ہے۔

ناراض تو نہیں ہو گئے۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے۔ آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے۔ بقول کہاوت ”پانہ ٹریا متسا سڑیا“ ابھی تو سنسنی خیز جلوؤں کی روشنائی ہونی باقی ہے۔ لہذا دل قابو میں رکھئے۔ جناب ہوشیار رہیں۔ غور فرمائیں ایک عرصہ جب کہ ایک بیٹی سے دونوں ہی رنگ رلیاں مناتے محومستیاں تھے کہ موزن نے آ کر نماز کی اطلاع دی۔ مجھے یوں فرمایا تم مزے کرتے چلو۔ میں نماز پڑھا کر ابھی آیا۔ چنانچہ اسی حالت جب کہ..... میں شرابور تھے۔ وضو تو درکنار اعضاء بھی نہ دھوئے۔ نماز پڑھی اور سنتیں نوافل۔ پھر بیٹی کے سینہ پر پڑے۔ غرق عیش و عشرت ہو گئے۔ کیا خوب کہا ہے۔

تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

(جس کمانے بھی یہ کہا خوب با موقع اور اغلباً انہی کی ذات مبارک کا نقشہ اللہ نے کھینچا یا ہے) مختصر کرنے کے لئے اللہ کو حاضر ناظر کرتے جن سے یہ رنگ رلیاں منائی منوائی گئیں فی الحال تعداد لکھ دیتا ہوں۔ بوقت کارروائی اس لئے گرامی سے مطلع کروں گا۔ بیگمات تین، صاحبزادیاں بھی تین۔ ان دو صاحبزادوں سے دو دو دفعہ ایک تو قربا مستقل۔

یہاں لگے ہاتھوں ایک بیگم صاحبہ (بڑی) ام ناصر کی حسرت جو قبر میں ساتھ لے گئی یوں فرمایا دیکھو ام ناصر ہیں کہ یہ شریک محفل نہیں ہوتیں۔ تجھی تو منوائی بھینس ہوتی جاتی ہیں۔ اس

کے مقابل غور فرمایا جائے۔ ام مظفر کو دیکھو کیسی خوبصورت نازک سی چلتی پھرتی ہیں۔ کیونکہ یہ کرواتی رہتی ہیں۔ گویا ہماوجوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ یہ خیال ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ جن سے یا صاحب مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ وہ پاک و صاف ہیں اور الفاظ ”رنگ یا مطلب“ جس کی نسبت بیان کئے یا کہے گئے وہی تحریر ہذا کر رہا ہوں۔ (کسی کا بلاوجہ مبالغہ قطعاً قطعاً اشارہ بھی نہ کروں گا۔ انشاء اللہ)

انسان گنہگار ہے اور ضرور ہے۔ لیکن حد سے تجاوز، ارکان اسلام سے استہزاء شاید کوئی نام کا مسلمان بھی نہ کرے گا۔ چہ جائیکہ جو خود کو مقام خلیفہ پر کھڑا کرے۔ استغفر اللہ ربی اجنب عالی یہ تو رہی نماز اور اس کا احترام۔ اب ذرا اچھی طرح سے سنبھل کر اپنی غیرت کے جوش کو دبا کر قرآن پاک کی عظمت پر اس اولوالعزم خلیفہ کے اس چاند سے کھڑے کی زبان مبارک سے ادا کئے ہوئے بولے ہوئے خواہ ایک دفعہ دوسرے کی نسبت کہ وہ یوں کہتا ہے۔ اڈل تو اگر کسی نے ان کے سامنے کہے بھی تو غیرت کا تقاضا اس کو ڈانٹ تھا۔ چہ جائیکہ ان الفاظ کو اپنی زبان مبارک سے نہ صرف ایک دفعہ بلکہ ڈھٹائی کی حد یوں کہ پھر دوسری دفعہ وہی دہرائے جاتے ہیں۔ جناب عالی یقین جانیں ان کے لکھنے کی مجھ میں نہ ہمت نہ ہی سکت ہے۔ سمجھانے کی کوشش کر دوں گا۔ یوں کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ! قرآن پاک کا نام لیتے ہیں۔ میں اس کو اپنے..... پر مارتا ہوں۔ استغفر اللہ دی من کل ذنب واتوب الیہ! شرم کے مارے میری آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ کاتو تو جسم میں خون کا قطرہ نہیں۔ کیا یہی مقام خلیفہ ہے اور یہی وہ بلند ہانگ پر چار ہے کہ ہم ہی ہیں جو خدمت قرآن فلاں فلاں زبانوں میں کر رہے ہیں اور ادھر اسی قرآن پاک کی فضیلت و عظمت کا عمل محاورہ ”صورت مومنناں کر توت کافراں“ سے دیا جاتا ہے۔ توبہ توبہ!

یہ بھی بتائے جاؤں کہ یہ کس موڈ میں کہے گئے۔ ایک بیگم صاحبہ کو حضور کے ہر طرح کے قرب، صلاح، مشورے وغیرہ وغیرہ کی بنا پر چیتھی کہا جاتا اور مانا جاتا تھا اور اہل قادیان کی مستورات خصوصاً جانتی تھیں۔ بعد منانے رنگ رلیاں حضور کی خوشنودی کے لئے کھڑے محو گفتگو تھے کہ ان بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے سینہ سے لگاتے کہا: ”آپ مجھے اپنی چیتھی کہتے ہیں۔ یہ میرا چیتھا ہے۔“ با موقع خوب مذاق ہوا۔ جس میں نعوذ باللہ! وہ الفاظ دوسرے کہے گئے۔ یہ الفاظ پنجابی میں نام لیتے کہے گئے جو ان کی خلافت کی جیتی جاگتی حقیقت و اصلیت اسلام اور رسول مقبول ﷺ سے

دائستگی کی نمایاں جھلک دیتی ہے۔ اب ان کی اصلیت ضمیر کی صحت و وصیت بھی لگے ہاتھوں ملاحظہ فرما ہی لئے جاویں۔ فرمایا: ”میں نے تمام بچوں کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جس کے اولاد نہ ہو ایک دوسرے سے کر لی جائے۔“ سبحان اللہ! کیا یہ صحت و وصیت خلیفہ کو زیب دیتی ہے۔ گویا اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ یہ رنگ رلیاں صرف حضور کی ذات مبارک تک ہی محدود نہیں بلکہ کل اولاد کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں جن کو پہلے ہی استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔

تو بھلا اس صورت میں لڑکے کہاں متقی و پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ تبھی تو یہ رونا حق و بجانب ہے کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھاد جوں کی عزت و ناموس ہر وقت خطرے میں ہے۔ اب ان ملفوظات میں سے ایک اور فرمان ملاحظہ فرمایا جائے۔

فرمایا لوگ باہر سے تھرک کے لئے اپنی بیویاں، بیٹیاں، بہوئیں بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جنون عشق بازی سے تسلی نہیں ہوتی۔ مجبوراً پنجابی کہاوت ”جنے لائی لوئی کرے کی کوئی“ کے مطابق بے شرمیوں کے ساتھ بے شرم ہونا ہی پڑے گا۔ مجبوراً حقیقت حال بیان کرنا پڑے گی۔ وہ یہ کہ لوٹنے بازی کرانے کا بھی شوق باقی تھا۔ چنانچہ یہ چکر میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ مجھے اس قبیح عادت سے نفرت تھی۔ مجبوراً خود ہی کروٹ لیتے۔ اعضاء پکڑ کے اپنے میں ڈالنے کی ناکام عیاشی تو اس پر ایک دفعہ یوں فرمایا کہ خلیفہ صلاح الدین کا (جورشتہ میں سالہا تھا)..... (دہی پنجابی لفظ اعضاء) کتنا موٹا اور لمبا ہے۔ اب اس سے غور کریں کہ ان کی عادات، رنگ رلیاں اور عشق مزاجی میرے اس لفظ ممبر محفل سیر روحانی سے بالکل صحیح اور صحیح ثابت ہو گیا۔ ابھی اور بھی ممبر اور ممبرات محفل ہیں جن کی تعداد جو میرے علم میں ہے پندرہ بیس ہے اور ان سے آگے جاگ لازمی لگے گی۔ جاگ کا کام ہی یہی ہے۔ اب واقعات کر سکن استانیوں کے، ایک کا ذکر لاہور کے اخبارات میں ہوا۔ خبر یوں لگی کہ ”مرزا قادیانی ہوٹل سے ایک لڑکی لے اڑے۔“ یہ بریگنٹرا ہوٹل لاہور کا واقعہ ہے۔ ایک دوسرے کو بھیجنے پر ناکامی کے بعد مجھے حکم ملا بعد کامیابی شہابش ملی۔ الغرض اسے لے کر سینما جو ملکہ کے بت کے پاس ریڈ کر اس آفس کے بالمقابل ہے۔ (پلازا سینما۔ نائل ۱) مع عملہ گئے۔ انٹرول کے قریب یکدم بھاگ بھاگ کاروں میں بیٹھ یہ جاوہ جابعد میں علم ہوا کہ کہیں میں یہ کہ جن لڑکی بغل میں لئے ہوئے پیار وغیرہ کرتے تھے۔ باہر سے کسی کی نظر کا نظارہ ہو گیا۔ گویا نام کو استانی اندر خانہ عیاشی۔ اب یہاں اصل معاملہ یوں بیٹھتا ہے کہ قادیان پہنچ کر سینما بنی میں کل دنیا جہاں کی خرابیاں گنوائیں خطبہ جمعہ کے سٹیج سے اخبارات رسائل تقاریر کے ذریعہ سینما بنی سے سختی سے منع فرمایا جاتا ہے۔ مگر اس سے پہلے جب

بھی لاہور گئے سینما ضرور دیکھا جاتا۔ آیا خیال شریف میں۔

جناب بیکر ٹری صاحب امور عامہ! معلوم ہوتا ہے سینما بنی تختی سے منع ہونے پر آپ کا حلق خشک ہو گیا ہے۔ فکر نہ کریں میرے پاس تری کا بھی سامان موجود ہے۔ سو محترم من اودہ یوں قادیان سے کار لاہور جاتی وہاں سے محترم شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ بعد حج کے ذریعہ شراب ناکی کچھلی سیٹ کے نیچے چمپا کر لائی جاتی۔ تاکہ عیاشی میں کوئی کمی نہ رہ سکے۔ (حلق ٹھیک ہو گیا ہوگا) مگر صاحب میں معافی چاہوں گا اور لکھا تو ”وجہ مظالم“ تھا لیکن مظالم کی بجائے عیاشیوں کی داستانوں میں پڑ گئے۔ مگر جناب مجبور ہوا تھا۔ سو پٹئے میرے ساتھ قصر خلافت کے اس مخصوص کمرہ رنگینوں میں تھے اس اولوالعزم خلیفہ نے مظلوم کی عیاشیوں کا گہوارہ بنا رکھا تھا ملاحظہ ہو۔ بحیثیت فن فونوگرافی ایسے ایسے رنگین نظاروں سے بھلا نظر کیونکر چوک سکتی تھی۔ لہذا ہر بنی پہلو سے اچھی طرح محفوظ ہوئے۔ بس اور بس یہی ۳۲ سالہ وجہ مظالم ہے جن کی تلاش کے لئے چوریاں، خانہ تلاشیاں، تانے ڈیکٹری میں توڑے توڑے گئے۔ سر توڑ کوششیں فرماتے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تاکام و نامر ہوتے۔ ذلت کے اتھاہ گڑھے میں ڈبکیاں ہی کھاتے رہے۔ اب جب کہ خاموش بیٹھے بھی صبر نہ آیا مجبور کر دیا۔ تم صبر کرو وقت آنے دو۔ سو وقت آ گیا ہے۔ ڈبکیوں کی بجائے ڈوبنے کا بھلا ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے۔ ایسی ایسی رنگینوں کی تصاویر بھلا کوئی گھروں میں رکھتا ہے۔ خصوصاً جب کہ تلاش میں ہر قسم ذلالت کے حربے استعمال کئے کروائے جاتے ہوں۔ اب وقت آیا ہے ان کے مہر عام پر لانے کا جو پیش کئے جائیں گے۔ تانان کی عیاشیوں کو حقیقی رنگ میں ننگا کرنے کے لئے بوقت کارروائی مدد و معاون ہوں۔

جناب والا! شاید جو وجہ مظالم درج کی ہے اس سے غلط مفہوم اخذ کریں کہ اس خاکسار کا سارا وقت انہی مشاغل میں مبتلا رکھا جاتا تھا۔ زیادہ نہیں صرف تین واقعات گوش گزار کروں۔ جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں کہ ہمارا اس خاندان سے عقیدہ گہرا قطع رہا ہے۔ جس کی وجہ سے حضور کے ذاتی ہاڈی گاڑنے کے طور پر ہر وقت ہی حاضر خدمت رہتے۔ جس کی وجہ سے نہ صرف قادیان بلکہ حضور کی ہر کالہ میں قادیان سے باہر جانے کا شرف نصیب رہا۔ چنانچہ اور مواقع کے علاوہ تین اہم واقعہ پیش کرتا ہوں۔

..... دہلی کے ایک جلسہ میں ملاوت کے لئے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو حکم ہوا ملاوت میں زیر و بر کی فطری بسا اوقات سہوا ہو ہی جاتی ہے۔ مگر وہاں تو مقصد دراصل جلسہ کو درہم برہم کرنے کا تھا۔ ایک مہینے نے کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کیا ہی تھا کہ اس کے

دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ مل کر لگے کیوں کرنے۔ نتیجہ میں ہلاک ہوا۔ ایسا میدان صاف کہ ان کو ہمیش یاد رہے گا۔

۲..... دوسرے سیکلٹ میں حضور کی تقریر بھولی نہ ہوگی۔ جہاں پتھروں کی بارش چاروں طرف سے ہوئی۔ میری ڈیوٹی بالکل حضور کے پیچھے تھی۔ سامنے کی طرف چوہدری محمد عظیم باجوہ اس وقت غالباً نائب یا تحصیلدار تھے۔ جنہوں نے منہ پر پتھر کھائے۔ خون بہتا رہا۔ مگر حکم خاموش کھڑے رہنے کا تھا۔ کھڑے رہے۔ حکم ہمیں تو ملنے کے وقت ملا۔ البتہ سکوت کو خیر دار کیا گیا کہ پانچ منٹ میں اگر انتظام کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ میں (یعنی حضور) انتظام کر دکھائیں گا۔

۳..... تیسرا ہوشیار پور اس مکان میں جہاں حضرت مسیح پاک نے چڑا کا بنا تھا۔ حضور بھی بغرض دعا دہاں تشریف لے گئے۔ کمرہ کے دروازہ سے باہر گو کہ منتظرین نے انتظام سپہرہ کیا تھا۔ مگر حضور نے حضرت والد صاحب قبلہ کو دروازہ کے باہر کھڑے ہونے کا حکم فرمایا۔ مجھے مددگار و سعاد (حضرت والد صاحب) تا اگر کوئی کام یا بات وغیرہ ہو تو خود وہاں سے نہ نہیں بلکہ مجھے بھیجیں۔ بہر حال مطلب اس لکھنے کا یہ ہے کہ کام کرنا ہمیں بھی آتا ہے۔ ایام جلسہ حضور کی روانگی برائے جلسہ دو ایسی، سٹیج کے پیچھے ہاڈی گاڑڈ وغیرہ انہی خدمات بے لوث نے ان کے دلوں میں حسد، جلن و دکھ درد کو جنم دیا۔ ادھر خاندان کی نظروں میں گراتے، جھوٹی غلط من گھڑت رپورٹیں دیتے، منہ کی کھاتے۔ ہم پھر بھی حاضر خدمت ہی رہے اور ہر قسم کے مظالم سے، برداشت کئے۔ مورخہ ۶ ستمبر ۱۹۴۰ء کی خانہ تلاشی کے بعد مجھ سے حضور نے یوں فرمایا۔ عبدالرزاق یاد رکھنا اس کے بعد جب بھی کوئی موقعہ ایسا آئے اور تمہارا ہاتھ اس پر مضبوطی سے پڑتا ہو پھر خواہ کوئی بھی کہے، پیچھے نہ ہٹنا۔ جسے میں نے خوب پلے بانہ لیا۔ سبھی جب بھی جماعت نے غلط قدم اٹھانا چاہا۔ بے فکر ہو کر ڈٹ کر سامنا کیا۔ عزت پائی۔ یہ اس لئے پیش خدمت کئے ہیں کہ امیر صاحب محترم کی طرف سے ظواہقارت کی نگاہ بھی ڈالی جاتی ہے۔ البتہ ان کی ایک بات بہت ہی پسند آئی۔ جب میرے قانونی نوٹس ملنے کے بعد میرے مکان پر تشریف لائے اور باتوں کے علاوہ یوں فرمایا۔ اگر مجھے کو ایسی میں طلب کیا گیا تو اس میں بے شک ضرور خطبہ جمعہ کے الفاظ کو ایسی میں دیں گے۔ مگر فی الحال سوال جماعت کا ہے۔ جس کے جواب میں میں نے بھی یوں کہہ دیا کہ اگر جماعت کو کسی کی عزت کا پاس نہیں تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں (خلیفہ وقت کا فرمان سمجھیں یا وصیت۔ سوغال جاری ہے)

سو یو آرائٹ

جناب عالی! اپنی داستان مظالم تو بیان کر دی۔ اب اس خاندان کے ایک فرد کی بھی داستان ”مظلوں کی شکار گاہ“ سولہ صفحاتی سے بھی کچھ فقرے اقتباسات الفاظ وغیرہ پیش کروں جو بالکل میری ہی داستان بہ پایہ ثبوت پہنچانے کا رونا رو یا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ تحریر ۱۹۶۲ء، ۱۹۶۱ء کی لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے جو مجھے ۲۳ ستمبر ۱۹۷۹ء کو کہیں سے ہاتھ لگ گئی۔ حیرانی کی بات یوں کہ میں نے اس داستان مظالم کو عرصہ سات آٹھ ماہ سے لکھنا شروع کیا۔ کبھی دو لفظ کبھی چار۔ دماغ شل، ذرا سا سوچنے سے سر پھٹنا شروع ہو جاتا اور پھر لطف یہ کہ گھر میں لکھ نہیں سکتا۔ تاکہ بیوی بچے نہ دیکھ پاویں۔ اس طرح جب کبھی وہ سوئے یا اتفاق سے کہیں گئے دو چار سطور لکھ پاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج تک گھر کے کسی بھی فرد کو اس کا علم نہیں اور اسے کھل لاہور آ کر کر رہا ہوں۔ جناب عالی! یہ مناسب سمجھے کہ پہلے ان حضرات مرزا ناصر احمد صاحب کے خلیفہ بننے اور پھر اپنے عہد کے کارناموں کی جھلکیاں ملاحظہ ہو جائیں۔

ایک جلسہ سالانہ بر حضور افتتاحی تقریر کے لئے جانے کو تیار تھے۔ ان دنوں مولانا عبدالمنان صاحب عمر پر عتاب کا زمانہ تھا۔ اس افتتاحی تقریر میں مولانا موصوف کو معافی کا اعلان ہونا تھا کہ یہ حضرت دوڑے۔ پینچے پستول سینہ پہ تان گویا ہوئے۔ ابا حضور اسٹاپے آپ منان کی معافی کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں! ادھر سینہ پر پستول کی نالی۔ مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ اچھا نہیں کیا جاتا۔

پھر ایک جلسہ سالانہ ہی کے موقع پر میرے بڑے بھائی عبدالقادر صاحب پر قاتلانہ حملہ کروایا جاتا ہے جس کی اطلاع مجھے دوسری صبح ہی مل گئی جس پر نگران بورڈ کو تحریری نوٹس یوں دیا کہ اگر میرے خاندان کے کسی بھی فرد کے متعلق کسی بھی قسم کی غلط حرکت ہوئی تو اس صورت میں مجھے مجبور کیا جائے گا کہ بلا امتیاز وجہ مردوزن کے خلاف کارروائی کروں۔ اس کے بعد ایک رشتہ کے موقع پر جب کہ لڑکے والے عقیدہٴ اخلاصاً تجویز پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (ترقی ایمان کا موجب ہے) فرماتے ہیں میرے ماموں کی صاحبزادی (خلیفہ علیم الدین) ہے۔ چنانچہ وہیں نکاح پڑھواتے چھٹکارا ہوا۔ سبحان اللہ! یہی مقام خلیفہٴ عمل اسلام ہے؟ اس پر اللہ کی قدرت کا نظارہ ملاحظہ ہو جائے۔ ان کے داماد کو ایک درزن پر لٹو کر داتے ان کی بیٹی صاحبہ کو طلاق دلواتے۔ جو کسی کے لئے گڑھا کھودتا ہے۔ خود اس میں گرتا ہے۔ سبحان اللہ! مقام عبرت ہے۔

اس طرح ان کے بیٹے (مرزا القمان احمد) کسی خاندان کی نور نظر پر لورہتے۔ مجبور کرتے۔ شادی اپنی مرضی کی کرتے ہیں۔ اب ان کو ولایت تعلیم کے لئے بھجوا یا جاتا ہے۔ آخر جاگ لگتی ہے۔ یوں لگی کہ وہاں شرابی مشہور ہوئے۔ عیاشیوں میں مزے لیتے۔ چنانچہ والدس امام مسجد (بشیر رفیق) لندن کی رپورٹ پر بلوایا جاتا ہے جو پاکستان پہنچ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اصل چیز ملاحظہ ہو امام مسجد کچھ رشتہ دار تھا لڑکی کا۔ جس پر حکم اسے دیا گیا کہ ہمارا پوتا ہمیں دلوا دو ورنہ تمہیں امامت مسجد لندن سے چھٹی، کیوں جی یہی مقام خلیفہ ہے نا۔ اسی طرح جب آپ حضور ولایت تعلیم کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی خوشدامن صاحبہ جو خاندان کی اسخیاں بیچیاں خوب جانتی تھیں۔ مگر حضور کو کن محتاط الفاظ میں نصیحت فرماتی ہیں۔ محبوب حقیقی کی امانت سے خبردار، خاندانی اسخیاں بیچیاں یا مرض، جاگ لگی کے اوپر دوسونے یہ تیسرا، اور کتنے پیش کروں؟ بوقت کارروائی سہی۔ خلیفہ بننے کے خواہوں کے طور طریقے بھی ملاحظہ ہوں۔

اپنے سوتیلے بھائی مرزار فیح احمد صاحب کو کیوں اور کیوں نظر بند رکھا گیا اور ان کی کوشی کے گرد امور عامہ کا پہرہ جو آتے جاتے کو امور عامہ میں لے جاتے۔ باز پرس کی جاتی۔ دور کی بات نہیں، مسٹر بٹ سے معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ میں اپنی معلومات سے بھی کچھ پیش کر رہا ہوں اور نام بھی تحریر کر رہا ہوں۔ تاکہ یہ خیال پیدا نہ ہو کہ اس کی تحریر سے نقل کر دیئے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ! (یو آر انٹ) بٹ صاحب سے پوچھا گیا تم انہیں کیوں ملنے گئے تو انہوں نے جواب دیا میں خلیفہ ثانی کے بیٹے اور حضرت مسیح موعود کے پوتے کی حیثیت سے انہیں ملنے گیا تھا۔ بہت اچھا جواب تھا۔ چلئے داستان مغلوں کی شکار گاہ انہی کے خاندان کے فرد کی بھی زبانی سن لیجئے۔

”مرزا بشیر الدین محمود احمد امام جماعت کی تشویشناک اور لمبی بیماری کی وجہ سے اہالیان ربوہ کی دردناک داستان غم کہ نہ ہی ہماری جانیں محفوظ ہیں اور نہ ہی ہماری ماؤں، بہنوں، بہو بیٹیوں کی عزت، عصمت محفوظ ہے۔ حمل کئے اور گرائے۔ دوسروں کے نام دھرے جاتے ہیں۔

۲..... کاروبار آنکھ کے اشارے سے جس نہیں کر دائے جاتے ہیں۔

۳..... ماں باپ بہن بھائی، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی جاسوسی سے بلیک میل کرنا ان کا مشغلہ بن کر رہ گیا ہے۔

۴..... جماعت کو ”فسطائی نظام“ پر چلا کر مادر پدر آزاد ہو کر وہ کارہائے ”قیحش دام مارگی“ فراڈ، قتل و غارت، ظلم و ستم، لوٹ مار، ریا، دعا و فریب اور نہ معلوم کیا کیا۔ ”مغلوں کا شکار گاہ“ سمجھتے نہ ڈرتے نہ ہی شرماتے ہیں کہ مذہبی دیوانے اب ان گناہوں کو گناہ نہیں جزو ایمان سمجھنے لگ گئے ہیں۔

۵..... جاسوسی کے جال گھروں سے نکل کر حکومت کے دفاتر ہی نہیں بلکہ افسروں کے کمرہ سے لگ چکے ہیں۔ ہر جائز و ناجائز طریق سے راز نکلوائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حکومت کو اعتراف کرنا پڑا کہ موجودہ مرزا قادیانی کے بڑے صاحبزادے مرزا ناصر احمد اس کام کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ (کیوں صاحب آیا یقین۔ اس وجہ سے احمدیوں کو اعلیٰ پوسٹوں سے الگ کیا گیا)

۶..... روپیہ سمیٹنے کے لئے تحریکوں کے نام عوام سے اسلام و احمدیت کی بقاء کے نام پر، قوم کے تنگ و ناموس کے نام پر اپنے کارکنان کے ذریعہ مختلف عہدوں کے لالچ میں لاکر سوشل بائیکاٹ کی دھمکیاں۔ لفظ منافق کا کھلے بندوں اطلاق۔

۷..... مرزا قادیانی کے ہمزلف جسٹس شیخ بشیر احمد کی ایک میٹنگ میں بول اٹھے جائیں تو جائیں کہاں ان چھ بھٹیوں کو ان لوگوں کو ناراض کر کے کہاں پایا جانا ہے۔

۸..... مرزا (مرزا محمود احمد) کی بیماری پر من گھڑت خطبات وغیرہ چھاپتے رہے۔ بالکل سراسر جھوٹ۔ دراصل مرزا قادیانی کثرت جماع کی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں۔

۹..... مظلیہ خاندان کے جھکنڈے، ہاپ کو قید میں ڈال کر خلافت پر قبضہ کے خواب۔

۱۰..... اس خاندان کے افراد کو پورا پورا تسلط اور قبضہ ہو چکا ہے۔ ان کی من مانی کے خلاف ذرہ سی جنبش انسان کو کھن سے ہال کی طرح ہا ہر نکال بھیجنے کے لئے کافی ہے۔

۱۱..... کرنل داؤد (چالٹ صاحب کا بھتیجا) کو ناظر امور عامہ ریوہ بنانے کو توبہ دیا۔ لیکن کرنل داؤد نے ان ٹریشیوں کی بد عنوانیوں، فراڈ پر احتجاج کیا تو اسی وقت چھ گھنٹے کے نوٹس پر کوشی خالی کروا کے ریوہ بدر کر دیا گیا۔

۱۲..... اسی طرح محترم بابو عہد الحمید ریٹائرڈ ریلوے ایڈیٹر جو صدر انجمن احمدیہ کے بھی ایڈیٹر تھے۔ شدید قسم کی مالی بے اعتدالیوں کے سامنے احتجاج کر بیٹھے۔ اس وقت ایک جنبش قلم ہال بچوں سمیت ریوہ بدر کر دیا گیا۔ مگر وہ تمام ریکارڈ جو ان ٹریشیوں کی لاکھوں روپیہ کی ہیرا پھیریوں کا آئینہ دار تھا ساتھ لے گئے۔

۱۳..... کہنے کو تو صرف گذارہ الاؤٹس لیتے ہیں۔ لیکن کوشیوں رہائش زیبائش کی یہ حالت لوٹے، لوٹریاں، نوکر چاکر، مالی، گیٹ کپہر، ذاتی ہاڈمی گارڈ فرقان فورس کے نوجوانوں کی محو ہیں صدر انجمن کی زمینیں تجارتی ٹیکسٹریاں طور میں کارخانے انجمن کے سرمایہ سے ذاتی ناموں پر ختم ہو رہے ہیں۔ کہنے کو تو لنڈن مشن کے *Inspection* کا نام مگر علاج *Glands*

کے کروائے جاتے ہیں۔ واپسی پر انڈین سٹیٹ مہاراجہ پنچالہ کے محل کے نمونہ کے سیٹ شیپ ریکارڈ کے علاوہ.....

۱۳..... قریشی عبدالرشید کی مد سے جماعتی روپیہ اپنی تحویل میں لے کر وکیل المال تجارت، تحریک جدید کاروبار ایک فرم میں بھیجی چکہ وہ بے کربنہ کیا جاتا ہے۔ کہیں چیز میں کہیں مینجنگ ڈائریکٹر کہیں ڈائریکٹر بن کر جماعت کے کاروبار پر اپنے مالکانہ حقوق جمائے جاتے ہیں۔ مرزا حفیظ آکھ جھپکتے پروموز کارپوریشن لمیٹڈ کے ڈیرایہ اپنے بھائیوں مرزا ناصر، مرزا مبارک وغیرہم کی شہ پر اندازاً چھ لاکھ روپیہ کیسے دہا کر بیٹھ گئے۔ (اسی طرح زمین، مسجد، کراچی کے چندہ کی رقم مرزا طاہر لے گئے۔ جس سے بیٹانہ بھی گیا اور اصل بھی جس سے اکثر بیچ ہوتی رہتی ہے)

۱۵..... مرزا محمود احمد کی لمبی بیماری کی وجہ سے آج ریوہ کی بستی و نظام دہشت ناک آہنی پردہ کے اوپر ریاست اندر ریاست کا ایک ہیٹا جاگتا نظارہ پیش کرتا ہے۔ ڈیکلریشن کی اس دہشت ناک اور شرمناک فقہ میں اہالیان ریوہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں۔

۱۶..... خلیفہ کا انتخاب انسانی کوششوں کے نتیجے سے نہیں بلکہ اپنے تصرف سے کروانا ہے۔ مرزا قادریانی ذہنی خلفشار میں جتا ہوئے تو مرزا ناصر احمد اپنے باپ کے مرنے کی امید میں گھڑیاں گن گن کر گزارتے موقعہ پاتے اپنے اہا حضور سے بدیں مضمون تحریر لکھوائی یا دھتھلا کر دوائے کہ میرے مرنے کے بعد ناصر احمد کو خلافت پر منتخب کر لیا جائے اور یہ تحریر الائیڈ پیپل میں جمع بھی کروادی گئی۔ یہ عالم احمد بیٹا سے فراڈ نہیں تو کیا ہے۔

۱۷..... خود تو موچی دروازہ لاہور کی کشمیری ماں سے رائل فمیلی کہلانے کے حتمی تو دو مردوں کو لوٹریوں کی اولاد سے منسوب کرتے نہ جھپکتے نہ شرماتے خود ”چدر سلطان بود“

۱۸..... اپنی سوتلی بہن و بھائی امت الرشید بیگم ظیل احمد کے خلاف خوف و ہراس، پبلک کی نظروں میں ذلیل، خدار منافی کے لیبل لگا کر سوشل بائیکاٹ ریوہ بد کے ہتھکنڈے امور عامہ کی CID کے بل بوتے فرقان فورس کی بندوقوں کے سائے تلے قتل کی دھمکیاں دی جاتیں۔ حتیٰ کہ ۲۶ دسمبر ۱۹۶۱ء جلسہ سالانہ کے موقعہ پر ان کی گولی کا محاصرہ کرتے وہ اودھم مچایا، ہتھنڈہ گروی کی کہ الامان والہ لفظ جس کے نتیجے میں کرل ابراہیم، ڈاکٹر یعقوب، لیفٹیننٹ کماڈر ریجی، قاضی اسلم اور عبدالقادر مہدی جیسے آدمیوں نے پروردہ پر دہشت کیا۔

۱۹..... مظہرہ خاندان کی ہسٹری گواہ ہے۔ عیاشیوں کے سبب قحط دہانج سے دسمبر داری اقرار کے حصول کے لئے نئے نئے بھائیوں نے سوتیلے بھائیوں کی آنکھیں لکھوائیں، قتل کروائے۔

باپ بیٹے کے ہاتھوں جیل کی زندگی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور ہوا۔ اگر باپ بیٹے سے کہتا ہے اس قید میں بیچ ہی پڑھنے کے لئے دے دو تو شہزادے طنز ا جواب میں کہتے ہیں: ”اچھا اب حضور حکومت کا نشا بھی نہیں اترے۔“

جناب ملاحظہ فرمائیں! میری داستان مظالم کی مکاحقہ، تائید ”گھر کا بھیری لٹکا ڈھانے“ کو کیونکر جھٹلایا جاسکتا ہے۔ اہالیان ربوہ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کی عزت و عصمت سے کھیلے۔ حمل کئے اور رکھے نام دوسروں کے، اپنی تقدس مابی کا سکہ بٹھانے کو، پوچھا جائے وہ کون سے دوسرے ہیں۔ جن سے کن کو حمل ہوا اور پھر کیا سزا دی۔ خلیفہ ثانی کے دور میں ہونے والے غنڈہ گردی کے واقعات میں سے چند بطور نمونہ، آپ کی معلومات میں اضافہ کے لئے پیش کرتا ہوں۔

۱..... ”قتلہ مستریاں“ بنام مستری فضل کریم پسران عبدالکریم، زہاد کریم ان کا مکان غنڈوں سے جس نہیں کیوں کروایا۔

۲..... شیخ عبدالرحمن مصری ہیڈ ماسٹر مدرسہ احمدیہ مصر میں تعلیم دلوائی اور پھر ۱۹۲۳ء میں ولایت ہرکاب بھی ہوئے۔ اتنے میں بالغ ہو گئے۔ ”کون؟“ ان کے بیچ اور پھر ان سے کیا کیا نہ ہوا؟

۳..... شرف الدین درزی رشتہ دار ماسٹر ماموں خاں صاحب ڈرل ماسٹر کھیتوں میں ایسی پٹائی کروائی کہ اپنی طرف سے ختم کروادیا۔ مگر جسے اللہ رکھے۔

۴..... فخر الدین ملتانی پر قاتلانہ حملہ عزیز نامی قلعی گرسے کرواتے، پھانسی کی سزا پاتے، اس کی تش کا جلوس یوں جیسے شہید کا مرتبہ پایا ہو۔

۵..... مولانا بخش قصائی کا غالباً سالانہ تھا۔ دفاتر انجمن کی چھت پر سے امور عامہ کے دفتر کے سامنے کھڑا کسی بات پر دھکا دلوا کر نیچے گروا کر مروادیا گیا۔

۶..... تعلیم الاسلام سکول بعد میں کالج کے تالاب میں غلام رسول پشمان دوکاندار کی ابھرتی جواں سال خوبصورت بیٹی کا مرنا۔

۷..... محمد یامین خان پشمان کو چوہدری فتح محمد سیال ناظر اعلیٰ کے مکان پر قتل کروادیا گیا۔

۸..... ام وسم کے گھر کے کوڑے کھاڑے کے کنستری سے نوزائیدہ بیچے کی نعش ملنا اور خاکروبہ کے شور و فیل پر انعام واکرام دے کر خاموش کروادیا جانا۔ آپ بھلا کیا کیا جانیں۔ جناب پولیس کے چار آدمی ہوتے تھے جو ہمیشہ خریدے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک کارنامہ جماعت کراچی کے ذریعے لطفی کے قتل کا انجام پذیر ہو چکا ہے۔ وہ بھی یاد تازہ کرنے کو سن لیجئے۔

مولانا عبدالرحیم درد (جو پرائیویٹ سیکرٹری حضرت خلیفہ ثانی تھے) کے ایک بیٹے لطفی

نامی نے دفتر سے کچھ نہایت ہی اہم کاغذات اڑائے۔ مکرم بھائی صاحب عبدالقادر مہتہ کو علم ہونے پر ایک حصہ گراں رقم کے عوض قبضہ کر لیا۔ بقیہ لانے کا موقع اس کو یوں نہ ملا کہ بعد تلاش ربوہ سے دو حواری ایک ناظم جائیداد (بطلول پوری غالباً) دوسرے امور عامہ کا S.P عزیز بھائی جوجھ پر مظالم میں پیش پیش ہوتا تھا۔ انہوں نے ہیر کالونی میں اسے جا لیا۔ محبت پیار سے باتوں میں مٹھائی کھلائی۔ صبح ایک دم مردہ اٹھا ربوہ پہنچ گئے۔ قدرتی موت کا سرٹیفکیٹ غالباً ڈاکٹر جمال الدین جو دراصل ایکسرے ایکسپٹ تھا سے مجبور کر کے لکھوایا۔ معلومات پر جب معلوم ہوا کہ وہ کاغذات کا ایک حصہ مہتہ صاحب کو دے دیا گیا ہے۔ سٹ پٹاتے یوں بولے تو نے ہیر اغرق کر دیا۔ ”مغلوں کی شکار گاہ“ والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ: ”مذہبی دیوانے اب ان گناہوں کو گناہ نہیں بلکہ جزا ایمان سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جھوٹ بولو، بولو، جھوٹے سرٹیفکیٹ مجبور کر کے حاصل کر دتا اپنے آپ کو ز خرید غلام ثابت کر سکو۔ سبحان اللہ!

جانب عالی! آپ نے فضل عمر اولوالعزم خلیفہ کے کرتوتوں، عیاشوں کی داستاںیں سنی، پڑھیں۔ ڈب مرنے کا مقام کہ کلام مجید کے مطابق اپنے آپ کو خلیفہ کہنے والا نماز کی ادائیگی نجس حالت میں کرے۔ صبح موعودنے۔

دنیا کی سب دکائیں ہم نے ہیں دیکھی بھالی

میں نے جن دکانوں کا ذکر کیا ہے وہ (دوکانیں کاروباری نہیں کیونکہ یہاں تو کاروبار کا سوال نہیں یہاں تو تبلیغ دین اسلام مراد ہے) دوکانوں کا لفظ استعمال کر کے صحیح فرمائی۔ کیونکہ ان کے اعمال اور کرتوتوں نے ان کو بھی اسی صف میں کھڑا کیا۔ جیسے ایک بالکل چھوٹی سی دکان والا اپنے گاہک کو نسبتاً اپنے سے بڑی دکان والے سے پھیرے۔ مثلاً کراچی میں ثناء اللہ کی دکان بہت مشہور ہے کہ اس کے سبز مین ٹیکٹ فل Tacket Ful ہوتے اپنے گاہکوں کو آخر کار پلہ ڈال ہی لیتے ہیں۔ مگر دوسرے بچارے محروم عینہ اسی طرح انہوں نے بھی ٹیکٹ خطبات ارشادات تقاریر اپنائے۔ پیسہ کے پھیر بن رہے ہیں۔ ”عزت و آبرو کی پرواہ نہیں۔“

دور نہ جانیے! خلیفہ ثانی کو ایک پلہ میں تو خلیفہ ثالث کو دوسرے پلہ میں ڈالنے۔ پرکھ لیجئے۔ خود ٹیکٹ واضح ہو جائے گا۔ تو اس طرح امیر کراچی بھی بسا اوقات چندوں وغیرہ کے سلسلہ میں جو جلال میں آتے ہیں وہ ہماڑ پلاتے ہیں کہ نہ مرد حضرات اور نہ مستورات کو بخشتے ہیں۔ غرض صرف اور صرف پیسہ۔ گویا اخلاص مخلص، مجلسی ایمان نہیں۔ پیسہ ہے جو بولتا ہے اور خطبات میں واہ واہ کر داتا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ عرض کر دوں۔ قادیان میں کیا تھا چھوڑ دیجئے۔ کراچی میں

تالیفوں کی درآمد برآمد کرے۔ ایک دفعہ دس ہزار برائے اشاعت قرآن دیجئے۔ بس پھر کیا خطبات میں متواتر شخص کے گن گائے گئے۔ اس کے بعد پھر کبھی کچھ روپے دیجئے ہیں تو نام کے اطلاعات کا مع کر دیجئے ہیں۔

جناب عالی! مندرجہ بالا مطالب ظہر سے میری ذات سے۔ لیکن اب سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے۔ قرآن پاک کی غیرت آپ کو کیونکر چھوڑے آپ نے جلال امور عامہ اور امارت کی ایمانی بجلی روشناس کرنی ہے۔ بارگروانی جیسے امور عامہ پہ ہاندھی ہے تو امارت خطبات کے سٹیجوں پہ کھڑے ہوتے۔ دوسروں کی عزت و آبرو سے کھینچتے ان کے خلاف نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات، قرآن پاک کی عظمت پر کلورخ اندازی کرنے کے خلاف کیونکر آپ کا جلال رونما ہوتا ہے۔

۱..... اس طرح نجس حالت میں نماز کی ادا بجلی حکم خدا، سنت رسول اور اسلام سے کھلی بغاوت اور خدا سے فریب کرنا نہیں تو کیا۔

۲..... بیبیوں سے عیاشیاں کرنا کرنا، نیکی، پرہیزگاری اور تقویٰ کے پردے میں کھلم کھلا خلافت راشدہ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟

۳..... کیا ایسی وہ مقام عیاشی ہے جس کی ظاہری اور باطنی صفائی کے مدد سے بہشتی مغبرہ کے قطعہ خاص الخاص میں دفنائے جانے کا اعزازِ علیفہ کو ہر قسم کی ربا کاریوں کے طفیل ہوتا ہے۔
اپنی اس درخواست کو جہاں جہاں جسم کی جھلی اور آغری ہوگی۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔

۱۹۵۳ء کے فونی واقعات و حادثات پر ہمیں۔ (منیر انکوائری رپورٹ) ”کہ وہ بچہ ایسی مرائٹیں“ گویا کسی بھی وقت وہی فونی ہوئی دو بارہ کھلی جاسکتی ہے۔

اگر اس درخواست کو چھوٹ، الزام تراشی تصور فرماویں تو تادم تحریر ایک حکیم صاحبہ اور دو صاحبزادیاں پاکستان میں بقیہ حیات ہیں۔ تصدیق و تسلی آسان ہے۔ پر تو حقیقت ہے کہ بے شرموں کو بے شرم ثابت کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ لہذا

ظالم کو ظلم کی برجھی سے خم بھدو دل برمانے دو
بھدو رہے گا بن کے دو اتم صبر کرو وقت آنے دو

کب تک روئے ضد و حسد میں ڈوبے۔ سچ کج کہو۔ اگر نہ عاقبت سے کچھ جواب خودی سے باز بھی آدے گا نہیں۔ خواہی پاک صاف بنا لگے یا نہیں۔ دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنا بند بھی کرو گے یا نہیں۔ تو ہمیں طور و نسل کا بتا یا ہم نے۔
والسلام! ابدالرزاق مہجد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
فَأَنَّ اللَّهَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ
مِنْ طِينٍ مِنْ دُونِ الْمُنَى
أَلَمْ يَجْعَلْ الْوَعْدَ عَلَىٰ رَجُلٍ
أَنْ يَبْعَثَ الْجَنَّةَ
فَأَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ
فَلْيَخْلُقْ كَمَا يَشَاءُ
فَلْيَخْلُقْ كَمَا يَشَاءُ
فَلْيَخْلُقْ كَمَا يَشَاءُ

فتنة از کار ختم نبوت



جناب مرزا محمد حسین سابق قادیانی

عرض ناشر

مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات، تصنیفات اور عقائد باطلہ کی تردید میں یوں تو تمام مکاتب فکر کے علمائے کرام نے اپنے اپنے انداز میں قلم اٹھایا ہے۔ مگر جس اسلوب علمی اور نوج تحقیق سے علمائے اہل حدیث نے اس کا تجزیہ کیا ہے اور جس شرح و بسط سے اس کے تار پود بکھیرے ہیں اور ہر میدان میں خود مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مرزائی کا تعاقب کیا ہے۔ وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آیا۔ علمائے اہل حدیث نے ہر موقع پر مرزائیت کا علمی محاسبہ کیا ہے اور یوں تفصیل سے اس کے ایک ایک پہلو کو نقد و جرح کی کسوٹی پر رکھا ہے۔ ان کی تصنیفات میں جہاں بھی کسی مقدار میں کوئی زہر موجود تھا۔ اس کی نشان دہی کر دی ہے۔ اس موضوع سے متعلق ان کی خدمات گونا گوں کی پورے برصغیر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جزاہم اللہ عنا وعن جميع المسلمين!

تحدہ ہندوستان میں انگریز کا یہ خود کاشتہ پودا اس کے زیر سایہ قائم رہا۔ لیکن اس کے بعد مر جھا گیا۔ ۷ دسمبر ۱۹۷۳ء میں اس کو اقلیت قرار دینے کے بعد تو اس میں کوئی جان باقی نہیں رہی۔ یہ فیصلہ اس کے ثبوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔

علمی طور پر تو مرزائیت کو علمائے اہل حدیث نے اپنی پیہم ضربوں سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ لیکن مولانا الیاس برٹی کی تصنیف ”قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ“ نے تو رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ اب مزید اس موضوع پر لکھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔

تاہم اس کا ایک گوشہ ایسا تھا جو نوزائشہ تکمیل تھا۔ اس کی نقاب کشائی کی ضرورت تھی۔ زیر مطالعہ کتاب ”فتنۃ انکار ختم نبوت“ کے لائق مؤلف مرزا محمد حسین بی کام نے اس پر سے بھی نہایت خوبصورتی سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ مرزا محمد حسین موصوف مرزائیوں کے خلیفہ جانی مرزا بشیر الدین محمود کے خاندان کی تمام مستورات کے اتالیق رہے ہیں اور اس لحاظ سے وہ ان کے گھر کے بھیدی ہیں۔ انہیں اس خانہ ساز نبوت کے اندرون خانہ کے حالات دیکھنے کے جو مواقع میسر آئے وہ کسی دوسرے شخص کو میسر نہیں آئے۔ مرزا محمد حسین تمام واقعات کے چشم دید گواہ ہیں۔ انہوں نے خلیفہ قادیانی کے گھر کے جو حالات آنکھوں سے دیکھے۔ بعض اصحاب کے کہنے پر اسی کتاب میں جمع کر دیئے ہیں اور گھر کے اس بھیدی نے بہترین انداز سے اس نبوت کی انکاؤنٹری ہے۔

کتاب نہایت دلچسپ اور پرواز معلومات ہے۔ اس کے مطالعہ سے قاری اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اخلاقی طور سے ”قادیانی نبوت“ کی پوری عمارت دھڑام سے نیچے آگری ہے۔
 شیخ محمد اشرف، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۸ء

کتاب ضبط کرنے والا طریق ٹھیک نہیں

مرزا محمود احمد قادیانی کا ربوہ سے اعلان: ”اسلام کے خلاف بھارت میں شائع شدہ کتاب ”مذہبی رہنما“ کے جواب کا صحیح طریق یہ ہے کہ ہم اس کا مدلل رد لکھیں اور اس کی وسیع اشاعت کریں۔“
 (الفضل مورخہ ۲۳ نومبر ۱۹۶۱ء)

مرزا محمود کا اس بارے میں دوسرا اعلان

اسی مذموم کتاب کا ذکر کرتے ہوئے خلیفہ ربوہ نے کہا: ”میں نے اس پر خطبہ پڑھا اور کہا کہ یہ ضبط کرنے والا طریق ٹھیک نہیں۔ جب تو ان لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوگا کہ ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں۔ واقعہ میں محمد رسول اللہ ﷺ ایسے ہی ہوں گے۔ تب ہی کتاب ضبط کرتے ہیں۔ اس کا جواب نہیں دیتے۔ اصل طریق یہ تھا کہ اس کا جواب دیا جاتا اور امریکہ اور ہندوستان میں شائع کر دیا جاتا۔“
 (الفضل مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۵۷ء)

اپنے خلاف لکھی ہوئی کتابوں کے متعلق

مرزا محمود کا قادیان سے اعلان: ”بہر حال کسی کتاب کے پڑھنے سے دوسروں کو روکنا اتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پس مہری صاحب نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ سچی ہیں تو ان کے پڑھنے سے لوگوں کو روکنا بہت بڑا گناہ ہے اور اگر ہم روکیں تو قیامت کے دن یقیناً ہم ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ ہمارا منہ کالا ہوگا۔ ہم خدا کے حضور لعنتی قرار پائیں گے۔ غیروں کا لٹریچر پڑھنا عیب کی بات نہیں۔ بلکہ میں ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہوں جو ایسی کتابیں چھپ چھپ کر پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جو کسی دوسرے کو تحقیق سے روکتا ہے وہ اپنے جھوٹے ہونے کا آپ اقرار کرتا ہے۔“
 (الفضل مورخہ ۲ مارچ ۱۹۳۹ء)

مسلمان حکومتوں کو دھمکی

مرزا محمود احمد کا چیلنج: ”اسلام کی ترقی احمدی سلسلہ سے وابستہ ہے اور چونکہ یہ سلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں نہیں پھیل سکتا۔ اس لئے خدا نے چاہا تو ان مسلمان کہلانے والی حکومتوں کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے تاکہ اس سلسلہ حقہ کے پھیلنے کے لئے دروازے کھولے جائیں۔“
 (الفضل مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۶۱ء)

تقسیم ہندوستان کے خلاف محمودی سکیم

”ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح پھر متحد ہو جائے۔“ (الفضل مورخہ ۱۶ مئی ۱۹۴۷ء)

اکھنڈ ہندوستان کے لئے محمودی آرزو

”بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں۔“ (الفضل مورخہ ۱۵ اپریل ۱۹۴۷ء)

حکومت سے لڑنے کی دھمکی

”اگر تبلیغ کے لئے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو ہم یا تو ملک (پاکستان) سے نکل جائیں گے یا پھر اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو پھر ایسی حکومت سے لڑیں گے۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۵۳ء)

مؤلف کا قارئین سے خطاب

ان گیدڑ بھکیوں کو پڑھنے کے بعد قارئین پر منکرین ختم نبوت کے وجود کے خطرات منکشف ہو جائیں گے۔ ان پر یہ بھی روشن ہو جائے گا کہ چاند پر تھوکنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جس گرگ ہاراں دیدہ کو ۱۹۷۷ء کے انتخاب پر چالیس لاکھ روپیہ صرف کیا تھا۔ اسی کی ہاتھوں قہار و جبار خدا نے ان دشمن ایمان لوگوں پر انہی کی تکفیر کی شمشیر چلا کر ان کو نزع میں جتلا کر دیا۔

مؤلف: مرزا محمد حسین

پیش لفظ

پیش لفظ سے کسی تصنیف یا تالیف کی پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن جب تالیف کا موضوع ایک ایسا شخص ہو جو اپنے کردار اور اطوار سے نادر کا لحد دم کا درجہ رکھتا ہو اور اس کے اعمال و افعال کی صحیح تصویر کشی کے لئے کسی زبان میں کوئی الفاظ نہ ہوں اور بڑے بڑے لسان اور ادیب اس شخص کے احوال واقعی کو بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہوں تو پیش لفظ بڑی پس و پیش کے بعد ہی لکھا جاسکتا ہے۔ منکرین ختم نبوت کے سربراہ ثانی نے جس بے باکی اور ہوشربا جسارت سے خدا کے عتاب و عقاب اور تعزیر و عذاب کو ساری عمر پکارا بلکہ لٹکارا ہے۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام (قرآن مجید) کے متعلق فرمایا ہے کہ: ”ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“ بڑے شدید عیسائی دشمن اور یہودی مشرکین بھی اس دعوے کے آگے سرگرم ہو گئے۔ سرولیم میور جیسا خطرناک دشمن بھی معترف ہے کہ ”قرآن کریم کا متن بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ بارہ سو سال پہلے تھا۔“

روح فرسا دعویٰ

اب منکرین کے سربراہ کے لئے تو ناممکن تھا کہ وہ خدا کے دعوے کو چیلنج کر کے قرآنی متن کے خلاف کوئی جنم کر سکتا۔ لیکن اس نے قرآنی متن کی کسی نہ کسی آیت کے معنی کے ساتھ بوجہی تلعب کرنے میں اسلام کے مسلم غیر مسلم دشمنوں کو بھی مات کر دیا۔ جب وہ اپنے ناقابل بیان کردار کے انشاء کا حریف نہ ہو سکا تو اس نے ایک اعلان داغ دیا کہ سورہ نور چودہ سو سال پہلے اس کے دفاع کے لئے نازل ہوئی تھی۔ اس روح فرسا اعلان کی کہاں کہاں زد پڑتی ہے۔ اس کا تصور بھی اہم عظیم ہے۔ قارئین محض کنائے سے اندازہ لگالیں گے کہ ایسے اعلان کرنے والے کے ہاتھ میں کتنے دوزخ بھرے ہوئے تھے اور اس کو کسی مقدس سے مقدس ہستی کی توہین کرنے میں کوئی ہاک نہ تھی۔ سورہ نور حضرت عائشہ صدیقہؓ کی بے مثال پاکدامنی کے ثبوت اور اس ثبوت کے غلو کے لئے اللہ نے نازل فرمائی۔ نانہار حسیاں کار نے اپنے لرزہ خیز حالات کو نظروں سے اوجھل کرنے کے لئے بوجہی کا سہارا لیا۔ گویا اپنی سیاہ کاریوں کو جنم کے شعلے بنا کر اپنے ماننے والوں کو بھی دوزخ کا ایندھن بنا دیا۔

قتیلہ سوزاں

آئیے! آپ کو ایک اور گناہانے قتلے کے قتلہ سوزاں کی طرف متوجہ کریں۔ مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ ربوہ نے چند سال ہوئے ایک کتابچہ بعنوان ”وینی معلومات“ (بطرز سوال و جواب) ہزاروں کی تعداد میں شائع کیا تاکہ ربوہ کی نئی نسل میں طعون مکائد نہ ہی عاصد بن کر ان کی رگ و پے میں سرایت کر جائیں۔ یہ کتابچہ اس وقت شائع ہوا جب آزاد کشمیر میں حکرم سردار عبدالقیوم خاں کی صدارت میں ربوہ والوں کو قانوناً غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور اس وقت مسٹر ہمشو پڑا مضطرب ہوا تھا اور سردار صاحب مذکور کی معزولی پر کربستہ ہو گیا تھا۔ کتابچے کا ایک نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے ص ۱۰ پر انیسواں سوال ہے۔

”قرآن کریم میں آنحضرت ﷺ کا اسم مبارک کتنی دفعہ آیا ہے؟ کسی ایک مقام کا ذکر

کریں۔“

جواب..... چار دفعہ ”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء
بینہم“

تبرہ..... جواب میں صرف چار کہا ہے۔ کیونکہ سورہ الصف کی ساتویں آیت (۶۱-۷۱) کو
مجرمانہ طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی کی
تھی۔ ”انسی رسول اللہ الیکم مصداقاً لما بین یدی من التورۃ و مبشراً برسول
یأتی من بعدی اسمہ احمد“ اس آیت میں احمد سے حضرت رسول اللہ ﷺ مراد ہیں۔ لیکن
منکرین کے سربراہ ثانی نے اپنی دیوار گریہ کو سہارا دینے کے لئے اس کو اپنے باپ مرزا غلام احمد پر
چسپاں کر دیا اور یہ اب تک اس منکر گردہ کا عقیدہ ہے۔ ایک عامی بھی جانتا ہے کہ احمد سے کسی بھی
طرح غلام احمد نام مراد نہیں ہو سکتا۔ ہاں! افتراء کے لئے ہر دروازہ کھلا ہے۔

سوال نمبر: ۲۴..... قرآن کریم میں جن جن انبیاء کے اسماء کا ذکر ہے بیان کریں۔

جواب..... حضرت آدم علیہ السلام سے فہرست شروع کر کے حضرت محمد ﷺ کے نام مبارک کے
بعد لکھا ہے۔ حضرت احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ (اس سے ان کی مراد مرزا غلام احمد ہے)

(دینی معلومات ص ۱۱)

اس جواب سے عیاں ہے کہ منکرین ختم نبوت مرزا غلام احمد کو ”حضرت احمد علیہ الصلوٰۃ
والسلام“ تسلیم کرتے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ یہ قرآن کریم میں درج ہے۔ عیاذاً باللہ! یہ قرآن
کریم میں اضافہ کی ابلسی جہارت ہے۔ اصل میں یہ افتراء مذکورہ بالا آیت سے تراشا گیا ہے۔
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ”مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد“ کہہ کر
حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بھٹ مبارکہ کی بشارت خدا کی طرف سے دی تھی۔

اس افتراء سے اظہر من الشمس ہے کہ یہ لوگ ”غلام احمد“ کو احمد تسلیم کر کے نہ صرف
انبیاء کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ بلکہ اس کو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے مقام پر کھڑا کرتے
ہیں۔ بلکہ ایک لحاظ سے اس کو ”اعظم“ قرار دینے کی طعون کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نہ ماننے
سے کفر لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا کہ اس طرح تو مرزا غلام احمد اپنے
مریدوں کے نزدیک خاتم النبیین ہوا۔ معاذ اللہ!

نشیہ اللہ بالائے طاق رکھ کر امت محمدیہ کو ”کافر“ قرار دیتے ہیں۔ اس طرح ان کا یہ
عیارانہ انداز کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ”غلامی“ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کا
مصداق بنا۔ فحش اور فاش ضلالت ہے۔ احمد کے مقدس نام کو غصب کرنا۔ خدا اور اس کے

رسول ﷺ کو چیلنج کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو ”غلام احمد“ کہنا ایسی ہی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے پیباک منکر کو غلام اللہ کہا جائے۔ کہاں حضرت احمد رضی اللہ عنہ اور کہاں مرزا غلام احمد۔ چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔

ایک اور لقب زنی

قرآن کریم کی اس عریاں تحریف پر قناعت نہیں کی بلکہ خاتم الانبیاء کے مقدس خطاب اور لقب پر بھی چھا پہ مارا ہے۔ لسان العرب عربی کی مستند کشتری ہے۔ اس میں خاتم اور خاتم کو (Interchange able) قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ مترادف الفاظ ہیں اور اس کے معنی لکھے ہیں۔ وہ آخری جو افضل ہو۔ Edward William Lane کی مشہور لغت (Arabic, English Lexicon) میں ختمہ کے معنی لکھے ہیں۔ (Improved, Stamped, Sealed- book:1, part:2, p:703) پر وہ اس کے لئے مثال دیتا ہے۔

اعطانی تھمتی: "He gave me my sufficiency or what sufficed me, because what suffices a Man is the last or utmost of his desires or demand."

جب کوئی گروہ قرآن کریم کی صراط مستقیم سے عمداً اور عملاً انحراف کرتا ہے تو عذاب الہی اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔

ایک اور ضلالت

سورۃ البقرہ کی پانچویں آیت اس طرح ختم ہوتی ہے۔ ”وبالآخرة هم يوقنون“ یہاں آخرت سے ان لوگوں نے مرزا قادیانی کی وحی مراد لی ہے۔ آخرت کا لفظ ۳۹ دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورۃ لقمان کی پانچویں آیت بالکل اسی طرح ہے۔ ۳۷ جگہ آخرت سے قیامت مراد لی ہے اور سورۃ لقمان کی پانچویں آیت میں بھی آخرت سے مراد قیامت ہی ان لوگوں نے لی ہے۔ لیکن سورۃ البقرہ میں آخرت کو مرزا قادیانی کی وحی قرار دیا ہے۔ یہ عرض کرنا بے محل نہ ہو گا کہ مؤلف نے ایک قلمی نام سے اس گروہ کے مفسر سے اس بارے میں طویل مراسلت کی وہ اس مقام پر آخرت سے مرزا قادیانی کی وحی مراد لینے پر مصر رہے۔ ان کے تراجم میں یہی غیر قرآنی مفہوم لیا گیا ہے۔ جب مؤلف نے پوچھا کہ کیا مرزا قادیانی نے خود اس کو اس معنی میں لیا تھا تو انکار کر دیا۔ یعنی جس کی طرف یہ لوگ آخرت کو بطور وحی منسوب کرتے ہیں۔ اس کے متعلق خود معترف ہیں کہ اس کو کوئی ایسا علم نہ تھا۔ جب پوچھا کہ کیا حکیم نور الدین بھی آپ والے معنی کرتے تھے تو

جواب دیا کہ وہ بھی اس کے یہ معنی نہیں لیتے تھے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ ان لوگوں کو کھمبات کو
تکشاہیات اور تکشاہیات کو کھمبات بنا کر قرآن کریم کی روح کو مجروح کرنے کی چاٹ پڑ گئی تھی۔
انہی لوگوں پر اپنی بیہودگی واضح ہونی چاہئے کہ جس کی طرف وہ اپنا انفراد منسوب کرتے ہیں۔ اس
کو ساری عمر مظلوم نہ ہوا کہ اس آیت ”بالآخرة ہم یوقنون“ میں آخرت سے اس کی دجی مراد
ہے۔ مصلحت میں یہ اضافہ ۱۹۱۸ء میں ہوا اور مولوی بشیر علی کو رادی قرار دیا گیا۔

مکہ مبارکہ اور مدینہ منورہ کی توہین

قرآن کریم کی تحریف و تحویل پر قاعدت نہیں کی بلکہ مکہ مبارکہ اور مدینہ منورہ کے تقدس پر
بھی چھاپہ مارا اور دینی شعور سے کاملاً عاری جماعت کے سامنے خطبہ میں کہا گیا کہ اب معاذ اللہ
حرمین شریفین کی چھاتیوں میں روحانی دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اب یہ قادیان میں ملے گا۔ (حقیقت
الروایا ص ۳۶) جب رجوت اور فرعونیت دل و دماغ میں مستولی ہو تو دشمن ایمان داغی بننے اور یادہ
گوئی میں کوئی روک نہیں ہوتی۔ یہ نامحود ”خلیفہ“ ابرہہ کا الٹا کہ اور عبرت آموز انجام بھول گیا کہ
مکہ معظمہ پر حملہ کی پاداش میں اس کا کیا حشر ہوا۔ اس خلیفہ کو اپنے نام سے کوئی نسبت نہ تھی۔ اس
سے تو بڑھ کر ابرہہ کا ہاتھی تھا جو حملہ کے لئے نہ بڑھا۔ الحاج محمد اسحاق صاحب نے نوائے وقت
موریہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء میں ایک ایمان افروز مقالہ بعنوان ”قصد ابرہہ کے ہاتھیوں کا“ میں لکھا:
”ابرہہ کے لشکر میں تیاریاں ہونے لگیں۔ ابرہہ نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام کھ مفسرین نے محمود
لکھا ہے ہراول دستے میں رکھا۔ لشکر کی کمر بندی ہو چکی تو مکہ کی سمت کوچ کا حکم ہوا۔ عین اسی وقت
سردار عرب نقیل بن حبیب نے جس کے ساتھ راستے میں ابرہہ کی جنگ ہوئی تھی اور اب بطور قیدی
اس کے ساتھ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی (محمود) کا کان پکڑ کر کہا: ”محمود بیٹھ جاؤ اور جہاں
سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا تو خدا تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے“ یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور
بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب ہزار جن حمل بان کر رہے
ہیں۔ لشکر بھی کوششیں کرنے کرتے ہار گئے۔ ہاتھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ سر پر آگس پڑ رہے
ہیں۔ ادھر ادھر بھالے اور برصے مار رہے ہیں۔ آگھوں میں آگس ڈال رہے ہیں۔ فرض تمام جن
کر لینے کے باوجود بھی ہاتھی نے جنبش تک نہ کی۔ پھر بطور امتحان اس کا منہ جن کی طرف کر کے چلانا
چاہا تو صحت کمڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ
گیا۔ مشرق کی طرف جانا چاہا تو بھی بھاگا بھاگا گیا۔ پھر مکہ شریف کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا
چاہا تو وہیں بیٹھ گیا۔ حمل بانوں نے اسے پھر مارنا پشیمان شروع کر دیا۔ لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔“

منکرین ختم نبوت کے محمود کے کان تو ابدہہ کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے تو کہہ معظّمہ کی طرف ہی حملہ کرنے کے لئے دوڑنا تھا۔ اس کو تو لارڈ کچر کا سمندر میں غرق ہونا کھول گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں لارڈ کچر نے عربوں کو دھمکی دی تھی کہ وہ خاندانِ کعبہ کو مہل بنادے گا۔ حواذِ اللہ! اس دھمکی کے بعد ”لوسی ٹانیا“ جہاز میں روس جاتے ہوئے شمالی سمندر میں بیخ جہاز غرق ہو گیا۔ اس انجام کا نقشہ یوں ہوا۔

آسان خاک ترا گورے نہ داد

مرقد سے جز درہم شورے نہ داد

دوسری عالمی جنگ میں موسیقی نے مکہ معظّمہ پر بم پھینکنے کی دھمکی دی۔ اس کی شکست فاش کا پانچواں ہوا کہ اس کی قوم نے اس کو گولی کا نشان بنا کر اٹلانٹک دیا اور حرام اس کی لاش پر تھوکے رہے۔ مؤلف کے معزز و متوقّر دوست کرل ڈاکٹر نور احمد صاحب نے مؤلف کو بتایا کہ انہوں نے خود موسیقی کی اٹلی لگی ہوئی لاش دیکھی۔ (اس پر تھوکا گیا تھا) اس نامحود کو بھی اگست ۱۹۴۷ء میں قادیان سے ”نہ دل وود چراغ محفل“ ہو کر ہندوؤں کا لباس پہن کر لٹایا گیا اور دنیا سے رخصت ہونے سے سات آٹھ سال پہلے اینجیاں رگڑ رگڑ کر پیچھ خاک ہوا۔ گویا کچر اور موسیقی کا سا انجام ہوا۔

حضرت خاتم النبیین ﷺ کے خلاف پاوہ گوئی

یہ ایسا بے لگام تھا اور گستاخ ہمارا تھا کہ ایک دفعہ خطبہ جمعہ میں یہ کہا کہ حضرت رسول کریم ﷺ سے بذاتی آسکتا ہے۔ اس کو زمیندار اخبار نے ہوا دی اور ہندوستان کے سارے اسلامی اخبارات اور رسائل اس پر لٹن طعن کی بارش کرنے لگے اور جماعت میں بھی اس ملک گیر اشتعال سے خوف پیدا ہوا تو پھر ڈھیلے منہ سے کہہ دیا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کرے گا نہیں۔ منیر ٹریڈنگ میں بھی جھکی ڈھکی پر جب اس پر سوال ہوا کہ کیا وہ حضرت رسول کریم ﷺ کو محصوم عن الخطاء تسلیم کرتا ہے تو اس نے ہم سا جواب دیا۔ لیکن آپ ﷺ احتجاج سے خوفزدہ ہو کر دوسرے دن جان کی آبی کر دی۔ اس نے انکار ختم نبوت کا فتوہ کھڑا کر کے جماعت کے ذہن کو مفلوج کر کے بڑی شہادی کا کاروبار چلایا۔ بغرض حال یہ دل سے اپنے باپ کے ”دعاویٰ“ کا قائل ہوتا تو اس کے پاس رہتے ہوئے اغظال سوزی کا ذرا مہ نہ رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہا میں کسی پولیس افسر کے پڑوس میں رہ کر آدمی لٹا رہتا ہے۔ چھوٹے دل ہی دل میں باپ کے الہاموں کو ابھام ہی سمجھتا تھا۔ اس لئے بڑی سے بڑی بے باکی اور تاہاکی

سے نہیں چوکتا تھا۔ میں نے طور پر اپنی فحشی مجلسوں میں تو صریح الحاد کی باتوں سے لذت یاب ہوتا تھا۔ کیونکہ اس کو جماعت کی طرف سے اعتراض کا خوف نہ تھا۔ اس نے جماعت کے لوگوں کو بے خبر رکھا اور جو باخبر تھے ان کو بے بس کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سنجی کے ناچ کو فن قرار دیتے ہوئے کہتا تھا کہ علم کی خاطر کوئی چیز بری نہیں۔ (الفضل مورخ ۳ دسمبر ۱۹۵۵ء)

یہی بات اس نے حکیم نور الدین کی طرف منسوب کر کے کہی کہ انہوں نے بھی سنجی کے ناچ کو ایک طرح کا علم قرار دیا اور دیکھنے کی ترغیب دی۔ (الفضل مورخ ۳ دسمبر ۱۹۵۵ء)

اسی اعتراف معاصی کی رو میں اس نے یہ بھی کیا: ”مجھ پر حملے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں نے کب اپنے آپ کو پاک کہا ہے۔“ (الفضل مورخ ۲ فروری ۱۹۱۵ء)

خدا کی خدائی میں گناہ کا خاصہ ہے کہ گناہ ہی گنہگار پر سوار ہوتا ہے۔ گناہ پر سوار کرنا اور اس کو اپنے اندر سیٹھ رکھنا فطرتاً ناممکن ہے۔ اس ضمن میں غالب کا کہنا بالکل صحیح ہے۔

پلٹتا پر نیاں میں شعلہ آتش کا آساں ہے
دلے مشکل ہے حکمت دل میں سوز غم چھپانے کی

معصیت کا نتیجہ ذہنی امراض

معصیت کے ارتکاب سے چند لمحوں کی نشاط تو ہوتی ہے۔ اس کے محو ہو جانے کے بعد سوز غم دل و دماغ پر محیط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے اشخاص **Schizophrenia** شقاوت ذہنی کے مریض ہوتے ہیں۔

افشاء راز کے سارے جہرد کے اور درتچے بند کرنے کی پیہم سعی میں ایک اور ذہنی عارضے کے شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے **Paranoia** (خطب فضیلت) وہ زندگی کے سنگین حقائق اور ان کے عواقب سے خیالی طور پر بچنے کے لئے **Grandiose Delusion** (جہال ادہام) کے مریض ہو جاتے ہیں۔ انہی ذہنی عوارض سے ان کے اندر **Sadism** (ایذا رسانی کی لذت) کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے طفیل وہ اپنے حلقہ بگوشوں کو لذت ایذا طلبی **Masochism** کا عادی بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ ساری کیفیات تھیں جو مرزا محمود کے وجود میں پیدا ہوئیں۔ انہی کے نتیجے میں جماعت محمود و محمود میں جلا ہو کر ایک متحرک لاش ہو کر رہ گئی اور نادانوں نے اس کو عظیم کا نام دیا۔ حالانکہ یہ انسانیت کی تجھیز و تکفین تھی۔ وہ یہ نہ سمجھی کہ اس کا خلیفہ اپنی ناپاکی کا اقرار کر کے بھی یہ کہہ گزرتا ہے: ”جو شخص مجھے ناکام بنانا چاہتا ہے وہ اسلام کے قلیبے کو روکتا ہے۔“ (الفضل مورخ ۱۸ اگست ۱۹۵۶ء)

”میرا مقابلہ کرنے والا دہریت سے درے نہیں رہتا۔“

(افضل مورچہ ۱۵ اگست ۱۹۳۷ء)

یہ ذہن کا فاج نہیں تو اور کیا ہے۔ میکا ڈولی نے آمر (دہ آمر کو Prince کہا ہے) کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو اپنے تحفظ کے لئے لومڑی اور شیر کے خواص پیدا کرنے چاہئیں۔ شیر پھندوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا اور لومڑی اپنے آپ کو بھڑیوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ اس لئے آمر کو یہ خواص اس طرح پیدا کرنے چاہئیں کہ وہ محسوس ہوں۔ یعنی جب پھندے کا خوف نہ ہو تو شیر بنا رہے جب پھندہ نظر آئے تو لومڑی کی مکاری کو شجودہ بنا لے۔

یہی حال مرزا محمود کا تھا۔ جب بے خونی کی لہر آتی تو روحانی طور پر افضل اکابر کی تحقیر کرتا جب احتجاج کا پھندا یا قانون کا دام ہر گز زمین اس کو نظر آ جاتا تو گنہگار بن جاتا۔

اپنے پیشرو سے حسد

چونکہ جماعت میں سربراہ اول حکیم نور الدین کا احترام بہت تھا۔ اس سے خائف ہو کر اس نے لومڑی کے انداز اختیار کر لئے اور اپنے پیشرو کی جو اس کا خسر بھی تھا، مذمت کئی جیلوں سے کرتا۔ اس نے کہا: ”خلیفہ اول کے زمانے میں میں لنگر خانے کا افسر تھا اور یہ بات بھی جانتا ہوں اور دوسرے سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ خلیفہ اول کے گھر لنگر سے کھانا جایا کرتا تھا۔ مگر ہمارے گھر میں کبھی لنگر خانے کا کھانا نہیں آیا۔“

(افضل ۳۱ اگست ۱۹۳۸ء)

”خدا تعالیٰ نے نوح جیسے نبی کی پروا نہیں کی۔ نہ معلوم یہ لوگ خلیفہ (حکیم نور الدین)

(افضل مورچہ ۲ اگست ۱۹۵۶ء)

کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں۔“

”اس وقت بھی خلیفہ اول کے خاندان کے چند افراد پیغامیوں کے ساتھ مل کر خلافت

کے مٹانے کے لئے کوشاں تھے۔“ (نوٹ: اس وقت سے مراد شاید وہ زمانہ ہے جب حکیم

(افضل مورچہ ۱۸ اگست ۱۹۵۶ء)

صاحب کی اولاد کا ربوہ سے اخراج نہیں ہوا تھا)

اور بہت سے ایسے فقرات ہیں جن سے اس نے حکیم صاحب کو نظروں سے گرانے کی

کوشش کی اور کرتا رہا۔

اصل میں اس تحریک انکار ختم نبوت میں کبھی بھی التزام موجود نہ تھا۔ بانی تحریک حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کو از روئے قرآن کریم بن باپ مانتا تھا اور ایسا نہ ماننے والوں کو منکرین دین سمجھتا

تھا۔ لیکن حکیم نور الدین اس کے زمانے میں ہی اس تصور کے قائل نہ تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کو بن باپ نہیں مانتا تھا۔ ان کے چھ سالہ دور سربراہی میں ان کا خیال ہی غالب رہا اور

لاہوری جماعت اب تک اسی کی قائل ہے۔ ۱۹۱۳ء کے بعد سربراہ خانی نے تو اپنے پیشرو کے اختلاف میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ جیسے کہ مندرجہ بالا حوالہ جات سے عیاں ہے۔ اب تیسرے ”خلیفہ“ نے ڈون کی لی اور دعویٰ کیا کہ وہ از روئے تالمود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کا مصداق ہے۔ حالانکہ تالمود یہودیوں کی ستیا رتھ پر کاشی ہے۔ وہ باوجود تحریر و تقریر کے ملکہ سے جاری ہونے کے اپنے باپ سے افضل عملاً تسلیم ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کا کرنامہ ۷۰۰ جبر ۱۹۷۳ء کو منصفہ شہود پر آ گیا تھا۔

اپنے اعمال اور احوال کی اذیت ناک زیبونی کی بے نتیجہ تلاشی کے لئے منکرین کے فرمانروا دعائے باطل کے بڑے رسیا تھا۔ تاکہ جماعت کے منہ پر مہر لگی رہی۔ اس طرح جماعت بھی کچھ اذیت پسندی سے اور کچھ ”نہ چائے رفتن نہ پائے ماندن“ کا مصداق ہو کر زبان بند کی کی توہم کی مادی ہو چکی تھی اور اس کا حال بقول شاعر یہ تھا۔

اپنی منقاروں سے طقتہ کس رہے ہیں جال کا
طائروں پر سحر ہے صیاد کے اقبال کا

منکرین کے قمر الانبیاء کا حشر

موجودہ سربراہ ثالث کا چچا اور ایم ایم احمد کا باپ ”قمر الانبیاء“ کہلاتا تھا اور اس کے بڑے بھائی سربراہ خانی نے کمر بستہ ہو کر اس کے ساتھ ایسا کمر توڑ سلوک کیا کہ وہ اس دکھ کی آگ میں پھل گیا۔ اس کے صاحب اقبال اور تنو مند بیٹے کو اپنا داماد بنا کر بے اولاد رکھا۔ اس داماد کی چھوٹی بہن سربراہ خانی یعنی اپنے تایا محمود کی بہن تھی۔ اس کو اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی۔ اسی ”قمر الانبیاء“ کے دوسرے بیٹے کے نکاح کا مقلعہ کیا اور اس کو نکاح خواں نہیں ملتا تھا۔ یہ اس خاندان کا حال ہے جو ”خاندان نبوت“ کہلاتا تھا۔ یہ سب انہی باطل ادعاؤں پر خدائی تصور تھی۔

سربراہ ثالث پر داماد کی ضرب

اب حال ہی میں سربراہ ثالث کے چھوٹے زاد بھائی داماد نے اس کی پانچ بیچوں والی بیٹی کو طلاق دے کر جماعت سے باہر شادی کر لی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے درون خانہ کی عورتوں کی خبر اولوالامروں کو پہنچا دی ہے۔ اس ہم جو جہان کے بزرگ بھائی نے خود مؤلف کو بتایا کہ جو اس نے کیا وہ شریعت کے مطابق کیا ہے اور اس کی خبر رسائی کی تردید نہ کی۔ گویا عسکی مناقب نے زور پکڑ رکھا ہے۔

ناشدنی اور ناگفتہ سانحہ

مذکورہ بالا تقریر لایعیا نے اپنے والد پر کتاب بعنوان ”سیرت مہدی“ لکھی اور اس میں لوگوں کی روایتیں درج کیں۔ اپنی والدہ کی طرف سے ”خلوت صحیحہ“ کی تفصیل بھی درج کی۔ یہ حال ہے اس ”اولاد مبشرہ اور ذریت طیبہ“ کا! کوئی ماں خلوت صحیحہ کی تفصیل اپنے بیٹے کو کیسے بتا سکتی ہے۔ ”سیرت مہدی“ کی پہلی جلد حکما واپس لی گئی۔ لیکن جماعت کا یہ حال رہا ہے۔

دیکھ جو کچھ سامنے آئے منہ سے کچھ نہ بول

آنکھ آئینے کی پیدا کر دہن تصویر کا

یہ سب انکار ختم نبوت کی پھٹکار ہے

تحدیثِ نعمت

مؤلف ۷۳ سال کے مرحلہ میں ”صبح گمیا یا شام گمیا“ کا مصداق ہے۔ کسی طویل تحریر کی بہت نہ تھی۔ لیکن چند صاحبان کرام کی اثر انگیز ترغیب کا لابدی نتیجہ ہے۔ بھٹوشاہی کے دور میں ۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کے فیصلے کے بعد مؤلف نے بغیر کسی پہلے تعارف کے ایک آزاد ایم۔ این۔ اے سے مراسلت کی کیونکہ بول فہمے انہوں نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی (جس نے ۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کا فیصلہ صادر کیا تھا) کی روئیداد کو فائل پر منتقل کیا تھا۔ یہ رکن اسمبلی بڑی قدر و منزلت کے انسان ہیں۔ کیونکہ ان کی نظر کرسی پر کبھی نہیں رہی۔ بلکہ ان کا دل و دماغ آیت الکرسی پر ہی مرکوز رہا۔ ان سے عرض کی کہ وہ روئیداد شائع کروادیں۔ کیونکہ مکررین ختم نبوت اندر ہی اندر پراپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ صدائی رپورٹ اور خصوصی کمیٹی کی رپورٹ حکومت اس خوف سے شائع نہیں کرتی۔ مبادا آدھا پاکستان مرزائی ہو جائے۔ عیاذہ اللہ! گویا بھٹو نے اشاعت روک کر پاکستانی مسلمانوں کو مکررین کے داؤ پر لگا دیا تھا۔ مکرر اس وقت J.I.C کے معزز رکن ہیں۔ ان کا مراسلہ محفوظ ہے۔

مؤلف نے ان کو Bio-Date مختصراً لکھ دیا۔ انہوں نے مؤلف کی بات کو تو صرف نظر کر دیا۔ لیکن تاکیداً لکھا کہ مؤلف اپنے تاثرات اور حقائق ضرور لکھے۔ ان کی تحریر میں گہری تاثیر تھی۔ ان سے پہلے ایک مکرر دوست میاں محمد رفیق سلمہ اللہ جو احباب میں ”علامہ رفیق“ کہلاتے ہیں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ دس ہزار کا چیک (Cheque) لے کر مؤلف کا تعاقب فرماتے رہے۔ بڑی مشکل سے دوسرے احباب کے تعاون سے ان کو قائل کیا کہ طباعت اور اشاعت مؤلف کے بس کی بات نہیں۔ لیکن مؤلف ایک اعطاء میں جتلا ہو گیا۔ اس اعطاء سے محض

اللہ کے فضل و کرم سے نجات اس طرح ملی کہ اسلامی لٹریچر کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ناشر کرم محترم شیخ محمد اشرف صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی ملاقات میں محض ایک منظم قلمی کے استیصال کی خاطر اور خالصتاً ختم نبوت کی رفعت اور پاکیزگی کے تحفظ کی خاطر طبعات اور اشاعت کے حامی بن گئے۔

ترغیبات کے سلسلے میں ایک جریدہ فریڈہ کے برگزیدہ مدیر اعلیٰ نے بھی جو اسلامی نظریے کے لئے جو راہ جبر کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ مؤلف کو بڑے مؤثر مختصر مکالمے کے بعد کہا کہ مؤلف اپنی وقفات سے پہلے ان کو ایک تالیف مرتب کر کے دے جائے۔ وہ اس بارے میں متعلقہ ذمہ داروں کے لئے تیار معلوم ہوتے تھے۔ ان سب ہمت بندھانے والے احباب کا مخلصانہ شکر یہ لازم ہے۔ اصل میں تو خدا کا شکر ہے جس کے فضل عظیم سے ان احباب کی دلداریاں مؤلف پر اس طرح گزریں جس طرح صبح صادق کے وقت نسیم کلیوں پر سے گزرتی ہے۔ اس لئے بے اختیار کہنا پڑتا ہے۔

یک منعم و یک نعمت منت و یک لکھ
صد شکر کہ تقدیر چیں رائدہ قلم را

آخر میں عرض ہے کہ اس تالیف کے مشمولات محض لائبریری کی سطح کے نہیں بلکہ لیبارٹری کی سطح کے ہیں۔ یعنی کتابی ہی نہیں تجرباتی ہیں۔ مؤلف نے قادیانی کے دار بے امان میں عصمتوں اور عفتوں کو نافرود میں چلتے دیکھا۔ حیات انسانی سے حیا کی قبا بھی مسلسل چاک ہوتے دیکھی۔ اس تجربے کے بعد وہ کہنے میں حق بجانب ہے۔

تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں
ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف

مؤلف: مرزا محمد حسین

صدق اور کذب کی قرآنی کسوٹی ہو شرابا معصیتیں

یہ تالیف جن واقعات اور واردات پر مشتمل ہے ان کا مؤلف کو حق الیقینی درجے کا علم ہے۔ کیونکہ اس کو قادیان میں اس طبقہ اثاث میں بطور اتالیقی کے کام کرنے کا موقع ملا جو جنسی معصیت کا صیلا ہوں بنا ہوا تھا اور مؤلف نے ان خاص ”خلافتی“ مساکن کو قریب سے دیکھا جو جنسی پورشوں کے محاذ سینے ہوئے تھے۔ مؤلف نے اپنے مشاہدات کو دل میں جھلی رکھا اور یہ سینے کا داغ بن کر اس کے وجود کو کھاتے رہے۔ ایک روک تھمی کہ فواحش کی اشاعت بظاہر کار خیر نہیں۔

ایک خوف بھی دل پر مسلط رہا کہ جس "لائحانی عاصی" کی یہ لائحانی داستان ہے وہ اپنے بہیمانہ زور سے نہ صرف اشاعت کو روک دے گا بلکہ وہ کچھ ایسے ستم نازل کر دے گا جس کے تصور سے ایک عاجز انسان کانپ اٹھتا ہے۔ ان دو وجوہ کے علاوہ بھی ایک اور بات سدر راہ تھی وہ یہ کہ مصنفوں کی نوعیت ایسی سنگین اور خوارقِ عادت ہے کہ نہ ان کو دیکھا جاسکتا ہے اور نہ دیکھ کر بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ بیان کر دینے پر بھی ان کو سننے والا پا پڑھنے والا کبھی تسلیم کر سکتا ہے۔

ان مواقع کے باوجود مؤلف نے ان الہیوں کے المناک اور حیرت ناک ذکر چھیڑا ہے۔ اس لئے کہ یہ مصحفیں اہل حق کے پردے میں ایک جماعت کا مسلک بنی ہوئی ہیں اور ان کی پردہ داری کے لئے دین اسلام کی توہین کی پیہم اور بڑے پیمانے پر نصف صدی سے زیادہ عرصے سے نیم کامیاب سعی جاری ہے۔

پہلی تصانیف کا بنیادی سقم

مؤلف کو اس کا پورا پورا احساس ہے کہ اس کو اپنے مشاہدات، واردات اور یقینی مسوعات کو الفاظ کی قدیم لانا جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

یہ الہیہ کیا ہے؟ ایک ہوش رہا مصحفیت کا ایک حدود فراموش خارزار ہے جس کی نہ ابتداء کی خبر ہے نہ انتہاء معلوم۔ چونکہ اس کے طشت ازہام کرنے سے انکار قسم نبوت کے اژدھے کا سر کچلا جاسکتا ہے اور ضعیف اور رشد میں تمیز ہو سکتی ہے اور اس فتنہ عظیم کے حامیوں کو بھی اپنی خامیوں پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی جاسکتی ہے۔ اس لئے جو فتنی ایزدی اس ضلالت بے پایاں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے عظیم اصحاب علم و قلم نے فتنہ انکار نبوت کی گمراہیوں اور کفر سازیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مساعی جلیلہ کی ہیں۔ لیکن وہ منطوق اور فلسفہ کے چکر میں اسیر ہو کر سوادِ عظیم کے سامنے اس فتنہ کی تباہ کاریوں کو عام فہم انداز میں پیش کرنے میں قاصر رہی ہیں۔ ان کی افادیت علاوہ تک ہی محدود رہی جن کے لئے یہ کوشش تحصیل حاصل سے زیادہ نہ تھیں۔ ان مساعی میں ایک قسم تھا کہ ان کی سطح بڑی عالمانہ تھی اور دلائل کا اہتمام تھا۔

صدق و کذب میں امتیاز کا قرآنی معیار

صدق و کذب میں تمیز کا کامیاب طریق قرآن کریم نے حضور ﷺ کی صداقت کے بارے میں ان الفاظ مبارک میں بتلایا ہے۔ "لقد لبثت فیکم عمراً افلا تعقلون" "محقق میں نے تم (یعنی کفار) میں چالیس سال گزارے ہیں۔ اپنے مشاہدات کی عینک لگا کر میرے دعوے کو چمکھو، کیا تم عقل سے عاری ہو گئے ہو۔"

چونکہ حضور ﷺ اپنی پاکیزگی اور اظہار من الغیب صدق کی وجہ سے الامین مشہور تھے۔ اس لئے حضور ﷺ کی عملی زندگی ہی حضور ﷺ کی صداقت کا سب سے زیادہ عظیم ثبوت تھا اور ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصلی کسوٹی عملی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اس لئے منکرین ختم نبوت کو لا جواب کرنے کے لئے ان کے سربراہ ثانی کی اپنی زندگی کو پیش کرنا چاہئے اور اسی سے وہ کتراتے ہیں اور پہلو تہی کرتے ہیں۔ مشاہدات کے مقابلے میں دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ دلائل سے مشاہدات کی نفی نہیں ہوتی۔ ہاں مشاہدات بڑے سے بڑے منطقی براہین کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اثبات کے لئے کائنات کے مناظر کو بار بار پیش کیا ہے۔

جن اصحاب علم و قلم نے فتنہ انکار نبوت کے خلاف قلمی جہاد کیا ہے وہ لائق تحسین ہیں۔ چونکہ ختم نبوت کی صداقت آفتاب آمد دلیل آفتاب کی صداقت ہے۔ اس مقدس حقیقت پر بحث کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آسمان وزمین، لیل ونہار، دریا و کوسار کے وجود کے حقیقی ہونے پر دلائل کا سہارا لے۔ چونکہ منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں منطقی نمونہ گانہوں پر تکیہ رہا ہے۔ اس لئے دلائل سے دلائل مگرائے جو لوگ ضد پر قائم تھے وہ شس سے مس نہ ہوئے۔ اگر شروع سے قرآنی کسوٹی یعنی حقیقی واقعات کو سامنے رکھا جاتا اور ان کے سربراہ ثانی کی جنسی معصیوں کو اہم نشرح کیا جاتا تو ان منکرین کو یارائے کلام نہ ہوتا۔ یہ اس لئے کہ قادیانی اپنے سربراہ ثانی کو اپنی تحریک کا نقطہ عروج سمجھتے ہیں۔ گویا اس کی خانہ ساز خلافت میں ان کی تحریک کا مزاج پنہاں ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق بیٹے کی خلافت باپ کی پیش گوئیوں کی صداقت ہے گویا یہ قادیانیت کا نقش ثانی ہے۔ چونکہ اس ”سودیشی خلافت“ میں تختہ انکار ختم نبوت کا منہ زور پروپیگنڈا ہوا۔ اس لئے انکار ختم نبوت کی لعنت اسی دور میں نمایاں ہوئی۔ اس صحیح قیادت میں یہ لوگ نہ صرف سوچ بچار سے بلکہ شرم و حیا سے بھی عاری ہو کر رہ گئے۔

مؤلف کے خروج کی وجہ

اس دور میں کئی خروج ہوئے وہ صرف سربراہ ثانی کی جنسی تاخت اور اخلاقی نزاج سے پیدا ہوئے۔ ہر دفعہ اس عصیاں کار کے قرب و جوار سے ہی اس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ جن لوگوں نے دفاع کیا کچھ عرصے کے بعد مدافعتین اس کی غلطی زندگی کا شکار ہو کر نکلے اور انہوں نے وہی انکشافات کئے جو ان سے پہلے نکلنے والوں نے کئے تھے۔ گویا آج کے مدافعتین کل کے مخالفین بن کر برسر پیکار ہوئے۔ مؤلف کا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کے انکار کی سزا سے صحت

دعوت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان منکرین کی جماعت کا ہوا۔ اس جماعت کا وجود ملکی اخلاق کے لئے سرطان کا حکم رکھتا ہے۔ اس لئے مولف نے احباب کے مسلسل اور پر زور مشورے اور ترغیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ احباب میں مولف اپنے مشاہدات اور معلومات کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ بقول شاعر مولف کی حالت یہ تھی۔

جور دستم کی داستاں جس سے رقم ہوئی

اس کو ہی میں نے درد کے قصے سنا دیئے

یہ ایک Catharsis (ذہنی جلاب) کا عمل تھا۔ جس سے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا سا ہو جاتا تھا۔ کہنے سننے میں علاج درد کی صورت تھی۔ مولف کو انکشاف درد سے لذت تو ہوتی۔ لیکن اس لذت میں اذیت ضرور ہوتی تھی۔ حضرت علامہ اقبالؒ کے اس شعر سے ہی اس متضاد کیفیت کا اظہار ہو سکتا ہے۔

علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں

جو تھے کانٹے جگر میں نوک سوزن سے نکالے ہیں

احباب کے علاوہ متعدد اہل خیر لوگوں کا بھی اصرار اتنا تھا کہ میری کیفیت یہ ہوگئی تھی کہ۔

کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے

مجھے اپنی قلمی خامیوں کا شدید احساس ہے۔ کیونکہ جس ”لاٹانی“ داستان عریانی پر قلم

اٹھانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ کوئی بڑا سخنور اور دستم قلم ہی بیان کرتا تو قارئین کو مبرا آ جاتا۔ لیکن۔

کوئی ہار دقا اٹھا نہ بسکا

بھی الزام میرے سر ہی رہا

پاکستان کے داخلی دشمن

مجھ سے کوئی منکر ختم نبوت پوچھ سکتا ہے کہ نصف صدی کے بعد لکھنا چہ معنی دارد؟ تو مولف اعتراف میں یہ عرض کرے گا۔ ”خوف غماز، عدالت کا خطر، دار کا ڈر۔“ لیکن اب جو یہ بیڑا اٹھایا جا رہا ہے وہ محض اس لئے کہ ایک سرطان نے پاکستان میں امت محمدیہ کے مبارک قلعہ میں سرگ لگا رکھی تھی اور اب محض مشیت ایزدی سے وہ سرگ بے رتبہ ۱۹۷۴ء کو بھک سے اڑ گئی۔ اس طرح حضور ﷺ کی حدیث بھی پوری ہوئی کہ خدا بعض دفعہ ایک فاسق فاجر سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے۔ ایک فاسق فاجر آ مرچ منکرین ختم نبوت کا بڑا منظور نظر تھا۔ اس نے اپنے دشمن ایمان

د آگہی اور ہزن حکمین دہوش اقتدار میں عظیم فسق و فجور برپا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب بلا کا ایک دھارا اقتدارِ کائنات میں نبوت کی طرف بھی پھیر دیا۔ گویا ایک فسق عظیم کا خاتمہ ایک دوسرے فسق عظیم کے دور میں ہو گیا۔

اب بھی کئی قسم کے خوف دامن گیر ہیں۔ لیکن مؤلف کے دامن میں ایک مقدس خوف بھی ہے۔ وہ ہے۔ ”من خاف مقام ربہ جنتان“ اور جنت میں نہ خوف ہوتا ہے نہ جزن۔ صداقت کی سند

ایک بات کا ذکر لابدی ہے وہ یہ کہ مؤلف کے پاس تالیف کی کیا صداقت ہے۔ اس بارے میں یہ کہنا کافی ہے کہ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کسب معاش کے لئے قادیان میں مؤلف کی کارگاہ ہی قادیانی راس پوٹین کی جنسی پورشوں کی جولان گاہ تھی۔ یعنی طبقہ اثاٹ۔ مؤلف اتالیقی اثاٹ تھا۔ اس کو محض خدا کے فضل سے اس میدان میں کامیابی ہوئی۔ بنگلہ دیش کے سربراہ ہانی کے قبیلے سے یہ کام شروع ہوا۔ رب العالمین نے معاش کے راستے کشادہ اور ہموار کر دیئے۔ حتیٰ کہ سربراہ ہانی خود مؤلف کی شہرت کا ذریعہ بن گیا۔ بس پھر کیا تھا ہر طرف سے اتالیقی کے لئے مانگ پیدا ہوئی۔ اس طرح اس صنف ضعیف کی مجبوریوں کے لیل و نہار صورتِ محرم کہ بن کر سامنے آنے لگے۔ سربراہ ہانی کے قبیلے کے لئے اس کے گھر میں کئی دفعہ دن میں جانا پڑتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مؤلف کا کردار ان سے پوشیدہ رہے اور قبیلے کا کردار معلم سے مخفی رہے۔ ۱۹۳۱ء میں مؤلف کو سربراہ ہانی شملہ لے گیا۔ وہاں چار ماہ تک ایک چھت کے نیچے ہی رات دن بسر کرنے پڑے۔ مؤلف اپنی مغفرت کے لئے رات کے کسی پہر اٹھتا تھا۔ ادھر سے رات کا ہی کوئی حصہ حادی معصیت کار کے لئے محفوظ ہو سکتا تھا۔ وہاں یہ تجربہ ہوا کہ رات کو ہی مغفرت کے طلبگار اور معصیت کے رسیا کا ملاپ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قارئین کے لئے اشارہ کافی ہوگا۔

ہے حیا مانع کہوں یا نہ کہوں

اشارہ اور کنایہ کے رنگ میں ہی کسی ہوشربا عریانی اور فحش کاری کو بیان کرنے سے ہی

تہذیب کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے۔ *Allusion Explained* یعنی کنائے کی تفصیل و تشریح سے کنائے کی شائستگی مجرد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ نامحمود کی جنسی چہرہ وستیوں کو من و عن بیان کرنا مشکل ہے۔ گرفتاش میگویم جہاں برہم ذم اس لئے مؤلف اس بات کا محتاج ہے کہ قارئین بصارت سے زیادہ بصیرت سے کام لیں۔

افشائے رازنہانی

شملہ سے واپس قادیاں آنے کے بعد مؤلف کے خبر اڈل (ڈاکٹر) احسان علی نے جو خلیفہ کی سوتیلی خوشدامن کا سجا بھتیجا تھا۔ بے دریغ سارے پردے چاک کر دیئے۔ اس کی معلومات حقیقی کا منبع ”خلیفہ“ کا وہ ڈرائیور تھا جو دن رات سیاہ کاریوں کو دیکھتا تھا۔ بلکہ اس کا راز دار خصوصی تھا۔ اس ڈرائیور نے خود براہ راست مؤلف سے قصر خراقات کے راز ہائے دروں سنانے شروع کر دیئے۔ اس کے علاوہ مؤلف کے ایک شاگرد مصلح الدین سہدی نے جو اس عشرت کدے کا ایک سورما تھا، جو حالات سنائے ان سے ڈرائیور نے کوری روایات کی پوری تصدیق ہو گئی تھی۔ مسٹر سہدی نے مؤلف کے مسلسل تردد کو اس طرح پاش پاش کیا کہ مؤلف کو یقینی قائل کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ جب قریبی مشاہدہ اور عملی شرکت معصیت میں اتنا قریب ہو گیا جو دامن کے چاک اور گریبان کے چاک میں ہوتا ہے تو مؤلف کا زہر آب ہو گیا۔ جب خلیفہ کو افشائے راز کا اندیشہ ہوا تو اس نے گونا گوں مظالم کے سلسلے سے مؤلف کو دم بخود کر دیا۔ یہ اشارہ جملہ معترضہ کے طور پر ناگزیر تھا تا کہ انکشاف راز کا سارا ڈرامہ سامنے آ جائے۔ اگر قارئین کو وضاحت کی طلب ہو تو اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ قصر خراقات عصمتوں کا مٹھل بنا ہوا تھا۔ اس قتل عام سے پہلے سید زبوں اس قصر کے نسوانی مکین تھے۔ بلکہ ان کا وجود طمعہ کے طور پر تھا تا کہ گناہ کا خوف فوراً کافور ہو جائے اور ہر آنے والا عصیان و طغیان کے بحر ظلمات میں کودنے سے احتراز نہ کرے۔

اقلیم معصیت کا شہزادہ

مؤلف نے لڑھ خیز ہوس کاریوں کو اپنے قلمی ناتوانی کے علی الرغم اس لئے بیان کرنے تمہیہ کیا ہے کہ اقلیم معصیت کے اس شہزادے کے بے سرو پا دعاوی اور اس کے بیرووں کی مہلکانہ مبالغہ آرائیوں کو واقعات و واردات کے ترازو میں تولی جائے تو ان کی کج چٹھیوں کو موت کی نیند سلا دیا جائے۔ یہ مقصد دلائل سے نہیں حاصل ہو سکتا تھا۔ یہ نقاب کشائی کا متعنی تھا۔ انفرادی کاروبار افشائے رازنہانی سے ختم ہو سکتا ہے۔ اس طرح شاید کسی جھگڑے ہوئے راہی کو راہ نجات کی آرزو پیدا ہو۔ کیونکہ قرآنی فارمولا یہی ہے کہ کسی مدعی کے دعاوی کو عمل کی روشنی میں پرکھا جائے۔ جب خلیفہ کی عملی زندگی بے نقاب ہوگی تو اس کے سارے دعاوی اور سریدوں کی ارادت کی شیاں باطل ہو کر رہ جائیں گی۔ اس بیان کی ضرورت نہیں کہ اس ساری عصیاں کاری میں بخوار کی گمراہی تعلق تھا۔ خلیفہ ام النہایت کی آغوش میں ہوش سے سبکدوش ہو کر اپنی ہوس کاریوں کا نالگہ رچا تا اور سجا تا تھا۔ بنت

عنب کے ذخائر جمع رہتے تھے۔ اس نے اپنی محافظت کے لئے اپنے سارے خاندان کو اس متعفن بحیرہ مردار میں غرق کر رکھا تھا۔ یہ تین بھائی تھے اور ہر ایک نے ہوس کاری کے لئے اپنا الگ میدان بنا رکھا تھا۔ ان کے ذوقِ عشرت کا یہ عالم تھا کہ وہ زبانِ حال سے کہہ رہے ہوتے تھے۔

طالب دست ہوس کے کئی اور دامن تھے

ہم سے ملتا جو نہ یوسف کے گریباں سے ملا

ان کی خلوتیں ان کی جلوتوں سے خائف اور ان کی جلوتیں ان کی خلوتوں سے تالاں رہیں۔ خلیفہ خود ساحر الموط بنا ہوا تھا۔ اس نے منصف نازک کو انجام سے ایسا بے خبر کر رکھا تھا کہ وہ عصمت کے تصور سے اجنبی ہو کر اس کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھنے کے لئے تیار رہتی تھیں۔ ان کے محافظ بھی ان فتنہ سامانیوں سے مانوس ہو کر خاموش ہو گئے تھے۔

گناہوں کی المناک یورش

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مستدارِ شاد پر بیٹھ کر اور علم و عرفان کے دعوے کرتا ہوا ایسے حدودِ فراموش گناہوں میں کسی طرح جھلا ہو گیا اور ان کے مہیب عواقب سے بے خبر ہو کر کیسے رقصِ ابلیس کرنے لگ گیا۔ اس چستانِ کوحل کرنے کے لئے مؤلف کو جرمن کے شہرہ آفاق شاعر و تھیلنگار گوٹے کے معرکہ آراء ڈرامہ فاؤسٹ (*Faust*) سے ایک کردار کا بیان مل گیا۔ جس سے عقدہ کشائی ہو جاتی ہے۔ اس جرمن ڈرامہ میں دو عورتیں اپنی ہوس کاریوں اور عصمتِ فردشیوں کا آپس میں ذکر کرتی ہیں اور اپنے اپنے دوزخی واردات کا مبادلہ کرتی ہیں اور اپنے تاریک ماضی کی یاد سے دل گرفتہ بھی ہو جاتی ہیں پھر ان میں ایک مارکیٹ اپنے *Margaret* اپنے گھر جاتے ہوئے خود کلامی *Soliloquies* کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ”اے خدا! میں نے گناہ کی زندگی اختیار کی تو اس لئے کی کہ زنا کاری میرے سامنے ایسے دلربا اور دلکش انداز میں آئی کہ میں اس کے عشق میں جھلا ہو کر اسی کی ہو کر رہ گئی۔“

تالیف کے دلین *Villain* کے ساتھ بھی یہی سانچہ پیش آیا۔ زنا کاری ایسی ہوشربا پری بن کر اس پر مسلط ہوئی کہ وہ جنونِ زوج کا مریض بن کر رہ گیا۔ خدا کا تصور اس کے دل سے اس طرح نکل گیا جس طرح کوئی پرندہ اپنے نشین سے پرواز کر جائے۔ لیکن اپنی پردہ داری کے لئے مذہب کا روپ دھار کر اس معصیت کی پری سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔

سب کچھ اک تیرے سوا بھول گئے

کیا ہوا کیا نہ ہوا بھول گئے

تیری منزل کا پتہ یاد رہا
اپنی منزل کا پتہ بھول گئے

نیچر کا انتقام

نیچر بڑی ہتھم ہوتی ہے۔ اس کے ناخن اور دانت بڑے خونی ہوتے ہیں۔ Nature is Red in Tooth and Claw اس کے قوانین کے خلاف بغاوت کرنے والا انجام کار اس کی سفاک گرفت میں آجاتا ہے۔ انجام کار موت سے پہلے یہی حال اس بے باک شہوت کار کا ہوا۔ وہ V.D سے کیا بچتا اس کے رگ و پے میں وی ڈی چل گئی تھی۔ اس کا حافظہ باطل ہو گیا۔ جب یہ نماز پڑھاتا تو کبھی رکوع ترک کر دیتا کبھی سجدے سے بے خبر ہو کر نماز کا حلیہ بگاڑ دیتا۔ یہ بھی خدائی تعزیر کا سماں تھا تا کہ اس کے ضمیر کبم اور غمی مرید اس سے عبرت حاصل کریں۔ نمازوں میں جو یہ بھنونا نہ حرکات کرتا اس کے مرید ہنروں کی تعداد میں اس کی اقتداء میں وہی کچھ کرتے کسی کو یا رائے کلام نہ تھا۔ ایک جلسہ کے زمانے میں چوہدری ظفر اللہ خان نے مبینہ طور پر کہا کہ جماعت کے لئے شدید ترین ابتداء حضور کی بیماری ہے کہ ان کے پیچھے نماز صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتی۔ اس پر اس تقریر کے صدر خلیفہ زادے میاں رفیع نے شکوہ کے طور پر کہا کہ یہ چوہدری صاحب ہی ہیں کہ حضور کی امامت پر ایسا تبصرہ کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں۔ گویا حضور کی اطاعت نماز سے زیادہ مقدس تھی۔ نماز بے شک ذبح ہوتی رہے۔ لیکن اس قتل صلوات پر کوئی حرف گیری نہ کرے۔

بستر بیت الخلا بن گیا

حواس باختلی میں یہ نفس مزیدہ خلیفہ جلسہ میں تقریر کے لئے لایا جاتا تو غلیظ باتیں کرتا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ وہ جب پاکستان آیا تھا تو اس کی عمر ۳۹ سال تھی۔ اب اس کی عمر ۱۰۵ سال ہے۔ اس پر اس کے بیٹے نے صحیح کی تو جلسہ میں ایک دل گرفتہ غریب مرید اٹھا اور کہا کہ حضور کا محالہ ختم ہو گیا اور یہ کہہ کر جلسہ گاہ سے چلا گیا۔ جب یہ بھنونا نہ حرکات مسلسل سرزد ہونے لگیں تو حضور کو نماز سے ہٹا دیا گیا اور جلسہ میں آنے سے روک دیا گیا۔ اس کے ہڈیاں کی پروانہ کی گئی۔ آخر ان لوگوں کو وہی کچھ کرنا پڑا جو اقبالؒ نے ایک شعر میں فرمایا ہے۔

تیرا امام بے حضور تیری نماز بے بخود

ایسے امام سے گذر ایسی نماز سے گذر

اس جنون کی کیفیت میں اس کے بے اختیار بول و براز سے اس کا بستر بیت الخلا کو

مات کرتا تھا۔ اس جنون میں ایک کفر ناک اضافہ یہ ہوا کہ خلیفہ نے حج چلا کر کہا شروع کیا کہ

اس کو قادیان لایا جائے تاکہ وہ اپنے باپ کی قبر دیکھے۔ اس پر راہ گم کردہ منتظمین نے مرزا قادیانی کا ایک مزار تیار کیا اور اس کو مسیح موعود کا مزار قرار دے کر خلیفہ کو دکھایا گیا۔ یہ وہ ناشدنی حرکت تھی کہ جماعت کا بااثر طبقہ بگڑا اور جو ہدیری ظفر اللہ خاں نے بھول کسے دباؤ ڈال کر یہ کفر کاری شمع کرادی۔

لا علاج مرض سے معزولی

جب ہوش و حواس کا ملاً جواب دے گئے تو ایک انتہائی مجلس **Reglncy** قائم کر دی گئی جو جماعت کے کام چلاتی رہی۔ اس حالت میں بھی فریب کاری جاری ہے۔ خلیفہ کی ہمشیرہ کا ایک بیان افضل میں شائع ہوا کہ حضور کے کرنے کے کام پورے ہو گئے ہیں۔ اس لئے بیماری کوئی روک نہیں۔ نہ معزول ہونے والا خلیفہ اللہ کے حکم سے معذور ہو کر معزول ہو گیا۔ یہ قہر الہی تھا کہ جو جماعت مسلمانوں کی نمازوں کو نماز نہیں سمجھتی تھی اس کو اپنے ہاتھوں اپنی نمازیں محض مذہبی حرکات بنائی پڑیں۔

خلیفہ کی لا علاج امراض پر کروڑوں روپے ضائع ہوئے۔ پی. آئی. اے کی ہر پرداز پر قیمتی ادویات دوسرے ممالک سے آئی تھیں۔ ایک دفعہ جب خلیفہ ہوش کی حالت میں تھا تو ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ خلیفہ صاحب کے جسم کے علاوہ ان کے خیال میں قانج نفوذ کر چکا ہے۔ چونکہ وہ قادیان کا نام لے لے کر روتا تھا۔ اس لئے اٹکباری سے خیال ہٹانے کے لئے یہ مشورہ دیا گیا کہ خلیفہ ایک گیند لے کر دیوار پر مارے اور پکڑے اور پھر مارے اور پکڑے اور یہ عمل جاری رہے۔ اس سے اس کے خیال کا رخ بدل جائے گا۔ جو عیاذ باللہ! حضرت فاروق اعظم سے بڑا بھٹا تھا۔ اس کو یہ علاج اپنے کافرانہ قہر کے منافی معلوم ہوا تو ڈاکٹر مذکور نے کہا کہ ایک ربڑ کا گیند اپنے پاؤں کے عراب کے نیچے رکھ کر پاؤں گھماتے رہو۔ یہ بھی بیمار کے لئے ناقابل عمل تھا۔ اللہ فرض خدا نے مفتر یا نہ دعاوی کی یہ سزا بھی دی کہ ہر علاج حرام پر گراں گزرنے لگا۔ اس طرح حالت و گریوں ہوتی چلی گئی۔ پھر بستر پر اضطراب میں مبتلا ہو کر اس کا جسم چکر کھاتا رہا اور بستر کو اس طرح ہٹا دیا گیا کہ وہ نیچے نہ گر جائے۔ تحت اشعور کے کواڑ کھل جانے سے جو غلاقت اندر مد فون تھی سب دشمن کے انداز میں لکھی شروع ہو گئی تھی۔

لاش کو سنوارا گیا

آٹھ سال تڑپ تڑپ کر مجروح روح فکتہ نفس غمیری سے نکلی۔ لاش اتنی متعفن ہو چکی تھی اور چہرہ اس قدر سبک ہو چکا تھا کہ گھردالوں کو خوف پیدا ہو گیا کہ اس کیفیت سے سارا اخٹا

منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ واٹھی کو سنوارا گیا اور رخسار جو گڑھوں میں تہدیل ہو چکے تھے ان پر عازہ ملا گیا اور جسم پر کئی من برف رکھ کر منظر کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ اس طرح شاہراہ معصیت کا راجیہ خاک جا کر زمین کا بوجھ بن گیا۔

اس نے اپنے جنون زوج کی تسکین کے لئے اپنی عبقریت کو اپنی کوریت میں فرق کر کے عصمت اور حیا کے تصور کے استیصال کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ وہ قادیان میں اپنے پرچار کوں کو شادی کے بعد معاد دور دراز ملکوں میں بھیج دیتا تھا۔ اس طرح ان کی معلقہ بیویاں اس کے لئے کال گرلز *Call Girls* بن جاتیں۔ اس طرح یہ بھی ہوا کہ ان مظلوم عورتوں کو اپنے خاندانوں کی غیر موجودگی میں بچوں کی مائیں بننا پڑا۔ اسی طرح نائیجیریا کے مسلخ اور واقف زندگی کی بیوی کو یہی سانحہ ایمرہ پیش آیا۔ ڈرا سی لہراٹھی۔ لیکن جہاں جنسی معصیت کا دور دورہ تھا۔ وہاں یہ الم ناک حادثہ دب کر رہ گیا۔

مؤلف کا حلف

یہ تعویلاً عرض کر دینے کے بعد کہ فقہہ انکار ختم نبوت کے سالار اور اس کے ادعاے باطل کے پرکھنے کا طریق بتانے کے بعد یہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آغاز داستان کے ساتھ ہی مؤلف حلفاً عرض کرے کہ وہ جو کچھ لکھ رہا ہے وہ سچ ہے اور یہ سچ اس لئے نذر قرطاس ہو رہا ہے کہ ایک منظم کذب کا تار و پود نکھر جائے۔ حسن اتفاق سے بڑی موزوں اور موثر مندرجہ ذیل عمارت سامنے آگئی۔ جس سے مؤلف کا مابنی الغصمیر پورے طور پر واضح کاف ہو جائے گا۔

گناہوں کا خازن

مؤلف الفاظ کے محراب میں لب کشائی کی پورے یقین سے جرأت کر رہا ہے۔ چالیس سال کے دوران خوف زدگی اور حزن و ملال کی فضا میں تھا تھا جوار مان دل میں چل رہے تھے۔ وہ اکثر مغفل احباب میں لب شناس ہوئے۔ مگر زبان خامہ پر سہارا لینے کا یارا نہ ہوا۔ ساحر الموط کے مثل بلکہ اس سے برہر کہ فقہ کار کی صدا کو نمائے فلک سمجھنا تو ترک کر دیا تھا۔ کیونکہ علم و آگہی نے اندیشہ ہائے دور دراز کے پردوں کو چاک کر کے رکھ دیا تھا اور نقوش حیات نکھرنے لگے۔ سنور نے لگے۔ سینے کے داغ نوک قلم پر رقص کرنے لگے۔ اس لئے کہ احباب کرام کا مسلسل تقاضا تھا کہ عصمت کے لئے قتل عام کے ہوشربا مناظر زینت قرطاس نہیں۔ تاکہ کسی کے لئے عبرت کا سامان ہو اور کسی کو ہوش کے ناخن لینے کی ترغیب ہو اور جس کے دل میں اسلام بس رہا ہو اس کو علم ہو کہ ختم نبوت کے انکار سے کس طرح حیا اور شرم سلب ہو جاتی ہے۔

علم الحیات کے ماہر کی ایک بات

حلفا مولف کو کامل اطمینان ہے کہ وہ گناہوں کے خارزار کے مزاج کا راز دار ہے اور ہوسنا کیوں کے سبک شکوفوں کا محرم ہے۔ اس لئے مولف عرض پرداز ہے۔

مجھے قسم ہے قلم کی عظمت کی۔ حرف و معنی کی معرفت کی۔ کتاب حکمت ربانی کے کھجائے گرانمایہ کی کہ اس تالیف کا موضوع صدق اور صرف صدق پر مبنی ہے۔ مندرجہ ذیل حکایات خوں چکاں مصدقہ معلومات کے برگ و بار ہیں خدا عظیم و خبیر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مولف اس کے لکھنے میں حق بجانب ہے کہ منکرین ختم نبوت کی پہلی ہستی میں جواب بھارت میں ویرانہ آباد نما ہے۔ جنسی معصیت کو وہ فروغ نصیب ہوا کہ پاکدامنی کا لفظ شرمندہ معنی ہو کر رہ گیا۔ علم الحیات کے ایک جید عالم نے ایک بات خوب کہی کہ مچھلی کی جسمی ساخت کو انسانی معاشرہ سے ایک خاص مشابہت ہے۔ مچھلی کے سر میں پہلے تھن پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ تھن اس کے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے اور سزا نڈ پھیل کر اس کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ یہی حال انسانی معاشرہ کا ہے۔ اس میں اخلاقی عنونت اوپر کے طبقے سے شروع ہوتی ہے اور پھر سارے معاشرے کو اپنی پلیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہی حال منکرین ختم نبوت کے مریض معاشرہ کا ہوا۔ جب ایک پچیس سالہ پیر زادہ جو معروف تعلیم سے عاری تھا گونا گوں حیلوں اور وسیلوں سے مسند ارشاد پر قابض ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کی زندگی میں ہی جنسی معصیت کے جرم میں ماخوذ ہوا تھا اور پھر ماں کے توسط سے فق نکلا تھا۔ اس کو مقتدر اعلیٰ بن کر کھل کھینے کا خوب موقع ملا۔ اس نے اپنے ارد گرد خانہ ساز الہامات اور خوابوں کی فصیلیں کبڑی کر لیں تاکہ احتساب کو راہ نہ مل سکے۔ اس نے اپنے کردار سے جنسی مزاج کو ایسا فروغ دیا کہ اس کا پیزا کردہ سارا معاشرہ مہلب دوزخ بن کر رہ گیا۔ اس کا حراجی مسلک اس کے مریدوں کی نظروں میں ایک ”شاخ نور“ کے طور پر ابھرا۔ اس کو ظلمتوں نے سینچا اور اس پر شراروں کے پھول آئے اور نیک و بد کی تمیز یکسر مٹ گئی۔

اس تالیف میں تاریخ و دار اس خانہ ساز خلیفہ کے وہ بیانات آئیں گے۔ جن کو پڑھ کر ایک عام قاری ہادئی تدبر جاننے لگا کہ عصمتوں کے اس سوداگر کا ہاتن محیر العقول آلودگیوں سے معمور تھا۔

میکا ولی کا بروز

مولف جب بھی مولانا مہر مرحوم و مغفور سے منکرین کے اس سربراہ کے متعلق بات کرتا تو مولانا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ شخص ایک چیتان ہے۔ یہ دنیا نے اسلام کو کافر قرار دیتا ہے۔

اپنے الہاموں کی دھڑا دھڑا اشاعت کرتا ہے۔ لیکن یہ میکا وکلمہ نہ سیاست کا ایسا رسیا ہے کہ گھنٹوں اس سے گفتگو سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو مذہب یا اخلاق سے دور کا بھی کوئی لگاؤ ہے اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس کو ماننے والے ایسے عقل باختہ اور ادنیٰ ہوش سے عاری ہیں کہ وہ عملاً اس کو اولیاء اور انبیاء سے افضل درجہ دیتے ہیں اور یہ شخص اپنے خطبوں میں اپنے معتمد خیز الہاموں اور خوابوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ تاکہ جو موت سامعین کے عقول و قلوب پر وارد ہو چکی ہے۔ وہ قائم رہے۔

مولانا موصوف سے مولف کا ایک ہی جواب ہوا کرتا تھا کہ وہ ایسا مادر پدر آزاد دہریہ ہے کہ اس کے رستے میں کوئی روک نہیں۔ نہ وہ محرم و غیر محرم میں کوئی امتیاز کرتا ہے نہ اس کو اپنی جماعت کی طرف سے کوئی خدشہ ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے مریدوں کو بھی اسی بے حیائی کے عارضے میں مبتلا کر دیا ہے۔ دہریہ بھی کسی نہ کسی حد تک رک جاتا ہے۔ لیکن جب عصیاں کاری اڑھنا چھوٹا بن جائے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ جو یہ شخص شب دروز کرتا ہے۔ اس کی سیاست کاری بھی ایک سنڈ اس خانہ ہے۔ یہ سارا وبال حضرت رسول کریم ﷺ کے مرتبہ عالی سے انکار سے نازل ہوا۔ اس فقہ عظیم سے بے اعتنائی کی سزا ساری قوم پارہی ہے۔ کیونکہ جو جماعت یا گروہ ختم نبوت کا قائل نہیں وہ کلمہ طیبہ کا بھی قائل نہیں ہوتا۔

باپ نے بیٹے پر کمیشن بٹھایا

چونکہ یہ سودیشی خلیفہ شروع سے ہی حضرت رسول کریم ﷺ کی عظیم رفعت کا منکر تھا۔ اس لئے وہ عنفوان شباب میں جنسی دھاندلیوں میں مبتلا رہا۔ اس پر اس کے باپ نے ایک کمیشن بٹھایا۔ اس کے ارکان چار تھے۔ مولوی نور الدین، خولجہ کمال الدین، مولوی محمد علی اور مولوی شیر علی۔ ان اشخاص کے سامنے اس مجرم کی والدہ نے اپنا دامن پھیلا کر منت سماجت کی اور ارکان سے کہا کہ اگر اس کے معصیت کار بیٹے پر گرفت ہوئی تو اس کا باپ اس کو نکال باہر کرے گا۔ ان لوگوں نے اپنی فقہ کے پردے میں اس مجرم کو بری کر دیا۔ یعنی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ چار گواہ یعنی نہیں ہیں۔ اس لئے یہ مستوجب سزا نہیں ٹھہرتا۔ گویا زنا کار چار گواہوں کے نہ پیش ہونے سے زانی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہی لوگوں کو اسی مجرم سے سزا دلوائی۔ ان میں سے دو کو ۱۹۱۳ء میں اس کے خلیفہ بننے پر قادیان سے رخصت ہونا پڑا۔ ایک یعنی مولوی محمد علی کے مکان پر پہلے چھرا آڑا ہوا۔ یہ بات مولف کو ربوائی جماعت کے مفسر قرآن نے بتائی تھی۔ کیونکہ اس وقت وہ نویں جماعت کا مشہور قائل محکم تھا۔ اس نے چھرا کا معاملہ سنا اور مولوی محمد علی کی مظلومیت کا حال اس کی زبانی

سنہ۔ پھر اڈکے دوسرے دن وہ (مولوی محمد علی) قادیان سے بھاگ نکلا۔ خواجہ کمال الدین ولایت میں تھا۔ وہ وہیں سے الگ ہو گیا اور قادیان بھی شاید نہ آسکا۔ مولوی نور الدین کے بیٹوں کو خلیفہ نے ۱۹۵۴ء میں ربوہ سے رسوا کر کے نکال دیا۔ یہی حشر مولوی شیر علی کے پس ماندگان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ناپاک حرکت سے اغماض کرنے کی جلدی یا بدیر سزا نازل فرمادی۔

راسپوتین کا مثل

اس مثل راسپوتین کو سربراہ اول نے داماد بنا کر اس کے فروغ کے راستے کشادہ اور ہموار کر دیئے۔ ضمناً عرض کر دینا بے جا نہ ہوگا کہ راسپوتین روسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں *Women Chaser* (عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا) یہ ایک روسی پادری کا نام بن کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ اس کا نام مانک گرگوری *Monk Gregory* تھا۔ چونکہ اس نے زار روس کی بیوی کا مرشد بن کر زنا کاری کا بازار گرم کر دیا تھا تو وہ راسپوتین مشہور ہو گیا۔ لیکن وہ محرم اور نامحرم کی تمیز سے عاری نہ تھا۔ لیکن ہماری تالیف کے راسپوتین نے تمام ریکارڈ مات کر دیئے۔

انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ *Fierce Light Beats on the Throne* یعنی تخت پر سورج کی روشنی شدت سے پڑتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی سربراہ بن کر اپنے اعمال اور افعال کو پروے میں رکھنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اس پر چار دیواریوں سے پھلانگ کر سورج کی روشنی میں آجاتے ہیں اور بے خبر عوام بھی باخبر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی حال اس راسپوتین کا ہوا۔ اندر ہی اندر چہرے گویاں تو ابتداء سے ہی چل پڑی تھیں۔ اس کی بہانہ جولانیوں کے صید زبوں ہی ایک وقت باہر آ گئے۔ وہ تھے قادیان کے لوگ جو مستری کہلاتے تھے۔ ان کا باپ مستری فضل کریم اور اس کا بڑا بیٹا مولوی عبد الکریم تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی اور بہن خلیفہ کی بزم کے رکن رکین تھے۔ جب ان دونوں کو ایک بہانے کسی رات دو چار کروادیا تو وہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے اپنے باپ اور بھائی کو سارا ناجرا سنا دیا۔ ان لوگوں نے بھرپور حملہ کیا اور ایک ہفتہ وار پرچہ ”مہابلہ“ کے ذریعے درون خانہ کی فلاظتوں کو طشت ازہام کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ان کے مکانات جلادینے گئے۔ بڑے بڑے مقدمے چلے۔ لیکن برطانوی قانون ایک کھڑی کا جالہ تھا جس میں کسی تو پنشن کے رہ جاتی تھی۔ لیکن زبور بیچ کر لکل جاتا تھا۔ یہی حال قادیان میں ہوا۔

مستریوں کا مقابلہ

مستریوں کی پورش کا مقابلہ خلیفہ کے مقرب خاص شیخ عبدالرحمن مصری نے کیا۔ تحریری

حصولوں کا جواب تحریر ادا کیا اور اپنی طرف سے بھی وہ نبرد آزما ہوا۔ جس سے اس کو اور زیادہ قرب حاصل ہوا۔ وہ مکافات عمل کے قانون سے بے خبر ہو کر گنہگار کے لئے چوکھی لڑتا رہا۔ اس کو علم نہ ہوا کہ اس کے قرب نے اس کے گنہگار مرشد کے لئے اس کے گھر میں راہ کھول دی ہے اور اس نے نقب لگانی شروع کر دی ہے۔ لڑکی کا راز تو کچھ پوشیدہ سا رہا۔ لیکن مصری کے بیٹے کے ذریعے سارا معاملہ آفاقا مصری پر آشکار ہو گیا۔ اس نے بیٹے کو سرکش پایا۔ اس کی عادات میں نجرمانہ حرکات کے علامات ظاہر ہونے لگے۔ مصری نے اس کی گفتیش شروع کر دی اور کچھ جملہ میں جا کر بیٹے کو کالج کے ہوٹل میں جا گھیرا۔ بیٹے نے گھبرا کر ساری تحریرات باپ کو دے دیں۔ یہ سارا واقعہ مصری کے بیٹے حافظ بشیر احمد نے مؤلف کو لاہوری جماعت کی مسجد کے ایک ہجرے میں بیٹھ کر سنایا تھا اور یہ ساری طلسم ہوشربا کہانی اسی تالیف کے اگلے دو بابوں میں بیان کر دی گئی ہے۔

قصر خرافات کے سنگین راز

بہت قریب سے دیکھا ہے رہنماؤں کو بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے
کہہ دوں تو گردش لیل و نہار دک جائے وہ راز جن سے زخم کھائے ہیں میں نے
معمرہ میں ملفوف چیستان

اس تالیف سے ایک دیرینہ قرض کو بطور فرض ادا کرنے کی سعی کر رہا ہوں۔ ”مستوفیقی ابوالعزیز الحکیم“ اس وقت تک تعلیم یافتہ طبقہ نے *Mysteries of the Court of London* کا حال سن رکھا ہے۔ اگر مؤلف اپنے معلومات کو قلم و قریطاس کے ذریعہ ادا کر سکتا تو قارئین کو رٹ آف لندن کے آٹھین رازوں کو بھول جائیں گے۔ وہ جان لیں گے کہ معصیت میں بھی عمل ارتقاء جاری ہے۔ معصیت کے نابغوں نے وہ وہ گل کھلائے ہیں کہ شیطان بھی درطہ حیرت میں غیرت ہو کر مدہ جائے اور ان نابغوں کے سامنے بڑے بڑے شیطان بھی نابالغ نظر آتے ہیں۔ ان رازوں کے متعلق مؤلف کہہ سکتا ہے کہ ازراہ گوشم دیدہ اند!

ان کا بیان خلش و جش کی داستان ہے۔ یہ آہلہ دل ہے۔ مخدوم کی سوقات ہے۔ یہ سیاہ کاریوں کے گہوارہ کا دیدہ و شنیدہ نقشہ ہے۔ ان رازوں کا انکشاف مؤلف کے لئے برقِ خاطر کا کام کر گیا۔ یہ اس لئے کہ یہ راز جس شخص کے متعلق ہیں وہ کئی برس مؤلف کے دل و دماغ پر مرشد کے طور پر مستولی رہا۔ اس کی ہر بات بے خبری کے دور میں مؤلف کے لئے حرز جان تھی اور اس کا ہر فرمان اس کا ورد زبان تھا۔ اس مجہول حالت میں اس کے خدو خال کی معمولی حرکت مؤلف کے

رگ و پہ میں سرایت کر جاتی تھی۔ بقول شاعر اس کی قلبی کیفیت یہ تھی۔
 بہر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر
 وہ جو وقت نازاک جنبش تیرے ابرو میں ہے

ایک رات میں سر کے بال گر گئے

ہر چند کہ مؤلف خال مست تھا۔ حالات کا حقیقی تقاضا تھا کہ مؤلف بے خبری کی شب یلدا پر یوم تہلی السرا از طلوع ہو۔ اس کا بلخ اشارہ پہلے ابواب میں ہو چکا ہے۔ جب راز کا پردہ چاک ہوا تو مؤلف کے اوسان و حواس جواب دے گئے۔ ایک رات میں مؤلف کے سر کے بال غائب ہو گئے۔ یہ حالت جسم تک محدود نہ رہی۔ مؤلف کے دل کے نشین سے طائر ایمان پرواز کر گیا اور مؤلف چند روز تک دہریت کے اڑدہا کا لقمہ بن کر رہ گیا۔ اس ناگہانی انکشاف سے یہ سب کچھ ہونا بعید از قیاس بات نہ تھی۔ کہاں یہ کہ مؤلف جہالت میں اس کو فضل عمر سمجھتا تھا۔ کہاں یہ کہ مؤلف کو اس کی سیاہ کاریوں کے لئے اب تک موزوں الفاظ نہیں مل سکے۔ شاید ہی کسی بڑے سے بڑے اہل زبان اور اہل قلم کو ان کے بیان کرنے کا یارا ہو۔ مؤلف کے لئے کیسے ممکن ہے کہ الفاظ میں ان معصیوں کی تصویر کشی کر سکے۔ معاملہ یہ ہے۔

قری کف خاکستر و بلبل قفس رگ

اے نالہ! نشان جگر سوختہ کیا ہے

مؤلف اس تالیف کا نام نشان جگر سوختہ رکھتا تو اس عنوان سے مؤلف کے عجز بیان کی کوئی جھلکی سامنے آ جاتی۔

اس نام محمود شخص نے انکار ختم نبوت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور اس کے پرچار کو دینی مشغلہ قرار دے لیا۔ بس کیا تھا اس پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ کیونکہ اقبال نے صحیح کہا ہے۔

مصطفیٰ برسوں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہی است

ختمہ انکار ختم نبوت کے اس موجد پر ایسی بولہی نازل ہوئی کہ ابولہب بھی ششدر ہو کر رہ جاتا۔ ختم نبوت کے کلمے خزانے انکار اور اس انکار کے منظم پر چار کی لعنت تھی کہ نام محمود علیہ اور اس کے عمل باختہ مریدوں کو اللہ تعالیٰ نے ”فسی طغیانہم یعمہون“ کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ لوگ تکفیر اہل قبلہ کی تعزیر کے نتیجے میں کاروان ذلت و ضلالت بن کر دھرتی کا بوجھ بنے ہوئے ہیں اور گھبر کر دار پر پہنچنے پر بھی ضلالت کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ شرم اور حیا تو ان کی

زندگی کی گریمر سے معدوم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معصیت کی لہروں کو اپنے سامنے، اپنے پیچھے اور اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ اس سے مضطرب ہونے کی اہلیت بالکل کھو چکے ہیں۔ مؤلف ان کے معصیت سے مانوس ہونے پر حیران ہوتا ہے تو یہ لوگ الناس سے معترضانہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصہ ساتھ رہنے کے بعد کیوں الگ ہو کر برسرِ پیکار ہے۔ چونکہ ان میں اکثر لوگ بے خبر ہیں کہ ان کا مرکز ان کے مرحومہ دین کا مرقد بن چکا ہے۔ اس لئے ”قولاً له قولاً لینا لعلہ یتذکرہ اویخشی“ کی قرآنی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے مؤلف کہتا ہے۔

کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج وریا کا حریف

ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے

اس ضمن میں یہ عرض کرنا مناسب ہوگا کہ مؤلف ذاتی طور پر بڑا عظیم تھا کہ ایک بظلم قسم کے خلیفہ کے خاندان کی خواتین کا اتالیق ہونے کی وجہ سے اس کو ایک طرح کا اعزاز حاصل تھا اور دنیاوی آسودگی حاصل تھی اور اگر اس کو دو اور دو چار کی طرح پر ”خلافتی“ سیاہ کاریوں کا علم نہ ہوتا اور نہ اس کو یہ علم ہوتا کہ اس کو بھی اس بجز ظلمات میں ٹھیسنے کی درپردہ کوششیں ہو رہی ہیں تو وہ اس ظاہری جعلی آسودگی کو ترک کر کے قلبی اذیت میں مبتلا نہ ہوتا اور نہ اس راسخوتین کی جبری اور خفی عذاب ناکیوں کا شکار ہوتا۔

جب ان لوگوں میں سے بعض لوگ ذرا نرمی لیکن اصرار سے راز جوئی کرتے ہیں تو مؤلف ان سے اسی نرم لہجے میں کہتا بلکہ ان سے پوچھتا کہ مؤلف کو جب مصیبتوں اور عصمت ریزیوں کا حق یقینی علم ہوا تو وہ اس منظر کے اثرات کو اس لئے لسیا منسیا کر دیتا کہ اسیرانِ ضلالت اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر مرشد بدکار اور سیاہ کار ہے تو کیا بے خبر مریدوں کی بے خبری سے یقینی معلومات اور یقینی مشاہدات باطل ہو سکتے ہیں۔

اب جو مؤلف قلم و قراطاس کے سہارے کچھ سنگین حقائق بے نقاب کرنے کی جرأت کر رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کہیں ان حقائق کا مسلسل اغخابار خاطر نہ بن جائے اور کئی نفساتی عوارض پیدا نہ ہو جائیں۔ شاید غالب نے اسی طرف اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے۔

سینے کا داغ ہے وہ نالہ جو لب تک نہ گیا

خاک کا رزق ہے وہ قطرہ جو دریا نہ ہوا

مؤلف کو شدید احساس ہے کہ وہ دل کی بات پوری طرح ادا نہ کر سکے گا۔ کیونکہ جو جنسی

جھا کاریاں اور حیا سوزیاں اس کے یقینی علم میں آئیں اور ایک عجوبہ روزگار انداز میں آئیں وہ تو الفاظ کے دامن میں سمائی نہیں جاسکتیں اور اگر ان کے صحیح بیان پر اصرار کیا جائے تو زبان کے سانچے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور الفاظ و محاورات دم توڑ جائیں گے۔

پاک القاب کی توہین

اس تالیف کے ولین Villain نے اپنے لئے ایسے پاک القاب منتخب کئے جن سے اس کے ماننے والوں کے ذہنوں کا دیوالہ نکل گیا اور ان کی ایسی کردار کشی ہوئی کہ وہ نیک و بد اور شر و خیر میں تمیز کرنے سے قاصر ہو گئے۔ مؤلف ایسی کردار کشی کا تقریباً شکار ہو چکا تھا۔ اس کو بھی طویل مشاہدے کے بعد یقین ہوا اور پھر پرستی کے برگ شیش کا اثر زائل ہوا۔ لیکن سارا ماجرا بیان کرنے کی استعداد مفقود ہو گئی۔ چونکہ سیاہ کاریاں مجیر العقول تھیں۔ اس لئے ان کی نوعیت اس سیاہ کار کے لئے مدافعت بن گئی۔ کون مان سکتا کہ اس نے محرم اور غیر محرم کی تمیز کو روند کر رکھ دیا تھا اور اس کے لئے وہ اپنی جنمی محفل میں کہا کرتا تھا کہ آدم کی اولاد کی افزائش ہی اس طرح ہوئی ہے کہ کوئی مقدس سے مقدس رشتہ مجامعت میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ عیاذ باللہ!

جیسا کہ ان تالیف میں ایک جگہ محمد یوسف ناز کا بیان نقل ہوا ہے۔ وہ اپنی مخدرات کو میدان معصیت میں پیش کرتا اور اس کے تربیت یافتگان ان سے حظ اندوز ہوتے اور خود اس روح فرسا منظر کا تماشا کر کے ابلیسی لذت محسوس کرتے۔ یہ واقعات کئی بار منصفہ شہود پر آئے۔ لیکن جو گوشہ نفس میں آرام کے عادی ہو چکے تھے وہ کیسے مان سکتے تھے اور جب کوئی مان لیتا تو وہ بے امان ہو کر اپنا منہ لے کر رہ جاتا تھا۔ اس سے لوگوں کو یا تو بے خبر رکھا جاتا یا باخبروں کو بے بس کر دیا جاتا۔ اسی کیفیت کی طرف قرآن کریم کا اشارہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں۔ بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔

شاید تاریخ کا ذلیخ دور ہو جائے

مؤلف کو اس تالیف سے کوئی الفت نہیں۔ کیونکہ گناہوں کے دوزخ کی تصویر کشی میں کیا لذت ہو سکتی ہے۔ ہاں انکار ختم نبوت کے پرچار سے تاریخ میں ذلیخ آگئے ہیں۔ شاید اس تالیف کو بغور پڑھنے سے وہ ذلیخ سیدھے ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے ان راہ گم کردہ لوگوں میں سے کوئی خدا کی عطا کردہ توفیق سے محفل کے ناخن لے گا تو اس پر چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر کا معرکہ کھل جائے گا اور وہ جان لے گا۔ اے بسا انسان ابلیسی کند۔

اگر مؤلف سے کوئی اس کی حالت پوچھ بیٹھے تو وہ بقول غالب یہی عرض کرے گا۔

جان غالب تاب گفتاری گماں داری ہنوز
 سخت ہے دردی کہ ی پرسی ز احوال ما
 یا نسبتی کی زبان سے عرض کرے گا۔

پر سید زمن یار کہ احوال تو چوں است
 تا حال بہ اشرح وہم جاں دگر شد
 یہ محض شعر آرائی نہیں۔ یہ سارے احوال اس تالیف کے مختلف ابواب میں عزم اور
 حزم سے بیان ہوں گے۔ لیکن حزم ایسا نہ ہوگا کہ حقیقت ہی ہضم ہو کر پوشیدہ ہو جائے۔ کیونکہ
 مؤلف کو قارئین کی ہوش مندی کے شعور اور احساس کا بڑا سہارا ہے۔ مؤلف کی کیفیت یہ ہے۔

پہوں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا
 اک ذرا چھیڑیے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے

مؤلف کے شاگردوں کے بیانات

مؤلف کو اس کے طبقہ اناس میں سے بعض شاگردوں نے اپنی واردات سنائیں۔ حق
 کی جستجو میں مؤلف نے دیکھا موج موج اور کھوج لگائی صدف صدف۔ جب یقین کامل ہو گیا تو
 اس دوزخ سے نکل کر لاہور آیا۔ مدت جدید تک مہربلب رہا۔ جب ذرا طبیعت ٹھٹی تو کسی نہ کسی
 رنگ میں لیکن واضح طور پر مفلطوں اور چٹان میں مضامین کے ذریعے انکشاف کا سلسلہ شروع کر
 دیا۔ یہ ساری باتیں حکومت کے محکمہ متعلقہ تک پہنچیں۔ ادھر رویہ میں ہلڑ بازی شروع ہوئی اور چند
 بہادر جوان میدان میں آئے۔ ان کے انکشافات نے روزناموں میں جگہ پائی۔ یہ لوگ مؤلف
 سے تقریباً تیس سال بعد قادیانی چنگل سے نکل کر آئے۔ ان کے مشاہدات اور مؤلف کے
 تجربات میں ہال برابر فرق نہ تھا۔

ایس۔ پی۔ (سی۔ آئی۔ ڈی) سے ملاقات

۱۹۵۶ء میں ایک شام جب مؤلف کافی ہاؤس میں احباب کے ساتھ بیٹھا تھا تو ملک
 معراج خالد صاحب اور عبداللہ بٹ صاحب آئے اور مختصری گفتگو کے بعد مؤلف کو مسٹر عباس مرزا
 جو ایس۔ پی۔ (سی۔ آئی۔ ڈی) پولیٹیکل تھے، کے پاس لے گئے۔ عباس مرزا صاحب (جو اب مرحوم
 ہو چکے ہیں) کو رویہ کی اندرونی نگہ کش کی تحقیق تفویض ہوئی تھی۔ انہوں نے مؤلف کی تحریروں
 سے یہ اندازہ لگایا کہ ان کو مؤلف سے سو مندر بہمنائی ملے گی۔ وہ ان دنوں ماڈل ٹاؤن میں رہتے
 تھے۔ انہوں نے مؤلف سے کہا تھا کہ وہ اپنے متعلق احوال سنائے۔ مؤلف نے جو اہم عرض کیا کہ

مؤلف کا ایک طرفہ بیان تو زخم خوردہ مرید کی فریاد ہوگی جو ان کے فرائض کی ادائیگی میں ممد نہ ہو سکے گی۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ سوال و جواب کے طریق سے حالات دریافت فرمائیں۔ انہوں نے سوالات کا سلسلہ چھیڑا۔ مؤلف نے ان کے جوابات دیئے۔ انہوں نے جنسی سیاہ کاریوں کے ہر پہلو پر سوال کئے اور ہر پہلو پر مؤلف نے اپنی پوری استعداد سے جواب دیا۔ عباس مرزا صاحب کا حال یہ ہوا کہ وہ کرسی سے نیچے اتر کر قالین پر دراز ہو کر کہنے لگے کہ ان کے والد مرحوم مرزا عطاء اللہ بیگ S.H.O سے D.S.P تک گئے تھے۔ اس لئے ان کو یعنی عباس مرزا صاحب کو دراست میں پولیس والی صلاحیت ملی تھی اور وہ خود بھی S.H.O سے پکتان پولیس تک پہنچے تھے۔ اس لئے ان کو **CrimeNology** کا خاصہ فہم رکھنے کا دعویٰ تھا۔ لیکن نامحسوس ہر ماہ منکرین کی عیاریوں اور گنہگاروں کا حال سن کر کہنے لگے کہ ان کا فہم جرائم تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ انہوں نے طویل مکالمہ میں خوب چھان پھٹک کی اور وہ کان پر ہاتھ رکھ کر خاموش ہو گئے اور مؤلف رات کے دس بجے ملک معراج خالد صاحب کی مہربانی سے ان کی کار میں سنت گھر پہنچا۔ ان دنوں مؤلف وہاں رہتا تھا۔

ہاں! ایک بات کہنی ضروری ہے کہ ایس۔ پی (سی۔ آئی۔ ڈی) عباس مرزا نے مؤلف سے وعدہ کیا کہ وہ ان سے ربط رکھے گا اور وہ خود خوش کاری کے اڈوں کے سارے کوائف معلوم کرے گا۔ یعنی کس طرح مضبوطو جو ان کب اور کس طرح بلائے جاتے ہیں اور کس طرح گھر اور باہر سے خلیفہ کے لئے شکار دیا جاتا ہے اور کس طرح عصمت کے قصاب اور بوچڑا عادی ہو کر بلاوے کے لئے کس طرح دیدہ براہ اور گوش برآواز رہتے ہیں اور کس طرح صنف نازک پہلے مجبور ہو کر اور بعد میں آبروریزی کی خوگر ہو کر خود عصمت کے مذبح میں حاضر رہتی ہے اور کس طرح ہیڈ بوچڑا اپنے ناکارہ ہو جانے کی تلافی کے لئے اپنے سامنے حیا اور شرم کی کھال اترتے دیکھتا ہے اور خود کو لباس کے بوجھ سے سبکدوش کر لیتا ہے۔ تاکہ اس عشرت کدہ کے فرش سے چھت تک عریانی ہی عریانی ہو اور حیا کسی روزن سے دخیل نہ ہو سکے۔

ایس۔ پی صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ **Umarried Mothers** ہونے کے خوف کی خویش بندی کرنی جاتی ہے اور اکثر تو امومت کی صلاحیت سے عاری کر دی جاتی ہے اور اگر کبھی ایسا خطرہ لاحق ہو جائے تو اس کا بھی جراحی علاج کر لیا جاتا ہے۔ ایس۔ پی صاحب نے سب کچھ سنا۔ اس پر چار حانہ جرح فرمائی اور اس سیلاب معصیت کے آگے بند باندھنے کا وعدہ کیا۔ لیکن ”وہی دیرینہ بیماری وہی ناچکھی دل کی“ کا عارضہ ان پر غالب آ گیا اور وہ ٹس سے مس تک نہ ہوئے۔

ان پر اتمامِ حجت ہو چکا تھا۔ اس لئے شعوری غفلت کے عواقب تعزیر الہی بن کر نازل ہونے تھے۔ ذرا مہلت کا عرصہ طویل ہو گیا۔ پھر جو کچھ ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء کے بعد اس ذہین مگر غفلت شعار حاکم کے ساتھ ہوا وہ سب پر روشن ہے۔ وہ اپنے منصب سے تعزیراً معزول ہوئے اور تھرڈ ڈگری کے سلوک بھی ہوئے اور آخر میں ”ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم“ کے اٹل قانون کے ماتحت راہ ملک عدم ہوئے۔ حکومتوں اور ان کے افسران متعلقہ کی ان تھک عیش کوشیوں سے چنگیز صفت عصمت تراش ربوہ میں اپنے المناک انجام تک یہی کہتا رہا۔

خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا

میرے طوفاں یم بہ یم، دریا بہ دریا، جو بہ جو

مولانا مودودی سے ملاقات

۱۹۵۶ء میں یا اس سے لگ بھگ ربوہ سے کچھ مہم جو اور طالع آزمایانِ فحش کاریوں کو دیکھ کر سر پرستِ اعلیٰ کے دم خرم دیکھ کر گھریا چھوڑ کر عصمتوں کے بوچھے سے نبرد آزما ہوئے۔ ان کے بیانات اخبارات میں شائع ہوئے۔ نوائے وقت نے اپنی ستمبر فراسٹ سے ان کی دست گیری کی۔ پاکستان ٹائمز اور کراچی ٹائمز میں بھی ان باہمت جوانوں کے انکشافات شائع ہوئے۔ مؤلف ان کی ہمت پر متعجب تھا۔ لیکن براہ راست کوئی ملاقات نہیں تھی۔ آخر مولوی نور الدین کے بیٹے مولوی عبدالوہاب نے ان جوانوں کو مؤلف سے ملنے کی تلقین کی۔ ایک شام کافی ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ مؤلف قادیان سے ۱۹۳۶ء میں آیا تھا۔ یہ لوگ ۱۹۵۳ء میں سر بکف ہو کر نکلے تھے۔ جب معلومات کا موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ مؤلف اور ان کے معلومات بالکل ایک جیسے تھے۔ جب لاہور میں ان کی سرگرمیاں جاری تھیں تو اس وقت کے آئی جی سے بھی ان کی مبینہ ملاقات ہوئی۔ اس کے مشورہ پر انہوں نے اپنی تنظیم کا نام ”حقیقت پسند پارٹی“ رکھا اور اس کو رجسٹر بھی کرا لیا۔ اس تنظیم کی بدولت ان کو پریس اور دوسرے بڑے لوگوں سے ملنے میں آسانی ہو گئی۔ چنانچہ اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مولانا مودودی صاحب سے بھی ملاقات کا وقت لیا۔ جب مؤلف کو اس کا علم ہوا تو اس نے بھی ان کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا۔

تاریخ یاد نہیں لیکن یہ یاد ہے کہ مولانا مودودی صاحب سے ملاقات ان کی کوٹھی کے لان میں مغرب کی نماز کے بعد ہوئی۔ مولانا صاحب بڑی اچھی طرح ملے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اپنے وعدے کے مطابق تیار تھے۔

جونہی سلسلہ کلام شروع ہوا۔ مؤلف نے حضرت کو اپنا نام بتایا اور اپنی کتاب اسلام

اور سوشلزم (انگریزی) کا حوالہ دیا۔ کیونکہ اس میں مؤلف نے بڑے کھلے الفاظ میں اقرار کیا تھا کہ وہ اس کتاب کی تالیف میں مولانا صاحب کی علم افروز تحریرات کا خوش چمن ہے۔ چونکہ مولانا صاحب اس کتاب کا ملتان جیل میں مطالعہ فرما چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے کریمانہ توجہ مبذول فرمائی۔

مولانا صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں اس شخص نام محمود کی داخلی زندگی کے حالات دریافت فرمائے۔ مولانا صاحب کی توجہ کا ہدف مؤلف ہی تھا۔ مؤلف نے جواباً عرض کی کہ بتلانے میں تامل کیا ہو سکتا ہے۔ جب ہاریابی کا مقصد ہی یہی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے۔ ”کیا بننے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔“ مؤلف کے اپنے الفاظ یہ تھے۔ ”جنسی قتل عام کی رواداد ایسی ہے کہ مجھے اس کے بیان کرنے کا یارا نہیں۔ ایک یہ کہ میں آپ کے سامنے کب لب کشا ہو سکتا ہوں۔ جب موضوع اتنا غلیظ ہو کہ اس کے لئے کسی زبان میں الفاظ ہی نہ بنے ہوں اور یہ انسانی فطرت کے اس قدر بعید اور متضاد ہے کہ نہ کہنے والا کہہ سکتا ہے اور نہ سننے والا سن سکتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب میں وہ آرٹ در انداز کیا گیا ہے کہ بیان حال مجرم کے لئے مدافعت بن جائے گا۔ اس لئے اگر میں بیان کروں اور آپ میرے بیان کو تسلیم نہ کریں اور بحیثیت ایک عالم دین اور متقی انسان ہونے کے آپ کو باور بھی نہ کرنا چاہئے تو میں آپ کے نزدیک کاذب قرار دیا جاؤں گا۔ کیونکہ جس ننگ انسانیت کا وہ سراپا ہے وہ **Compulsive Sex- Anarchist** ہے۔ یعنی وہ سیاہ کاری کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا اور ایسے آدی کا نہ تصور آسان ہے اور نہ اس کی تصویر کشی سہل امر ہے اور اگر خدا مجھے تاثیر کلام بخشنے وہ ”واحلل عقدۃ من لسانی“ کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور آپ میرے بیان کو تسلیم کر لیں تو مجھے آپ کے متعلق تذبذب ہوگا۔ اس لئے میں دو گونہ عذاب میں ہوں۔ ایک طرف ہے **Devil** اور دوسری طرف **Deep Sea** ہے۔ پھر یہ بھی عرض کیا کہ جو کچھ مؤلف نے دیکھا وہ مولانا مودودی کے لئے کوئی حجت نہیں۔ وہ بڑی آسانی سے رد کر سکتے ہیں۔ لیکن جس نے دیکھا ہے اور شدید احتساب کے بعد دیکھے اور سنے کا صحیح معلوم کیا ہے۔ اس پر تو اتمام حجت ہو چکی ہے۔“

مولانا صاحب بڑے زیرک ہیں۔ انہوں نے فرما دیا کہ وہ سمجھ گئے ہیں

ایک ناقابل فراموش بات

دوران گفتگو مولانا مودودی صاحب نے فرمایا کہ ان کے پاس ربوہ کے پرچارک آتے رہتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت تک جب تک وہ ربوہ منتقل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا

کہ ان پر چارکوں کا مطالعہ تو تھا لیکن بات کرنے کا سلیقہ نہ تھا۔ وہ قرآن کریم اور احادیث اور فقہ کی باتیں کر جاتے۔ لیکن اس انداز سے کرتے کہ خشوع کے بجائے خشونت کا اظہار ہوتا۔ تصریح کے بجائے تہمید نمایاں ہوتا اور جرأت ایمانی کے بجائے مجرم کا جبین الظہر من الشمس ہوتا تھا۔ لیکن ایک غمخیز پیدا ہوتا کہ ان کے اجزائے نبوت کے فاسد خیال سے یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ یہ دہریہ ہیں۔ حالانکہ جو اثر چھوڑ جاتے وہ دہریت اور الحاد کا ہوتا ہے۔ اس لئے مولانا نے فرمایا کہ وہ اس معنی کو حل نہ کر سکے۔ لیکن مؤلف سے باتیں کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان کو آج معلوم ہوا ہے کہ ان کا تصور الوہیت ہی باطل تھا۔ اس لئے انہوں نے الوداع کے وقت بڑی الفت سے مؤلف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مؤلف کے بیان نے یہ گرہ کھول دی ہے اور پھر محض ازراہ شفقت اور کئی بار ملنے کی اجازت سے نوازا۔ ان کی عدم الفرصتی کی وجہ سے مؤلف نے شرف ہاریابی کی سعی کو ان کے آرام پر تہاؤز سمجھا۔ اس لئے پھر ملنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔

مولانا محمودوی کے پاس مرزا محمود کا وفد

گنگو کے دوران حقیقت پسند پارٹی کے اہم رکن بلکہ ستون ملک عزیز الرحمن صاحب نے مولانا سے کہا کہ ربوی اور لاہوری کے مخصوص حلقوں میں ایک بات چل رہی ہے کہ جب مولانا صاحب ۱۹۵۳ء کی ایچی ٹیشن میں قلعہ لاہور میں نظر بند تھے تو ان کے پاس لاہوری جماعت کے ہفتہ وار پرچہ لائٹ کے ایڈیٹر مولوی محمد یعقوب خاں اور خواجہ نذیر احمد، مرزا محمود کا ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ مؤلف نے اس کی تصدیق کی۔ کیونکہ اس کو میاں محمد شفیع (نامور صحافی) نے ایک خط دکھایا تھا۔ جس میں یہ سارا ماجرا لکھا تھا۔

مولانا محمودوی صاحب نے جواب فرمایا کہ یہ لوگ آئے تھے۔ یہ صریح بے جا نہ ہوگی کہ مولوی محمد یعقوب خاں، ہم زلف تھے مولوی محمد علی لاہوری کے اور خواجہ نذیر احمد بیٹے تھے خواجہ کمال الدین کے۔ مزید استفسار پر مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ مرزا محمود کا یہ پیغام لائے تھے کہ وہ اپنے عقائد کتنے ترمیم کر دے کہ پاکستانی مسلمانوں کو گوارا ہو سکیں۔ اس پر مولانا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اس وفد کو کہا کہ افتراء تو محمود کرے اور اس کی ترمیم وہ (مولانا صاحب) کریں۔ مرزا محمود کو اپنے نام محمود کا نہ بکسر ترک کرنے چاہئیں۔

ملک عزیز الرحمن نے مولانا صاحب سے کہا کہ ان کو منیر ٹریبیونل کے سامنے یہ پول کھول دینا چاہئے تھا۔ اس پر مولانا صاحب نے پوری اثر انگیزی سے فرمایا کہ یہ ایک ایسی شیطنیت تھی کہ ہاوجود معاملہ سچ ہونے کے ٹریبیونل اس کو تسلیم نہ کرتا اور اس فتنے کا محرک مرزا محمود مظلوم سمجھا

جاتا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ مرزا محمود اپنے مکہ مکہ کے عواقب سے خائف تو تھا ہی لیکن وہ اس کو فریب کے رنگ میں ان کو بہکانا چاہتا تھا۔

مرزا محمود مولانا صاحب کی زیر کی کا حریف نہ ہو سکا۔ اس نے وہی کچھ کرنے کی ایک کمینہ سعی کی جو بھٹو اپنے دور اقتدار میں کرنا چاہتا تھا۔ اگر بھٹو کے دور میں مرزا محمود زندہ ہوتا تو خبر نہیں کیا کیا واقعات رونما ہوتے۔ کیونکہ مرزا محمود کے دل و دماغ میں کئی بھٹو موجود تھے۔ جس طرح بھٹو کے اندر کئی مرزا محمود آسودہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ربوہ والوں کو ۱۷ ستمبر ۱۹۷۷ء کو غیر مسلم قرار دے کر ان کو اپنی حمایت سے سروس مخرف نہ ہونے دیا۔ وہ اس واقعہ کے بعد بھی بھٹو پر تکیہ کرتے رہے۔

مؤلف کا اضطراب انگیز اعلان

مولانا مودودی سے درخواست طلب کرتے وقت مؤلف نے عرض کی کہ مرزا محمود کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ وہ فالج سے حواس کھو بیٹھا ہے۔ اس کے تحت اشعور میں جو غلاظت کے انبار تھے وہ گالیوں کی صورت میں نکلتے بیان کئے جاتے ہیں۔ وہ ذہول اور لسیان میں وہ وہ کچھ کہہ جاتا ہے کہ ساعت پر آبلے پڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ شخص عبرت انگیز انداز میں نہ مرا تو مؤلف پر خدا کا انکار عقلاً وارد ہو جائے گا۔ مجیدہ طور پر غلوت ستیرہ کے وقت قرآن کریم کو پاس رکھنے والا بھی خدا کی گرفت سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کے عظیم صبر بخشنے کے بعد ہی اس کی سیاہ کاریوں کے وسیع و عریض رقبے کو جاننے والا اپنے ایمان کی دولت کو محفوظ رکھ سکتا۔ اب تک ہزاروں جوان یاد ہریے ہو گئے یا اعصابی امراض میں مبتلا ہو گئے۔ جب یہ شخص اپنے باپ کو بھی نہیں بخشا تو یہ کیا نہ کرتا ہوگا۔ مولانا صاحب مؤلف کا اضطراب دیکھ کر حیران سے ہوئے لیکن نسلی دی اور مزید ملاقاتوں کی اجازت دی۔

مصطفیٰ خیز افتراؤں کا تجزیہ

His Holiness

منکرین ختم نبوت کے سربراہ ثانی نے اجراء نبوت (معاذ اللہ) کا ابوالہول کھڑا کر کے اسلامی معاشرہ میں کرہناک فضا پیدا کر دی تھی۔ لیکن اس نے اس فتنہ عظیم پر اکتفا نہ کیا۔ اپنے شباب کی تردامنیوں اور بولھوں مصعبیوں سے عقل باختہ مریدوں کو مستقل طور پر غافل رکھنے کے لئے اس نے فضل عمر ہونے کا افتراء کیا۔ یعنی اس نے زمام کار سنبھالتے ہی یہ دعویٰ داغ دیا کہ خدا نے (معاذ اللہ) اس کو حضرت عمرؓ سے افضل ہونے کا یہ خطاب دیا ہے۔ وہ تو دل ہی دل میں جانتا

تھا کہ وہ ہستی باری تعالیٰ کا منکر ہے۔ لیکن یہ افتراء اس کو اپنے مریدوں کی تنقید سے محفوظ کر لے گا اور اس کا ناقد اس کی تعزیر اور جماعت کے غیظ و غضب سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔

تمام دنیائے اسلام کے خلاف فتویٰ تکفیر کی اشاعت کرنے والی جماعت کی بے وقوفی ملاحظہ ہو کہ اس نے پچیس سالہ الہزم کا دم اخلاق سے عاری جوان کو اپنے پہلے سربراہ سے افضل تسلیم کر کے اپنی عزتوں اور عصمتوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس انفعالت کو دیکھ کر ایک کلیسائی لقب *His Holiness* اختیار کر لیا اور ۱۹۱۳ء سے ۱۹۲۹ء تک اسی کے سارے دفتری کاغذات پر یہ مفتریانہ لقب چھپتا رہا۔ جماعت کی دینی بے غیرتی ایسی تھی کہ کسی کو جرات نہ ہوئی کہ اس کو کہے کہ یہ لقب تجسیم خداوندی پر مبنی ہے۔ اس لئے یہ عریاں کفر و شرک ہے۔

جب ۱۹۲۲ء میں پرنس آف ریلز ہندوستان کی سیر کرتا ہوا لاہور آیا تو یہ خانہ ساز خلیفہ اس کو گورنمنٹ ہاؤس ملنے گیا تو اس کی کار پر ایک پھریرا سا تھا۔ جس پر *His Holiness* لکھا ہوا تھا۔ چونکہ برطانوی فرمانروا کا بیٹا اس لقب کے تاریخی اور مذہبی پس منظر کو خوب جانتا تھا۔ اس پر یہ اثر ہوا کہ یہ کوئی ذہنی مریض ہے۔ جس کی حالت یہ ہے کہ ”نہ ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں“ قادیانی کے لوگ دل ہی دل میں اس کیفیت سے سخت متنفر تھے۔

خود نمائی کا مریضانہ مظاہرہ

خلیفہ لوگوں کی نفرت سے بے خبر نہ تھا۔ اس نے اس نفرت کو ٹھنڈا کرنے کے لئے دار کئی دعوے فضا میں اچھالے۔ اس کا نادر نمونہ الفضل مورچہ ۲۵ دسمبر ۱۹۳۲ء میں ان الفاظ میں شائع ہوا: ”ملکی سیاست میں خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔“

گویا وہ اپنے آپ کو اپنے زمانے کا ”خدا کا فرستادہ خلیفہ“ سمجھتا تھا۔ اس فرستادگی کا عالم یہ تھا کہ ہر نئے آنے والے گورنر اور گورنر جنرل کے سامنے ڈانٹے ادب سے کئے بغیر اس کا کوئی چارہ نہ تھا۔

ساری دنیا کا چارج

۳۱ جون ۱۹۳۰ء کے الفضل میں خود قزاقی کی ذہن ایک اور رنگ میں اس طرح آلا پی: ”ہمیں معلوم کب خدا کی طرف سے ہمیں دنیا کا چارج سپرد کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیار رہنا چاہئے کہ دنیا کو سنبھالیں۔“

گویا مجرور پر اپنے استیلا کا خواب اس کے ہوش پر مسلط ہے اور جماعت کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ نوائے سرودش کے لئے گوش برآواز رہے۔ پھر اس آرزوئے باطل کو ابھارنے کے

لئے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے: ”ہم احمدی حکومت کرنا چاہتے ہیں۔“ (الفضل موروثی ۱۳ فروری ۱۹۳۲ء)
 اس پر ایک الٹی ٹیلم کا اضافہ یوں کیا گیا: ”اس وقت تک کہ تمہاری بادشاہت قائم نہ ہو
 جائے تمہارے دساتے سے کانٹے ہرگز دور نہیں ہو سکتے۔“ (الفضل موروثی ۸ جولائی ۱۹۳۵ء)
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانان عالم بلکہ اسلام ہی
 قادیانیت کے فروغ میں ایک کاٹنا ہے اور کانٹے کو جماعت جنم کر نکال دے۔

دماغی فتور کا ظہور

یہ بے سرو پا ”دعاویٰ“ خدا کی تعزیری کی نشاندہی کر رہے تھے۔ گویا جوں جوں خلیفہ دین
 اسلام کے خلاف بغاوت کی طرف مائل ہوتا اتنا ہی اس کے دماغی عوارض تیز سے تیز ہوتے
 جا رہے تھے۔ ہوائی قلعے تعمیر کرنا کسی ہوشمند کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا جماعت پر حدود فراموش
 اقتدار اس کے دل و دماغ کو ماؤف کرتا جا رہا تھا۔ وہ Paranoma کی مرض کے فکٹے میں
 پھنسا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت دولت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ دعاوی کرتا اور وہ باطل ہو کر اس پر آگرتے
 تو اس کی مرض اور شدت اختیار کر جاتی۔

مرزا ادیب سے مستعار عبارت

اس مفتری کی نفسیاتی حالت کو اجاگر کرنے کے لئے پاکستان کے نامور اہل علم اور اہل قلم
 مرزا ادیب کی تحریر سے ایک اقتباس نقل کیا جا رہا ہے۔ جس کے بغور مطالعہ سے خلیفہ کی ماؤف
 حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مرزا ادیب اپنے کسی مقالہ میں بیابان کی نقشہ کشی یوں کرتے ہیں۔
 بیابان کی سب سے بڑی حقیقت سراب ہے اور سراب ”بیجان“ کے ساتھ ایک فریب کارانہ شعبہ
 بازی ہے۔ بیابان میں ”بیجان“ اپنے احساؤ کو کھوٹتی ہے اور بیابان کا مسافر سراب کی فریب کاریوں
 کے بعد اپنے بیجان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر بھی اس کے سفر کے تسلسل میں فرق نہیں پڑتا۔ وہ
 سفر بدستور جاری رکھتا ہے۔ جب عمری نے یہ شعر کہا تھا تو اس کے ذہن پر بھی یہی خیال چھایا ہوا تھا۔
 زلفش تشنہ لبی دان، بہ عقل خویش مناز
 دلش فریب اگر جلوہ سراب نہ خورد

جعلی خلافت کا بیابان

اپنی جعلی خلافت کے بیابان میں یہ خلیفہ ایک سراب کی طرح بھٹکتا رہا۔ اس کی اپنی
 حقیقت تو بس اتنی ہی تھی۔ لیکن اس کے مرید جلوہ سراب کے فریب سے محفوظ نہ رہ سکے۔ وہ اپنی

فریب خوردگی کو عقیدت جان کر اس سراب تک پہنچنے کی سعی میں تشنہ لہی کی اذیتوں کو گوارا کرتے رہے۔ خلافت کا نمودر سیا محض بے حقیقت اور فریب نظر تھا۔ اس کے پالینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جب تک فریب ذہن پر مسلط ہے عقیدت کی تنگ و تازیوں میں فرق نہیں آ سکتا۔ آخر کار بیابان کا مسافر سراب کا تعاقب کرتے کرتے ٹھگی سے چور ہو کر تعاقب ترک کر دیتا ہے۔ جب وہ یہ دوڑ دھوپ چھوڑتا ہے۔ اس میں اس کی سوچ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ جا کسل تشنہ لہی سے ہی حقیقت کا فقدان اس پر آشکار ہوتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوا جو انکار ختم نبوت کے بیابان میں غلیفہ کے دعادی کے سراب کے جلوہ بے حقیقت کے اثر کے نیچے عقل معطل کر بیٹھے تھے۔ غلیفہ سے اس وقت منہ موڑا جب ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔

نیاز فتح پوری کی حیرت انگیز بے خبری

قادیان میں جو حیا سوز ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا اس کا باہر کے قادیانیوں کو اس وقت علم ہوتا تھا جب کوئی وہاں سے اور پاکستان میں ریلوے سے باہر نکلا جاتا تھا۔ تعصب کا آہنی پردہ اس ڈرامے کو قفل رکھتا تھا اور اس کی اشاعت میں ناقابل عبور روک بنا ہوا تھا۔ اس روک کی مجوبہ کاری ملاحظہ ہو کہ لوگ غلیفہ کے صحیح نام سے اب تک بے خبر چلے آتے ہیں اور ابھی تک اس کو بشیر الدین محمود کے قلم نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا نام مرزا محمود احمد تھا۔ بشیر الدین اس کے مریدوں کے لئے خدا داد لقب تھا۔ یعنی دین کی بشارت دینے والا۔ اس ضمن میں جناب نیاز فتح پوری کی جاہلانہ بے خبری کا ذکر کرنا بے سود نہ ہوگا۔ اس نے ”نگار“ (دسمبر ۱۹۵۹ء) میں بڑے مطراق سے لکھا کہ اس نے قادیانیوں کی بیس کتابیں پڑھی ہیں اور اپنے نوٹ میں لایا یعنی قسم کی تعریف کی تھی اور لکھا تھا کہ: ”جب ۱۹۲۳ء میں بانٹی احمدیت دیکھنے (Wembley) کی مذہبی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لندن گئے تو جاتے ہوئے دمشق میں بھی قیام کیا۔“ (نگار ص ۳۹، نومبر ۱۹۵۹ء)

اس نامور باقاعدہ ادیب کو یہ بھی علم نہیں کہ بانٹی احمدیت مرزا غلام احمد کا دور ۱۹۰۸ء میں ختم ہو گیا تھا۔ مولوی نور الدین پہلا سربراہ تھا۔ جو ۱۹۱۴ء میں فوت ہوا۔ اس کے بعد بانٹی احمدیت کا بیٹا مرزا محمود احمد سربراہ ثانی بنا اور وہ ۱۹۳۳ء میں لندن گیا اور راستے میں دمشق ٹھہرا تھا۔ جو شخص باپ اور بیٹے میں تمیز نہیں کر سکا۔ اس کو یہ کذب بیانی زیب نہیں دیتی کہ وہ کہے کہ اس نے پندرہ بیس کتابیں پڑھی ہیں۔ اس کی بے خبری کا جو عالم ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے انفضل تک کی صورت نہیں دیکھی ہوگی۔

احرار محمودی سازشوں کا شکار ہو گئے

بعض نامور احرار قائدین بھی قادیانی حقائق سے بالکل بے خبر تھے۔ ان کی حالات سے لاعلمی نے ان کے پروپیگنڈے کو بے اثر کر دیا اور وہ خود غلیفہ کی عیاریوں کا شکار ہو گئے۔ شہید گنج مسجد کے سلسلے میں مرزا محمود احمد کا براہ راست میاں فضل حسین سے تعلق تھا جو احرار کو گرانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے ایک جال بچھا رکھا تھا۔ جس میں احرار پھنس گئے۔ چوہدری افضل حق صاحب نے شہید گنج مسجد کی تحریک میں عدم شرکت کا پرزور بیان لکھا۔ انہوں نے انقلاب کے مدد کو دکھایا وہ مددیر خود میاں فضل حسین کے معتمد تھے۔ انہوں نے بیان کی تعریف کی اور چوہدری افضل حق صاحب کے کہنے پر اس کی کتابت کرائی اور اپنے پریس واقعہ خالصہ سٹریٹ ریلوے روڈ میں طبع کر کے اپنے کارکنوں کے ذریعے سارے شہر میں تقسیم کر دیا۔ چوہدری صاحب مذکورہ بھاگے بھاگے دفتر انقلاب آئے تاکہ تقسیم کروادیں۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی مطبوعہ بیان شائع ہو چکا تھا اور احرار سواد اعظم کی شدید احتجاج کا شکار ہو کر صیدزیوں ہو چکے تھے۔ یہ سب کارروائی میاں فضل حسین کے ذریعے مرزا محمود احمد تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے جمعہ کے خطبہ میں پیش گوئی نہ انداز میں اعلان ان الفاظ میں کیا: ”میں احرار کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی دیکھ رہا ہوں۔“ جب احرار کا زور ٹوٹا تو یہ مرزا محمود احمد کی پیش گوئی کی تصدیق بن گئی۔ حالانکہ یہ ایک عیار سیاستدان اور مرزا محمود احمد کی زیر زمین چال تھی جو کامیاب ہو گئی اور احرار کی نظروں سے ساری کارروائی کا مرکز اور جمل رہا۔ احرار کا حال چھوڑیے۔ حکومتی ادارے معہ در معہ محمودی چالوں کا پتہ اب تک نہیں لگا سکے۔

۱۹۵۳ء کی تحریک کا اہم واقعہ

۱۹۵۳ء میں قادیانیت کے خلاف ایک شدید تحریک چلی۔ لاہور ضلع میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ اس کی پلیٹ میں بہت سے مسلمان سیاسی اور مذہبی لیڈر آ گئے۔ اس دفعہ مرزا محمود کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کیونکہ اس وقت کی مرکزی حکومت بھی کسی موثر اقدام کو سوچنے لگی تھی۔ جونہی اس بات کا مرزا محمود کو علم ہوا اس نے حکومتی کارروائی کو بے اثر کرنے کے لئے یہ شوشہ چھوڑا کہ اگر ”احمدی“ غیر مسلم قرار دیئے گئے تو وہ ”احمدی“ نام ساقط کر دے گا۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ تبلیغ نہیں کرے گا۔ جماعت کے متعلق کوئی استفسار ہوگا تو اس کا جواب اس کی جماعت کے لوگ اپنی مسجدوں میں جواب دیں گے۔ گویا اس نے اپنے عقیدے سے ارتداد کی راہ لی۔ یہ اعلان پاکستان ٹائمز مورخہ ۳ مارچ ۱۹۵۳ء کے پہلے صفحے پر شائع ہوا۔ اگر تحریک کے قائدین غفلت نہ کرتے تو مرزا محمود احمد کے اعلان پر اس کے خلاف موثر کارروائی

کرا سکتے تھے۔ حکومت نے بھی کوئی اقدام نہ کیا۔ حالانکہ وہ مرزا محمود کے بیان کو بنیاد بنا کر ایسے احکام جاری کر سکتی تھی جس سے فقہانکار ختم نبوت اپنی موت آپ مر جاتا۔

۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کا فیصلہ ادھورا رہا

مئی ۱۹۷۳ء میں ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر سنگین قانون شکنی ہوئی جس سے خوفناک تحریک چلی۔ اس ضمن میں صمدانی کمیشن مقرر ہوا اور پھر قادیانی جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا فیصلہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے کیا۔ اس کا اعلان ۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کو ہوا۔ قادیانی لوگ غیر مسلم قرار دیئے گئے۔ لیکن بھٹو نے عداوت کو ادھورا رکھا۔ اس کے مستقبل میں نتائج تو برآمد ہوں گے۔ لیکن سردست خاطر خواہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا۔ یہ لوگ غیر مسلم قرار دیئے جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے عائلی قوانین کے تحت نکاح شادی کرتے ہیں اور لین دین اور سوشل معاملات میں اس فیصلے نے کوئی مؤثر صورت اختیار نہیں کی۔ بلکہ ان لوگوں کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ باہر ممالک میں پروپیگنڈا کریں کہ ان کے دین و مذہب میں مداخلت کی گئی ہے۔

قادیانی پروپیگنڈے کا کمال ملاحظہ ہو کہ وہ نصف صدی تک احمدی کہلاتے رہے۔ حالانکہ وہ حضرت احمد مجتبیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے تھے اور مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں وہ غیر احمدی کی ملعون اصطلاح سے منسوب ہوتے رہے۔ گویا انکار ختم نبوت کے مجرموں نے مسلمانوں کی غفلت اور بے تنظیمی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ مسلمانان عالم کو کافر قرار دے کر ”غیر احمدی“ کی اصطلاح کو رائج کر دیا۔

صحیح فیصلے کے خدو خال

اگر فیصلہ کرنے والے حقیقت شناس ہوتے تو وہ یہ فیصلہ کرتے کہ جو لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیئے جانے کے بعد اپنے آپ کو احمدی نہیں کہلا سکتے۔ کیونکہ ان منکرین ختم نبوت کا احمدی کہلانا مسلمانوں کے دین میں مداخلت ہے۔ جب احمدی اصطلاح ان کے لئے قانوناً ممنوع ہو جاتی تو ان لوگوں کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا اور کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ ۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کے فیصلے کو مداخلت فی الدین کہہ سکتا۔ کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کا منکر خود کلمہ طیبہ کا منکر ہے۔ وہ کوئی ایسی دینی اصطلاح اپنے لئے نہیں چن سکتا جس سے اس کا لہذا نہ انکار واضح نہ ہو اور اس پر غیر مسلم ہونے میں کسی کو شبہ ہو۔

جہاں تک مسلم اور غیر مسلم کی اصطلاحوں کا سوال ہے مولف کے علم کے مطابق پچھلے

ساتھ سال کے طویل عرصہ میں یہ اصطلاحیں نہ ان منکرین کی تقریروں میں ملتی ہیں اور نہ ان کی تحریروں میں۔ ان میں دو ہی اصطلاحیں اب تک رائج ہیں وہ ہیں احمدی اور غیر احمدی۔ وہ نہ اپنے آپ کو مسلم لکھتے ہیں یا کہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے لئے غیر احمدی کے علاوہ کوئی اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ تکفیر اہل قبلہ ان کی دینی بے راہروی کی جان ہے۔ اس لئے وہ اہل قبلہ کو مسلمان تو کہتے نہیں اس لئے ان کو غیر احمدی قرار دیتے ہیں۔ یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اس عریاں دشنام کے خلاف کبھی انفرادی یا اجتماعی منظم احتجاج نہیں کیا۔ بلکہ ان منکرین ختم نبوت کی خود ساختہ اصطلاح احمدی کو غلط العام کے طور پر گوارا کر کے بین السطور اپنے لئے غیر احمدی کی قاسق اصطلاح کو بے شعوری سے فروغ دیا ہے۔

فیصلہ عملاً کا عدم رہا

اندریں حالات ۱۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کے فیصلے کا ان پر کوئی اثر عائد نہیں ہوا۔ اس فیصلہ میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے جو مخبرین قبلہ ”مسلم“ کی پاکیزہ اصطلاح کو بھی اپنے لئے استعمال نہیں کرتے۔ وہ غیر مسلم کے جملے کو اپنے ہاں نادر کا لہجہ دم سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کے فیصلے کی انہوں نے رائی برابر بھی پروا نہیں کی۔ اگر اس آئینی ترمیم کو سرکاری قواعد و ضوابط کے ذریعے عملاً نافذ کر دیا جاتا تو یقیناً ان پر انکار ختم نبوت کے شرعی عواقب کا اثر ہو جاتا۔ جب اس دور کی حکومت اس معاملہ میں مکرذریب سے کام لے رہی تھی اور علماء نے اس فیصلہ پر استیجابی نظر نہ ڈالی تو منکرین نے اس سارے معاملے کو لہو و لب ہی سمجھنا تھا اور سمجھتے رہیں گے۔ جب تک ان پر کاری ضرب نہ لگے گی اور جب تک وہ پاکستان میں عملاً اور قانوناً غیر مسلم کی سطح پر نہیں لائے جاتے اور ان کے اور مسلمان سوا اعظم کے درمیان شرعی علیحہ حاصل نہیں ہو جاتی۔ مؤلف کے ناقص خیال میں بھٹو اور بے خبر علماء اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئول ہیں کہ ان کو وار کرنے کا موقع ملا۔ لیکن یہ وار بھی ان کی ناقابل فہم غفلت سے خالی گیا۔

بایزیدی قول اور یزیدی عمل

بھٹو معزولی تک یہ دعوے کرتا رہا کہ اس نے نوے سال کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور اس دور کے پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس کو محافظ ختم نبوت اور پاسبان ختم نبوت کے القاب ارزاں کر کے عذاب الہی کو دعوت دیتا رہا۔ حتیٰ کہ اس کی وار و گیر میں خود آں کر بھی اس کا وہی شعور بیدار نہ ہوا۔ اس کو یہ علم نہ ہوا کہ ختم نبوت کی نعمت عظمیٰ کا محافظ اور پاسبان خود اللہ تعالیٰ ہے اور حضور ﷺ بحیثیت خاتم النبیین ہونے کے امت کے تار و زحر محافظ اور پاسبان ہیں۔ ان قبضین بھٹو کو یہ اعتقاد یا وہ

رہا۔ ”ہا خدا دیوان ہاش ہا محمد ہوشیار“ اور نہ ہی ان پر یہ نورانی حقیقت روشن ہوئی۔

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

ان کو اپنی کھلی بے دینی کی وجہ سے یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس سید البشر ﷺ کا مبارک نام لیتے ہوئے اس کے صحیح نام لیاؤں کے دل کی حالت کیا ہونی چاہئے۔ ان کو کیا علم تھا کہ

ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر

للس گم کردہ می آید جنید و ہایزید ایں جا

یہ لوگ منہ سے تو ہایزیدی دعوے کرتے رہے۔ لیکن ان کے مسلسل عمل یزیدی ہی رہے۔ ہاں کئی بندگان خدا بھی تھے جو صحیح شعور رکھتے تھے۔ لیکن سیاسی جبر و قہر نے ان کو کچھ کرنے نہ دیا۔ ان میں اور دوسروں میں یہ فرق قائم رہا: ”عاقل نے ادھر دیکھا عاقل نے ادھر دیکھا۔“

ربوبی مجوسیت پر اقبالی ضرب

مکرمین ختم نبوت اپنی بے تقدیس عظیم کی شاخ نازک پر اپنے مکائد کا آشیانہ بنانے کی سعی لا حاصل کرتے رہے ہیں۔ کسی دور ماضی کے دور میں حضرت علامہ اقبالؒ نے قادیان کے متعلق حسن ظن کا اظہار کیا ہوگا اور اپنے فرزند ارجمند آفتاب اقبال کو بھی قادیان میں تعلیم کے لئے بھیجا تھا۔ یہ دور تھا مولوی نور الدین کا جوانی کے گروہ کا سربراہ اڈل تھا۔ جو ہانی جماعت کو وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا جس کا بعد میں سربراہ ثانی نے بڑا طوفان اور زہر ناک پروپیگنڈا اچھا سا سال کیا۔ اس کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے دور میں بحث و جدال کی صف لیٹ دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دنوں اور بعض مسلمان معززین کی طرح حضرت علامہ اقبالؒ بھی حسن ظن رکھتے ہوں گے۔ ورنہ وہ کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی ختم نبوت سے خفیف سے خفیف اعراض کو گوارا نہ کرتے تھے۔ چاہ جائیکہ وہ اپنے صاحبزادے کو قادیان بھیج دیتے۔ ان کا یہ فعل ہی مکرمین کے خلاف پہلی اقبالی ضرب تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت قادیان میں ہی قادیانیت رو بہ انہدام ہو چکی تھی۔ اس لئے مکرمین حضرت علامہ مرحوم کے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ لوگ خود ہی ان دنوں اپنے افتراء سے ہٹ چکے ہوں گے نہ کہ علامہ مرحوم قندہ انکار ختم نبوت کی مخالفت میں نرم ہو گئے تھے۔ کیونکہ وہ انکار ختم نبوت کو جلی شرک سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں۔

اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر ملبوم شرک

بزم را روشن ز نور شمع عرفاں کردہ ای

علی گڑھ کا ایک لیکچر

حضرت علامہ اقبالؒ نے علی گڑھ میں ۱۹۱۱ء میں ایک لیکچر دیا تھا۔ لیکچر انگریزی میں تھا۔ اس کا ترجمہ اردو میں مولانا ظفر علی خاں نے کیا تھا۔ اس لیکچر میں قادیان کی اس وقت کی روش کا ذکر اچھے انداز میں کیا گیا۔ کیونکہ قادیان پر مولوی نور الدین کا اثر تھا اور ان دنوں قادیان میں کسی ایسی تبلیغی پروگرام کا کوئی چرچا نہ تھا۔ جس سے انکار ختم نبوت کے فاسد عقیدے کو کسی قسم کا فروغ حاصل ہو۔ جب ۱۹۱۱ء میں پشاور سے مولوی عجب خاں نے مولوی نور الدین سے بانی جماعت کے متعلق فتویٰ مانگا تو جواباً جو تحریر بھیجی گئی۔ اس میں بانی جماعت کے لئے نہ حضرت کا لفظ تھا۔ نہ مولانا کا خطاب تھا۔ علیہ السلام کے کہنے سے بھی شدید اجتناب برتا گیا تھا۔ اگر اس سادہ رویے کو فروغ ہوتا تو اس جماعت کو دنیا نے اسلام میں وہ حشر نہ ہوتا جو ہوا۔ لیکن ۱۹۱۳ء کے بعد کھٹیر اہل قبلہ کا شعلہ جوالہ قادیان میں بھڑکا اس میں بعض سوظن سے پرہیز کرنے والوں کی خوش فہمی بھی بھسم ہو کر رہ گئی اور حضرت علامہ اقبالؒ بھی اس گمراہی کی رو سے سخت بدظن ہو گئے۔ ان کو فوراً احساس ہوا کہ جو کچھ کہہ دیکھا خواب تھا۔ جو سنا افسانہ تھا اور انہوں نے اس فتنہ کا پر زور دشنام سے نہیں دلائل قاطعہ سے مقابلہ کیا۔

قادیانی اعتراض کا منہ توڑ جواب

قادیان سے ایک انگریزی ہفتہ داری پرچہ *The Sunrise* شائع ہوتا تھا۔ اقبالی ضربوں کی تاب نہ لا کر اس پرچہ نے لکھا کہ علامہ اقبالؒ *Consistent* نہیں رہے۔ یعنی ان کی پہلی رائے قائم نہیں رہی۔ اپنی طرف سے تو اس کو بطور طعنہ کے شائع کیا تھا۔ حالانکہ بات ٹھیک تھی۔ جب خوش فہمی کی بنیادیں قادیانی سربراہ ثانی نے خود ہی اپنی طعون جارحیت سے ختم کر دی تو علامہ کیسے *Consistent* رہ سکتے تھے۔

حضرت علامہ نے اس اعتراض کا مسکت جواب دیا۔ یہ جواب ان کی تقاریر اور بیانات کے اس مجموعے میں ہے جو کسی نے شملو *Shamloo* کے قلمی نام سے مرتب کیا تھا۔ یہ مجموعہ السنار اکیڈمی۔ لاہور نے مارچ ۱۹۳۵ء اور ستمبر ۱۹۳۸ء میں دو دفعہ شائع کیا۔

علامہ اقبال کا دندان شکن جواب

جب علامہ سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے *The Sunrise* میں وہ مراسلہ پڑھا ہے جس میں ان کے لیکچر (علی گڑھ) کا حوالہ دے کر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے پہلے

خیال سے منحرف ہو گئے ہیں تو انہوں نے جو فرمایا اس کا اردو ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔

”ہاں! مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس اپنے انگریزی لیکچر کی کاپی نہیں اور نہ ہی میرے پاس اس لیکچر کا اردو ترجمہ ہے جو مولانا ظفر علی خاں نے کیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ یہ لیکچر ۱۹۱۱ء میں یا اس سے قبل دیا گیا تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی تاثر نہیں کہ ربع صدی پہلے مجھے کچھ امید سی تھی کہ اس تحریک (قادیان) سے اچھے نتائج بروئے کار آئیں گے۔ اس سے قبل ایک مشہور عالم دین مولوی چراغ علی صاحب نے اسلام پر کئی کتابیں لکھی ہیں اور ہانی تحریک سے تعاون کیا اور براہین شائع ہوئی۔ لیکن اسی مذہبی تحریک کا مضمحل مزاج ایک ہی دن میں منکشف نہیں ہوتا۔ تحریک مدت کے بعد ہی اپنی اصلیت کو واضح کاف کرتی ہے۔ جب یہ جماعت (قادیان) تھمسی خلفشار سے دو مخالف گروہوں میں منقسم ہو گئی تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو افراد ابتداء میں ہانی تحریک سے وابستہ تھے۔ ان کو بھی علم نہ تھا کہ یہ تحریک کس رخ مڑ جائے گی۔ میں ذاتی طور پر اس تحریک سے اس وقت متنفر ہوا۔ جب ہانی جماعت کے دعویٰ کو دعویٰ نبوت کے طور پر پیش کیا جانے لگا اور معاذ اللہ! اس کی نبوت کو حضرت رسول اکرم ﷺ کی نبوت سے افضل قرار دیا گیا اور اہل قبلہ پر کفر کے فتویٰ کی تشہیر ہوئی۔ بعد میں میرے تضرع کو ایسی تقویت ملی کہ میں نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ یہ کام میں نے اس وقت کیا جب میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ ایک قادیانی بڑے گستاخانہ انداز میں حضرت رسول کریم ﷺ کا ذکر کر رہا تھا۔ درخت جڑ سے نہیں پھل سے پچھانا جاتا ہے۔ اگر میرا موجودہ موقف پہلے موقف کے برعکس ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک زندہ اور صاحب فکر انسان کا حق ہے کہ اس کی صحیح دریافت اس کے پہلے سقیم تصور کو باطل کر دے۔ (اور وہ راہ راست پر گامزن ہو) امر کی مفکر ایمرن کا قول ہے کہ پھر ہی ایک جیسے رہتے ہیں۔“

حضرت اقبالؒ کے قول کی تصدیق

علامہ اقبالؒ کے اس قول کی تصدیق کہ فاسد تحریک جب پروان چڑھتی ہے تو اس کے داخلی مضمرات منصف شہود پر آتے ہیں۔ ان منکرین کی اپنی تاریخ سے ہوتی ہے۔ قادیانی (حال ربوی) گروہ اپنے سربراہ ثانی کے پچاس سالہ دور کو عروج و فروع کا دور کہتا ہے۔ حالانکہ لاہوری گروہ اس سارے عرصے کو زوال اور انحراف کا دور کہتا ہے۔ ان کے اس جملے کے جواب میں ارباب ربوہ بر ملا کہتا ہے کہ ”لاہوری جماعت“ دوزخ کی چلتی پھرتی آگ ہے اور یہ ”روژی کی گوبھی“ ہو کر رہ گئی ہے۔ ۱۹۰۸ء تک ان میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ وہ یوں دست و گریبان ہو کر اپنا

بھانڈا چوراہے میں پھوڑیں گے۔ محمودی جماعت نے اپنے سربراہ جانی کو سربراہ اول پر فضیلت دی اور اگر کسی نے سربراہ اول کی پرزور تعریف کی تو اس کی خوب درگت بتائی گئی۔ اس سربراہ جانی نے غلو کا یہ عالم پیدا کیا کہ اس نے اپنی سودشی خلافت کے انکار کو بھی کفر کا درجہ دیا۔ وہ لاہوری جماعت کو غیر مبہین کہتا تھا اور ان کا جنازہ بھی ممنوع تھا۔

نیم دروں نیم بروں جماعت

اقبال کے حضور سید نذیر نیازی کی شائعہ تالیف ہے۔ اس کے ص ۱۹۱ تا ۱۹۳ پر مکرم نیازی کا ایک سوال درج ذیل ہے۔ علامہ صاحب لاہوری جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جماعت تو اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتی۔ اس کے جواب میں علامہ نے فرمایا۔ ”یہ ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک اس کا جرم یہ ہے کہ یہ جماعت ان لوگوں کو (محمود گزیدہ لوگوں کو) مسلمان بلکہ بہتر مسلمان سمجھتی ہے۔ جو مسلمان کی تکفیر کر رہے ہیں۔“ اسی روش کی بناء پر لاہوری جماعت ہر بحران میں قادیانی (حال ریلوی) جماعت کی تابع مہمل رہی ہے۔ ۱۹۵۳ء میں انٹینی قادیانی تحریک میں لاہوری جماعت نے مرزا محمود کا ساتھ دیا۔ حالانکہ وہ منیر ٹریبونل کے سامنے اپنے سارے تکفیری عقائد سے ارتداد کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے تبلیغ ترک کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔

۱۹۷۴ء میں جو لہران لوگوں کے خلاف اٹھی اس میں بھی لاہوری جماعت کی پرزور ہموائی کے آثار عیاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کے فیصلے کو اس نیم دروں نیم بروں جماعت لاہور پر بھی نافذ کر دیا گیا۔

عمرانی ناسور کی گہرائی

شہم نبوت کلمہ طیبہ میں اس طرح موجود ہے جس طرح صدف میں موتی۔ مرزا محمود نے ویناتی مجاہدوں میں علماء کو الجھائے رکھا۔ حتیٰ کہ علامہ نے ۱۹۳۵ء میں *The Statesman* میں ایک بصیرت افروز مقالہ لکھ کر یہ بات واضح کر دی کہ اگر ہانی جماعت کے انکار سے کفر لازم آتا ہے تو اس قاسد عقیدے کے ماننے والے ہانی جماعت کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ گویا وہ عملاً اور عقیدتاً مبہنوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ علامہ صاحب نے اس بارے میں درست فرمایا تھا کہ بہائی لوگ قادیانیوں اور لاہوریوں سے زیادہ صاف گو ہیں کہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ اس کا عملی ثبوت بھی موجود ہے۔ قادیان سے ۱۹۲۰ء یا اس کے لگ بھگ بہت سے پرانے قادیانی اپنے عقیدہ کے اثر کے نیچے بہائی ہو کر جماعت سے نکل آئے تھے۔

قادیاں اور لائبریری لوگ اسلامی معاشرے سے اس لئے وابستہ رہے کہ وہ معاشرتی فوائد سے مستفیض ہوتے رہیں۔ یہ اصل میں عمرانی *Qui Zings* تھے۔ انہوں نے ایک گہرے عمرانی ناسور کی صورت اختیار کر لی تھی۔ جس سے علامہ اقبال بھی کما حقہ واقف نہ تھے۔ ان کی ضرب تو ۱۹۰۸ء تک رہ گئی۔ حالانکہ ۱۹۱۲ء کے بعد مرزا محمود نے اپنی خلافت کو ماننا لازم قرار دیا۔ اس نے برملا اعلان کیا تھا۔

مجھے یقین ہے کہ جو شخص مجھے چھوڑتا ہے وہ حضرت مسیح موعود کو چھوڑتا ہے۔ جو حضرت مسیح موعود کو چھوڑتا ہے وہ رسول کریم ﷺ کو چھوڑتا ہے اور جو حضرت رسول کریم ﷺ کو چھوڑتا ہے وہ خدا کو چھوڑتا ہے۔ (الفضل ۲۳ جنوری ۱۹۲۸ء)

دیکھا! کس ایلیسی التباس کا ذکر کس بے باکی اور کس شرک کا نہ انداز سے کیا ہے۔ اس کا فرائض اعلان سے علامہ اقبال کا تجربہ اور بھی زیادہ واضح اور نمایاں ہو کر اس عمرانی اور روحانی ناسور کے کشادگی کو الم نشرح کرتا ہے۔

فقہہ کالمی اداکاری

فقہہ کالمی اداکاری کی تصدیق کے لئے ہزاروں تحریرات موجود ہیں۔ ان کے اندازان سے معاملہ طول پکڑ جائے گا۔ مرزا محمود کی تالیف کلمۃ الفصل کا ایک اقتباس ہی کافی ہے۔ کیونکہ یہ تالیف منکرین ختم نبوت کے لئے ستیا رتھ پرکاش کا درجہ رکھتی ہے۔ تالیف نگار لکھتا ہے۔

حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا جو نبی کریم ﷺ نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اگر ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں (مرزا بشیر) کہتا ہوں کہ نصاریٰ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات حضرت نبی کریم ﷺ نے یہود تک کو سلام کا جواب دیا۔

اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین ختم نبوت ابتداء سے ہی اپنے آپ کو دنیا کے اسلام سے الگ سمجھتے تھے۔ بلکہ یوں سمجھا چاہئے کہ انہوں نے دنیا کے اسلام کا دائرہ اسلام سے اس لئے خارج کر رکھا تھا کہ وہ حضرت رسول اکرم ﷺ کو ہر مفہوم میں خاتم النبیین تسلیم کرتی ہے اور اجرائے نبوت کو ہر مفہوم میں عریاں کفر قرار دیتی ہے۔ اس لئے ۱۹۷۳ء کا فیصلہ ان کے لئے بے معنی تھا۔ کیونکہ وہ مندرجہ بالا تحریر کی رو سے زندگی خصوصاً مذہبی اور عمرانی

زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھتے تھے اور عرف عام میں وہ مسلم بھی اپنے آپ کو نہ کہتے تھے۔ مسلم کی اصطلاح انہوں نے متروک کی ہوئی تھی۔ اس لئے ان کے لئے غیر مسلم کی اصطلاح عملاً بے معنی تھی۔

اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے

تفکیل پاکستان کے بعد مسلم لیگی حکومتیں داخلی انتشار سے دوچار ہیں۔ اس جماعت کے اپنے حصے بخرے ہوتے چلے گئے۔ اس لئے پاکستان کی معمار جماعت نے منکرین ختم نبوت کو بطور مسلمان کے پاکستان میں آنے کے خطرات کو نظر انداز کر دیا۔ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر مسلمانوں کے لئے خدا کے فضل سے بنا تھا۔ جو جماعت مسلمانوں کو کافر کہنا اپنا مذہب سمجھتی تھی وہ پاکستان میں کیسے داخل ہو سکتی تھی۔ لیکن وہ داخل ہوئی اور بڑے زوروں سے داخل ہوئی اور اس کے اپنے افسر بڑے بڑے مناصب پر فائز تھے۔ انہوں نے الٹا منٹوں میں بڑی فیاضی برتی۔ حتیٰ کہ جماعت کو ایک مرکز (ربوہ) بخشا۔

اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو وہ یہ تعدی نہ ہونے دیتے۔ وہ قائد اعظم کو منکرین کے عزائم سے آگاہ کرتے اور قائد اعظم یقیناً علامہ اقبال کے مشورہ کو قبول کرتے اور یہ لوگ یا تو ہرگز نہ آتے یا اپنے تکفیری دین سے توبہ کر کے آتے اور پاکستان میں مسلم معاشرہ ایک سنگین خطرہ سے محفوظ رہتا۔ علماء نے بھی اس فرض سے غفلت برتی۔ ورنہ وہ بھی اگر مسئلہ کی طرف توجہ کرتے تو ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء سے پہلے ہی سارا فتنہ فرو ہو جاتا۔

اگر مسلمانوں کو کافر کہنے والی جماعت اور اس کے سربراہ ثانی کو ذرا بھرجیا ہوتی تو وہ خود اپنے تکفیر اہل قبلہ کے فتویٰ کے پیش نظر پاکستان نہ آتے۔ نہ ان کو شرم آئی اور نہ پاکستانی مسلمانوں نے غیرت سے کام لیا۔ اس طرح نحوست کا کارواں چل پڑا اور یہ قضائے مبرم ہے کہ جب تک کسی ملک میں ختم نبوت کے تقدس کی توہین کھلے بندوں ہوتی رہے گی اور اس سے صرف نظر ہوتا رہے گا تو وہ ملک انہی بحرانون سے دوچار ہوتا رہے گا جو انکار ختم نبوت کے جلو میں آتے رہیں گے۔

آخر کار ایک مرحلہ آیا

آخر کار ایک مرحلہ آیا۔ اس کی تفصیل تو بعد کے باب میں ہے۔ لیکن یہاں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایک فاسق قاجر کے ہاتھوں منکرین ختم نبوت کے خلاف ایک آئینی سطح پر اقدام ہوا۔ گویا فاسق قاجر کے ہاتھوں فاسق قاجر منکرین ختم نبوت اور ان کے حمایتی آئینی تعویذ کی زد میں آئے۔

لیکن یہ ضرب کاری ثابت نہیں ہوئی۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاسق فاجر کو اسلام کی صحیح اور موثر خدمت کرنی نصیب ہوتی۔ اگر صدائی کمیشن رپورٹ اور اسپیلی کی خصوصی کمیٹی کی رپورٹیں شائع ہو جاتیں تو فتنہ انگار ختم نبوت کا ایک رنگ میں خاتمہ ہو جاتا۔ چونکہ یہ ساری تدبیر بازی اس لئے ان رپورٹوں کو مخفی رکھا گیا۔ ۷ ستمبر ۱۹۷۷ء کے فیصلے کو قواعد اور ضوابط کے ماتحت نافذ نہ کرنے والے کو بھی وہ سزا ملی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ختم نبوت کی تقدیس سے کھیلنے والے خدا کے قہر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔

مؤلف نے صدائی کمیشن رپورٹ اور دوسری پارلیمانی خصوصی رپورٹ کی اشاعت کے لئے مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کو لکھا تھا۔ کیونکہ معلوم ہوا تھا کہ ان کو خصوصی کمیٹی کی رپورٹ کو فائلوں پر لانے کا کام تفویض ہوا تھا۔ لیکن وہ بلاطائف اکیل اس کو ٹال گئے۔ اس وقت اقلیتوں کے نائب وزیر مکرم ملک محمد جعفر صاحب سے بھی التماس کیا۔ لیکن وہاں بھی سکوت لایموت ہی تھا۔

علامہ اقبالؒ کا عالمانہ نوٹ

علامہ اقبالؒ نے بانی جماعت مکررین ختم نبوت کے متعلق ایک عالمانہ نوٹ بھی لکھا تھا۔ اس میں بھی مشعل ہدایت تھی۔ لیکن کسی نے توجہ نہیں کی۔ علامہ فرماتے ہیں: ”مولوی منظور الہی نے بانی احمدیت کے الہامات کا جو مجموعہ شائع کیا ہے اس میں نفسیاتی تحقیق کے لئے متنوع اور مختلف مواد موجود ہے۔ میری رائے میں یہ کتاب بانی احمدیت کی سیرت اور شخصیت کی کنجی ہے اور مجھے امید ہے کہ کسی دن نفسیات جدید کا کوئی محکم اس کا سنجیدگی سے مطالعہ کرے گا۔ اگر وہ قرآن کریم کو اپنا معیار قرار دے (اور چند وجوہ سے اس کو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ جن کی تشریح یہاں نہیں کی جاسکتی) اور اپنے مطالعہ کو بانی احمدیت اور اس کے ہم عصر غیر مسلم صوفیاء جیسے رام کرشنا بنگالی کے تجربوں تک پھیلائے تو اس کو اس تجربہ کی اصل ماہیت کے متعلق بڑی حیرت ہوگی۔ جس کی بنیاد پر بانی احمدیت نبوت کا دعویٰ دار ہے۔“ (قرآن اور اقبال ص ۴۲، مرتبہ ابو محمد صالح، ناشر سٹیمپل پبلیکیشنرز، شاہ عالم مارکیٹ لاہور، طابع نیاز احمد مطبع استقلال پریس لاہور)

مسلم لیگ میں قادیانیوں کی شمولیت کا خطرہ..... ان کی دھمکی پر اقبالی محاسبہ
مکرم سید نذیر یازی اپنی مقبول عام تالیف (اقبال کے حضور ص ۵۰۴) پر لکھتے ہیں: ”جب مسلمانوں کے ذہنی خلفشار کا ذکر ہوتا اور جب یہ سوال ہوتا کہ اسلام جس نظام اجتماع و عمران سے عبارت ہے اس میں ہماری اطاعت کا محور کیا ہے تو اس صورت حال پر غور کرتے ہوئے حضرت علامہ کا

ذہن طبقاً جماعت احمدیہ کی طرف منتقل ہو جاتا۔ اس لئے کہ جماعت احمدیہ اگرچہ اصولاً سواد اعظم سے کٹ چکی تھی بلکہ سواد اعظم کو سواد اعظم ہی نہیں مانتی تھی۔ لیکن مصلحتاً اس سے تعلق اور وابستگی پر مصر تھی..... ایک طرف اس کی کوشش تھی کہ سواد اعظم سے باہر اپنا الگ تھلک وجود قائم رکھے۔ دوسری طرف اس کی کوشش تھی کہ مسلمان اسے امت کا جز تسلیم کر لیں۔ محض اس وجہ سے کہ ہندو اور عیسائی ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لئے یہ سبھی اور بے روح اتحاد ناقابل قبول تھا..... تبلیغ دین کے پردے میں بھی علامہ اس جماعت کے شمول کو بغایت ناگوار اور ناقابل برداشت سمجھتے تھے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تبلیغ اسلام سے مقصود تبلیغ عقائد ہی نہیں..... یہ اپنے مخصوص عقائد کی چار دیواری میں بند حقائق سے بے خبر ہے کہ اسلام کی رہنمائی قبول کرنے کے بعد اور فکر و عمل کا رخ کس طرح موڑنا ہوگا..... اس کی علیحدگی سے اس کے لئے تسکین ذات کا پہلو لگتا ہے۔ لیکن اس میں دیر پا اقا دیت مفقود ہے۔

قائد اعظم کے نام مرزا محمود کا خط

اس مذکورہ تالیف (اقبال کے حضور ۱۹۲، ۱۹۳) میں درج ہے کہ علامہ نے فرمایا: ”جناب نے مرزا محمود کا خط مجھے دیا ہے۔ مرزا محمود کہتا ہے: ”ہماری جماعت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے ہمیں لیگ میں شامل نہ کیا تو مجبوراً ہمیں کانگریس میں شامل ہونا پڑے گا۔“ اس پر نکریم نیازی صاحب نے پوچھا: ”آپ کی کیا رائے ہے؟“ فرمایا رائے کا کیا سوال ہے۔ ہم ان کی شمولیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے..... مرزا محمود لیگ اور کانگریس سے سودا کرنا چاہتا ہے۔ میں (اقبال) نے بہر حال جناب صاحب کو لکھ دیا ہے کہ اس قسم کے خطوط کا کوئی جواب نہ دیں۔“

سرطان زدہ معاشرے کی حالت زار

لیکن اس مدبرانہ مشورے کے باوجود چوہدری ظفر اللہ خاں کے ذریعے مرزا محمود لیگ میں دراما نماز ہو گیا اور اپنے عقیدے کے مطابق پاکستان کو ”نامسلمانوں“ کا وطن قرار دیتے ہوئے بعد جماعت پاکستان میں گھس آیا اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رہی۔ اس کو دل ہی دل میں خدشہ تھا اس لئے جب اپنے ذاتی ہوئی جہاز کے ذریعے لاہور آیا تو اس کو جماعت سے پوشیدہ رکھنے کی سعی لاحقہ کی۔ جب خبر عام ہو گئی تو مرزائیوں کو یہ کہا گیا کہ ان کا سربراہ ثانی صرف قائد اعظم سے مشورہ کرنے آیا ہے۔ جب یہ خبر گوارا ہو گئی اور لاہور کے مقامی لیڈروں اور علماء نے کوئی احتجاج نہ کیا تو مرزا محمود کو ترن باغ اور جوہاں بلڈنگ، تھارن ٹن روڈ پر جگہ مل گئی۔ یہ اس وقت کی عظیم عمارتوں میں سے تھیں۔ کچھ عرصہ کے بعد مرزا محمود کے داماد اور بیٹے ایم ایم احمد

بحالیات کے کشمبن گئے۔ پھر کیا تھا نہ صرف پہلی آلات معین پختہ ہو گئیں اور عمدہ عمدہ عمارتیں بخش دی گئیں۔ بلکہ سیٹھ جا کلید اس کی عمارت پام دیو بھی مل گئی۔ حالانکہ قادیان میں حکمران ٹولے کی ساری عمارتیں طلا کر کسی ایک عمارت کے لگ بھگ بھی نہ تھیں۔

اگر تکفیر کے اڑدھا کے ڈسے ہوئے عوام اور علماء اور سیاسی لیڈر حضرت قائد اعظم کو مسلمانوں کے مکتوبین کے سربراہ کی پینتیس سالہ کفر باز یوں اور سیاست کاریوں سے آگاہ کرتے تو وہ ضرور اس شخص سے نپٹ لیتے۔ کم از کم اس کے متعلق حضرت اقبال کے اقوال کو ہی مشتہر کیا جاتا تو پاکستانی معاشرہ اس جان لیوا سرطان سے محفوظ ہو جاتا۔ جب تک یہ سرطان جڑ سے نہیں اکھیڑا جاتا اس وقت تک پاکستان معاشرہ رد بصحت نہ ہو سکے گا۔ اسلام کے نام پر بننے والی مملکت میں اپنے جعلی مذہب کو اسلام کہنے والے خدائی وعید کو دعوت دیتے رہیں گے۔ اس تیس سالہ بحران میں اب تک کسی نے یہ نہیں دیکھا نہ اس کا کسی نے ادراک کیا ہے کہ مکتوبین ختم نبوت کو ڈھیل دینے کی یہ سزا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ناقابل علاج ناسور اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ ان بحرین کو حفاظت دے کر یہاں کی حکومتیں رہائی حفاظت سے محروم چلی آ رہی ہیں۔

یہ مؤلف کا ایمان ہے اور علی وجہ البصیرت ایمان ہے کہ جو اخلاقی سفاکیاں ربوہ کے مذہبی مذبح میں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے رحمت خداوندی کے دروازے بند کر دیئے ہیں۔ اس میں خدا اور رسول اور تاریخ کی عدالت میں علماء مسئول ہیں کہ وہ جمہوریت، جمہوریت کی صدائیں لگا رہے ہیں اور دین میں جو نقب دن دھاڑے لگ رہی ہے اس کو نظر انداز کیئے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ معاشرہ برکت کا گہوارہ بن سکتا ہے جو حضرت رسول کریم ﷺ کے استخفاف سے انماض کر رہا ہے؟ اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عظیم و خیر خدا بھی معاذ اللہ بے خبر ہے۔ یا اس نے ان فراموش گاروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اسلام، اسلام کا نعرہ سنائی دیتا ہے۔ لیکن اس نعرے کی روح کو مجرد کرنے والی ابلیسی قوت پر ضرب نہیں لگ رہی۔

۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کے تاریخی فیصلے کے محرکات

شاید چند ہی لوگ ہوں گے جن کو یہ معلوم ہو کہ قادیانوں کے خلاف ۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کے فیصلے کے محرکات کیا تھے۔ ایک دیرینہ محرک تو بدستور چلا آ رہا تھا کہ مکتوبین ختم نبوت نے اہل قبلہ کو فتنی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے عقیدے کی بناء پر کافر قرار دے کر مسلمانوں کے قلوب میں آتش انتقام کو روشن کر رکھا تھا۔ جیسے کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ وہ مسلمانوں کو غیر مسلم کہہ کر ان سے کسی قسم کے رابطے کو اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے تھے اور اگر ان کی جماعت کا کوئی رکن خفیہ سا

بھی انحراف کرتا تو اس کو جماعت سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ اگر مرزائی باپ نے مسلم بیٹے کی مسرت یا ملال میں کوئی دلچسپی لی یا مرزائی بیٹے نے مسلم باپ سے احسان کا سلوک کیا تو وہ باغی قرار دیا جاتا تھا۔

ظہور پاکستان سے پہلے برطانوی استعمار قادیانوں کا نگہبان تھا۔ ان کی کفر بازی پر انگریز حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس کو نظر انداز کر جاتی تھی کہ اس کی تکفیر سے کئی سماجی فتنے رونما ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان اپنی دینی غیرت سے ان منکرین کا سدباب کرتے اور ان کے مساجد میں داخلے کو انہی لوگوں کے عقائد کے پیش نظر روکتے اور ہائی کورٹوں کی طرف رجوع کرتے تو برطانوی عدالتیں ان لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر قرار دے کر ان کو کھلی چھٹی دیتی رہیں۔ اس قسم کے مقدمات پٹنہ ہائی کورٹ، مدراس ہائی کورٹ اور غالباً پنجاب ہائی کورٹ میں ہوئے۔ ہر جگہ ان کو مسلمان ہی قرار دیا گیا۔ گویا اس دور کی عدالتوں کے نزدیک یہی مسلمان تھے یا بالفاظ دیگر دنیائے اسلام کو کافر کہنے والے ہی مسلمان کہلوانے کے قانونی حقدار تھے۔

پاکستان میں بھی ان کا غلبہ قائم رہا

جب پاکستان میں یہ منکرین ختم نبوت فوج ظفر موج کی طرح آئے تو حکومت پاکستان نے ان کے تکفیری فتوؤں کو نظر انداز کر کے ان کو بطور مسلمان الاٹ منٹیں عطا کیں۔ بلکہ ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا گیا اور وہ ربوہ میں قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کو کافر کہتے رہے۔ حتیٰ کہ قائد اعظم کا جنازہ بھی نہ پڑھا اور چوہدری ظفر اللہ خاں نے دوون کی لی اور ایک استفسار کے جواب میں اپنے جنازہ نہ پڑھنے کے متعلق کہا کہ وہ کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ ہے یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ ہے۔ اس بات کا ذکر صدائی کمیشن کی کارروائی میں زور سے آیا۔ لیکن عملاً کوئی اقدام نہ ہوا۔

پاکستانی حکومت پر چوہدری ظفر اللہ خاں چھاپا ہوا تھا۔ اس لئے اس کا خلیفہ بھی ربوہ میں اس طرح رہا گویا وہ قادیان میں برطانوی سگینوں کے سائے میں ہے۔ اس نے پانچ لیکچر دیئے۔ جن کا ایک ہی عنوان تھا۔ پاکستان اور اس کا مستقبل۔ ان لیکچروں میں بین السطور اس نے پاکستان کی مروجہ کمزوری کی طرف بلیغ اشارات کئے۔ ان لیکچروں کی صدارت شیخ عبدالقادر صاحب اس وقت کے مسٹر جسٹس ایس۔ اے رحمان صاحب اور ملک فیروز خاں نون صاحب نے کی۔ ان میں سے کسی کو خیال نہ آیا کہ مرزا محمود تو ان کو عقیدتاً مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ تھی پاکستان کی غیرت دینی۔

خدا کی لاشھی کی پہلی ضرب

مرزا محمود کی خود فراموشی کا یہ حال تھا کہ زرعی اصلاحات کے سلسلے میں جب اخبارات کے مدیران کرام نے خلیفہ کے رجعتی کردار پر قلم فرسائی کی تو اس نے جلسہ سالانہ کے موقع پر مدیران کو دھمکی دی کہ وقت آ رہا ہے کہ یہ معترضین اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے اور معاذ اللہ فتح مکہ کا سا سانحہ ہوگا اور وہ لا تشریب علیکم الیوم کہہ کر ان خطا کار ایڈیٹروں کو معاف کر دے گا۔ اس وقت کوئی فوری رد عمل نہ ہوا۔ اس لئے ربوہ سے جارحیت کی رو چلتی رہی۔ حتیٰ کہ ۱۹۵۳ء میں ایک طوفانی تحریک چل پڑی۔ اس کے انسداد کے لئے لاہور ڈیڑھ لاکھ مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ مگر سارے صوبے میں سراپمگی پیدا ہو گئی۔ مسلمان علماء اور سیاسی لیڈر قید ہوئے۔ فوجی عدالتوں نے ان کے خلاف سنگین فیصلے صادر کئے۔

قادیانیوں کے دواہم اشخاص داروگیر میں آ گئے۔ ایک تھا مرزا محمود کا سب سے چھوٹا بھائی مرزا شریف احمد اور دوسرا تھا اس کا بڑا بیٹا مرزا ناصر احمد جو اس کے بعد اس کی گدی پر براجمان ہوا۔

حالت یہ تھی کہ مسلمان علماء تو اپنے آپ کو شہادت گہہ الفت میں سمجھ کر ایک روحانی نشے سے سرشار تھے۔ مؤلف کو سنٹرل جیل کے وارڈن مسٹر منیر (قادیانی) نے بتایا کہ مولانا مودودی صاحب کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تھا اور وہ **Condemned Cell** میں بند کر دیئے گئے۔ ان کی ہمت عالی اور جوش شہادت کا یہ حال تھا کہ جب ان سے ان کے خاندان کے لوگ ملنے آئے تو وہ ان کو پھانسی والے لباس میں دیکھ کر اٹکبار ہوئے تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ سو گوار ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ کی باغی حکومت میں اللہ کے بندے کو جہاں پہنچانا چاہئے وہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ اگر حضرت رسول اکرم ﷺ کے باغیوں کی طرفدار حکومت ان کو یہ سزا نہ دیتی بلکہ معاف کر دیتی تو یہ وہ سانحہ المیہ ہوتا جس پر اٹکبار ہونا ضروری تھا۔

یہ ضمناً عرض کر دینا ضروری ہے کہ یہ وارڈن منیر کون تھا اور اس نے مؤلف کو کس طرح یہ بات سنائی۔ وہ قادیانی تھا۔ اس کی قریبی عزیزہ کسی زمانے میں مؤلف سے پڑھا کرتی تھی۔ منیر اپنی عزیزہ کے پراویڈنٹ فنڈ کے سلسلے میں مؤلف کے پاس آیا تھا۔ مؤلف ان دنوں محکمہ تعلیم کے صدر دفتر میں سینئر سپرنٹنڈنٹ تھا۔

منیر وارڈن قادیانی نے یہ بھی سنایا کہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب جیل میں دبتاتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ ان کو قید اور پھانسی دینے والی حکومت کے جیل کوئی

نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس شخص نے یہ بھی سنایا کہ مرزا شریف احمد اور مرزا ناصر احمد پڑھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے رتن ہارن سے پان وان منگا کر اپنی عادت پوری کرتے ہیں اور ہر وقت پریشان حال رہتے ہیں۔

مارشل لا تو اٹھ گیا لیکن اندر ہی اندر آگ سلگتی رہی۔ اس کے لئے منیر ٹریویل قائل ہوا۔ اس کی روداد ایک الگ باب میں درج ہے۔ لیکن یہاں اتنا ذکر کرنا کافی ہوگا کہ خلیفہ ربوہ کے ناپاکستانی عزائم کی دجیاں فضا میں بکھر گئیں۔

ٹریویل کے چیئر مین نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا: "۱۹۳۵ء سے لے کر ۱۹۳۷ء کے آغاز تک احمدیوں کی بعض تحریروں سے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانیہ کے جاسٹین بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ تو ایک ہندو سیکولر حکومت کو پسند کرتے تھے اور نہ پاکستان (کی اسلامی حکومت۔ مؤلف) کو پسند کرتے تھے۔"

(منیر رپورٹ ص ۱۹۴)

خلیفہ ربوہ کی ہیبت زدگی

مرزا محمود ۱۹۵۳ء کے واقعات سے ایسا خوفزدہ ہوا کہ اس پر اپنے عزائم سے لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ "احمدی" نام ترک کرنے کے ارادہ کا اعلان بھی کرنے والا تھا۔ اس کا ایک اعلان پاکستان ٹائمز مورخہ ۳ مارچ ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا کہ وہ تبلیغ نہیں کرے گا اپنے اپنے اور اپنی جماعت سے متعلق استفسارات کا جواب صرف اپنی مسجدوں میں دے گا۔ مؤلف کو اس کا مفہوم یاد ہے کہ وہ اعلان صاف ارتداد کے رنگ میں تھا۔ چنانچہ اسی دن مؤلف کے پاس مرزا محمود کا بھانجا میاں عباس احمد خان (جو ان دنوں پام ویوز و شملہ پہاڑی میں مقیم ہے) اپنی جماعت کے مفسر قرآن ملک غلام فرید کے ساتھ آیا۔ مؤلف کے پاس پاکستان ٹائمز کا وہ پرچہ تھا اس نے ان دونوں کو وہ اعلان دکھایا اور تعریف کیا کہ یہ وہ خلیفہ ہے جو اپنے آپ کو فضل عمر کہہ کر فریب دیتا رہا ہے اور یہ کہ اس کے اعلان سے ثابت ہے کہ وہ لاد مذہب ہے۔ محض مذہب کے پردے میں جماعت کا اجماع کرنا رہا ہے اور جماعت کو بحرانوں میں جتا کر تاجلا جاتا ہے۔ یہ دونوں مہربلب ہو گئے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ ملاحظہ ہو کہ ۱۹۵۳ء کے مارشل لا میں مرزا پانے والے علماء اور سیاسی لیڈروں نے اس کلمے پر دلانا اعلان سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور نہ ہی اس وقت کی حکومت نے اس اعتراف گھست کی بناء پر قواعد و ضوابط بنا کر مستقبل کو قدرناکار ختم نبوت کے خطرات سے پاکستان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس وقت خلیفے کے اس غیر بہیم Commitment کو نظر انداز نہ کیا جاتا تو اس نفع کی صف ہیبت دی گئی ہوتی۔

خلیفہ ثالث کے متعلق اس کے باپ کی رائے

جب خلیفہ ثانی راہی ملک عدم ہوا تو جماعت کے لئے اذیت ناک ورثہ چھوڑ گیا۔ اپنے ہوش کے دلوں اس نے ایک ایسا احتجاجی ادارہ بنایا جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اس کلید ایٹا مرزا ناصر احمد اس کا جانشین بننا۔ چونکہ ۱۹۶۵ء کی جنگ کی وجہ سے بھارت سے کوئی رابطہ نہ تھا اور اس وقت مشرقی پاکستان سے جنگ کے دوران تعلق ٹوٹ چکا تھا۔ اس لئے مرزا ناصر احمد ہی منتخب ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں اس کا سوتیلا بھائی مرزار فتح احمد بھی امیدوار تھا۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر مندرجہ بالا مواصلاتی موانع نہ ہوتے تو مرزا ناصر احمد اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہوتا۔

مرزا ناصر احمد اپنے باپ کے مقابلے میں غبی اور بلید الذہن تھا۔ باوجود بہت سی ڈگریوں کے وہ نہ تقریر کر سکتا ہے اور نہ ہی تحریر کا اس کو کوئی لکھ ہے۔ اس کے باپ کا ایک قول ہے جس سے اس کی عدم صلاحیت واضح ہو جاتی ہے۔ جب اس کا باپ لاہور میں ”پاکستان اور اس کا مستقبل“ پر لیکچروں پر سلسلہ جاری کئے ہوئے تھا تو ایک لیکچر جو ”بینارڈ ہال“ میں ہوا اس میں تلاوت قرآن کے لئے کسی نے مرزا ناصر احمد کا نام لیا تو فوراً اس کا باپ بول اٹھا۔ ”ناصر احمد کی تلاوت نے تو ہم پر خشیت باری ہی کرائی ہے۔“ یہ ایک دہلی کے ناکام جلسے کی طرف اشارہ تھا۔ جب وہاں مرزا محمود احمد کا لیکچر ہونے لگا تو اس سے پہلے اس کے بیٹے ناصر احمد نے جو حافظ تھا، تلاوت قرآن کریم کی تو اس کی تلاوت کی متعدد غلطیوں پر کہرام مچ گیا۔ مسلمان قرآن دانوں نے کہا کہ یا تو اس جماعت کو قرآن کریم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس لئے اس کو تلاوت کی غلطیاں معلوم نہیں ہوتیں اور اگر ان کو قرآن کریم کا کچھ بھی مطالعہ ہے تو انہوں نے گوارا کر لیا ہے کہ قرآن غلط پڑھا جائے۔ مگر صاحبزادے کو ٹوکا نہ جائے۔ اس پر ہر طرف سے خشیت باری ہوئی۔ ویسے ایک بلید الذہن بیٹے کو جانشین بنانے میں عیار باپ کی ایک حکمت تھی۔ وہ یہ کہ ایک غبی بیٹا ہی اس کی لرزہ خیز غلط کاریوں سے بے خبر رہ سکتا ہے۔ کیونکہ ایک ذہین بیٹا باپ کی جنسی درندگیوں کے ظلم سے ضرور باغی ہو جاتا۔

غبی بیٹا بھٹو کا شکار ہو گیا

یہی بلید الذہن بیٹا ہی تھا جو مئی ۱۹۷۳ء میں ریوہ اسٹیشن پر طلباء کی یورش کا سدباب نہ کر سکا۔ جب ۲۲ مئی ۱۹۷۳ء کو ملتان سے نشتر میڈیکل کالج کی جمعیت طلباء کا ایک گروہ ریوہ سے گزرا تو کچھ تصادم ہوا۔ اس پر مرزا ناصر احمد نے جو خلیفہ ریوہ بن چکا تھا، مشر بھٹو کو ٹیلی فون پر اطلاع دی اور مدد طلب کی۔ بھٹو ایک عفریتی تابذ تھا۔ وہ مرزا ناصر احمد کی ”مصلحت“ سے واقف ہو چکا

تھا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے خلیفہ کو کہا کہ وہ کیوں خاموش رہے۔ ان کو چاہئے تھا کہ وہ غنڈوں کی ٹانگیں توڑ کر ان کو خوب سبق دیتے۔ اس فریب کارانہ چال کو خلیفہ نے کبھی اجازت سمجھا۔ جب ۲۹ مئی ۱۹۷۴ء کو ملتان کے وہی طلباء ربوہ سے واپس گزرے تو اس نے وہی کچھ کیا جو اس کو اسلام آباد سے کہا گیا تھا۔

یہ محض بلوہ تھا۔ ملک میں آگ لگ گئی۔ بھٹو نے فوراً صدارتی کمیشن بٹھا دیا۔ عقائد کی بحث شروع ہو گئی۔ اس میں خلیفہ ربوہ (مرزا ناصر احمد) کو بلایا گیا۔ وہ وہاں تخت بے نقاب ہوا۔ جو اس نے کہا وہ ربوہ میں صدارتی کمیشن کے معائنہ پر صحیح ثابت نہ ہو سکا۔

بھٹو نے اس پر بس نہ کہ۔ اس نے قوی اسمبلی کو اس کی ووٹ سے خصوصی کمیٹی میں بدل دیا اور ”قادیانی“ اور ”لاہوری“ عقائد کا مسئلہ حل پڑا۔ وہاں بھی سات دن کی جرح سے خلیفہ ربوہ معاملہ کو سلجھانے میں ناکام رہا۔ اس کی اپنی ہی شہادت پر ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کے فیصلے کے مطابق ربوہ کی جماعت کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ ”لاہوریوں نے ایک مؤثر درجہ میں ربوہ والوں کی ہموالی کی صورت اختیار کرنے کی کوشش کی ہوگی وہ بھی دھرائے گئے۔“

ایک روایت ہے کہ مرزا ناصر احمد اور مسٹر بھٹو کی تھپیے میں طویل ملاقات ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مسٹر ناصر احمد نے بھٹو کو مشورہ دیا کہ اگر اس نے لاہوری جماعت پر فیصلہ صادر نہ کیا تو سارے ”احمدی“ اس جماعت میں داخل ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ وابستگی رکھیں گے۔ سنا ہے کہ یہ بات کارگر ثابت ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب!

اسرائیلی شاخسانہ

اس سارے ڈرامے کے پیچھے ایک عظیم محرک تھا۔ وہ یہ کہ ایک باہمت اور دیدہ ور نوجوان عالم شفیق مرزانے لاہوری جماعت کے مبلغ مقیم لندن شیخ محمد طفیل کے ذریعے یرودھلم سے اسرائیلی میگزین الجبلہ اسلامیہ (انگریزی اور عربی) منگوا لیا۔ اس میگزین کا ایڈیٹر جو یعقوب پویش تھا۔ یہ اسرائیل کی وزارت اذیان، یرودھلم کی زیر نگرانی شائع ہوتا ہے۔ اس کے اگست ۱۹۷۲ء کے پرچہ میں تیرہ صفحہ کا مضمون تھا جو جماعت ربوہ کے متعلق تھا اور تعریفی لہجہ میں لکھا گیا تھا۔ مقالہ نگار کا نام عبد اللہ خود تھا۔

اس مقالہ سے ظاہر تھا کہ یرودھلم سے کسی نہ کسی صورت میں ربوہ کا رابطہ ضرور ہے۔ تعلق کی یہ نوعیت تھی کہ جو مبلغ یا پیغمبر یا یا افریقہ کے کسی ملک میں جاتے وہ وہاں سے اسرائیل پہنچ کر اپنے پرانے مشن کا چارج لے کر تقسیم ملک سے پہلے قادیان کے ساتھ اور پاکستان بننے کے بعد

ربوہ سے مؤثر تعلق قائم رکھنے کے پابند سمجھے جاتے تھے۔

حضرت شاہ فیصل نے بھٹو کو ڈانٹا

راقم کے مشورہ پر مکرم شفیق مرزا وہ یہودی رسالہ (الجلد اسلامیہ) شورش مرحوم کے پاس لے گیا۔ اس وقت جماعت اسلامی کے دو بزرگ رکن مولانا نعیم صدیقی صاحب اور مکرم چوہدری رحمت الہی صاحب بیٹھے تھے۔ مکرم شفیق مرزا نے جس کو عربی میں ماہرانہ دسترس ہے۔ اس یہودی رسالہ کے چند اقتباس اردو میں ترجمہ کر کے سنائے۔ شورش مرحوم نے جو پروپگنڈا میں پیدھوٹی رکھتے تھے وہ رسالہ رکھ لیا۔ اس کا وہ محض مقالہ ایک پمفلٹ کی صورت میں چھاپ دیا۔ جب اسلامی سربراہی کانفرنس Islamic Summit ہو رہی تھی۔ شورش مرحوم نے وہ پمفلٹ سربراہان کرام میں ہانٹ دیا۔ جب وہ مقالہ حضرت شاہ فیصلؒ نے پڑھا تو ان کے تیور بدل گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ ربوہ کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ اس پر بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھٹو سے سخت باز پرس کی۔ معاملے کے اس پہلو کو شاید بھٹو کو بھی علم نہ تھا۔ وہ حضرت شاہ فیصل مرحوم کی ملامت کی تاب نہ لاسکا۔ لیکن وہ اپنے فن سازش کا ماہر تھا۔ چنانچہ اس کی کسی مؤثر الجبھی نے تارہلائے اور ربوہ کے ریلوے اسٹیشن کا ہنگامہ برپا ہوا۔ اس میں خلیفہ ربوہ کی بے دانشی نے بڑا کام کیا۔ اگر اس کا باپ ہوتا تو وہ اپنے فن میں کئی بھٹوؤں پر بھاری تھا۔ وہ ۷ مئی ۱۹۷۴ء کے فساد کے بعد اپنے مریدوں کا ربوہ آنا جانا ایک مدت تک روک دیتا۔ اگر بھٹو کا اس سے واسطہ پڑتا تو بھٹو اس کو گرد مان جاتا اور اس کو بہکانے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگر خدا خواستہ یہ دو بھٹو اکٹھے ہو جاتے تو پاکستان میں طوفان مچا دیتے۔ ادھر علماء نے پرزور تحریک چلا رکھی تھی۔ بھٹو نے ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کے فیصلہ سے حضرت شاہ فیصلؒ کو اس وقت ایک رنگ میں اپنی وفاداری کا قائل کر لیا۔ ادھر پاکستان میں علماء بھی اس فیصلے سے خاموش ہو گئے۔ حالانکہ وہ فیصلہ اس طرح مؤثر نہ ہو سکا جس کی توقع تھی۔

ربوہ والوں نے اس کے ۱۹۷۰ء کے انتخاب میں چالیس لاکھ (ایک روایت کے مطابق) صرف کئے تھے۔ ان کو بھٹو نے تسلی دی کہ اس نے بے اثر فیصلہ سے قتل و غارت سے ان کو بچا لیا ہے۔ اسی لئے وہ مقارزیر پر رہے۔

خلیفہ سے جماعت کی مایوسی

لیکن جماعت میں تاثر یہ تھا کہ ان کے خلیفہ نے صحیح اور مؤثر مدافعت نہیں کی۔ وہ یہ کہہ کر ٹال سکتا تھا کہ ۱۹۵۴ء میں میئر ٹریبونل کے سامنے قادیوں کے عقائد آچکے ہیں اور ان پر

ٹریبونل مذکور کی رائے بھی آجکی ہے اور یہ دستاویز شائع ہو چکی ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ ریوہ جماعت کے ایک اعلیٰ نصابی افسر کو ریوہ زادہ عہد الحفظ نے اس انداز کا مشورہ دیا تھا کہ گریز کا پہلو نکل سکتا تھا۔ لیکن جس شخص کی عقل کے نقطے ڈھیلے پڑ گئے ہوں اور قاف سے ایک نقطہ حٹک کر عین پر آ گیا ہو اور عقل عقل بن گئی ہو تو دانشمندانہ مشورے کو کیسے قبول کر سکتا ہے۔

صدائی رپورٹ اور خصوصی کمیٹی کی رپورٹ کے شائع نہ ہونے پر ریوہ والوں کو ایک غلط بیانی کا موقع مل گیا ہے۔ وہ کہتے پھرتے ہیں کہ حکومت اس اندیشہ کے مارے نہیں شائع کرتی۔ مباد امرزائیت کو فروغ مل جائے۔ اس فریب کا پردہ چاک کرنا حکومت کا فرض ہے۔

چوہدری ظفر اللہ خاں کی سعی لا حاصل

مؤلف کو خلیفہ ریوہ کے پھوپھی زاد بھائی (جو مؤلف کا شاگرد رہ چکا ہے) نے بتایا کہ چوہدری ظفر اللہ خاں نے خلیفہ صاحب سے آٹنی چارہ جوئی کی اجازت مانگی۔ لیکن وہ اجازت نہ ملی۔ کیونکہ خلیفہ بھٹو کی حکمت عملی کے نتیجے میں کسا ہوا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ بھٹو کو اس عرصہ میں یہ رپورٹ ملی کہ چوہدری ظفر اللہ خاں کوئی اقدام کرنے والا ہے۔ اس نے کمال حیرانی سے رادی کو جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ چوہدری ظفر اللہ خاں کچھ کر گزرے۔ لیکن بعد کی خونریزی کا ذمہ دار کون ہوگا۔ یہ ایسی چال تھی جو ریوہ والوں کو خاموش رکھنے میں کامیاب رہی۔

دین اسلام اور جمعی اسرائیل

پھر پرسش جرات دل کو چاہے عشق

سامان صد ہزار تمک داں کیے ہوئے

قادیا نیت احيائے ملت کے اوعائے باطل سے شروع ہوئی۔ اب سلب حیات ملت پر ختم ہو کر دم والہیں کے سہارے زندہ ہے۔ سلب حیات ملت کا عمل ۱۹۱۳ء میں پورے زور سے شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت قادیا نیت جماعت کے عوام کا لانعام "مقیہان مصلحت بین" اور ابن الوقت عوام نے ایک الہزکنہ تا تراش اور گونا گوں آلائشوں سے ملوث پچیس سالہ جوان کو اپنا نام ہی امام اور مقتدا تسلیم کر لیا۔ اس کے پادر ہوا دعاوی کے دفتر بے معنی کو فرق سے تاب کرنے کے بجائے اپنی دانش و بینش کو ان میں فرق کر دیا۔ پھر پرستی کے مشرکانہ جذبے سے مغلوب ہو کر ایک تازہ وارد بساط ہوائے دل کو خلیفہ جن کر اپنی لادینی تحریک کو اور تار یک کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے اس انتخاب سے ثابت کر دیا کہ ان کے دلوں میں ریوہ زادے کے لئے تپسیا کا جذبہ موجود ہے۔ باہر کے ارہاب بصیرت اسی وقت سمجھ گئے کہ جماعت کی یہ ناموجود حرکت اس کے لئے مہلک ثابت

ہوگی۔ اس انتخاب کے پیچھے مرزا محمود احمد کی اپنی زیر زمین مساعی خمیہ بھی تھیں۔ وہ اپنی آمریت کے زور سے مجبور ہو کر ایسے دعاوی کا اعلان کرنے لگ گیا تھا جو اس ہی پر طنز بن کر رہ گئے۔ اس نے مسلمانوں کی حالت انتشار سے فائدہ اٹھایا اور خود ساختہ فضیلت اور افضلیت کے بے سرو پادعوے تراشنے شروع کر دیئے۔ ایک سانس میں معاذ اللہ حضرت فاروق اعظمؓ سے جن کو مولانا صاحبؒ نے ”نقیب حشم رسول“ کہہ کر پکارا تھا، اپنا درجہ بلند قرار دیا۔ عیاذ اہل اللہ!

اور اپنے آپ کو افضل عمر (معاذ اللہ) منوانا شروع کیا۔ چونکہ جماعت اپنے لالچ اور اضطرابی انتخاب سے خود کٹی کر چکی تھی۔ اس لئے اس نے بلا حیل و حجت اپنے ساختہ پروا ختہ خلیفہ کو سب سے افضل تسلیم کر لیا۔ اس نے یہ سوچنا بھی گوارا نہ کیا کہ اگر مز کا بنایا ہوا خلیفہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ سے کیسے لگا سکتا ہے۔ چونکہ صحیح شعور کی جگہ تعصب نے لے لی تھی۔ اس واسطے سوچ بچار کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس جماعت نے اس خلیفہ کو اس کے حکم پر His Holiness بھی تسلیم کر لیا۔ گویا اپنے مزعومہ اسلام کو بھی عیسائی شرک کے نذر کر دیا۔ کیونکہ اس کی مطلوب و مقصود خلیفہ کی ذات تھی۔ دین اسلام سے اس کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔

چونکہ مرزا محمود احمد طبعاً اور مزاجاً سیاسی تھا۔ اپنی کبریائی کا سکھ بھا کر خواب اور رؤیا کے ذریعے جماعت کو سیاست کے میدان میں لے آیا۔ اس اعتراض کے جواز میں اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کے دور خلافت میں قادیانیوں کو حکومت مل جائے گی۔ یہ تدبیر جس کا خمیر تزویر سے اٹھایا گیا تھا بڑی سریع الاثر ثابت ہوئی۔ جماعت کا کثیر حصہ بیک بنی و دو گوش اس کی شطیحات پر بھی رقص کرنے لگ گیا۔ مبادا ماضی کی یادلوں میں تازہ ہو کر جماعت میں خردوج پیدا کر دے، اس کے تذکرے کے لئے مرزا محمود احمد نے اپنے باپ کے نورتنوں کو خائن، غدار، نالائق، کذاب اور کینے کہہ کر ان کے خلاف اور ان کے کارناموں کے خلاف جذبہ نفرت پیدا کر دیا۔ جماعت پہلے پہل غیر شعوری طور پر اور بعد میں شعوری طور پر یہ سمجھنے لگ گئی کہ جو لوگ تحریک کے ۱۸۸۹ء سے لے کر ۱۹۰۸ء تک پاسہان تصور ہوتے تھے۔ وہ کینے اور کذاب تھے۔ لیکن کسی نے اس نفرت کا تجزیہ نہ کیا کہ اس کی لپیٹ میں خود ہانی سلسلہ کی ذات بھی تو آ جاتی ہے۔ کیونکہ جن افراد کے خلاف نفرت اور تھارت کی افزائش کی جارہی تھی وہ تحریک کے ستون تھے۔ چونکہ وہ لوگ مرزا محمود احمد کے پردہ پیٹنڈا کے مطابق واقعی جموں اور غدار تھے اور ان کی جماعت بھی ان کی اسی نگاہ سے دیکھتی ہے تو ہر لہوری مرزائی اور محمودی قادیانی خود مرزا محمود احمد کے الزام و دشنام کی زد میں آ جاتا تھا۔ کیونکہ وہ حسن و قبح میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ قادیانی جماعت نے نفرت کے جذبے سے مظلوم

ہو کر اس پہلو پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کیونکہ غور کا مادہ ہی سلب ہو چکا تھا۔

مرزا محمود احمد نے بڑی عیاری سے مولوی نور الدین جو اس کے خسر، استاد اور مرشد تھے پر بھی خوب ہاتھ صاف کیا۔ وہ خلافت پر قابض ہو کر رخش حناں تاب بن گیا تھا۔ اس کا پیش رو خلیفہ بھی مطعون ہو کر رہ گیا۔ مرزا محمود نے جماعت میں ایک خبر چلا دی کہ جب اس نے انجمن کا نظام سنبھالا تو انجمن کے خزانے میں چند پیسے تھے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ نور الدین یا نااہل تھا یا خائن۔ نااہل اور خائن منہ سے نہ کہا مگر بات وہ منوالی جس کا منطقی نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ ویسے نور الدین کا مرزا قادیانی سے تعلق بھی عجیب تھا۔ وہ عقیدہ تا مرزا قادیانی کو مسیح موعود تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ مرزا قادیانی بن باپ کے عقیدے کے قائل تھے۔ اس بنیادی فرق سے پیری مریدی کا تعلق محض حادثہ سا تھا۔ گویا مولوی نور الدین کے عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی مثیل مسیح کے مدعی ہو کر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات سے بے خبر تھے۔

مرزا محمود احمد نے بلطائف اللیل جماعت کے مذہبی مذاق اور میلان کو ماؤف اور مجروح کرنا شروع کر دیا۔ وہ جماعت جو کبھی بڑے بڑے دعوے کرتی نہ ٹھکتی تھی۔ وہ اپنے منہ بولے خلیفہ کی خواب کاریوں سے خواب ناک ہو کر رہ گئی۔ خلیفہ کے مقرر کردہ حاطب اللیل راویوں نے ان کے فریب کا خوب فروغ دیا۔ تقویٰ و طہارت کے بجائے سیاسی تزک و احتشام کے نقشے جمنے لگے۔ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے ماتحت ہو رہا تھا۔ کیونکہ خلیفہ کی خلوتی زندگی اجالوں سے خائف رہتی تھی۔ عفت اس کے لئے بے معنی لفظ تھا اور قادیانی زندگی میں تو یہ حال تھا۔

ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ معنی نہ ہو

اگر جماعت کے مزاج کو کسی درجے میں اخلاق سے لگاؤ ہوتا تو خلیفہ عصمتوں کے ساتھ وہ تلعب نہ کر سکتا تھا جو اس کا شیوہ ہو چکا تھا۔ کیونکہ اخلاق خود ایک قسم کا احتساب ہوتا ہے۔ وہ ان حیا سوز طریقوں اور سلیقوں کو کبھی گوارا نہیں کرتا۔ خلیفہ کی عافیت اسی میں تھی کہ اخلاقی مزاج کو کمزور کیا جائے۔ جماعت کو سرگشہ شمار رسوم و قیود کر کے ایک جسد بے جان بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ تاکہ نہ خلیفہ کی نمازوں سے خصوصاً نماز فجر سے مسلسل غیر حاضری بار خاطر بنے نہ اس کا نماز مغرب کو قضا کر کے پڑھنا کسی کا دودھ بھر ہو۔ جب منبر و محراب کے سیاق و سباق میں کھڑے ہو کر وہ اپنے روحانی مدارج کی بلندی کا ذکر کر رہا ہو تو دائیں ہاتھ کی کتخ ران اور اس کے قرب و جوار میں

پورشیں کسی کو کبیدہ نہ کریں۔ جب اس کے مقرب نوجوان دامن دریدہ اور چاک گریبان ہو کر قصر خرافات کے رنگین اور سنگین رومان سنائیں تو ان پر کوئی کان تک نہ دھرے۔ معصیت کاریاں کچھ تو خوارق عادت سنگینی کے پردے میں مستور ہو جائیں اور کچھ جماعت کے سیاسی اور عریاں دنیاوی مزاج کے دامن میں چھپ کر آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں۔ چنانچہ اس کیفیت کے لئے ضروری تھا کہ جماعت کے مزاج میں مزاج برپا کیا جائے۔ ”خلیفہ“ اس طالع آزمائی میں کامیاب ہو گیا۔ جماعت قادیانیت سے بھی ہجرت کر کے نامحدودیت کے ”ویرانہ آبادنا“ میں بس گئی۔ نامحدودیت کا پیرہن ان کے مسلک کا کفن بننا چلا گیا۔ اگرچہ دس دس سال کے وقفوں پر خلیفہ کے عصیان جنسی کو ہوا ملی۔ لیکن جماعت میں کوئی ایسا رد عمل نہ ہوا جو اس کی خفیف ترین دین داری کی آئینہ داری کرتا۔ بعض گوشوں میں رد عمل ہوا تو بیٹے کے لئے باپ کی آرزوؤں کو پیش کر دیا گیا۔ لیکن بانی جماعت نے بیٹوں کی بڑائی کو بڑا اچھا لاکھا۔ حالانکہ نیک چلتی کا معاملہ آفتاب آمد و دلیل آفتاب کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو لوگوں کو فریب میں مبتلا رکھنا مقصود تھا۔ خلیفہ نے باپ کی دعاؤں کو اپنے لئے برہان قاطع بنا دیا۔ حالانکہ اس کے ذاتی اعمال کے دفتر میں پاکیزگی عنقا کا حکم رکھتی ہے۔ لیکن اس نے جماعت کی تربیت اس طرح کی کہ وہ سمجھنے لگ گئی کہ خلیفہ کے لئے خوابوں اور خواہشوں کا حکمران کافی ہے۔ کیونکہ اس کے باطل دعوؤں سے شہستان خلافت روشن ہو جاتا ہے اور خلیفہ بڑے طمطراق سے کہہ دیا کرتا تھا۔

بیان کس سے ہو ظلمت گسٹری میرے شہستان کی

شب مہ ہو جو رکھ دیں پنبہ دیواروں کے روزن میں

ذاتی اعمال کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر خلیفہ سیاست میں الجھ گیا۔ اپنے سارے نظام کو بھی اسی طرح ڈھال لیا۔ اس کے نظام کا ڈھانچہ جو اسی تالیف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ تبلیغ اسلام محض دھوکے کی ٹٹی تھی۔ ورنہ کسی اچھے کام کے لئے اس آہنی نظام کی کیا ضرورت تھی جس میں حکومت کے سارے ٹکے ہوں اور سارا زور کار خاص بنکاری، عسکریت اور تادیب و تعزیر پر ہو۔ چونکہ چندہ اسلام کے نام پر ہی مل سکتا تھا۔ اس لئے اس کو بطور اشتہار کے رکھنا ضروری تھا۔ ورنہ نظام کی آمرانہ شدت مقارنہ سیاست کی غمازی کر رہی تھی۔ چونکہ جماعت کا نوجوان طبقہ اس کی جنسی یلغاروں سے زیادہ ڈھی ہوا۔ اس نے خلیفہ کے چال چلن کے خلاف جہاد کیا اور اپنا زور خلافت کی سیاہ کاریوں کو بے نقاب کرنے میں لگا دیا ہے۔ اس سے ایک فائدہ ہوا کہ خلیفہ کی نقدیں کی تفصیلات مسامحہ ہو گئیں اور معاشرہ ایک خطرے سے آگاہ ہو گیا۔

لیکن ملک اور قوم کو اصلی خطرہ محمودی سیاست کا تھا جو مملاتی غمخوئیوں سے ملوث تھی۔ کیونکہ خلافت ربوی کی غمخوئی زار سے غلیظ سیاست ہی جنم لے سکتی تھی۔ اسی سیاست کا صحیح و سالم نقشہ اس تالیف میں پیش کیا گیا ہے اور یہ سارا نقشہ غلیظہ کے اپنے خطبات سے ماخوذ ہے۔ اس کی تقاریر کی جو تہیب اور ترتیب سے محمودی منصوبی ایک عالی پر بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اب تک ارباب اختیار غلیظہ کی غلطی زندگی کی بے اعتدالیوں کو مرکز توجہ بنانے سے گریز کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب ان پر غلیظہ کے سیاسی عزائم کا انکشاف ہوگا تو ان کے لئے چھلا بیٹھنا ناممکن ہو جائے گا۔ ارباب حکومت نہ صرف اپنی گزشتہ غفلت پر نادم ہوں گے۔ بلکہ قحطہ انکار ختم نبوت کے عواقب کا قلع قمع کر لے پر آمادہ ہو جائیں گے۔

اس تالیف کے مندرجات کی صحت کے متعلق اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ غلیظہ اپنی تقاریر اور اعلانات کے اقتباسات پڑھ کر خود ہی بے اختیار کہہ اٹھتا۔

کھتا کسی پہ کیوں مرے دل کا معاملہ

شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے

مسلمانوں کا سوا عظیم تو شروع سے ہی یقین رکھتا ہے کہ مگرین ختم نبوت کا نظام ایک غلیظ جذام کا دوجہ رکھتا ہے اور متحدی ہونے کی وجہ سے اس کا استیصال لازمی ہے۔

مولانا محمد اسماعیل غزنوی مرحوم کی روایت

مولانا محمد اسماعیل غزنوی حکیم نور الدین کے نواسے تھے۔ لیکن وہ ممتاز اہل حدیث تھے۔ لیکن ان کو نانا سے جذباتی لگاؤ تھا۔ جب مرزا محمود نے حکیم نور الدین کے بیٹوں کو جماعت سے نکال باہر کیا اور ان کے خلاف طوفانی پروپیگنڈا کیا اور فوری پیش میں حکیم نور الدین کو بھی نہ بخشا تو مولانا غزنوی مرحوم بھی مرزا محمود سے نبرد آزما ہو گئے۔ چونکہ وہ مرزا محمود کو بچپن سے جانتے تھے۔ انہوں نے اس کی تیرہ ہائٹی کو خوب ہوا دی۔ انہوں نے اپنی رہائش جج گھر میں مؤلف کو بلایا اور مؤلف کی معلومات کا امتحان لیا اور پوچھا: ”کیا تم کو علم ہے اس عورت کا جو مرزا محمود کے گھر رات تھی اور ایک رات کی اجرت پانچ سو روپیہ لیتی تھی۔“

مؤلف نے اپنی اس بارے میں لاعلمی کا اعتراف کیا۔ اس پر مولانا مذکور نے خود اپنی حیرت کا اقرار کیا اور بتایا کہ انہوں نے اس عورت کا تحقیقاً سراغ لگایا اور اس سے اس کی رات کی اجرت کا اشارہ کیا۔ اس عیار عورت (بقول مولانا مذکور) نے فوراً بے ہاکانہ جواب دیا۔ مولانا تجربہ کر لیں۔ اگر سحر خیزی کے بعد مجھے کوئی خود بخوشی پانچ سو روپے نہ دے جائے تو میں ایک ہزار

روپے ہر جان فی الفور ادا کر دوں گی۔ مولانا مذکور نے ایک اور واقعہ سنایا کہ ان کو مرزا محمود نے اپنے عشرت کدہ پھیر دیکھا اور پانچ بیاس کے کنارے بلایا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مرزا محمود کے سامنے جوان لڑکیاں لباس شفاف میں قطار باندھے کھڑی ہیں۔ مولانا نے ہوش رہا مظر دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب محمود نے پوچھا یہ کیوں؟ تو مولانا نے کہا کہ حیا غالب آ گیا ہے۔ یہ سب ہم احقاق حق کے لئے مولانا نے کی تھی۔

دین کے پردے میں بھیا تک سیاست کاری

کسی جماعت کے لئے اس سے زیادہ محبوب بات کوئی نہیں کہ وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر چور دروازے سے سیاسی اقتدار، دنیاوی غلبہ اور جماعتی تفوق حاصل کرنے کی غاصبانہ کوشش کرے۔ کسی مذہب تحریک یا اس سے پیدا شدہ مذہبی جماعت کو حکومت کی طرف سے جو حمایت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس حد تک ہوتی ہے جس حد تک وہ مذہبی جماعت اپنے آپ کو خالصتاً مذہبی مشن کے دائرہ کے اندر محدود رکھتی ہے اور سیاسی امور سے بچتی رہتی ہے۔ لیکن یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ مرزا محمود احمد کی گندی سیاست کا سب سے گھناؤنا پہلو یہ تھا کہ اس نے حکومت کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے اور بے حس جماعت کو اپنے سیاسی عزائم کے تابع کر دیا اور وہ جماعت جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا ادعائے باطل کر چکی تھی، محض تابع مہمل ہو کر رہ گئی۔ خلیفہ کی یہ خواب کاری برطانوی سٹکینوں کے سامنے میں خوب پروان چڑھی۔ کیونکہ سفید فام آقاؤں کا بھی منشا تھا کہ خلیفہ پادروا منصوروں میں خود بھی مستغرق رہے اور جماعت کے حقوق و قلوب کو بھی اس میں الجھائے رکھے اور اس طرح جماعت میں اخلاقی توانائی نہ پیدا کر سکے اور جماعت غلامت کا انبار بن جائے۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ لیکن قادیان میں علی رفتہ رفتہ ایسی صورت برپا ہوئی کہ برطانوی حکومت کو بھی احساس ہوا کہ اس کا قانون وہاں بالکل بیکار ہو چکا ہے۔ وہاں نقل ہوتے ہیں ان کا سراغ بھی مل جاتا ہے لیکن عدالت میں آ کر پولیس ناکام ہو جاتی ہے۔ اس سے انگریز کی حکومتی غیرت پر تازیا نہ لگا اور اس نے اس متوازی حکومت کے خلاف اقدام شروع کر دیا۔ اس کا پہلا سراغ مسٹر جی ڈی کھوسلہ کے فیصلہ سے ملتا ہے۔ فاضل بیج نے اپنے فیصلے میں مرزا محمود احمد کی ان جارحانہ کارروائیوں کا ذکر کیا ہے جو اس نے مولوی عبدالکریم (مباہلہ والے) کے خلاف کیں۔ کس طرح اس کے خطبے کے نتیجے میں مولوی صاحب مذکور پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ لیکن ان کا ایک مددگار محمد حسین نقل ہو گیا۔ جب قادیانی قاتل عدالت کے فیصلے کے بعد پھانسی پا گیا تو اس کی لاش کو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ

قادیان کے بہشتی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ اس فیصلے میں محمد امین کے قتل کا بھی ذکر ہے اور فاضل جج نے لکھا ہے کہ محمد امین مورد محتاب ہو کر کلہاڑی کے وار سے قتل ہوا۔ اس کے مبینہ قاتل چوہدری فتح محمد سیال نے اقرار بھی کر لیا ہے۔ لیکن پولیس کارروائی کرنے سے قاصر رہی۔ فیصلہ مذکور میں یہ مرقوم ہے کہ:

جج کھوسلہ کا فیصلہ

”مرزائی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی سامنے آ کر جج بولنے کے لئے تیار نہ تھا۔ ہمارے سامنے عبدالکریم کے مکان کا واقعہ بھی ہے۔ عبدالکریم کو قادیان سے نکالنے کے بعد اس کا مکان جلا دیا گیا۔ اسے قادیان کی سال ٹاؤن کمیٹی سے حکم حاصل کر کے نیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ افسوسناک واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف اہلو کی تھی۔ جس میں آتش زنی اور قتل تک ہوتے تھے۔“

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجہ کے فالج کے شکار ہو چکے تھے اور دنیاوی اور دینی معاملات میں مرزا محمود احمد کے حکم کے خلاف کبھی آواز نہ اٹھائی گئی۔ مقامی افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایات کی گئیں۔ لیکن کوئی انسداد نہ ہوا۔ مسل پر ایک دو ایسی شکایات ہیں لیکن ان کے مضمون کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے اور اس مقدمہ کے لئے یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ قادیان میں ظلم و جور جاری ہونے کے متعلق غیر مشتبہ الزام عائد کئے گئے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلقاً توجہ نہ کی گئی۔“

پھر فیصلہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ: ”مرزا (یعنی مرزا محمود احمد) مسلمانوں کو کافر، سورا اور ان کی عورتوں کو کیتوں کا خطاب دے کر ان کے جذبات کو مشتعل کر دیا کرتا تھا۔“

(فیصلہ مسز جی ڈی کھوسلہ جج گوروا سپور)

یہ عدالتی فیصلہ محمودی سیاست کار یوں کی غمازی کرتا ہے۔ قادیان میں خلیفہ کے لئے قتل کرنا اور قتل کے عواقب سے بچ لگانا یا کم از کم خلیفہ کا محفوظ و مصون رہنا ایک ضرب الخلل بن چکا تھا۔ قتل کے بعد معاملہ بقول شاعر یہ تھا:

بے کس کا لہو مثل کی زمین پر

نہ دامن پر نہ ان کی آستین پر

یہی معاملہ بدرجہ اتم ربوہ میں رونما ہو چکا ہوگا۔ کیونکہ یہ خالص قادیانی بہستی ہے۔

یہاں قانون کی بے بسی ناقابل بیان ہوگی۔ اگر حکومت دورانہیشی سے کام لیتی اور مرزا محمود کو

پاکستان کی سرزمین کا ایک خط کوڑیوں کے مول نہ دیتی۔ بلکہ اس کو مجبور کرتی کہ وہ اور اس کی جماعت کسی شہر میں متوطن ہوں یا حکومت کے تجویز کردہ مضافاتی قصبوں میں سکونت پذیر ہوں تو خلیفہ کی سیاست کارپوں اور سازشوں پر قفل پڑ جاتے۔ مگر ایسا نہ ہو۔ چنانچہ اس کو ضلع جھنگ میں ایک وسیع رقبہ قادیانیوں کو متوطن کرنے کے لئے ملا اور اس نے کمال چابک دستی سے اس کو پاکستان کی دوسری آبادیوں سے منقطع کر کے ایک یاغستان بنا دیا اور اس کا نام ربوہ رکھ دیا۔ اب اس قصبے میں باوجود دس ہزار کی آبادی میں خلیفہ کا سکہ رواں تھا۔ اس مطلق العنانی کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی میئر ٹریبونل رپورٹ میں مرقوم ہے۔

”۱۹۴۵ء سے لے کر ۱۹۴۷ء کے آغاز تک احمدیوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ تو ایک ہندو دنیاوی حکومت یعنی ہندوستان کو اپنے لئے پسند کرتے تھے اور نہ پاکستان کو منتخب کر سکتے تھے۔“

(رپورٹ میئر انکوآری کمیٹی میں ۱۹۶۱ء)

خلیفہ کا اپنا فرعونی بیان

اب ہم خلیفہ کی سیاست کاری اور حکومت کا غلبہ حاصل کرنے کے بارے میں خلیفہ صاحب کے اپنے ارشادات ہدیہ قارئین کرتے ہیں: ”غرض سیاست میں مداخلت کوئی غیر دینی فعل نہیں بلکہ یہ ایک دینی مقاصد میں شامل ہے۔ جس کی طرف توجہ کرنا وقتی ضروریات اور حالات کے مطابق لیڈران قوم کا فرض ہے..... پس قوم کے پیش آمدہ حالات کو مد نظر رکھنا اور اس کی تکالیف کو دور کرنے کی تدبیر کرنا اور ملکی سیاسیات میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس کے شامل حال ہوتی ہے اور اس زمانہ میں گذشتہ پندرہ سال کے تاریخی واقعات ہمارے اس بیان کی صداقت پر مہر لگا رہے ہیں۔“

(الفضل ۲۳ دسمبر ۱۹۳۲ء)

”اسلام کی ترقی احمدی سلسلہ سے وابستہ ہے اور چونکہ یہ سلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں پھیل نہیں سکتا۔ اس لئے خدا نے چاہا ہے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے..... پس مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تمہاری ترقی کا راستہ کھول دیا ہے۔“

(الفضل مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۱۳ء)

”ہمیں نہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپرد کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیار ہونا چاہئے کہ دنیا کو سنبھال سکیں؟“

(الفضل مورخہ ۴ جون ۱۹۴۰ء)

”انگریز اور فرانسیزی وہ دیواریں ہیں جن کے نیچے احمدیت کی حکومت کا خزانہ مدفون ہے اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے۔ جب تک کہ خزانہ کے مالک جوان نہیں ہو جاتے۔ ابھی احمدیت چونکہ ہالغ نہیں ہوئی اور ہالغ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خزانہ پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ اس لئے اگر اس وقت یہ دیوار گر جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ اس پر قبضہ جمالیں گے۔“

(افضل مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۲۲ء)

”اصل تو یہ ہے کہ ہم نہ انگریز کی حکومت چاہتے ہیں نہ ہندوؤں کی ہم تو احمدیت کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔“

(افضل مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۲۲ء)

”میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ انگریزی حکومت چھوڑ، دنیا میں سوائے احمدیوں کے اور کسی کی حکومت نہیں رہے گی۔ پس جب کہ میں اس بات کا قائل ہوں بلکہ اس بات کا خواہشمند ہوں کہ دنیا کی ساری حکومتیں مٹ جائیں اور ان کی جگہ احمدی حکومتیں قائم ہو جائیں تو میرے متعلق یہ خیال کرنا کہ میں اپنی جماعت کے لوگوں کو انگریزوں کی دائمی غلامی کی تعلیم دیتا ہوں۔ کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔“

(افضل مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۳۹ء)

”ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ تھوڑے عرصہ کے اندر ہی (خواہ اس وقت ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ لیکن بہر حال وہ عرصہ غیر معمولی طور پر لمبا نہیں ہو سکتا) ہمیں تمام دنیا پر نہ صرف عملی برتری حاصل ہوگی بلکہ سیاسی اور مذہبی برتری بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ خیال ایک مفٹ کے لئے کسی سچے احمدی کے دل میں غلامی کی روح پیدا نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے سامنے بعض حکام آتے ہیں تو ہم اس یقین اور وثوق کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے ہیں کہ کل یہ نہایت عجز و اکسار کے ساتھ ہم سے استمداد کر رہے ہوں گے۔“

(افضل مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۳۸ء)

”اس وقت حکومت احمدیت کی ہوگی۔ آمدنی زیادہ ہوگی۔ مال و اموال کی کثرت ہوگی۔ جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگی اس وقت اس قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔“

(افضل مورخہ ۱۸ جون ۱۹۲۶ء)

”اس وقت تک کہ ہماری بادشاہت قائم نہ ہو جائے تمہارے راستے سے یہ کانٹے ہرگز دور نہیں ہو سکتے۔“

(افضل مورخہ ۱۸ جولائی ۱۹۳۰ء)

دیکھ لیجئے! خلیفہ صاحب مستقبل قریب میں حصول اقتدار کی امیدیں کس قدر وثوق سے لگائے بیٹھے ہیں اور حصول آزادی ہی نہیں بلکہ حصول حکومت کے لئے ان کی راہیں دوسرے اہل وطن اور دوسرے مسلمانوں سے کس قدر مختلف تھیں اور یہ اعلان بالوضاحت کیا جا رہا تھا کہ

مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے حکومت ان کو نہیں بلکہ صرف اور صرف احمدیوں کو ہی ملے گی۔
 ”اور مسلمان جنہوں نے احمدیت سے اپنا تعلق نہیں جوڑا وہ گرتے ہی جائیں گے اور
 گرتے گرتے یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے نائب کا انکار کرنے
 کی وجہ سے ذلیل ہوئے تھے..... اور محمد رسول اللہ ﷺ کی شان موسیٰ علیہ السلام کی شان سے بہت
 بلند ہے۔ اس لئے آپ کے نائب کا انکار کرنے والوں کی ذلت یہودیوں سے بڑھ کر ہوگی۔“

(الفضل مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۱۳ء)

ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے ان کے پروگرام اور دعویٰوں کے مطابق حکومت ان کو
 نہیں مل سکی اور نہ ہی یہ حکومت برطانیہ کے جانشین بن سکے اور وہ دیوار بھی گر گئی جس کے نیچے
 بھول ان کے احمدیت کا خزانہ مدفون تھا اور جس کے بل بوتے پر انہوں نے ہر نپٹنے والے سے پھٹنا
 تھا تو پاکستان کا استقلال اور اس کا قیام اور اس کی سالمیت انہیں کس طرح گوارا ہو سکتی تھی اور
 خصوصاً جب کہ حکومت ان مسلمانوں کو مل گئی جن کے متعلق خلیفہ نے کہا: ”ہنس اسلام کی ترقی
 احمدی سلسلہ کے ساتھ وابستہ ہے اور چونکہ یہ سلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں نہیں پھیل
 سکتا۔ اس لئے خدا نے چاہا ہے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے تاکہ اس سلسلہ حق کے پھیلنے کے
 لئے دروازے کھولے جائیں۔“

(الفضل مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۱۳ء)

چنانچہ ان کی اس نیت کو کہ وہ پاکستان بننے سے خوش نہیں ہوئے تھے۔ خلیفہ کا اپنا ایک
 ارشاد پیش خدمت ہے۔ ”ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ
 مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح پر متحد ہو جائے۔“

(الفضل مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۴۷ء)

پھر کہا: ”بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں باہم شہر و شکر
 ہو کر رہیں۔“

(الفضل مورخہ ۵ مارچ ۱۹۴۷ء)

پس ان اقتباسات سے مرزا محمود احمد کی حکومت کے بارے میں ریشہ دو انہوں کا علم ہو
 جاتا ہے۔ اس کے یہ اقوال اس کی نیت کی غمازی کر رہے ہیں۔ اکھنڈ ہندوستان کی تجویزیں
 پاکستان اور ہندوستان کی سرحدیں ختم کرنے کے الہامات مملکت در مملکت قائم کرنے کا بین ثبوت
 ہیں۔ اس خلیفہ کی منافقت اور سیاسی دجل کا بھانڈا چوراہے میں پھوٹا ہے۔ اس کے اپنے دعوے یہ
 تھے کہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کو حکومت اور آزادی ملے گی اور یہ کہ احمدی مسلمانوں
 کے ساتھ مل کر اور ان کے شانہ بشانہ حصول آزادی کی کوششیں نہیں کر رہے بلکہ وہ ان سے الگ

کوشش کر رہے ہیں۔ ان الفاظ نے خلیفہ ربوہ کی تمام جدوجہد سے پردہ اٹھا دیا ہے اور انہیں بالکل عریاں کر کے رکھ دیا ہے۔ کس قدر غداری کے ساتھ اور کس قدر دجل کے ساتھ مسلمانوں کا جزو ہو کہ اور ان کا حصہ بن کر ان کے نام سیاسی حقوق لے کر سوچا یہ چاہا تھا کہ آزادی اور حکومت صرف مسلمانوں کی سرکوبی کے لئے حاصل کی جائے گی۔ خلیفہ ربوہ کی سرکاری گزٹ الفضل نے لکھا تھا۔ ”جو فتح اپنے وقت سے ذرا پیچھے ہٹ جاتی ہے اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔“

(الفضل مورخہ ۸ نومبر ۱۹۳۰ء)

سنگین نگرانی کی اشد ضرورت

اب اپنی فتح کی امیدوں کو پاش پاش ہوتا دیکھ کر زخمی سانپ کی طرح بے تاب ہیں اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لئے سیاسی جوڑ توڑ میں مشغول ہیں۔ ہم حکومت کو اس بات سے آگاہ کر دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ مرزا محمود کی سازشوں اور حرکات کو اپنی نگاہوں میں رکھے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ کسی دشمن کا مقابلہ اس کے طریق کار کو سمجھنے کے بعد ہی کامیابی سے کیا جاسکتا ہے۔ پس ضروری تھا کہ اس کی ویسہ کاریوں اور رو باہی چالوں کو پہلے سے سمجھ لیا جاتا۔ دنیا کا چارج سنبھالنا، حکومت پر قبضہ کرنا۔ اپنا اقتدار قائم کرنا، یہی وہ تصورات تھے جن کی بدولت خلیفہ ربوہ کے بعض سادہ لوح مریدوں کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور بنگال کی گورنری وغیرہ کے خواب دیکھنے لگ گئے۔ لیکن یہ محض تصورات و نظریات ہی نہ تھے بلکہ خلیفہ ربوہ نے اپنی جماعت کو ان نظریات کی عملی تدبیر کے لئے جماعت کی باقاعدہ تربیت کی اور اپنے عرسا مری سے اپنے مریدوں کو حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے شعوری اور غیر شعوری طور پر ابھارتے رہے۔ اس ضمن میں خلیفہ ہذا کے اپنے اقوال ملاحظہ فرمائیے۔

”اس وقت اسلام کی ترقی خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ یاد رکھو کہ سیاسیات اور اقتصادیات اور تمدنی امور حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پس جب تک ہم اپنے نظام کو مضبوط نہ کریں اور تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے حکومتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم اسلام کی ساری تعلیموں کو جاری نہیں کر سکتے۔“

(الفضل مورخہ ۵ جنوری ۱۹۳۷ء)

”یہ مت خیال کرو کہ ہمارے لئے حکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے لئے بھی حکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا ایسا ہی ضروری ہے۔“ (الفضل مورخہ ۸ جنوری ۱۹۳۷ء)

اسی طرح خلیفہ محمود ربوہ کے ہاں جو بھی اندرونی نظام ہے وہ حفاظت مرکز خدام الاحمدیہ کو یاد دیکر کسی نام سے بھی قائم کیا جاتا ہے۔ خلیفہ خود ہی اس کا سالار اعظم اور فیڈ مارشل ہوتا

ہے اور جماعت کی ہر قسم کی فوجی تنظیموں کی سربراہی اور سرپرستی اس کو حاصل ہے۔
 خود خلیفہ نے کہا: ”مجلس شوریٰ ہو یا صدر انجمن احمدیہ، انتظامیہ ہو یا عدلیہ، فوج ہو یا
 غیر فوج، خلیفہ کا مقام بہر حال سرداری کا ہے۔“ (افضل مورخہ یکم ستمبر ۱۹۳۲ء)
 ”انتظامی لحاظ سے صدر انجمن کے لئے بھی راہ نما ہے اور آئین سازی و بحث کی
 تعین کے لحاظ سے بھی وہ مجلس مشاورت کے نمائندوں کے لئے بھی صدر اور راہنما کی حیثیت
 رکھتا ہے۔“

”جماعت کی فوج کے الگ دو حصے تسلیم کر لئے جائیں تو وہ اس کا بھی سردار ہے اور اس
 کا بھی کمانڈر ہے اور دونوں کے فرائض کا بھی ذمہ دار ہے اور دونوں کی اصلاح اس کے ذمہ واجب
 ہے۔“ (افضل مورخہ ۲۷ اپریل ۱۹۳۸ء)

خلیفہ کی مزعومہ بادشاہت

غرض جماعت احمدیہ میں خلافت ایک دنیاوی بادشاہت کی حیثیت رکھتی ہے۔ خلیفہ کا
 ہر حکم مذہبی یا سیاسی جماعت کے ممبروں کے نزدیک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خلیفہ کے ادنیٰ
 اشارہ پر اپنی جان و مال قربان کر دیا جاتا ہے۔ احمدیوں کی کمائی کا اکثر حصہ خلیفہ کی جیب کی نذر
 ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو مبلغ ہیں وہ دراصل خلیفہ کے کار خاص
 اور سفارت خانے ہیں اور تمام بیرونی ممالک کی کرنسی جو چندہ کی صورت میں ان کو ملتی ہے، وہ اس
 کو استعمال کرتے ہیں اور لاکھوں روپے گورنمنٹ کی کرنسی سے بھی حاصل کر کے بیرونی ممالک میں
 اپنی من مانی کارروائیوں کے لئے صرف کرتے ہیں۔ کبھی مبلغوں کی تنخواہوں کے بہانہ اور کبھی
 مساجد کی تعمیر کے لئے ہزاروں روپے گورنمنٹ کی قیمتی غیر ملکی کرنسی سے لئے جاتے ہیں اور خرچ
 اپنی مرضی کے مطابق کر لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے لئے وہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں ان کا اپنا
 چندہ کہاں جاتا ہے۔ ۵۰ سال غیر ملکوں میں تبلیغ کرتے ہو گئے ہیں۔ کروڑوں روپے کا قارن
 اکٹھا یہ لے چکے ہیں۔ اس کے بالمتقابل وہاں کتنے احمدی ہوئے ہیں۔ یہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔
 خلیفہ کا نظام اس قدر خطرناک ہے کہ ایک بڑی سے بڑی حکومت کے نظام کا مقابلہ کرنے کے لئے
 کافی ہے۔ دوسری حکومتوں میں اپنے حلیف پیدا کئے جاتے ہیں۔ خلیفہ کا کہنا ہے کہ حکومتیں ملک
 اور تو میں مجھ سے ڈرتی ہیں۔ خلیفہ اپنے کار خاص کے ذریعہ مملکت کے راز معلوم کرتا ہے۔ اس کی
 اپنی عدلیہ، متفقہ، انتظامیہ، فوج اور بنک ہے۔ پس حکومت پاکستان کے جو ارکان اسے نظر انداز
 کرتے ہیں ان کا یہ فعل ملک و ملت سے غداری کے مترادف ہے۔ مملکت محمودیہ ربوہ میں کسی احمدی

کو قبل از وقت اجازت حاصل کئے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اس بارے میں سرکاری گزٹ افضل کا مندرجہ ذیل اعلان قادیان کے متعلق ملاحظہ فرمائیے۔

”مضافات قادیان، منگل، باغبان، ہانگر خوردو کلاں، نواں پنڈ، قادرا بادوار احمد آباد وغیرہ میں سکونت اختیار کرنے کے لئے باہر سے آنے والے احمدی دوستوں کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے نکارت ہذا سے اجازت حاصل کریں۔“ (الفضل مورہ ۲۵ جنوری ۱۹۳۹ء)

پھر ریوہ میں آ کر ظیفہ کا اعلان: ”سب تحصیل لالیاں میں کوئی احمدی بلا اجازت انجمن زمین نہیں خرید سکتا۔“

پھر ریوہ میں داخل ہونے کے بارے میں خلیفہ محمود کا حکم اتنا ہی ملاحظہ ہو۔ ”ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے لوگوں کو جن کو یا تو ہم نے جماعت سے نکال دیا ہے یا جنہوں نے خود اعلان کر دیا ہوا ہے کہ وہ جماعت میں شامل نہیں۔ آئندہ انہیں ہماری ملوکہ زمین میں آ کر ہمارے جلسوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔“ (الفضل مورہ ۲۳ فروری ۱۹۵۶ء)

چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارو

اب اس اعلان کی رو سے وہ لوگ جنہوں نے انجمن کی ملوکہ زمین میں سے زمین خریدی ہوئی ہے ان کو ریوہ میں جا کر اپنی زمین اور مکان کی حفاظت کی اجازت نہیں۔ کیونکہ اگر وہ وہاں جائیں گے تو ان پر پولیس کی امداد سے کوئی جھوٹا مقدمہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ گویا ان کی زمینیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ یہ بھی ریاست احمدیہ ریاست کا ایک بین ثبوت ہے۔

محمودی چارٹر

حکومت محمودیہ میں کاروبار کرنے کے لئے ہر شخص کو ذیل کا معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔

”میں اپنے تمام حقوق کو ضرور ہاتھ جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور ناظر تجارت جو حکم کسی چیز کے بچھڑانے کا دینے کے اس کی قبول کروں گا اور جو حکم ناظر امور عامہ دینے کے اس کی بلا جان و چراغ قبول کروں گا۔ نیز جو ہدایات و کتابت جاری ہوں گی ان کی پابندی کروں گا اور اگر کسی حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جو جرم مانا جائے گا وہاں ادا کروں گا۔“

”میں محمد کرنا ہوں کہ جو میرا بھلا احمدیوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمدیہ کا فیصلہ میرے لئے حتمی ہوگا اور ہر حکم کا سہرا احمدیوں سے لیا کروں گا۔ نیز میں محمد کرنا ہوں کہ احمدیوں کی مخالف ہٹاس میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔“

یہ ہے وہ معاہدہ جو ظیفہ ریوہ کی ریاست میں ہر اس شخص سے لکھوایا جاتا ہے جو

وہاں کا جزدین کر رہنا چاہیے۔ نظارت امور عامہ سے ایک اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا تھا اور غیر از جماعت لوگوں کو ایک معاہدہ تجارت پر دستخط کرنے کے بعد احمدیوں کے ساتھ لین دین کی اجازت ملتی تھی۔ بلکہ ہر شخص کی شخص جانیداد پر بھی ان کا تصرف تھا۔ اس ضمن میں ذیل کا اعلان پڑھے۔

اعلان

”قبل ازیں میاں فضل حق موچی سکندہ دار العلوم کے مکان کی نسبت اعلان کیا تھا کہ کوئی دوست نہ خریدے۔ اب اس میں ترمیم کی جاتی ہے کہ اس کے مکان کا سودا رہن و بیع نظارت ہند کے توسط سے ہو سکتا ہے۔“

(الفضل مورہ ۱۸ اگست ۱۹۳۷ء)

اب بھی ربوہ میں یہی صورت حال موجود ہے۔ جس شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ لین دین کے تعلقات بھی منقطع کر دیئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں خلیفہ کا جو سوشل ناظر امور عامہ حکم سنئے۔

”یعنی میاں فخر الدین ملتانی، شیخ عبدالرحمن معمری اور حکیم عبدالعزیز۔ ان کے ساتھ اگر کسی دوست کا لین دین ہو تو نظارت ہذا کی دساعت سے طے کریں۔ کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ممنوع ہیں۔“

(الفضل مورہ ۱۷ جولائی ۱۹۳۰ء)

سوشل بائیکاٹ کی مثالیں

پس خلیفہ ربوہ کا یہ عذر رنگ نہیں کرنا کہ لین دین منع نہیں۔ صرف تعلقات منقطع کرنے سے مراد جزدی بائیکاٹ یعنی سلام کلام تک ہے۔ اس کی روشنی میں سراسر جھوٹ اور فریب ہے۔ سوشل بائیکاٹ میں صرف لین دین ہی منع نہیں بلکہ کسی سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، اس کے گھر جانا حتیٰ کہ رشتہ تک کرنا ممنوع ہے۔ اس ضمن میں یہ ارشاد ملاحظہ ہو:

”میں چوہدری عبداللطیف کو اس شرط پر معاف کرنے کو تیار ہوں کہ آئندہ اس کے مکان واقع نسبت روڈ پر وہ افراد نہ آئیں جن کا نام اخبار میں چھپ چکا ہے..... چوہدری عبداللطیف نے یقین دلایا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ آئندہ اس جگہ پر نہیں آئیں گے اور میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جماعت لاہور (قادیانی) اس کی نگرانی کرے گی اور اگر اس نے پھر ان لوگوں سے تعلق رکھا یا اپنے مکان پر آنے دیا تو پھر اس کی معافی کو منسوخ کر دیا جائے گا۔“

(الفضل مورہ ۲۲ نومبر ۱۹۵۶ء)

اسی طرح خلیفہ صاحب نے اپنے ایک رشتہ دار ڈاکٹر علی اسلم کی بیگم امتہ السلام صاحبہ کا

سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنی بہو کو جوامتہ السلام کی ہمیشہ رہے یہ دھمکی دی تھی کہ: ”اب اگر تنویر بیگم جو میری بہو ہے افضل میں اعلان نہ کرے کہ میرا اپنی بہن سے کوئی تعلق نہیں تو میں اس کے متعلق افضل میں اعلان کرنے پر مجبور ہوں گا کہ لجنہ (قادیانی عورتوں کی انجمن) اس کو کوئی کام سپرد نہ کرے اور میرے خاندان کے وہ افراد جو مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس سے تعلق نہ رکھیں۔“

(افضل مورخہ ۲۱ جون ۱۹۵۷ء)

چنانچہ خلیفہ محمود کا یہ اعلان شائع ہونے کی دیر تھی۔ فوراً تنویر الاسلام نے سوشل بائیکاٹ کے ڈر سے اپنی بہن کے خلاف یہ اعلان افضل میں شائع کر دیا۔ ”ڈاکٹر سید علی اسلم صاحب (حال ساکن نیروبی) اور سیدہ امتہ الاسلام (بیگم ڈاکٹر علی اسلم) نے جماعت کے نظام کو توڑنے کی وجہ سے میرے رشتے کو بھی توڑ دیا ہے۔ لہذا آئندہ ان سے میرا کسی قسم کا تعلق نہ ہوگا۔“

(افضل مورخہ ۲۵ جون ۱۹۵۷ء)

یہ ہیں چند مثالیں سوشل بائیکاٹ وغیرہ کی جن کی طرف تمام ملکی اخبار اور جرائد نے ارباب بست و کشاد کی توجہ دلائی اور خصوصاً نوائے وقت نے بھی اس ریاست اندر ریاست کے کھیل کو ختم کرنے کا حکومت پر زور دیا۔ مگر یہ آواز بھی صدا بصر اٹابت ہوئی۔ کیونکہ گورنمنٹ نے اس وقت تک اس ریاست کے بارے میں کوئی واضح اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ ہم یہ بات واضح کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں کہ خلیفہ ربوہ ہر اس آدمی کو شدید نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتا جو اس کے احکام کی تعمیل نہ کرے اور ان کی مخالفت کرے۔ چنانچہ انہی دنوں اسی سوشل بائیکاٹ پر عمل نہ کرنے کے سبب اور سوشل بائیکاٹ کئے گئے افراد کو اشیاء خورد و نوش مہیا کرنے کے جرم کی پاداش میں اللہ یار بلوچ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ جس کا مقدمہ چل رہا ہے۔

خلیفہ محمود کا دستور تھا کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف اپنے مریدوں کو ابھارتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ان کی تقریر کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو: ”اگر تم میں رائی کے دانہ کے برابر بھی حیا ہے اور تمہارا راجح معی عقیدہ ہے کہ دشمن کو سزا دینی چاہئے تو پھر یا تم دنیا سے مٹ جاؤ گے یا گالیاں دینے والے کو مٹا دو گے۔ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اس میں مارنے کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا۔ اے بے شرم! تو آگے کیوں نہیں جاتا۔ او! اس کے منہ کو کیوں نہیں توڑتا۔“

(افضل مورخہ ۵ جون ۱۹۳۷ء)

ان مذکورہ بالا امور کی طرف توجہ دلانے کے بعد گورنمنٹ کی توجہ ان بنیادی اجزاء اور عناصر کی طرف مبذول ہونی چاہئے جو ریاستوں اور حکومتوں میں پائے جاتے ہیں اور جو ربوہ کی

مصنوعی ریاست میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ چنانچہ وہ یہ ہیں۔ سربراہ، مقتنہ، عدلیہ، انتظامیہ، فوج دارالحکومت اور بینک وغیرہ وغیرہ۔ اپنے انتظام کے بارے میں خلیفہ کا اپنا دعویٰ یہ ہے: ”ان کی جماعت کا نظام ایک مضبوط سے مضبوط گورنمنٹ کے نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔“

(الفضل مورخ ۱۱ جولائی ۱۹۳۷ء)

اب ہم بالتفصیل ان مذکورہ بالا امور کے بارے میں اگلے باب میں علیحدہ علیحدہ روشنی ڈالیں گے۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے وہ قادیان میں چھوڑی ہوئی جائیداد کے بارے میں ہے۔ مہاجرین جو قادیان میں جائیداد چھوڑ آئے۔ ان کو خلیفہ ربوہ نے کلیم داخل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کے کلیم احمدیوں نے داخل نہیں کئے اور گورنمنٹ پاکستان کو اس وجہ سے لاکھوں روپے کے کلیم کم آئے۔ کیا یہ گورنمنٹ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی نہیں تھی۔

خلافتی حکومت کا تفصیلی خاکہ

اب ہم ذیل میں ربوی مملکت کے اجزائے ترکیبی کے ہر جز پر خلیفہ صاحب کی زبان سے روشنی ڈالیں گے۔

سربراہ

”ریاست میں حکومت کے اس نیابتی فرد کا نام ہے جس کو لوگ اپنے مشترکہ حقوق کی نگرانی سپرد کرتے ہیں۔“

(الفضل مورخ ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۶ء)

ربوہ کی اصطلاح میں جماعت کے سربراہ کو خلیفہ کہتے ہیں اور ایسا خلیفہ اگرچہ غلطی سے منزه نہیں کہلا سکتا۔ لیکن احتساب سے بالا ضرور ہوتا ہے۔ خلیفہ ربوہ کے اپنے ارشادات گرامی ملاحظہ فرمائیے: ”جس مقام پر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے ان پر اعتراض کرنے والے ٹھوکر سے بچ نہیں سکتے۔“

(الفضل مورخ ۱۸ جون ۱۹۲۶ء)

”مجھ پر سچا اعتراض کرنے والا خدا کی لعنت سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ اسے تباہ

(الفضل مورخ ۲۹ جولائی ۱۹۲۸ء)

و برباد کر دے گا۔“

مقتنہ (یعنی مجلس مشاورت)

مقتنہ کو خلیفہ ربوہ کے نظام میں مجلس شوریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دیگر محکمہ جات کی طرح کلیتاً خلیفہ کے ماتحت ہوتی ہے اور خلیفہ ربوہ کے نزدیک اس مجلس کی وہی پوزیشن ہے جو خلفائے

راشدین میں قائم شدہ مجلس شوریٰ کو حاصل تھی۔ اس مجلس کا کام ہے کہ ان امور میں مشورہ دے جن میں خلیفہ مشورہ طلب کرے۔ اس کا کوئی مشورہ جب تک خلیفہ منظوری نہ دے اور جاری نہ فرمائے۔ صدر انجمن کے لئے واجب التعمیل نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر محکمہ کی نگرانی خلیفہ ربوہ خود فرماتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کا قول ملاحظہ ہو۔

”تمام محکموں پر خلیفہ کی نگرانی ہے۔“

(الفضل مورخہ ۱۵ نومبر ۱۹۳۰ء)

”اسے یہ حق ہے (یعنی خلیفہ کو) کہ جب چاہے جس امر میں چاہے مشورہ طلب کرے۔ لیکن اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ مشورہ لے کر رو کر دے۔“

(الفضل مورخہ ۷ اپریل ۱۹۳۷ء)

معتقدہ کے ممبروں کی تعداد کو نہیں۔ اس میں دو قسم کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جماعتوں کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن ان کی منظوری بھی خلیفہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جماعت کے چنے ہوئے نمائندے خلیفہ رد کر سکتا ہے اور ان کو معتقدہ میں شامل ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیفہ خود جتنے افراد کو چاہے اپنی طرف سے معتقدہ کا ممبر بنا سکتا ہے۔ معتقدہ کے اس اجلاس میں کوئی شخص بغیر اجازت خلیفہ ایوان کو خطاب نہیں کر سکتا اور نہ ہی بغیر منظوری خلیفہ اس مجلس سے باہر جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں خلیفہ کا ارشاد بغرض تصدیق پیش ہے۔

”پارلیمینٹوں میں وزراء کو وہ جہازیں پڑتیں..... جن کی حد نہیں۔ یہاں تو میں روکنے والا ہوں۔ گالی گلوچ کو سنا کر روکتا ہے۔ سخت تنقید کو نہیں۔“

(الفضل مورخہ ۲۷ اپریل ۱۹۳۸ء)

لیکن خلیفہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے بولنے کا موقع دے اور جسے چاہے اس حق سے بالکل محروم کر دے۔

یہ مجلس صرف ایک دفعہ سال میں منعقد ہوتی ہے اور اس میں بجٹ وغیرہ کی منظوری کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مگر بجٹ کی منظوری کے متعلق بھی خلیفہ صاحب کہہ دیا کرتے ہیں کہ بعد میں اس پر غور کر کے میں خود ہی دے دوں گا۔ یعنی اس معتقدہ کو اصل میں کوئی اختیار نہیں۔

انتظامیہ

اس کے بعد ہم خلیفہ کی انتظامیہ کے بارے میں کچھ عرض خدمت کریں گے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ضمن میں خلیفہ کے ارشادات ہی نقل کر دیں۔ جس میں اسی انتظامیہ کی ضرورت اور ماہیت کا اجمالی نقشہ موجود ہے۔ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں: ”تیسری بات تنظیم کے لئے یہ ضروری ہوگی کہ اس کے مرکزی کام کو مختلف ذمہ دار شخصوں میں اس طرح تقسیم کیا جائے جس

طرح گورنمنٹوں کے محکمے ہوتے ہیں۔ سیکرٹری شپ کا طریقہ نہ ہو۔ بلکہ وزراء کا طریقہ ہو اور ہر ایک میٹنگ کا ایک انچارج ہو۔“

(المجلس مورچہ ۱۸ جولائی ۱۹۳۵ء)

خلیفہ کی اس انتظامیہ کو جسے صدر انجمن احمدیہ بدوہ کی اصطلاح میں نظارت کہا جاتا ہے ان کے ہاں ہر ایسے وزیر کو ناظر کہا جاتا ہے۔ ایسے ناظران کی ناکروگی انشاء ترقی یا تنزل خلیفہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ملاحظہ ہوا رشاڈ گرامی: ”ناظر ہیٹھ میں ناکر دکر تا ہوں۔“ (المجلس ۳۳ ماسٹ ۱۹۳۷ء)

یہ انتظامیہ اپنے سارے کام خلیفہ کی قائم مقامی میں کرتی ہے۔ اس کے ہر فیصلہ کی اپیل خلیفہ سنتا ہے اور اس کے لئے خلیفہ کا حکم قطعی اور ناطق ہوتا ہے۔ یہ اپنے قواعد خلیفہ کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کر سکتی اور اس کے فیصلوں کی تمام تر ذمہ داری خلیفہ پر ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ انتظامیہ خلیفہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔ ”صدر انجمن جو کچھ کرتی ہے چونکہ وہ خلیفہ کے ماتحت ہے اس لئے خلیفہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔“

(المجلس مورچہ ۲۳ مارچ ۱۹۳۸ء)

لیکن اس انتظامیہ کو بھی خلیفہ کی برائے نام نمائندگی کا حق ہے۔ عملاً خلیفہ کی حیثیت ایک آمر مطلق ہے۔ خود خلیفہ کا اعلان: ”ناظر یعنی (وزراء) بعض دفعہ چلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔“

(المجلس مورچہ ۲۷ مارچ ۱۹۳۸ء)

صدر انجمن احمدیہ

ہر صوبہ میں ایک انجمن ہوتی ہے۔ یہ انجمن ضلعوں کی انجمنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر ضلع کی انجمن تحصیلوں کی انجمنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کی حد بندی صدر انجمن متعلقہ انجمنوں کے مشورہ کے بعد کرتی ہے۔

اغراض

اس انجمن کے اغراض میں وہ سب کام شامل ہیں جو خلفاء سلسلہ کی طرف سے سپرد کئے جاتے ہیں یا آئندہ کئے جائیں۔

اراکین

تمام میٹنگ جات سلسلہ کے ناظر اور تمام اصحاب جنہیں خلیفہ وقت کی طرف سے صدر انجمن کا رازد ممبر مقرر کیا جائے۔

ناظر سے مراد سلسلہ کے ہر مرکزی میٹنگ کا وہ اراکین ہیں جسے خلیفہ وقت نے ناظر کے نام سے مقرر کیا ہے۔

تقریر علیحدگی ممبران صدر انجمن

خلیفہ وقت کی ہدایت کے ماتحت ممبران صدر انجمن کا تقریر اور علیحدگی عمل میں آتی ہے۔

اندرونی انتظام

صدر انجمن کے فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا صدر ان کو دیکھ کر سکتا ہے۔ اس انجمن کے صدر خلیفہ کی زندگی میں ان کے بڑے بیٹے مرزا ناصر احمد پرنسپل ٹی آئی کالج ربوہ تھے۔ اس وقت ربوہ میں صدر انجمن احمدیہ کی جو نظارتیں (وزارتیں) قائم ہیں ان کا ایک خاکہ درج ذیل ہے۔

۱..... ناظر اعلیٰ: ناظر اعلیٰ سے مراد وہ ناظر ہے جس کے سپرد تمام محکمہ جات کے کاموں کی عمومی نگرانی ہوگی اور وہ خلیفہ اور صدر انجمن احمدیہ یعنی کابینہ کے درمیان واسطہ ہوگا۔

۲..... ناظر امور عامہ: وزیر داخلہ و صحت (نوجوہاری مقدمات، ہسپتالوں کی تنفیذ نیز پولیس اور حکومت سے روابط قائم کرنا اس محکمہ کا کام ہے)۔

۳..... ناظر امور خارجہ: وزیر خارجہ: (اپنی ریاست ربوہ سے باہر اندرون ملک و بیرون ملک کاروائیاں اور سیاسی گٹھ جوڑ)

۴..... ناظر اصلاح و ارشاد: وزیر پروپیگنڈا و مواصلات۔

۵..... ناظر بیت المال: وزیر مال۔

۶..... ناظر تعلیم: وزیر تعلیم۔

۷..... نظارت قانون: وزیر قانون۔

۸..... ناظر صنعت: وزیر صنعت۔

۹..... ناظر زراعت: وزیر زراعت۔

۱۰..... ناظر ضیافت: وزیر خوراک۔

۱۱..... ناظر تجارت: وزیر تجارت۔

۱۲..... ناظر حفاظت مرکز: وزیر دفاع (پولیس و فوج کا کنٹرول اور ربوہ و قادیان اضطراری

حفاظت کا بندوبست)

اختیارات و فرائض ناظران

ناظران کے اختیارات و فرائض وقتاً فوقتاً خلیفہ کی طرف سے تفویض ہوتے رہتے

ہیں۔ ناظروں کی تعداد خلیفہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ صدر انجمن کے تمام فرائض وہی ہیں جو خلیفہ کی طرف سے تفویض ہیں۔ جنہیں وہ خلیفہ کی قائم مقامی کے طور پر ادا کرتی ہے۔ تمام ماتحت مجالس خواہ مرکزی ہوں یا مقامی۔ قواعد کا نفاذ خلیفہ کی منظوری کے بعد ہوتا ہے۔ بجٹ خلیفہ کی منظوری سے طے اور اس کی منظوری سے جاری ہوتا ہے۔ صدر انجمن کے ہر فیصلے کے خلاف جو توسط صدر انجمن خلیفہ کے پاس اپیل ہوتی ہے۔ ہر ایک معاملہ میں صدر انجمن کا اس کی ماتحت مجالس اور تمام مقامی انجمنوں کے لئے حکم قطعی اور نااطق ہوتا ہے۔ قواعد اساسی اور ان کے متعلق نوٹوں میں تغیر و تبدل صرف خلیفہ کی منظوری سے ہو سکتا ہے۔ اپنے قواعد و ضوابط میں جو خلیفہ نے تجویز کئے ہوں، صدر انجمن تبدیل نہیں کر سکتی۔ صدر انجمن کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کوئی ایسا قاعدہ یا حکم جاری کرے جو خلیفہ کے کسی حکم کے خلاف ہو یا جس سے خلیفہ کی مقرر کردہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آتی ہو۔ ناظروں اور مفتی کا سلسلہ تقرر و ترقی و تنزل و برطرفی وغیرہ صرف خلیفہ کے اختیار میں ہے۔ صدر انجمن کو سلسلہ کی جائیداد غیر منقولہ کی فروخت بہہ، رہن و تبدیل کرنے کا بغیر منظوری خلیفہ ربوہ اختیار نہیں اور خلیفہ ربوہ ہی ناظر اعلیٰ کا قائم مقام مقرر کرتا ہے۔ ناظران اور افسران صیغہ جات کے کام کی ہفتہ وار رپورٹ خلیفہ ربوہ کی خدمت میں پیش کرے۔ ناظر اعلیٰ کا یہ فرض ہے کہ خلیفہ کی تحریری و تقریری ہدایات کے علاوہ ان کے تمام خطبات و تقاریر وغیرہ میں جو احکام و ہدایات جماعت کے نظام کے متعلق ہوں ان کی تعمیل کروائے۔ اسی طرح قاعدہ ہے کہ جب کوئی ناظر بحیثیت ناظر کسی جگہ جائے تو جماعت کا فرض ہے کہ اس کا استقبال کرے اور اس کا مناسب اعزاز کرے۔ (مذکورہ بالا تمام کوائف قواعد صدر انجمن طبع شدہ سے لئے گئے ہیں)

عدلیہ

انتظامیہ کے علاوہ خلیفہ صاحب کے ہاں ایک مربوط عدلیہ بھی ہے۔ خلیفہ خود آخری عدالت ہے اور خود ہی ناظم قضایا رجسٹر مقرر کرتا ہے اور اس کا عزل اور ترقی بھی خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ ربوی سپریم کورٹ کے جج یا ایبل بورڈ کے ممبران کی نامزدگی بھی خلیفہ خود کرتا ہے اور وہ جس مرحلہ پر چاہے مقدمہ کی نقل اپنے ملاحظہ کے لئے طلب کر لیتا ہے اور جس جج کو چاہے مقدمہ سننے کا نااہل قرار دے۔ ایسے مقدمات میں جو وکیل پیش ہوتے ہیں انہیں ناظم ہذا سے باقاعدہ اجازت نامہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر خلیفہ کی عدالتوں میں کسی وکیل کو حکومت کے اجازت نامہ کے باوجود پیش ہونے کا حق نہیں۔ خلیفہ کا یہی ناظم قضایا رجسٹر مقدمہ مختلف قاضیوں کے سپرد کرتا ہے اور فیصلوں کی نقول مہیا کرنے پر جو آمدنی ہوتی ہے اس کو داخل خزانہ کرنے کا بھی ذمہ دار

ہے۔ سلسلہ احمدیہ کے فرائض دربارہ قضا اور فیصلہ تنازعات کی ادا نگلی کے لئے بھی محکمہ قضا ہے۔ اس میں ناظم قضا کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ احمدیوں کے تنازعات کے فیصلوں کے لئے مناسب انتظام کرے۔ اس کو حسب ضرورت خلیفہ کے ایماہ سے قاضی اور قاضی القضاہ مقرر کرنے کا اختیار ہے۔ آخری اپیل خلیفہ کے پاس ہوتی ہے۔ (الفضل مورہ ۲۶ جنوری ۱۹۳۱ء)

قاضی سلسلہ من جاری کرنے کا مجاز ہے۔ نوٹس بھی دیتا ہے۔ ڈگریوں کا اجراء بھی کرایا جاتا ہے۔ ایک طرف قضا اور ضابطہ کی کارروائیاں بھی یہاں ہوتی ہیں۔ مثال ملاحظہ ہو:

نوٹس: بنام شیخ منظور احمد۔

مدعی: مستزی بہر الدین معمار ساکن قادیان۔

بنام: شیخ منظور احمد ولد شیخ محمد حسین مرحوم۔

دعویٰ: اجراء ڈگری مبلغ ۲۰ روپے۔

مقدمہ مندرجہ عثمان میں مکمل قضا نے مورہ ۳۱ اگست ۱۹۳۳ء کو ایک طرف ڈگری ۲۰ روپے کی دی تھی۔ مدعی نے امور عامہ میں اجراء ڈگری کی درخواست ۱۳ اگست ۱۹۳۳ء کو دی۔ لہذا آپ کو بذریعہ اخبار نوٹس دیا جاتا ہے کہ مندرجہ بالا ۲۳ دسمبر ۱۹۳۳ء تک دفتر امور عامہ میں جمع کراویں تو بھروسہ آپ کے خلاف ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی جاوے گی۔

(الفضل مورہ ۱۹ دسمبر ۱۹۳۳ء)

اب سن کے بارے میں سنئے: ”ملک عبدالحمید صاحب ولد غلام حسین صاحب محلہ دارالرحمن قادیان کے خلاف چھ مقدمات برائے ڈگری دائر ہیں۔ کئی دفعہ ان کے نام علیحدہ علیحدہ مقدمات میں سن جاری کئے گئے ہیں۔ مگر وہ قیصل سے پہلو تھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یکم دسمبر ۱۹۳۳ء کو ایک سن اگلے روز کی حاضری کے لئے جاری کیا گیا۔ اس پر ملک عبدالحمید نے حذر کیا میں ۱۵ یوم کے لئے باہر جا رہا ہوں۔ لہذا مجبور ہوں۔ اس پر اسی وقت ان کو اطلاع بھیجی گئی کہ آپ کو اس سن کی اطلاع پائی کے بعد باہر جانے کی اجازت نہیں۔ بلکہ اس سن کی قیصل واجب ہے۔ اگر واقعی آپ کو کوئی ایشہ ضروری کام ہے جو رک نہیں سکتا تو آپ کو لازم ہے کہ درخواست پیش کر کے عدم حاضری کی اجازت حاصل کریں..... لہذا ان کو بذریعہ اخبار اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس اعلان کی تاریخ سے دس روز کے اندر اندر دفتر امور عامہ میں حاضر نہ ہوئے تو سخت نوٹس لیا جائے گا۔“

(ناظر امور عامہ)

(الفضل مورہ ۹ دسمبر ۱۹۳۳ء)

خلیفہ کا عسکری نظام

اپنی موجودہ ریاست کی فوجی ضروریات کی تکمیل کا ابتدائی بندوبست تو خلیفہ نے یہ کیا کہ ایک روٹیا کاسہارا لے کر جماعت کو یہ تعین کی کہ فوجی فوریل فوج میں بھرتی جماعت کے لئے نہایت ضروری اور مفید ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کام آئندہ جماعت کے لئے باہر کتب ہوگا۔

(انضام مورخہ ۱۹۳۹ء اکتوبر ۱۹۳۹ء)

پارہ جماعت کے نو جوان طبقہ کو یہ بھی تحریک کی جاتی تھی: ”احمدی نو جوانوں کو چاہئے کہ ان میں سے جو بھی شہری ٹیری فوریل فورس میں شامل ہو سکتے ہیں، شامل ہو کر فوجی تربیت حاصل کریں۔“

اس کے بعد اپنی مستقل فوجی تنظیم ضروری قرار دی۔ ”جیسا کہ پہلے اعلان کیا جا چکا ہے۔ یکم ستمبر ۱۹۳۳ء سے نو جوانوں میں فوجی تربیت کے لئے ایک کلاس کھولی جائے گی جس میں بیرونی جماعتوں کے نو جوانوں کی شمولیت نہایت ضروری ہے۔ ہندوستان میں حالات جس سرعت کے ساتھ تغیر پذیر ہو رہے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جلد از جلد اپنی فوجی تنظیم کی طرف متوجہ ہوں اور خاص کر جماعت احمدیہ ایک لہ کے لئے بھی اس میں توقف نہ کرے اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ ہر مقام کے نو جوان پہلے خود فوجی تربیت لیں۔ پھر اپنے اپنے مقام پر دوسرے نو جوانوں کو تربیت دیں اور ان کی ایسی تنظیمیں کریں کہ ضرورت کے وقت مفید ثابت ہو سکیں۔“

(انضام مورخہ ۱۹۳۳ء اگست ۱۹۳۳ء)

”صدر انجمن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انجمن کے تمام کارکن و اہلکار کو کور کے گھروں کے اور مہینہ میں کم از کم ایک دن اپنے فرائض منصبی کو رکھ کر وادی میں باوا کریں گے۔ نیز بیرونی جماعتوں کے اہلکار پر پانچ یا سات بجھت، عہدہ و مقامی طور کے اہلکار اعلیٰ ہوگی۔ جہاں کور کے ایک سے تین دستے ہوں گے جن میں سے ہر ایک سات آدمیوں پر مشتمل ہوگا۔ وہاں ہر دستہ کا ایک اہلکار دستہ مقرر ہوگا اور جہاں چار دستے ہوں گے وہاں ایک پلٹون بھی جائے گی۔ جن پر ایک اہلکار دستہ کے علاوہ ایک اہلکار پلٹون بھی ہوگا اور ایک نائب اہلکار پلٹون مقرر کیا جائے گا۔ جہاں چار پلٹونیں ہوں گی وہاں پر پلٹون کے نو کورہ بالا اہلکاروں کے علاوہ ایک اہلکار کھٹی اور ایک نائب اہلکار کھٹی بنا دیا جائے گا۔ حضرت امیر المؤمنین نے احمدیہ کو اپنی سرپرستی کے فخر سے سرفراز کرنا بھی منظور فرمایا ہے۔“

(انضام مورخہ ۱۹۳۳ء اگست ۱۹۳۳ء)

”کیم برتمبرج سات بجے تعلیم الاسلام ہائی سکول کی گراؤنڈ میں احمدیہ کورٹریٹنگ کلاس کا آغاز زیر نگرانی حضرت صاحب زادہ کیپٹن مرزا شریف احمد ہوا۔“ (الفضل مورخہ یکم ستمبر ۱۹۳۲ء)

”یہ فوج علاوہ دوسرے کاموں کے اپنے سربراہ کی نسلائی بھی اتارا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ مرزا شریف احمد ناظم احمدیہ کور کو بذریعہ تاریخبر موصول ہوئی کہ خلیفہ کیم براکتور ۱۹۳۲ء صبح دس بجے یا تین بجے بعد دوپہر تشریف فرمائے دارالامان ہوں گے۔ احمدیہ کور کارکنان صدر انجمن احمدیہ اور بہت سے دیگر افراد حسب الحکم حضرت میاں شریف احمد کوری وردی میں ملیں ہو کر ہائی سکول کی گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ جہاں سے مارچ کرا کر پٹالہ والی سڑک پر کھڑے کر دیئے گئے۔ خلیفہ آئے فوج نے فوجی طریقہ پر نسلائی اتاری۔ حضور نے ہاتھ کے اشارے سے فوجی سلام کا جواب دیا۔“

(الفضل مورخہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۲ء)

اس فوج کا اپنا ایک جھنڈا بھی تھا جو بزرگ کے کپڑے کا تھا اور اس پر منارۃ المسیح بنا کر ایک طرف اللہ اکبر اور دوسری طرف عباد اللہ لکھا ہوا تھا۔ جو اس فوج کا اصلی نام تھا۔ یہی وہ فوج تھی جو Coup وغیرہ کرنے دریا ئے بیاس کے کنارے بھی بھیجی گئی تھی۔

(الفضل مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۳۳ء)

یاد رہے دریا ئے بیاس کا ہی وہ رنگین اور پر بہار کنارہ تھا جہاں خلیفہ صاحب اپنی مستورات اور دیگر ممبران صنف نازک کو لے جا کر چاند ماری کی مشق کرایا کرتے تھے۔

جبری بھرتی

اس فوج کے لئے خلیفہ صاحب نے جبری بھرتی کا اصول اختیار فرمایا تھا۔ میں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں..... کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر پینتیس سال کی عمر تک کے تمام نوجوانوں کو اس میں جبری طور پر بھرتی کرایا جائے۔ (الفضل ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۲ء)

”ابتداء میں ناظر صاحب امور عامہ نے اس فوج کی کمان سنبھالی تھی۔ لیکن جلد ہی خلیفہ کی بارگاہ سے اس بارے میں سرزنش آ گئی۔ کمانڈر انچیف اور وزارت کا عہدہ کبھی کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوا۔“

(الفضل مورخہ ۵ اپریل ۱۹۳۳ء)

اس فوجی تنظیم کے بروقت قیام پر خلیفہ کو اتنا ناز تھا کہ سرکاری گزٹ افضل نے ایک موقع پر لکھا کہ: ”حضور نے احمدیہ کوری اسکیم آج سے تقریباً پانچ سال پہلے تجویز فرمائی تھی۔ اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عام اقوام تو الگ ہیں۔ اس وقت بعض بڑی

بڑی حکومتیں بھی اپنی قوت و رفعت میں اضافت کرنے کے لئے بعض ایسے احکام نافذ کر رہی ہیں جو اس تحریک کے اجزاء ہیں۔“

(الفضل مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۳۹ء)

اگر قادیانی خلافت کا مقصد محض اشاعت مذہب تھا تو اس مقصد کے لئے تصنیفی، تالیفی اور اشاعتی ادارے قائم ہوتے نہ کہ اس فوج تربیت پر زور دیا جاتا اور اس کے لئے ایک باقاعدہ عسکری نظام قائم کیا جاتا۔ اصل میں خلیفہ کے لاشعور میں بادشاہ بننے کی آرزوئیں انگڑائیاں لے رہی تھیں۔ اشاعت اسلام کا نعرہ محض دھوکے کی ٹٹی تھی۔ کیونکہ قادیانی عوام کا لانعام سے روپیہ وصول کرنے کا اور کوئی طریق نہ تھا۔ اسلام کے نام پر وصول کیا ہوا روپیہ ہوس اقتدار کی تسکین پر صرف ہو جاتا تھا۔ یہ طرز عمل نہ صرف ان کی نیت اور ارادے کی غمازی کرتا ہے۔ بلکہ ان کے سیاسی منصوبوں کو بھی طشت از باہم کرتا ہے۔ اپنے عسکری مقاصد کے حصول کے لئے خدام الاحمدیہ قائم کی گئی۔ اس کا باقاعدہ ایک پرچم بنایا گیا۔ اس کے متعلق خلیفہ صاحب فرماتے ہیں: ”خدام الاحمدیہ میں داخل ہونا اور اس کے مقررہ قواعد کے ماتحت کام کرنا ایک اسلامی فوج تیار کرنا ہے۔“

(الفضل مورخہ ۷ اپریل ۱۹۳۹ء)

میں نے (محمود) ان ہی مقاصد کے لئے جو خدام الاحمدیہ کے ہیں، نیشنل لیگ کو تیار کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھر جس قدر احمدی برادران کسی فوج میں ملازم ہیں۔ خواہ وہ کسی حیثیت سے ہوں ان کی فہرستیں تیار کروائی جائیں۔

(الفضل مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۳۸ء)

اسی طرح جماعت کو یہ حکم دیا کہ: ”جو احباب بندوق کا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں وہ لائسنس حاصل کریں اور جہاں تکواریں کھنے کی اجازت ہے، وہ تکواریں کھیں۔“

(الفضل مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۳۰ء)

خلیفہ کی خود ساختہ فوجی تنظیم

امن پسندانہ اشاعت اسلام کی دعویدار جماعت کی قادیان میں احمدیہ کو ایک خالص فوجی تنظیم تھی۔ براعظم کا ہر احمدی باشندہ عمر ۱۵ سال سے ۴۰ سال تک اس کا جبری ممبر بنایا گیا۔ میری ٹوریل فورس میں انگریزی حکومت کی طرف سے فوجی تربیت سکھلائے۔ پھر ۸/۱۵ پنجاب رجمنٹ میں احمدی کمپنیوں کا ہونا اور تمام احمدی جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے کا حکم کن مقاصد کے لئے تھا۔ سندھ میں حر تحریک کو احمدیہ کمپنیوں کے فوجیوں کے گولہ بارود سے ہی کیوں کچل دیا گیا۔ تقسیم ملک کے بعد سیالکوٹ، جموں سرحد پر ان ہی احمدی کمپنیوں کے ریلیز شدہ سپاہی متظم

طور پر کیوں پہنچ گئے اور ان کو دھڑا دھڑا کھینچ کر کہاں سے ملتا رہا۔ فرقان فورس احمدیوں کی فوج کشمیر میں کیوں کھڑی کی گئی اور خلیفہ نے اپنی جماعت کی فوجی عظیم اور محاذ جنگ کا خود ملاحظہ کیوں کر کیا؟ اس فوج کو استعمال کرنے کے لئے خلیفہ کا حکم: ”انڈین یونین کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں۔ مگر انڈین یونین چاہے صلح سے ہمارا مرکز ہمیں دے چاہے جنگ سے دے، ہم نے وہ مقام لینا ہے اور ضرور لینا ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی وہیسی مقدر ہے۔ جب بھی ضروری ہے کہ آج ہی سے ہر احمدی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔“

(الفضل مورچہ ۳، اپریل ۱۹۴۸ء)

اب اس اہمیت کو ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح خلیفہ ربوہ انڈین یونین جو ایک بہت بڑی حکومت ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ نیز کسی حکومت کی بنیادی عناصر سے اس کے Base مرکز اور دارالحکومت کا مسئلہ بھی ہے اور خلیفہ نے ۱۳ اگست ۱۹۴۸ء کو جب کہ پاکستان قائم ہوئے ابھی سال بھی نہ گزرا تھا اپنے عزائم حشر جیہا پر ایک پیمانہ خلیفہ دیا اور فرمایا: ”یاد رکھو تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا Base مضبوط نہ ہو۔ پہلے Base مضبوط ہو تو تبلیغ مضبوط ہو سکتی ہے..... بلوچستان کو احمدی بنایا جائے تاکہ ہم کم از کم ایک صوبہ کو اپنا سکیں..... میں جانتا ہوں کہ اب یہ صوبہ ہمارے ہاتھوں میں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ہی نشانہ ہو گا۔ دنیا کی ساری قومیں مل کر بھی ہم سے یہ علاقہ چھین نہیں سکتیں۔“

(الفضل مورچہ ۱۳، اگست ۱۹۴۸ء)

ضلع گورداسپور کی تسخیر خلافتی منصوبہ

یہ واقعہ اخبارات میں آچکا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ خلیفہ کا یہ عسکری پلان بہت پرانا ہے۔ تقسیم ملک سے پہلے آپ کی نظر ضلع گورداسپور پر تھی۔ یہ داستان خلیفہ کی زبان سے سنئے: ”گورداسپور کے متعلق میں نے غور کیا ہے۔ اگر ہم پورے زور سے کام کریں تو ایک سال میں فتح کر سکتے ہیں..... اس وقت ڈائنامیٹ رکھا جا چکا ہے اور قریب ہے کہ مخالفت کا قلعہ اڑا دیا جائے۔ اب صرف دیاسلائی دکھانے کی دیر ہے۔ جب دیاسلائی دکھائی گئی تو قلعہ کی دیوار پھٹ جائے گی اور ہم داخل ہو جائیں گے۔“

(الفضل مورچہ ۱۲، مارچ ۱۹۳۶ء)

پھر فرماتے ہیں: ”مردم شماری کے دنوں میں گورنمنٹ بھی جبراً لوگوں کو اس کام پر لگا

سکتی ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ پس میں بھی ناظروں کو حکم دیتا ہوں کہ جیسے چاہیں مدد کے لئے پکڑ لیں۔ مگر کسی کو انکار کا حق نہ ہوگا اور اگر کوئی انکار کرے تو میرے پاس اس کی رپورٹ کریں۔“

انہی مقاصد کے پیش نظر قادیان اور ماحول قادیان کا نقشہ بھی تیار کرو لیا گیا۔ ”ایک تو جماعت کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اور نہیں تو اس خط (گورڈ اسپور) کو تو اپنا ہم خیال بنالیں۔ احمدیوں کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ ہی ہوں اور دوسروں کا کچھ اثر نہ ہو..... احمدیوں کے پاس ایک چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ جہاں احمدی ہی احمدی ہوں۔ کم از کم ایک علاقہ تو سرگز ہنالو اور جب تک اپنا مرکز نہ ہو جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ اس وقت تک تم مطلب کے مطابق ۲ سو چار ہی نہیں کر سکتے۔ ایسا علاقہ اس وقت تک ہمیں نصیب نہ ہوگا جو خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، مگر اس میں غیر نہ ہوں۔ جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک ہمارا کام بہت مشکل ہے۔“

(انٹل موروز ۱۲ جون ۱۹۶۳ء)

صدر مقام کی جستجو

یہ ہے وہ کام جو خلیفہ کے ذہن پر مسلط ہے۔ کیا خالص دینی مہمات کی سرانجام دہی کے لئے ان کو ایسے علاقے مطلوب ہیں خواہ بڑے پیمانے پر خواہ چھوٹے پیمانے پر۔ کچھ علاقے ہوں جو بلا شرکت غیرے کلیتاً ان کی ملکیت ہوں۔ کیا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے لئے ایسے صدر مقام کی تلاش نہ کی تھی۔ جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ جہاں سے وہ تبلیغ اسلام کے کام کو جاری رکھ سکیں۔ پس یہ کام جس کی تکمیل کا خلیفہ متعین تھا کہ ان کو ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ ہی ہوں ان کا قانون وہاں چل سکے اور اپنی ریاست کا قیام عمل میں لایا جاسکے اور قادیان میں بھی اس لحاظ سے کامیابی کا حصول اپنے لئے مشکل سمجھتے تھے۔ مگر ربوہ میں ان کو یہ بات میسر آ گئی ہے وہ عجیب اسرائیل اپنی پوری شان سے قائم کر چکے ہیں۔ کیونکہ اس میں سوائے ان کے قادیانی مریدوں کے اور کوئی آباد نہیں۔ پاکستان میں صرف ایک حصہ ہے جس میں ایک ہی فرقے کے لوگ بستے ہیں اور وہ ایک آہنی تنظیم میں بکڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ملک کا قانون ان کے لئے حرف غلط سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ایسی آئین سوز کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی پریس ایک عرصہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ عجیب اسرائیل ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے یعنی اس میں دوسرے لوگ ایک عمرانی منصوبے کے ماتحت بسائے جائیں۔ تاکہ محمودی آمریت قانون کے راستے میں حائل نہ ہو سکے۔ لیکن ابھی تک یہ مطالبہ نقشہ تکمیل ہے۔

نظام بینکاری

قومی بینکوں اور ڈاکخانہ چارجز میں روپیہ جمع کرانے سے روکنا

روہ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بالقابل مرزا محمود کی زیر نگرانی ایک غیر منظور شدہ بینک بھی جاری ہوا تھا۔ جسے خلیفہ صاحب کی خود ساختہ اصطلاح میں ”امانت فنڈ“ کہا جاتا ہے۔ روہ کے اس قادیانی بینک کی طرف سے باقاعدہ چیک بک اور پاس بک بھی جاری کی جاتی ہے۔ جن کا ڈیزائن عام مردہ بینکوں کی چیک بکوں اور پاس بکوں سے ملتا جلتا ہے۔ سطحی نظر سے کوئی شخص ان کے متعلق گمان نہیں کر سکتا کہ یہ چیک بک یا پاس بک گورنمنٹ کے کسی غیر منظور شدہ بینک کی ہے۔ اس بینک کے متعلق بعض اعلانات پڑھے: ”چالیس سال سے قائم شدہ صیغہ امانت صدر انجمن احمدیہ اس صیغہ کو حضرت امیر المؤمنین خلیفہ المسیح ایدہ اللہ کی بابرکت سرپرستی کے علاوہ بفضل تعالیٰ اس وقت مشہور انگلش بینک سے تربیت یافتہ ٹریڈ اور ٹیکسٹ لوجوانوں کی خدمات حاصل ہیں۔ آپ کا یہ قومی امانت فنڈ اس وقت خدا کے فضل و رحم سے ملکی بینکوں کے دوش بدوش اپنے حساب داران امانت کی خدمت پورے اخلاص اور محنت سے سرانجام دے رہا ہے۔ تقسیم ملک کے بعد اس صیغہ نے جو شاندار خدمات انجام دی ہیں، وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اس لئے اب آپ کو اپنا فالتور روپیہ ہمیشہ صیغہ امانت صدر انجمن احمدیہ میں ہی جمع کروانا چاہئے۔“

(الفضل مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۵۷ء)

”کیا آپ کو علم ہے کہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے خزانہ میں احباب اپنی امانت ذاتی کا حساب کھول سکتے ہیں اور جو روپیہ اس طرح پر جمع ہو وہ حسب ضرورت جس وقت بھی حساب دار چاہے واپس لے سکتا ہے جو روپیہ احباب کے پاس بیاہ شادی، تعمیر مکان، بچوں کی تعلیم یا کسی اور ایسی ہی غرض کے لئے جمع ہو۔ اس کو بجائے ڈاکخانہ یا دوسرے بینکوں میں رکھنے کے خزانہ صدر انجمن احمدیہ میں جمع کرانا چاہئے۔“

(الفضل مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۳۸ء)

ملاحظہ ہو کس طرح کھلم کھلا گورنمنٹ کے ڈاکخانوں میں روپیہ جمع کرنے سے لوگوں کو روکا گیا۔ ہمارے خیال میں کسی بڑے سے بڑے بینک نے بھی یہ جرأت نہیں کی ہوگی کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرے کہ ڈاکخانوں میں رقم جمع نہ کروائیں۔

یہ بینک خلیفہ کی ریاست کو بروقت ضرورت روپیہ مہیا کرتا ہے۔ خود خلیفہ صاحب اور ان کے عزیزوں کو **Over Drafts** کے ذریعہ متعدد بار زمین مہیا کر چکا ہے۔ اس وقت

خلیفہ اور اس کا خاندان اسی بینک سے مبلغ سات لاکھ روپے کی رقم لے چکے ہیں۔ اسی بینک کی سیاسی افادیت کا حال بھی خلیفہ کی زبانی سنئے: ”اس کے علاوہ اس کے ذریعہ احرار کو خطرناک شکست ہوتی۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۷ء)

”اگر دس بارہ سال ہماری جماعت کے لوگ اپنے نفسوں پر زور ڈال کر اس میں روپیہ جمع کر داتے رہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان..... اور اس کے گرد و نواح میں ہماری جماعت کی مخالفت ۹۵ فیصد کم ہو جائے۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۷ء)

پس کس طرح قادیان اور اس کے ماحول کو سنبھالنے کی اس بینک کے ذریعے تجاویز مرتب کی گئیں اور پھر کس طرح احرار کو اسی بینک کی طاقت سے شکست دی گئی۔ کیا یہی بینک کل کسی اور کو شکست دینے کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ خلیفہ صاحب خود فرماتے ہیں: ”ہم اس روپیہ سے تمام وہ کام کر سکتے ہیں جو حکومتیں کیا کرتی ہیں۔“ (الفضل مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۳۸ء)

اور پھر بالفاظ خلیفہ صاحب: ”میں اس مد (امانت تحریک) کی تفصیلات کو بیان نہیں کر سکتا۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۷ء)

اگر کویم زبان سوزد: ”اور یہ بھی یاد رکھئے کہ امانت فنڈ کی تحریک الہامی تحریک ہے۔“

(الفضل مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۳۷ء)

صیغہ امانت بینک ہے۔ لیکن بینک کی سی کوئی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسا بینک ہے جس کا نام امانت فنڈ ہے، جو اگر ضائع ہو جائے تو امانت اس کا شرعاً ذمہ دار نہیں ہوتا۔ صیغہ امانت میں گورنمنٹ کے افسروں کے کھاتے کھلے ہیں۔ ہم حکمہ اکم ٹیکس والوں کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس ڈولیدگی کی چھان بین کریں۔ انہیں بڑی مفید معلومات حاصل ہوں گی اور وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ ٹیکس سے بچنے کے لئے بینکوں کے بجائے یہاں روپیہ رکھتے ہیں، منظر عام پر آ جائیں گے اور گورنمنٹ کے ملازم جن کے لئے اپنی مالی پوزیشن کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ ان کے متعلق تمام کو انف طشت ازہام ہو جائیں گے۔ بینکار کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اگر کوئی بینک بیٹھ جائے تو کتنے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ ہینڈل بینک جب دیوالیہ ہوا تھا تو کس طرح ملک میں کھرام مچ گیا تھا۔ بینک تو بند ہو گیا مگر ان بیواؤں اور یتیموں کا رونا کسی طرح بند نہ ہوا جن کا روپیہ اس میں امانت پڑا ہوا تھا۔ گورنمنٹ نے اس کا کیا انسداد کیا ہے۔ اگر خلیفہ صاحب کی بے تدبیری اور بڑھتے ہوئے اخراجات اور آئے دن کی اوور ڈرافٹس Over Drafts اور صیغہ امانت سے قرض کے نام پر کھلوائی ہوئی ہماری رقموں سے یہ بینک دیوالیہ ہوا

جس کا دیوالیہ ہو جانا ایک قیمتی امر ہے تو امانت والوں کا کیا بنے گا۔ پاکستان کے شہریوں کے اموال کی حفاظت کا کیا بندوبست ہے۔ حکومت کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہئے کہ ریوہ کا یہ بیک خلیفہ صاحب کی میسر ہے اعتمادیوں کے باعث شدید مالی بحران کا شکار ہے اور اس کے کل سرمایہ بلیں سے جو تقریباً ۲۳ لاکھ روپیہ ہے۔ ۱۸ لاکھ روپیہ کی گرانڈ ریم میسر طور پر غور بردگی جا چکی ہے۔ اگر اس بیک کا کوئی باقاعده سزا دیہ تیار کر دیا جائے تو حکومت کو خود ظلم ہو جائے گا کہ یہ عملاً دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس کے واجبات زیادہ اور اثاثہ اس کے بالقابل برائے نام ہے۔

تعلیمی اخراجات

حکومت کو بعض اوقات تعلیمی طور پر بعض اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خلیفہ صاحب کے ریاضی بجٹ میں بھی یہ موجود ہے۔ خلیفہ کا لہنا بیان: "صرف ایک حد خاص تک ہے جس کے اخراجات تعلیمی ہوتے ہیں۔ مگر میں ان کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں کہ ان تعلیمی اخراجات کی حد میں سے بعض دفعہ خبر رسانوں اور ایسے ہی اور اخراجات پر جو ہر شخص کو بتانے نہیں جاسکتے، خرچ ہوئے ہیں۔"

(المنٹل مورہ ۲ جولائی ۱۹۳۷ء)

آزادی رائے پر پھہرے

آمرانہ حکومتوں میں آزادی رائے عطا ہوتی ہے۔ ایسا ہونا آسریت کے مزاج کے مطابق ہے۔ وہاں اخبار پر پھہریں ہوتی ہیں۔ ہٹلر کے دور اقتدار میں کوئی جرمن باشندہ آزادی سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے سٹکر اور سائن بورڈوں بھاگ کر جمہوری ملکوں میں آ رہے تھے۔ یہی ملکوں میں دوسری عالمگیر جنگ سے پہلے شاہین کاؤ کی حکومت میں پھہریں کا ایک حصہ تھا جس کو *Freedom of Press* کہتے تھے۔ اس کا یہ فرض تھا کہ وہ ملک میں گفتگو کر دوار کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی رہے۔ یہی حال امریکی ملکوں کا تھا اور ریوہ میں یہی رہا۔ یہی امریکی ملکوں کی کوئی صورت تھی کہ وہ آزادی سے کسی کی کوئی اجازت تھی کہ وہ آزادانہ طور پر سوچ سکتا تھا۔ اس کام کے لئے ان کے ہاں اس سٹیج کو کھلائے اور ان سے کہتے ہیں۔ پھہریں ہی تصور اختلاف ہے۔ لیکن اس کا وہ نہیں کرتے کہ ڈائیٹ اور ان سے پھہریں لگا دے۔ اگر اس کو نظارت اور صورت اختیار کیا جائے تو آزادی کا تصور ہی ہوتا۔ یہ ہے کہ تمام وہ نظریے جو احمدی احباب تصنیف کریں۔ اگر وہ کسی صورت میں ہوں تو علم الفیاف و اشاعت میں اختلاف کے لئے دوانہ کریں اور علم الفیاف کو ہر صورت میں اختلاف ہی تصور ہے۔ یہ ہے کہ تمام وہ نظریے جو احمدی احباب رسالہ "تعمیر" میں لکھ کر دیکھ کر ان کے لئے کے احمدی نظریوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ (المنٹل مورہ ۱۸ جولائی ۱۹۳۷ء)

تقریری اعلانات

”اسی طرح مجلس مستدین صدر انجمن احمدیہ نے بمظہوری حضرت خلیفۃ المسیح بذریعہ ریزولوشن نمبر ۱: ۱۹۲۸ء یہ فیصلہ کیا تھا کہ سلسلہ کی طرف سے کوئی کتب ٹریکٹ وغیرہ بغیر مظہوری نظارت تالیف و اشاعت چھپنے اور شائع ہونے نہ پائے۔ اگر اس کے خلاف ورزی ہوئی تو اس کتاب کی اشاعت بند کر دی جائے گی۔“

(الفضل مورخہ ۲۹ جنوری ۱۹۳۳ء)

چنانچہ ان تجاویز پر عمل شروع کر دیا گیا۔ ”المہجر“ نام سے قادیان سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کے ایڈیٹر ایک مشہور قادیانی صحافی تھے لیکن ریاست محمودیہ کے نزدیک بعض مفاسد ایسے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ”المہجر“ کو مرکز سلسلہ سے شائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی۔

(الفضل ۱۲۸ اگست ۱۹۳۷ء)

اسی طرح اعلان کیا گیا کہ کتاب بیان الجہاد (جو مولوی غلام احمد سابق پروفیسر جامعہ احمدیہ تعلیم الاسلام کالج) نے شائع کی ہے۔ کوئی صاحب اس وقت تک نہ خریدیں۔ جب تک نظارت و عودۃ تبلیغ کی طرف سے اس کی خریداری کا اعلان نہ ہو۔

(الفضل مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۳۳ء)

ایک ٹریکٹ کے متعلق اعلان کیا گیا کہ اس ٹریکٹ کو ضبط کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جس صاحب کے پاس یہ ٹریکٹ موجود ہو وہ اسے فوراً تلف کر دیں اور شائع کرنے والے صاحب سے جواب طلب کیا گیا ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ جس قدر کامیاں اس ٹریکٹ کی ان کے پاس ہوں وہ سب تلف کر دی جائیں۔

(الفضل مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۳۳ء)

جب نظارت تالیف و تصنیف کو اس ٹریکٹ کی اشاعت کا علم ہوا تو اس نے اس کی اشاعت ممنوع قرار دے دی اور اسے بحق جماعت ضبط کر کے تلف کر دینے کا حکم دیا۔ نیز ٹریکٹ شائع کرنے والے سے جواب طلب کیا۔

(الفضل مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۳۳ء)

غور فرمائیے کہ اب ریاست کے کھل ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے۔ خلیفہ کا اعلان۔ ”اب تک تین رسالوں کو میں اس جرم میں ضبط کر چکا ہوں۔“

(الفضل مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۳۶ء)

اس سلسلہ میں خلیفہ کی ریاست کی سیاست کا سب سے گندہ پھلویہ تھا کہ جن کتب یا اخبارات کو ضبط نہیں کر سکتے یا کروا سکتے۔ ان کے متعلق اپنی رعایا یا امریدوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ جماعت اسے نہ پڑھے۔ کیا ایک مذہبی اور تبلیغی جماعت جس نے دوسروں تک اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے۔ اس کی طرف سے تقریری اقدام اس کے لئے باعث فخر ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ روز نامہ

نوائے پاکستان جو وقتاً فوقتاً خلیفہ کے متعلق بعض اہم حقائق کو منظر عام پر لاتا رہتا تھا۔ خلیفہ نے اپنے ہوم سیکرٹری (ناظر امور عامہ) کے ذریعہ اس اخبار کے ہائیکٹ کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے جلسہ سالانہ ۱۹۵۶ء کے موقعہ پر اعلان ہو چکا ہے کہ حقیقت پسند پارٹی (یہ ماہیت جوانوں کی باغی پارٹی تھی) کا شائع کردہ لٹریچر کوئی احمدی نہ پڑھے۔ بلکہ پھاڑ کر پھینک دے یا خلیفہ کے ہوم سیکرٹری یا محکمہ حفاظت مرکز کے پاس بحفاظت پہنچا دے۔ (افضل مورخہ اپریل ۱۹۵۷ء)

خلیفہ محمود اپنے دارالخلافہ میں جس طرح لوگوں کو اپنی ریاست کا مطیع اور فرمان بردار بنا رکھتا تھا۔ باشندگان ربوہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے حاکم اعلیٰ ان کے خلیفہ صاحب ہیں۔ حکومت بھی ان کو خلیفہ کے چنگل سے نہیں بچا سکتی۔ ان کے سامنے قادیان سے لے کر ربوہ تک کی مثالیں موجود ہیں کہ حکومتی نظام سنگین واردات کی کھوج لگانے میں ناکام رہا۔ اگر کھوج لگا سکا تو عدالت میں جا کر مقدمات فیمل ہو گئے۔ ان حالات میں قادیانی لوگ خلیفہ کو راعی اور اپنے آپ کو رعایا نہ سمجھیں تو کیا کریں۔ کیا ایسا منظر کسی باقاعدہ آئینی حکومت کو گوارا ہو سکتا ہے۔ لیکن ربوہ میں اس کو گوارا کیا جا رہا ہے۔

خلیفہ جی کی خروجی تدابیر

سیاست کاری اور سیاست بازی خلیفہ جی کا اڈھنا بچھونا تھا۔ مذہب یا تو زیب داستان کے لئے تھا یا اس کا بمصرف سیاست کی پردہ داری تھی۔ اگر بغور مطالعہ کیا جائے اور ان کے اعلانات کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ محرابِ مذہب کے سیاق و سباق میں پناہ گزین ہو کر وہ سیاست کا کھیل کھیلتے تھے۔ وہ سیاست کی سر بلندیوں سے سرفراز تو ہونا چاہتے تھے مگر اس کی ابتلا انگیزیوں کے حریف نہیں ہو سکتے تھے۔ اس واسطے ان کا نظریہ خروج پہلو دار ہاتوں میں ہلوف ہو کر ان کے مریدوں کے سامنے آتا ہے۔ مثلاً وہ اکثر کہا کرتے تھے: ”ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی روح کو کچ دیں گے۔“

ایسے ہی مقاصد کے لئے یہ دفتر امور عامہ ایسے احمدی افسران جو گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ بورڈوں یا فوج یا پولیس، سول، بجلی، جنگلات، تعلیم وغیرہ کے حکموں میں کام کرتے ہیں۔ ان کے کھل بچے تمہارا رکھتا ہے۔ (افضل مورخہ ۸ نومبر ۱۹۳۲ء)

خلیفہ جی کی سیاست حکومت کی سیاست سے افضل تھی

کبھی ان پر سیاست کا ایسا جنون مسلط ہو جاتا تھا کہ وہ حزم و احتیاط کے سارے پردے چاک کر کے بر ملا کہہ دیتے تھے: ”ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست نہیں، وہ

نادان ہیں۔ وہ سیاست کو سمجھتے ہی نہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ خلیفہ کی بھی سیاست ہے۔ وہ بیعت ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں۔ دراصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست بھی زیادہ ہے۔ پس اس مسئلہ کو اگر میں نے بار بار بیان نہیں کیا تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے اس سے جان بوجھ کر اجتناب کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہئے کہ خلافت کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہے اور جو شخص یہ نہیں مانتا وہ جھوٹی بیعت کرتا ہے۔“

(افضل مورویہ ۳ اگست ۱۹۳۶ء)

اس ضمن میں خردی عزائم کو یوں بے نقاب کر جاتے تھے۔

حکومت پر قابض ہونے کے عزائم

”میرا یہ خیال ہے کہ ہم حکومت سے صحیح تعاون کر کے جس قدر جلد حکومت پر قابض ہو سکتے ہیں، عدم تعاون سے نہیں۔ اگر ہم کالجوں اور سکولوں کے طلباء کے اندر یہ روح پیدا کر دیں تو جوان میں سے ملازمت کو ترجیح دیں وہ اس غرض سے ملازمت کریں کہ اپنی قوم اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں گے تو یہ لوگ چند ماہ میں ہی حکومت کو اپنی آزر اور آئے اور بے دھڑک مشورے سے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہندوستانی نقطہ نگاہ کی طرف مائل ہو۔ بے شک ایسے لوگوں کی ملازمت خطرہ میں ہوگی۔ مگر جب یہ لوگ ملازم ہی اس خطرہ کو مد نظر رکھ کر ہوئے ہوں گے۔ ان کے دل اس بات سے ڈریں گے نہیں۔ دوسرے کوئی گورنمنٹ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں ملازموں کو اس جرم میں الگ نہیں کر سکتی کہ کیوں سچائی سے اصل واقعات پیش کرتے ہو۔ اگر پولیس کے حکمہ پر ہی ایسے حب الوطنی سے سرشار لوگ قبضہ کر لیں تو حکومت ہند میں بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔“

(افضل مورویہ ۱۸ جولائی ۱۹۳۵ء)

رہوہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔

مستورات کی چھاتیوں میں خفیہ دستاویزات کا باندھنا

جب اس شاطر سیاست کے خفیہ اڈوں پر حکومت چھاپہ مارتی تھی تو یہ اسلحہ اور کاغذات کمال ہوشیاری سے زیر زمین دفن کر دیتا تھا۔ قادیان کی سرزمین میں فسادات کے موقع پر احمدی نوجوانوں اور سابق فوجیوں کے ہاتھوں جو ماڈرن اسلحہ مہیا کیا اور ان کی فوجی گاڑیاں حرکت میں آئیں تو اس پر حکومت کی جانب سے یکدم چھاپا پڑا۔ جس کی اطلاع قبل از وقت خلیفہ کو نہ ہو سکی۔ کیونکہ وہاں احمدی سی آئی ڈی ناکام رہی۔ لیکن خلیفہ کی اپنی اہم فرست ان کے کام آئی۔ کیونکہ جب پولیس سرپر آگئی تو اس مقدس، پاکہاز، ملہم، مصلح دوران نے اپنی مستورات کی

چھاتیوں پر خفیہ دستاویزات ہاندھ کر کوٹھی دارالسلام (قادیان) بھیجاویں اور قادیانی فوجیوں نے فوراً اسلحہ یزید میں کر دیا۔

۱۹۵۳ء میں اسلحہ کا انحصار

۱۹۵۳ء کے فسادات اور پھر مارشل لاء کے اختتام پر جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ریوہ کے فوجی اور ریوی پولیس کے دفاتر اور قصر خلافت پر چھاپہ مارا جائے تو یہ خیر دو دن قبل ریوہ پہنچ گئی۔ خفیہ اور ضروری کاغذات جن پر خلیفہ صاحب کے دستخط تھے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ تلف کر دیا گیا اور دوسرا حصہ چناب ایکسپریس پر سندھ روانہ کر دیا گیا۔ جب پولیس دفتر کی تلاشی لے دی گئی۔ خفیہ کاغذات قادیانی اسٹیجوں میں چھپائے جا رہے تھے۔

خلیفہ صاحب ہر اس فرد کو بغاوت کا حق دیتے تھے جس نے دل سے اور عمل سے حکومت وقت کی اطاعت نہ کی ہو۔ ایک دفعہ کسی شخص نے خلافت مآب سے پوچھا کہ جس ملک کے لوگوں نے کسی حکومت کی اطاعت نہ کی ہو۔ کیا انہیں حق ہے کہ وہ اس حکومت کا مقابلہ کرتے رہیں تو ارشاد ہوا کہ: ”اگر کسی قوم کا ایک فرد بھی ایسا باقی رہتا ہے جس نے اطاعت نہیں کی، نہ عمل سے نہ زبان سے تو وہ آزاد ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے مقابلہ کر سکتا ہے۔“

(المصلح مورخ ۱۹ ستمبر ۱۹۴۳ء)

پھر فرماتے ہیں: ”اگر تبلیغ کے لئے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو ہم یا تو اس ملک سے نکل جائیں گے یا پھر اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو پھر ایسی حکومت سے لڑیں گے۔“

(المصلح مورخ ۱۳ نومبر ۱۹۴۵ء)

یعنی ایک حکومت میں رہ کر اس کے متعلق اعلان جنگ کے مواقع اور ان پر فوراً سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ابن اقتباس سے ہاتھ لیا گیا ہے کہ خلیفہ جی اپنے جماعت کے ذہنوں میں اسی جنوں کی پرورش کر رہے تھے جو ان کے اپنے ذہن میں سلہا ہوا تھا۔ انہوں نے ریوہ کو اپنی کمین گاہ بنا رکھا تھا اور اسی ٹاک میں بیٹھے تھے کہ کب وطن عزیز میں انتشار ہو اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اقتدار کی نشستوں پر قابض ہو کر ملک کے حکمران بن جائیں۔ وہ فرماتے تھے کہ: ”قبولیت کی رو چلانے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔“

(المصلح مورخ ۱۲ جولائی ۱۹۴۶ء)

ان کا اپنا قول ہے کہ: ”مخالف جنگی صوبہ کہلاتا ہے۔ شاید اس کے لئے یہ معنی نہیں کہ ہمارے صوبہ کے لوگ فوج میں زیادہ داخل ہوتے ہیں جتنے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہمارے صوبہ کے لوگ دیکل کے تاج نہیں بلکہ سونے کے تاج ہیں۔“

(المصلح مورخ ۲۲ جولائی ۱۹۴۶ء)

کو باخلف صاحبِ مغرب کی پولیس کے قائل تھے۔ لیکن کیا کریں۔

توفیق ہانداڑا ہمت ہے ازل سے

آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گورنہ ہوا تھا

چنانچہ غلطی کی حالت میں بھی خارجی حکومتوں سے ساز باز کے سہمی تھے اور اس کی تصحیح بھی کرتے تھے۔ مثلاً یہ فرمایا: ”کہ کوئی قوم دنیا میں بغیر دوستوں کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس لئے اس سے زیادہ مجرم ہمارے کوئی قوم نہیں ہو سکتی جو اپنے لئے دشمن تو بناتی ہے مگر دوست نہیں۔ کیونکہ یہ سیاسی خودکشی ہے۔“

(المختصر، ص ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳)

دشمنوں کے حلیف بننے کی سعی

اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے دشمنوں کے حلیف بننے کی کوشش کیوں نہیں کریں گے۔ چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو۔ مثلاً وہ راز افشاء کر کے پاکستان کے دشمنوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے فوج کے ایک کڑل کی طرف یہ منسوب کیا کہ اس نے دورانِ جنگ میں ان سے یہ کہا کہ: ”حالات پھر خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ فوج آپ کی مدد نہیں کرے گی۔“

(المختصر، ص ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳)

جب اخبارات میں اس قابلِ اعتراض بات پر تبصرے ہوئے تو خلیفہ تاجی کے ایماء سے ان کی وہی تقریر دوبارہ شائع ہوئی اور اس میں سے وہ فقرہ حذف کر دیا گیا جس میں فوج کی طرف اشارہ تھا۔ تردید کرنے کی اخلاقی جرأت نہ تھی۔ ہاں قانون سے بچنے کا حیلہ نکال لیا۔

تلاوی پائی خلافت کا کاغذی حکمران

کے خیر غمی کہ لے کر چراغِ مصطفوی

جہاں میں آگ لگائی پھرے گی بولسی

ابلیسی ظلمتیں کاربیاں

مصیبت منظم ہو کر غیر منظم مصیبت پر کس طرح غالب آ جاتی ہے۔ اس کی عبرت تاک مثالِ تلاوی پائی نظام ہے۔ اس نظام کا ملن اور مشورہ جدام کا مفکار ہو چکا ہے۔ لیکن خود ساختہ خلیفہ اور اس کے خواہوں نے جس منظم کے زور سے مکانہ کو مکانہ کا رنگ دے رکھا تھا اور بائزیدی اصطلاحوں سے بائزیدی خلافت کو استوار کیا ہوا تھا۔ خلیفہ تاجی نے اپنے اخلاقی جرائم کو ان کی خوارقِ عادت یعنی میں مشورہ کر رکھا تھا۔ مریدوں کی نفسیاتی بے بسی عقیدت مشورہ ہوتی ہے۔ مسلم معاشرے سے

منقطع ہو کر ہو پھارے مجبور ہیں کہ کہانوں کے ”عمر و عیار“ کو حضرت عمر فاروقؓ سے افضل سمجھیں (توبہ نعوذ باللہ) اور اپنی عاقبت خراب کریں۔ ایک سانس میں اس کو *His Holiness* کہہ کر کلیسائی شرک کا اعتراف کرتے تھے اور دوسری سانس میں اسلام کا دم بھرتے تھے۔ خلیفہ جی نے الہام تراشے تاکہ مسئولیت سے نجات حاصل کریں۔ خوابوں کے انبار لگا دیئے..... تاکہ مریدوں پر خواب گراں مسلط ہو جائے۔ جہاد کی تعلیم کو ساقط کیا تاکہ برطانوی سامراج کے ساتھ تعاون اور استحکام وطن سے گریز کا جواز نکل آئے۔

پاکستان میں فتنے کا آغاز

پاکستان کی تشکیل خلیفہ قادیان کے عزائم کے لئے پیغام اجل ثابت ہوئی۔ تقسیم ملک کے فیصلے کے ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ وہ خدا کے ساتھ عہد کر چکے ہیں کہ وہ قادیان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس اعلان کی خوب اشاعت ہوئی۔ لیکن ستمبر ۱۹۴۷ء میں ہی ہندو سا دھوکا روپ دھار کر پاکستان میں پناہ گزین ہو گئے۔ لیکن کسی قادیانی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہوا کہ ان کے خلیفہ صاحب خدا کے ساتھ بد عہدی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کی دینی فرست خلیفہ کی خواہناک تربیت سے مفلوج ہو چکی تھی وہ ان کے فرار کو بھی قرار ہی سمجھتے تھے اور زبان حال سے کہتے تھے۔ ”قلوبنا فی اکفۃ مما تدعوننا“

پاکستان میں خلیفہ محمود نے اپنی سیاست کا چکر چلایا۔ پاکستان کی معیشت، معاشرت اور آئین پر ٹیکجروں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جس کا مقصد مسلمانوں پر قنوطیت طاری کرنا تھا۔ جب ایک پڑھے لکھے احمدی سے کسی نے ٹیکجروں کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے جواب میں کہا: ”ہمارا ہا بر سلطنت کی تلاش میں ہے۔“

لعبت چین

پریس کو ماؤف کرنے کے لئے صفت روزہ پریس کانفرنسوں کا چکر چلایا اور کشمیر جیسے اہم مسئلے کو لعبت چین بنا کر اس سے تعلق کرنا شروع کیا اور اپنی قیادت کی ضرورت ثابت کرنے کے لئے بڑی افترا پروازیاں کیں۔ یہ راز بھی افشاء ہو گیا اور ان کے متضاد بیانات پر پریس میں کڑی کتبہ چینی ہوئی۔ مرکزی حکومت نے تعزیر کی دھمکی دی۔ اس پر اللہ کا ہنایا ہوا خلیفہ اخبارات میں اعتذار کرنے پر آمادہ ہو گیا۔

قائد اعظم کی وفات پر اپنے مریدوں کو نماز جنازہ میں شرکت سے حکما روک دیا۔ مرکزی حکومت نے اپنی ناقابل فہم مصلحت کی بناء پر اس سنگین کارروائی پر پردہ ڈال دیا۔ مسلمانوں

کے دلوں کے اندر آگ سلکتی رہی۔ اس سکوت سے شہ پا کر خلیفہ صاحب نے ایک لیکچر میں Reunion کا کھلے بندوں ذکر کر دیا۔ اس پر صوبائی حکومت نے تمبیہ کی اور خلیفہ صاحب نے معافی مانگ کر پنڈا چھڑایا۔

ربوہ میں ہمسکی ریاست کی تاسیس

انگریز گورنر سر موڈی نے اپنے خود کاشتہ پودے کو خطرہ میں دیکھ کر اس کو کوڑیوں کے مول ایک وسیع عریض خط زمین عطا فرمایا اور قادیانیت کے فتنے کو پھینک دیا۔ اگر یہ جماعت لاہور یا کسی اور شہر میں متوطن کی جاتی تو شہر کی وسعتیں اور عمرانی تھانے اس تمدنی فتنے کو تھوڑے عرصے میں ختم کر دیتے۔ لیکن ربوہ کے نئے مسکن میں اس عمرانی فتنے کو فروغ ملنا شروع ہوا۔ قادیان سے بڑھ کر اس کو فضا سازگار نصیب ہوئی۔ کیونکہ اس آبادی میں سوائے قادیانیوں کے اور کوئی نہیں۔ اس واسطے خلیفہ محمود کی ہمسکی ریاست ربوہ میں بھلنے پھولنے لگی۔ اس کے زمانے میں اس میں نہ کوئی پولیس کی چوکی تھی اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی تعزیری نظام تھا۔ چنانچہ خلیفہ نے پھر اس افتراق انگیزیاں شروع کر دیں۔ ۱۹۵۰ء کے سالانہ جلسے پر انہوں نے سارے پنجابی پریس کو ابو جہل کہہ کر پکارا اور پیش گوئی کی کہ عنقریب صحافی ان کے پاؤں پر لاکر ڈال دیئے جائیں گے اور حکومت کی زرعی اصلاحات کے خلاف جی بھر کر زہرا گلا اور ایک کتاب شائع کر کے اپنے مبلغ علم کا راز طشت از بام کیا۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے ذاتی ملکیت کا جواز ثابت کیا۔ حالانکہ ۱۹۴۲ء میں اپنی نام نہاد تفسیر کبیر میں انہی آیات سے قومی تملیک ثابت کر چکے تھے۔ ملک کے آئین کو اسلامی طرز پر تشکیل دینے کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو خدا سے الہام پانے کا مدعی تھا۔

۱۹۵۳ء کے واقعات کے محرکات

ربوہ میں بیٹھ کر کئی کئی انداز سے خلیفہ محمود نے اسلامی معاشرے میں شکاف ڈالنے کی کوششیں کیں۔ شریعت اسلامی کو اپنی الحاد خیر تفسیروں کو چھپانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ انہی مساعی سید کا نتیجہ تھا کہ ۱۹۵۳ء میں لاوا پھوٹ پڑا جو عرصہ سے اندر رہی اندر کھول رہا تھا۔ اس وقت کی حکومت کی مصلحت بیچوں نے معاملہ کو دو گروں کر دیا۔ حکومت اس فریب میں جھلا تھی کہ قادیانی جماعت مذہبی جماعت ہے۔ اس کی نظر ربوہ کی ہمسکی ریاست کی ریشہ دوانیوں پر نہ پڑی۔ اس بے بصری سے صوبہ بھر میں معرکہ کارزار گرم ہو گیا اور کئی خاندان بے چراغ و بے سراغ ہو گئے۔ اس پر پردہ ڈالنے کے لئے حکومت نے ایک ٹریبونل مقرر کیا تاکہ صحیح مسئلہ نظروں سے

اجھل ہو جائے۔ اس میں جو کچھ ہوا وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ قادیانیت کی سرکوبی تو نہ ہوئی لیکن خلیفہ محمود کے اپنے بیان سے ثابت ہو گیا کہ وہ سیاسی زیادہ اور مذہبی کم تھا۔ اس لئے وہ اس حفاظت کے مستحق نہیں تھا جو مذہبی جماعتوں کو دی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک ابتلاء سے بچنے کے لئے اپنے ان تمام عقائد سے ارتداد کا اعلان کر دیا جن سے معمولی انحراف پر خلافت مآب اپنے مریدوں کو شدید سزائیں دیا کرتے تھے۔ بلکہ ان کو جماعت سے خارج کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کھلے بندوں کہا کہ احمدیت کے ہانی کو ماننا جزو ایمان نہیں۔ ماننا اس پر لازم ہے جو ان کے دعاوی کو صحیح سمجھتا ہے۔ گویا خلیفہ صاحب کا دین لوگوں کی صوابدید پر موقوف ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جنازوں کے متعلقہ پر بھی نظر ثانی کا اعلان کیا۔ کیونکہ اس کی تردید میں ان کو ہانی جماعت کی تحریر یا بیس سال کے بعد مل گئی تھی۔ وہ ٹریبونل کے سامنے اپنے عقائد کی ترمیم و ترمیم سے حفظ جان کا سامان کر رہے تھے۔ ادھر ساری جماعت حفظ دم Blood Pressure میں مبتلا تھی۔ بقول شاعر۔

وہ شاخ گل پہ زم زموں کی دھن تراشتے رہے

ادھر نشیموں پہ بجلیوں کا کارواں گذر گیا

قادیانیوں کا قلیل ہوشمند گروہ اسی وقت بھانپ گیا کہ ”حضور“ کو اپنی جان بدمب سے زیادہ پیاری ہے۔ دین کو دینا پر مقدم کرنے کا عہد صرف مریدوں کے لئے ہے۔

ایک دلچسپ واقعہ

اس ارتداد پر بڑی چہ میگوئیاں ہوئیں۔ کراچی میں پاکستان کے ایک مشہور صحافی نے (جو ایک قادیانی گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے عمر کا کثیر حصہ احمدی رہ چکے تھے) خلیفہ صاحب کو اس ارتداد پر مبارکباد دی۔ اس کے جواب میں خلیفہ صاحب نے فرمایا کہ محض رفع شر کے لئے انہوں نے جنازوں کی حرمت کے حکم کو نرم کیا ہے۔ درنہ ان کا مسلک پہلے والا ہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ جنازوں میں اسی طرح جا کر کھڑے ہو جائیں جس طرح راشن ڈپوز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو نماز کے الفاظ کی قرأت نہیں کرنی چاہئے تاکہ وہ محض تقاریر بندی ہو کر رہ جائے۔ اس پر اس (سابق قادیانی) اور اب نامور پاکستانی صحافی نے کہا کہ وہ اس مدعا سے کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اپنی جماعت کو یا مسلمانوں کو یا خدا کو؟ اس تبصرے پر خلیفہ صاحبی صرف ذریعہ شرمندہ گوش سماعت ہو کر رہ گئے۔ اس واقعہ سے خلیفہ محمود کے اسلوب کار پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ عبادت کو بھی ہازمچہ الطفالی ہی سمجھتے تھے اور ہماری حکومت محض ایک دھوکہ

میں اسیر رہی کہ یہ ایک مذہبی جماعت ہے۔ خلیفہ محمود نے دوسرے ممالک میں مساجد کی تعمیر کی مہم محصل دوسرے ممالک کی کرنسی حاصل کرنے کے لئے شروع کر رکھی ہے۔ حالانکہ ان کے دل میں نماز کا وہی احترام ہے جو مندرجہ بالا واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چند مریض قسم کے لوگوں کے لئے متحد مساجد کی کون سی اشد ضرورت تھی۔ جب کہ ان کے اعلان تبلیغ سے جلب زر ہی مقصود تھا۔

جماعت کا فہم حصہ خلیفہ محمود کے عزائم سے آشنا ہو چکا تھا۔ ان پر آشکارا ہو چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانے پر تلے بیٹھے ہیں اور ربوہ کا سارا نظام محض سیاسی ہے۔ اس پر مذہب کا لیبل حکومت کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لئے لگا رکھا تھا۔ ورنہ ایک مذہبی جماعت کو فوج، پولیس اور کار خاص کا نظام تعزیر و احتساب اور عمرانی مقاطعہ کے لئے دفاتر جاری کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ خلیفہ صاحب کی عسکری ریاست کا نقشہ پہلے صفحات پر پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطالعہ سے ارہاب بست و کشاد کی بے خبری اور بے علمی کار از طشت از ہام ہو جاتا ہے۔

حکایت جنوں

یہ فتنہ جو اپنے اندر آدمی کی خانہ ویرانی کے سارے سامان رکھتا ہے اپنے استیصال کے لئے حکومتی اقدام کا محتاج نہیں بلکہ یہ فطری تپش سے ہی خاکستر ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے سارے آثار اب پیدا ہو چکے تھے۔ خلیفہ محمود ایک عرصہ سے دماغی ہذیان اور قلبی بحران میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے اپنے بڑھتے ہوئے لسان اور روز افزوں ضعف بصارت کا ذکر کیا تھا۔ اب یہ کیفیات ان کی نمازوں میں جلوہ گر ہونے لگ گئی تھی۔ کیونکہ وہ بار بار آیات بھول جاتے تھے اور جو عجلت کرتے تھے اس سے تو نماز کی لٹی ہو جاتی تھی۔ اس پر قادیانی مہر بلب رہے اور عبادات کی صریح توہین پر پردہ ڈالنے کا اعلان ہوتا رہا کہ تفسیر کبیر کو تفسیر صغیر میں منتقل کرنے کی مصروفیت اور مشقت سے حضور پر نقاہت طاری رہتی ہے۔

جنوں کا آغاز جانشینی کا سٹنٹ کھڑا کرنے پر ہوا۔ جب ایک بڑا محفل کو اپنا حریف قرار دے کر وہ افسانے تراشے کہ جماعت بحران میں مبتلا ہو گئی۔ جب کہ حریف نے اپنے گوسفندانہ رویے اور شان مغروری سے اپنی بے حیثیتی کو بے نقاب کر دیا۔ خلیفہ صاحب ناوک انگلیوں سے اپنے نظام کو ہی چھلتی کرتے رہے اور ربوہ کے قادیانی حضرات یہ کہنے لگ گئے۔

تمہیں رہبر سمجھنا پڑ گیا ہے
ہماری بے بسی کی اجہا ہے

جماعت سے باہر قادیانیت کی ساکھ اتنی گر گئی کہ صوبائی حکومت نے بھی قادیانی ملازمین کو احتیاط کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا اور اہل علم کی نفرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اسلامی مجلس مذاکرہ میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ چوہدری ظفر اللہ خاں کا نام بھی پروگرام سے حذف کر دیا گیا تھا۔ کیا یہ حقیقت زوال قادیانیت کی دلیل محکم نہیں؟ اب بقول حضرت علامہ اقبالؒ الحاد کا قافلہ سکرات کی آخری منزل میں ہے۔

تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج
موج مضطر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ

۱۹۵۸ء کے سالانہ جلسے سے غیر حاضر اور حاضرین کی نگاہوں سے مستور ہونا اور اس کی بے ربط لکنت آمیز اور غیر واضح تقریریں روز افزوں زوال کی غمازی کر رہی تھیں۔ لیکن حکومت کے خلاف اپنی وعید کا اعلان کیا۔ مسٹر چندر بیکر کی گورنری سے بے بسکدوشی اور وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ کو اپنی دعاؤں کا کارنامہ قرار دیا۔ مسلمانوں میں قادیانیت کی تبلیغ پر زور دیا۔ آئندہ انتخابات پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا اور بھارت پر فتح پا کر قادیان کو قبضے میں لینے کا پر زور دعویٰ کیا۔ بقول حضرت علامہ اقبالؒ۔

رکھ دیئے مرجھائے ہوئے پھول نفس میں

شاید کہ گوارا ہو ایسروں کو۔ اسیری

(یہاں پر قاضی خلیل احمد صدیقی سابق قادیانی کا رسالہ ”میں نے قادیانیت کیوں چھوڑی“ مصنف نے درج کتاب کیا تھا۔ وہ علیحدہ اسی جلد میں شامل اشاعت ہے۔ اس لئے یہاں حذف کر دیا۔ مرتب!)

ربوہ کا خلیفہ یا پاکستان کا اسپوٹین

شورش مرحوم کا البر زہکن حملہ

پچھلی دو اشاعتوں میں ہم قادیان کے خلیفہ مرزا محمود احمد کے الہامات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ خدا گواہ ہے ہمیں ان سے کوئی عناد، کوئی بغض، کوئی عداوت نہیں اور نہ ہم ان کے خلاف کسی عنوان سے کوئی مورچہ بندی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مرزا محمود احمد جب اپنی جماعت کے شیرازہ کو بکھرتا دیکھتے ہیں تو اپنی جماعت کے بعض ”نفوس قدسیہ“ کی معرفت اس قسم کے ہنگامے برپا کر دیتے ہیں۔ بعض غیر قادیانی اخباروں سے مرزا غلام احمد کے خلاف (اپنے

خلاف نہیں) مسلسل لکھواتے اور اس طرح فرضی و غیر فرضی خطرات پیدا کر کے قادیانی مریدوں کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر قلم اٹھانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن پچھلے دو ماہ سے مرزا محمود احمد نے رویا و کشف کی جو زندگی اختیار کی ہے اور اپنی خلافت کو خلافت الہیہ ثابت کرنے کے لئے جس لب و لہجہ میں گفتگو شروع کی ہے اس کے پیش نظر ہم نے ٹوٹنا اس لئے مناسب سمجھا کہ مسلمان اس چہیتی اقلیت کے دفاع کی پہلے ہی کافی سزا بھگت چکے ہیں۔ اب اگر مصرع اس طرح اٹھایا گیا تو خدا معلوم نتائج کیا ہوں؟ اور صورت حالات افسوسناک ہو کر مقطع پر ختم ہو؟

بھرا اللہ! اب کے قادیانی خلیفہ کے محاسبہ میں وہ لوگ پیش پیش ہیں جن کے متعلق یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ انہیں خلیفہ صاحب کے خلاف کوئی تحریک اٹھانے کا شوق ہے یا وہ ماضی قریب میں کسی نئے نئے کوہِ اوج پر پہنچے ہیں یا سی۔ آئی۔ ڈی کی معصوم یادداشتوں (مندرجہ تحت) تی رپورٹ) کے الفاظ میں بدگو ہیں۔ جن لوگوں نے اب خلیفہ صاحب پر گرفت شروع کی ہے وہ تقریباً سبھی ایسے عناصر ہیں جنہوں نے نہ صرف مرزا قادیانی کے عقائد کو سخر اپن سمجھ کر نظر انداز کیا بلکہ ملک و قوم کی عظیم مصلحتوں کے پیش نظر یہی بہتر سمجھا کہ درگزر سے کام لیں۔ کیونکہ یہ بات قریب قریب یقینی ہے بلکہ ہم میاں محمود احمد کی نفسیاتی ساخت کے مطابق پیش گوئی کرتے ہیں کہ قادیانی امت کی جو شمع روشن ہے اس کی لو صرف میاں محمود احمد کی حیات تک ہے۔ اس برطانوی چراغ میں سے روغن ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف بجھتے دیے سے اٹھتا دھواں مرتی روشنی کا سہارا لے رہا ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا تھا میاں محمود احمد کو بڑھاپے کے انجام نے اس درجہ خوفزدہ کر دیا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے ڈاڑھی خالی پر اتر آئے ہیں۔ ان کی اس ڈاڑھی خالی کا دائرہ اگر ان کی اپنی ہی جماعت تک محدود رہتا تو ہمیں شاید ان سے تعرض کا کوئی حق نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے حسب عادت اپنی ہفوات میں عام مسلمانوں، قرآن کی آیتوں، خلفائے راشدین اور ائمہ معصومین کو بھی پلٹنا شروع کیا اور ریاست اندر ریاست کے زعم میں یہاں تک بڑھ گئے کہ۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

ترپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

خلیفہ صاحب کے ارشادات کی بعض جھلکیاں ہم گذشتہ شمارے میں پیش کر چکے ہیں۔

اب حال ہی میں ایک اور خط الفضل ربوہ میں شائع ہوا ہے۔ اس خط میں اپنی جانشینی کی وضاحت

کرتے ہوئے میاں محمود احمد صاحب فرماتے ہیں کہ: ”ان کا ذاتی عقیدہ یا طرز عمل، علیٰ ہم اللہ وجہ کے بجائے عمر کے قریب ہے۔“ اور شوخی چشمی ملاحظہ ہو کہ امام حسن بھی مجھ سے متفق نظر آتے ہیں۔ ”اننا لله وانا الیہ راجعون“ ممکن ہے وہ لوگ جو اقتدار کی گدیوں پر بیٹھے ہیں اس گستاخی کو چنداں اہمیت نہ دیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک مقدم چیز سیاسیات ہے اور ان میں سے بیشتر کو اس سے غرض نہیں کہ خدا اور رسول ﷺ کے بارے میں کون کیا سوچتا اور کون کیا کہتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سی آئی ڈی کے انسران مجاز کا پرانا طاقتور دوسرے فرائض کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ ورنہ ہم ان سے سوال کرتے کہ: ”آپ کو ملکہ اثر بھد اور ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے لب و لہجہ سے جو شکایتیں پیدا ہوئی تھیں اور ان پر آپ نے میاں محمود احمد صاحب کی شکایت کا حق دفاع جس اضطراب سے ادا کیا تھا کیا اب بھی مسلمان ہی خطا کار ہیں؟ اور کیا یہ واقعہ نہیں کہ مرحوم قیادت کی اخلاقی اور قانون اعانت نے میاں محمود احمد اور ان کے حواریوں کے حوصلے بڑھادیئے ہیں۔“

ہمار خیال تھا کہ مرزا محمود احمد سینکڑوں مسلمانوں کو مروانے کے بعد امن اور چین کا سانس لیں گے اور آئندہ کے لئے احتیاط برتیں گے۔ لیکن مظلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ کو خون کی جو چاٹ لگ چکی ہے وہ کسی مرحلے میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ سانپ اپنی کھلی بدل سکتا ہے لیکن محمود احمد اپنا روپیہ بدلنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے اسلام کی تمام مقدس اصطلاحات اپنے اوپر اوڑھ لیں اور اسلام اور الہام سے لے کر قرآن و ایمان تک کے سب الفاظ اپنے اوپر استعمال کرنے شروع کئے ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ اسلام سے بعض خاص روایتیں نکال نکال کر اپنے حالیہ اختلافات پر چسپاں کر رہے ہیں۔

کہیں انہیں اپنا وجود عمر کے پہلو پہ پہلو نظر آتا ہے۔ کہیں انہیں علیؑ سے اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ کہیں وہ امام حسینؑ کو اپنے سے متفق پاتے ہیں۔ کہیں انہیں حضرت صدیق اکبرؓ کی طرح حکیم نور الدین کا سر خدا کے سامنے جھکا ہوا اور آگ میں محجوب نظر آتی ہیں۔ کہیں ایک بدو کے ہاتھ عثمانؓ کی داڑھی طبری کی روایت سے دکھائی پڑتی ہے۔ کہیں اپنے الہام کا رسول اللہ ﷺ کے علم سے بالواسطہ موازنہ کیا جاتا ہے اور ان کی سحت پر اصرار ہوتا ہے۔ کہیں قرآن مجید پر عیسائیوں کے اس اعتراض کی آڑ لے کر اس میں لواطت اور حیض کا ذکر ہے اپنے کمالات بلاغت کی داد حاصل کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ بفضل کی حالیہ اشاعتوں میں چھپ چکا ہے۔

انفسوس ہے کہ کئی ہفتوں سے یہ پورا تماشا حکومت کے مجاز انسر بھی دیکھ رہے ہیں۔

انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ منیر انکواری رپورٹ میں ان دل آزاریوں کا ذکر موجود ہے اور فاضل حج صاحبان نے تسلیم کیا ہے کہ جمہور المسلمین کے دلوں میں اس سے غبار پیدا ہونا قدرتی بات ہے۔ مگر ابھی تک معلوم نہیں ہوسکا کہ حکومت نے اس کے بارے میں کیا قدم اٹھایا ہے۔ سیاسیات میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان عبدالغفار خاں جیل میں ہیں۔ خان عبدالصمد اچکزئی کے خلاف بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا گوشت تو غالباً فرزند ان احتساب کے نزدیک سب سے زیادہ لذیذ ہے اور ان کی زبان بندی کے احکام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کون سا شہر ہے جہاں علماء کو اختلاف بین المسلمین کی آڑ لے کر پابند نہیں کیا گیا۔

لیکن قدغن نہیں تو صرف میاں محمود احمد اور افضل پر کوئی قدغن نہیں جو مقدس اصطلاحوں اور مقدس شخصیتوں کے نام اس بے تکلفی سے استعمال کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کی جیب کی پونجی ہوں اور وہ انہیں لٹانے یا تکمیر نے کا پورا حق رکھتا ہے۔ حالانکہ میاں محمود احمد کو علی سے وہی نسبت ہے جو پاپوش کو سورج سے ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ اس کا اپنے آپ کو منسلک کرنا ایسا ہی ہے جیسے گالی کو بلاغت سے تعبیر کیا جائے۔

میاں محمود احمد جب اپنی ذات کو ان مقدس شخصیتوں کے ساتھ بریکٹ کرتے ہیں تو وہ نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں بلکہ جان بوجھ کر ان مسلمانوں کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جنہیں چوہدری ظفر اللہ خان کی وزارت خارجہ کے زمانے میں خوفزدہ کر دیا گیا تھا۔ کیا ارباب اختیار محمود احمد کی ان تحریروں کو بے ضرر سمجھتے ہیں یا مہذب کی بڑیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کے احوان و انصار میں مرزائیوں کی بوگھڑوں کیپ موجود ہے جو اصلیت کو وزارت کے کانوں تک پہنچانے سے مصطفیٰ اغماض کرتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی سی صورت بھی درست ہے تو ہمارے نزدیک بغایت افسوس ہے اور ہم اس بارے میں زیادہ سے زیادہ محتاط بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سیاست دان کسی نئے تماشے کے انتظار میں ہیں یا وہ اس سے غافل ہیں اور انہیں مطلقاً خبر نہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو اس قسم کی یا وہ گویوں سے کس حد تک ٹھیس پہنچتی ہے؟

میاں محمود احمد بڑے شاطر ہیں۔ انہوں نے ماضی قریب میں افسران مجاز سے حسب دل خواہ فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک قادیانی کی وساطت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ۱۹۳۵ء کے بعد سے ان کی فائل ہی سرکار کے دفتر سے حتماً ہو گئی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ اگر یہ درست ہے تو مغربی پاکستان کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کا سراغ لگائے۔ ہمیں

اس کے پس منظر میں مرزا محمود احمد کا پراسرار ہاتھ نظر آتا ہے۔ اب بھی ہمارا خیال ہے کہ وہ حکومت کو پریشان کرنے کے لئے یہ تمام کھڑاک رچا رہے ہیں۔ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ وہ خود تو گورکنارے ہیں۔ آج مرے یا کل۔ لیکن وہ اپنی موت کا انتقام ایک نفسیاتی مریض کی طرح (ماہرین نفسیات اس کو بخوبی سمجھتے ہیں) پورے معاشرے سے لینا چاہتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں یا پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حتیٰ کہ اب انہیں اپنے پیروؤں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ان کی زندگیوں پر بھی رحم نہیں کرتے۔ خود محفوظ زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ حکومت ہمہ وجہ ان پر کوئی آج نہ آنے دے گی اور ویسے بھی تنخواہ دار مریدوں کی ایک ضعیف الاعتقاد کھپ اپنی حفاظت کے لئے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر نقصان کن کو پہنچتا ہے؟ ان لوگوں کو جو ان کی خرافات سے مشتعل ہو کر اپنی دینی وحدت کو بچانے کے لئے آگے بڑھتے ہیں یا پھر قادیانی جماعت کے وہ گمراہ تخلصین جنہیں کسی نہ کسی وجہ سے یہ یقین ہے کہ میاں محمود احمد واقعی مصلح موعود ہیں۔

کیا ۱۹۵۲ء کے ہنگامے میں یہ نہیں ہوا؟ کون مارا گیا غریب الحال قادیانی یا وہ مسلمان جن کے لئے حضور سرور کائنات ﷺ کی شتم المرسلین سے بڑھ کر کائنات کی کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہے۔ لازم تھا کہ منیر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد حکومت خلیفہ صاحب کی سرگرمیوں کا احتساب کرتی اور محمود احمد صاحب کو بھی ایک دن لاہور کے شاہی قلعے کی سیر کراتی۔ تاکہ اس پر واضح ہوتا کہ خانہ ساز خلافت کا فشاء و مفہوم کیا ہے۔ ہم پورے یقین اور احترام کے ساتھ عرض کریں گے کہ میاں محمود احمد کوئی الواقعہ Interrogate کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دنوں کے لئے انہیں سپیشل ایکٹ یا سیکورٹی ایکٹ کے تحت قلعہ میں رکھے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مصلح موعود ہیں کیا؟ قلعہ میں کون نہیں رہا۔ محمود احمد بھی کچھ دن بحالی صحت کے لئے قیام کریں گے تو اس میں ہرج کی کون سی بات ہے۔ آخر یہ قلعہ بھی تو مغلوں ہی کی یادگار ہے۔

اب تک ماضی کی حکومتوں نے بحالی امن کے لئے کیا کچھ نہیں کیا۔ کیا مارشل لاء نافذ نہیں کیا۔ (۱۹۵۳ء)؟ عوام پر گولیاں نہیں چلائی گئیں؟ سب کچھ ہوا اور امن عامہ کے لئے ہوا۔ آج بھی امن عامہ کا تقاضا ہے کہ مرزا محمود احمد کچھ دن کے لئے قلعہ میں تشریف رکھیں؟ اور مسلمان ان کے خلاف جو چارجز Charges لگاتے ہیں ان کی تفتیش ہو۔

اسی ملک میں قیام پاکستان سے پہلے انگریزی حکومت نے امن عامہ کے نام پر پیر پکاڑو پر ہاتھ ڈالا تھا اور مسلمانوں کے اس جلیل القدر فرزند کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ لیکن آج ہماری حکومت ہے اور ہم امن عامہ ہی کے نام پر اپنی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ مرزا محمود احمد جو ہر

پھیلا رہے ہیں، اس کا ہمیشہ کے لئے سدباب کیا جائے۔

پاکستان پہلے ہی ان جھمیلوں اور جھگڑوں سے کافی بدنام ہو چکا ہے۔ اب ان تنازعات کو سختی سے دہانے کی ضرورت ہے۔ قانون یا مصلحت کا منشا یہ نہیں کہ ایک جماعت یا اس کے خلیفہ کو صرف اس لئے یا وہ کوئی کی اجازت دی جائے کہ وہ اقلیت میں ہیں اور دوسروں کو دہانے کی پالیسی اس لئے اختیار کرنی جائے کہ وہ اکثریت میں ہیں۔ اس قسم کی رواداری کو کسی ملک میں بھی روا نہیں رکھا گیا۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ صدر جمہوریہ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور مغربی پاکستان کے گورنر وزیر اعلیٰ دور حاضرہ کے اس اسلامی راسپونڈنٹ کا احتساب کریں جو مسلمانوں کی دینی وحدت کو تباہ کرنے کے لئے نہ صرف کرٹل لارنس کے فرائض انجام دے رہے ہیں بلکہ اپنی عظمت کا مصنوعی بت قائم کرنے کے لئے خدا اور رسول ﷺ کے علاوہ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہہ اور امام حسن کے نام اس شوخ چشمی سے استعمال کرتا ہے گویا خاکم بدہن ان کے ساتھ کا کھیلا ہوا ہے۔ حالانکہ ان کا بول و براز بھی اس کے دافعہ روجو سے افضل ہے۔

چنان کی تجاویز کا رستہ اب صاف ہو گیا ہے۔ کیونکہ ۷ ستمبر ۱۹۷۲ء کو تمام دنیائے اسلام کو خارج از اسلام کہنے والی اور تکفیر اہل قبلہ کرنے والی جماعت خود از روئے آئین غیر مسلم قرار دی جا چکی ہے۔ اس لئے اگر اس آئینی ترمیم کے ماتحت تعزیری قواعد و ضوابط بھی نافذ ہو جائیں تو بغیر کسی سنگین کارروائی کے یہ فتنہ انکار ختم نبوت اپنے تمام مہیب عواقب کے ساتھ پیوند خاک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو آئینی ترمیم کے باوجود پاکستانی معاشرہ ایک مہلک الجھن میں اسیر رہے گا۔ غیر مسلم اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کہیں گے اور اپنے تبلیغی وسیع انتظامات اور دفاتر کے ساتھ اپنی غیر مسلمی کو پھیلاتے رہیں گے اور معاملہ جوں کا توں رہے گا۔

(نوٹ: یہاں پر مصنف نے جناب صالح نور کا ایک رسالہ کتاب کا جزء بنایا وہ رسالہ چونکہ اس کتاب میں علیحدہ شامل اشاعت ہے اس لئے یہاں سے خارج کر دیا ہے۔ مرتب!)

فطرت کا ناگزیر انتقام

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن
جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

اگر ریاست ربوہ کا عمرانی احتساب کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مغربی پاکستان

میں اس کی وہی حیثیت ہے جو اسرائیل کی بلا داسلامیہ میں ہے۔ اسلامی معاشرے کے دل میں یہ تیرنیم کش کی طرح پھوست ہے۔ اس کی غلش سے سارا سماج بڑھال ہو رہا ہے۔ قانون کی مصلحت اندیش بے بسی نے اس دینی یا مٹھان کو ایک قسم کا فروغ بخشا ہے۔ عوام اور حکام اس اہتمام سے خوب آگاہ ہیں۔ مگلی قانون میں اس کے کامل استیصال کا کوئی نسخہ موجود نہیں۔ اس واسطے ربوہ کا مذہبی امر (خلیفہ) تقریر اور تحریر میں ایسے ترمذ کا مظاہرہ کر جاتا ہے جس کا تصور بھی اسلامی ریاست میں مشکل ہے۔ اس دور کی حکومت اپنی مصلحت بندیوں کی وجہ سے عاجز تھی اور عوام حکومت کے مجز پر نوحہ کنٹاں تھے۔ عوامی لیڈروں کا یہ حال تھا۔

کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے

وہ مہربان ہو کر رہ جاتے تھے اور یہ ناسور ہمارے تمدن و عمران کو اندر ہی اندر کھائے

جا رہا تھا۔ اس پر کب نتیجہ خیر عمل جراحی ہو گا یہ خدا ہی جانتا ہے لیکن ہو گا ضرور۔

شاخ نازک پہ آشیانہ

۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کے فیصلے سے آواز ضرور ہو چکا ہے۔ کیونکہ خدا نے پاکستان کی داغ

تیل اس لئے نہیں ڈالی تھی کہ وہ حکومتی معذوریوں کی وجہ سے ایک عمرانی فتنہ کا شکار ہو جائے۔ جوں جوں کوئی حکومت مصلحت کی آڑ لے کر اپنے فرائض سے گریز کرے گی۔ توں توں خدا اس وطن مقدس کی بقاء اور عروج کے سامان پیدا کرے گا۔ اس کا باطنی فتنہ اپنے خرقہ پوش شاطر کے ہاتھوں فنا ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو حکومت سے زیادہ خدا اور اس کی سنت قدیم کے اعجاز اور کرشموں پر نظر ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ قادیانی خلافت و اعلیٰ انگٹار میں جلا ہے۔ جماعتی نظام پر ہڈام کی سی کیفیت ظاہری ہے۔ اب حکومت کوئی سہارا دینے کو تیار نہیں۔ وہ خلیفہ جو ہوا پر گرہ لگایا کرتا تھا جب اس کے ہوش و حواس رخصت ہوئے اس کی تقریریں اس کے جنون کی نمازی کرنے لگی تھیں۔ ایک عمرانی معجزہ رونق سے کہہ سکتا ہے۔

تمہاری آغریک اپنے منجر سے آپ ہی خود بھی کرے گی

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا

انسانیت پر خون

اس دور کا سلطان ضعف صدی سے زیادہ مرزا محمود کے ظلم و استہاس کے پھر دیکھتا

رہا۔ ابتداء میں اس نے عمرانی تھے سے انکشاف کیا۔ لیکن خلیفہ ربوہ کی بوجھتی ہوئی جارحیت سے اس کی چشم بصیرت وا ہوئی۔ اب ایک کوچہ نورد کو بھی شعور ہے کہ اس شخص نے دین کے نظر فریب

پردے میں چہار سو دام تزویر پھیلا رکھا تھا۔ اس نے خود ساختہ الہاموں سے نہ صرف الوہیت کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر رکھا تھا بلکہ اس نے انسانوں کی انسانیت پر بھی شیخون مارا۔ اس نے مریدوں کو ”قرۃ خاسکین“ بنا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں اس طرح رقص کرتے تھے جس طرح بندر مداری کے ہاتھ میں۔ بندر مداری سے بھاگ کر جنگل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیونکہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جنگل کے بندروں میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر مداری اس کو چھوڑ بھی دے تو وہ بھاگ کر اس کے کھونٹے پر آ جا دے گا۔ اس کو اب مداری کی زنجیر میں ہی آرام ہے۔ اگر وہ کہیں جنگل میں جا نکلے تو جنگل کے بندر اس کو مار ڈالیں گے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مداری کی تربیت سے یہ اپنی فطری خواص کو چھپکا ہے۔ اس کی صورت بندر کی سی ہے۔ اس کی فطری ہم جنسی جاہ ہو چکی ہے۔ یہی حال قادیانیوں کا ہے۔ ساٹھ سال قذافی غلامی میں رہ کر وہ ہر لحاظ سے ایک اجنبی قوم بن چکے ہیں۔ نہ وہ مسلمان معاشرے سے واسطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کا سواد اعظم ہی ان کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس عمل مسخ کو خلیفہ ربوہ اپنا شاہکار تصور کرتا تھا اور دن رات اس کا ڈھنڈورا پیٹتا اور اپنی عمرانی عارت گزی کو اپنی دینی کامرانی سے موسوم کرتا تھا۔ اس کے بعد بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔

خلیفہ سازش کی پیداوار

خلیفہ محمود نے یہ کارنامہ کس طرح سرانجام دیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے۔ گویا تاریخ کا ایک سنگین باب قلم و قراطاس کے تعاون سے ایک حسین انداز میں محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اختصار کے ساتھ کچھ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ یہ شخص سازش کا ایک کامیاب چکر چلا کر ۲۰ فروری ۱۹۱۳ء کو قادیانی جماعت کا خلیفہ بن بیٹھا۔ خلافت اور اہیت کے اس احتجاج نے ایک دینیاتی فتنہ کی سی صورت اختیار کر لی۔ اس وقت اس شخص کی عمر پچیس سال تھی جو قیادت کے ابدی اصول کے مطابق بڑی ناچھکی کی عمر ہے۔ کیونکہ عمر کے اس دور میں جذبات میں مطلق ہوتا ہے اور وہ عقل خام پر حاوی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق قوم کی رہبری اور رہنمائی کا فرض چالیس سال کے بعد تفویض ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت افکار و اعمال میں اعتدال اور توازن آ جاتا ہے۔ عام نفسیاتی لحاظ سے بھی پھسلنے کے امکان بہت کم ہو جاتے ہیں۔ مرزا محمود نے خدا کی اس سنت قدیم کو پائے استحقاق سے ٹھکرا دیا اور خام عمر میں ہی زاغ ہوتے ہوئے عقاب بن بیٹھا۔ اس نے فوراً ملہم ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس کے قول کے مطابق قرآن کریم کی آیات اس پر نازل ہونی شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ ﷺ (فداہ ابی دای) پر قرآن چالیس سال کے بعد نازل ہونا شروع ہوا۔ اس شخص پر

اس کے (معاذ اللہ) نزول کی تجدید پچیس سال سے پیشتر ہی شروع ہو گئی۔ افتراء پر دوازی کا اس سے زیادہ گھناؤنا شاہکار تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قوم کے جھکاؤ کو دیکھتے ہی اس نے فضل عمر ہونے کا اعلان کر دیا۔ یعنی وہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروقؓ سے افضل بن بیٹھا۔ جس خود ساختہ نبی کا وہ خلیفہ تھا وہ تو اپنی سیانت کے لئے اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا ادنیٰ ترین غلام ہونے کا مدعی تھا اور یہ مادر پدر آزاد بیٹا رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظمؓ سے افضل ہونے کا مدعی بنا اور اپنی بے روح اور بے ضمیر قوم سے یہ ابلیسی دعویٰ تسلیم کروا لیا۔ اس ایک واقعہ سے اس شخص اور اس کی جماعت کی خانہ ساز روحانیت کا راز طشت از بام ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ سراسر کذب، فریب کا سرکس ہے۔

اس شاطر کذاب نے مسلمانوں کی دو عظیم نعمتوں پر ابلیسی چھاپہ مارنے کی ناکام اور نامراد کوشش کی۔ ایک ختم المرسلین پر اور دوسری فاروقیت عظمیٰ پر۔ یہ افتراء برطانوی سنگینوں کے سائے میں پروان چڑھا۔ ہر چند کہ مسلمان اس دجل و فریب کے خلاف مجادلہ آراء رہے۔ لیکن ان کے اپنے باطنی انتشار نے مرزا محمود کے نامحمود نظام کی رسی دراز کر دی۔ مسلمانوں پر بے بسی کا عالم طاری رہا۔ مسلمانوں کی اس قنوطیت کو دیکھ کر مرزا محمود یہ کہتا رہا

خضر بھی بے دست دپا، الیاس بھی بے دست دپا

مرے طوفان یم بہ یم بہ دریا جو بہ جو

گوسالہ سامری پر ضرب کلیسی

لیکن حق دیر تک پہنچ نہیں رہ سکتا۔ وہ باطنی توانائی سے بروئے کار آ کر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے۔ ”الحق یعلو ولا یعلیٰ“ جو نبی برطانوی استعمار حریت کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھا اور مرزا محمود کے سفید آقا بیک بنی دود گوش وطن عزیز سے رخصت ہوئے مرزا محمود کا بڑپا کیا ہوا تھنہ بھی حالت نزع میں جتلا ہو گیا۔ ۱۹۴۷ء میں قادیانیوں نے ”دارالامان“ کو ”دارالہواز“ کہہ کر ترک کیا۔ محمودیت کے گوسالہ سامری پر یہ پہلی ضرب کلیسی تھی۔

یہ نام نہاد اولوالعزم خلیفہ معرکہ روح دبدن میں جتلا ہو گیا۔ اس کو ”اشداء علی الکفار“ کی آیت بھول گئی۔ ”موتوا قبل ان تموتوا“ کی آیت کریمہ بھی صرف نسیان ہو گئی۔ کیونکہ معرکہ سخت ہے اور جان عزیز کا معاملہ درپیش تھا۔ اس نے قادیانیت کی دیوار گریہ کو تھامنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ قادیان کو ترک نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس نے باپ کی نقش کو پیر دلہ کرتے ہوئے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر سارے لوگ بھی اس مقدس زمین

کو چھوڑ جائیں گے تو وہ اسی میں رہے گا اور اس کا ہی ہو کر رہے گا۔ ایک گشتی چھٹی تمام جماعتوں کو بھیج دی جس سے قادیانیوں کو جعلی تقویت ملی۔ ان کی ہمت پر دوسرے لوگ ششدر رہ گئے۔ اخباروں میں مقالے چھپے۔ لیکن مقالوں کی سیاسی ابھی تنگ نہیں ہوئی تھی کہ یہ حضرت سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور اس ارض مقدس میں پناہ گزین ہوئے۔ جس کی تخلیق کے خلاف انہوں نے کئی ناکام فتنے تخلیق کئے تھے۔ یہ یاد رہے کہ خلیفہ محمود ہندو سادھو کے ہمیں میں قادیان سے رخصت ہوئے۔ جان بچانے کے لئے یہ ملہم مشرک قوم سے ہتھیار پیدا کر کے ”من تشبہ بقوم فهو منهم“ کا صداق بنا۔

قادیانیت کی دیوار گریہ

مریدوں نے اس کے بھاگنے کے منظر کو دیکھا تو راستے میں اس کی حفاظت کی۔ لیکن وہ اس کو اس طرح نہ چھوڑ سکے جس طرح سدھایا ہوا بندرمداری کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس میں بندر کا کوئی کمال نہیں۔ ہاں، مداری کے تخریبی فن کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس شخص نے بھی بیالیس سال میں اسی قسم کا کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ اس نے فطرتوں کو مسخ، بصیرتوں کو بے نور اور عقول کو بے فروغ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے قادیانی مرید اس سے الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ کیونکہ اس سے الگ رہنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے۔ ان کی رفتار، گفتار اور کردار پیر پرستی کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں۔ ان کی ذہنی افتاد کا یہ عالم ہے کہ یہ بیروں ہاتھ کو یہ بیضا، دم انبی کو دم عیسیٰ، برگ حبش کو برگ نبات، تعلق کو جلی، اصفاث احلام کو الہام اور شرار بولہبی کو چراغ مصطفوی سمجھنے کو خوگر ہو گئے ہیں۔ اب ان کے سامنے قادیانیت کی دیوار گریہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے انہدام کو آہ و بکا سے روکنا ممکن نہیں۔ یہ قلیل عرصے کی مہمان ہے۔ کیونکہ اس کی تعمیر میں ایک ”صورت خرابی“ کی مضر ہے۔ وہ اپنا عمل کر کے رہے گی۔

یہ لوگ اپنے خلیفہ کی داغ، درے، قدے، سخنے مدد کر کے اس کو ہر ابتلاء اور بحران سے بچاتے تھے۔ پھر بھی اسی کو اپنا رہنما سمجھتے رہے۔ اس تربیت نے ان سے تخلیقی عمل کی صلاحیت سلب کر لی ہے تاکہ وہ دانہ و دام میں تمیز نہ کر سکیں۔

ختم نبوت کی برق آسا تحریک

ان کی نیاز مند یوں کو وہ لعبت چمن سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔ وہ جب چاہے عقائد بدل دیتا ہے۔ اس نے منیر ٹریبونل کے سامنے مسلمانوں کے جنازے کے جواز کا اقرار کیا۔ کسی قادیانی کے کان پر جوں نہ رہ سکی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ سینکڑوں مریدوں کو اس ایک بات پر

سزائیں دے چکا تھا کہ کسی وقت ایک قادیانی باپ نے اپنے مسلمان بیٹے کا جنازہ پڑھایا، کسی وقت ایک قادیانی بیٹے نے اپنے مسلمان باپ کا جنازہ پڑھایا۔ اس کے جنازے کو کندھا دیا۔ جو نبی ختم نبوت کی برق آسا تحریک نے زور پکڑا۔ اس نے فوراً قادیانیت کی تبلیغ کو منسوخ کر دیا۔ اپنے متعلقہ محکموں کے نام بدل ڈالے۔ پریس میں اعلان کیا کہ وہ اس کی جماعت اپنے خانہ ساز دین کی تبلیغ سے بچت رہے گی۔ گویا اس نے ثابت کر دیا کہ اس کی خلافت انگریزوں کا خود ساختہ پودا ہے۔ اپنے عقائد کے مہیب عواقب سے بچنے کے لئے اس نے مسلمانوں سے الگ رہنے کے ہر فعل کو ایک بزدلانہ مداخلت قرار دینے میں ذرا دریغ سے کام نہ لیا۔ کیونکہ اس کے صم بکم غمی قسم کے مرید اس کے ارتداد کو بھی الہامی سمجھ کر سرگول ہو جائیں گے۔ کیونکہ ان کو یہ نصیحت ہے۔

دیکھ جو کچھ سامنے آئے منہ سے کچھ نہ بول آکھ آئینے کی پیدا کر دین تصویر کا خلافت پر متمکن ہوتے ہی اس دشمن ایمان و آگمی اور رہزن حکمین دہوش نے اپنے سے بڑے قادیانیوں کو کمال چاہدستی سے حقیر مناسب پر مقرر کیا۔ ان پر اپنے یاران سرپل کو مسلط کیا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو حسن و قبح کے معیار کے لئے اس کے چشم و ابرو کو دیکھتے تھے اور اس کی پیشانی کی شکنوں کو گنتے رہتے تھے۔ اس کے احکام کو آواز سرور ش بگھتے تھے۔ یہ نوشتہ دیوار تھا کہ انہوں نے پرانے قادیانیوں کو غبار را ہگزار بنا کر رکھ دیا۔ جب یہ لوگ چکی کے پاٹوں میں پس کر سرمدہ مفت نظر ہو گئے تو تقریباً بیس سال کے بعد اس نے ساختہ پرداختہ نظام کی نیو ڈالی اس کا نام رکھا "تحریک جدید" اس طرح جماعت میں یہ تاثر پیدا کیا کہ باپ کی چلائی ہوئی تحریک اپنے اثر سے عاری ہو چکی ہے اور جماعت ایک تازہ زندگی کی محتاج ہے۔ اس تحریک جدید میں تازہ واردان بساط ہوئے دل کو فروغ نصیب ہوا۔ انہوں نے ۱۹۱۳ء کی بنائی ہوئی انجمن کے ناظروں کو اس طرح بے اثر کر دیا۔ جس طرح ناظروں نے ہانی سلسلہ کے رفقاء کو ۱۹۱۳ء میں بے دخل اور بے اثر کر دیا تھا۔ جوں جوں تحریک جدید زور پکڑتی گئی توں توں ناظران صاحبان متروکات سخن ہو کر رہ گئے۔ تحریک جدید خود ایک سازش کی آفریدہ تھی۔ اس کے توسط سے مرکزی نظام صید لافز ہو کر خلیفہ کے پاؤں پر آگرا۔ اس تحریک پر اس کے اپنے خاندان کے لوگ مستولی ہو گئے اور دفتری نظام اور اس کے تمام شعبہ جات ایک گھریلو صنعت ہو کر رہ گئے۔ مریدوں نے اپنی ارادوں کے مرکز کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتد بننے دیکھا مگر وہ بول نہ سکے۔ کیونکہ معاشی احتیاج نے ان کے جذبہ احتجاج کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ دیکھا! خدا کا کرنا، خدا نے بیٹے کے ہاتھوں ہی باپ کی بنائی ہوئی عمارت مسمار کرادی۔

راز درون خانہ کا افشاء

تحریک ہمدید کو فروغ دینے کے لئے خلیفہ محمود نے جماعت کے نوجوانوں سے وقف زندگی کی اپیل کی۔ نوجوان دینی خدمت کی تمناؤں سے سرشار ہو کر خلیفہ کے یحییٰ دین میں جمع ہو گئے۔ خلیفہ محمود نے پرانے اور قدیم لوگوں کو حضور مصلح بنانے کے لئے نوجوانوں کو ایسے ایسے عہدے تفویض کئے جو ان کی عمر اور تجربے سے کہیں بڑھ کر تھے۔ گویا خلیفہ محمود اپنی جماعت کی تحریک کے معمار بن کر تقدیر کی تعزیر کو دعوت عمل دے رہے تھے۔ نوجوان جو نیاز مندی سے خلیفہ کے چوکھٹ پر سرگرم ہوتے تھے۔ وہ خلیفہ محمود کے کرب انگیز قرب سے اس کے خلوت کدوں کے اسرار و غوامض سے آگاہ ہو کر دہریت کی طرف مائل ہو گئے۔ خلیفہ محمود کی نجی زندگی کے رکنین و نگین مناظر ان کی عقیدتوں کے لئے پیغام اجل ثابت ہوئے۔ ان کے طالع میں خردیج کی روح بیدار ہو گئی۔ کیونکہ جو کچھ روز دیکھنے میں آتا تھا۔ وہ دیکھنا نہ جاسکتا تھا۔ آنکھیں اس عریانی کے دیکھنے کے لئے نہ بنی تھیں۔ جو جنسی دل لیس قصر خرافات کے اندر ہا رہ چھلی ہوئی تھیں ان میں سے اکثر پھل کر خلافت کے اس جو ہڑ میں جا کرے۔ گویا ان کو خلافت مآب کے درون خانہ کی عنونت کا حق الیقین ہو گیا۔ ان میں بعض وہ تھے جن کو ان کا یحییٰ الیقین تھا۔ بعضوں کو علم الیقین تھا۔ ہر چند کہ وہ خلافت کی قہرمانوں سے لرزتے تھے۔ وہ اپنی زبانوں پر قفل بھی لگا سکتے تھے۔ قادبان میں ہی خلیفہ کے مجلس منتورات کے سارے راز زبان زد خلافت ہو گئے تھے۔ ربوہ کے ویرانہ آباد نما میں خلیفہ کے جنون زوج نے وہ وہ گل کھلائے کہ ان کی باطنی خلافت اعلیٰ کر کوچہ بازار میں آگئی۔ وہ نوجوان جو واقف زندگی ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ واقف راز ہو کر نکلنے لگے۔ خلیفہ صاحب کا ایک ہی سہارا تھا وہ نجی راز کی نگینی۔ ان کو یقین تھا کہ نہ کوئی وہ راز کہہ سکتا ہے اور نہ کوئی باور کر سکتا ہے۔ گویا وہ اپنے ہر شر با اعمال کی پردہ پوشی کے لئے انسان کی فطری حیا پر بھروسے بیٹھے تھے۔ جو انسان اپنے جرائم..... کے لئے لوگوں کی بے بسی کا سہارا لیتا ہے۔ وہ خود کتابے بس ہوتا ہے۔

مخبر مرنے پہ ہو جس کی امید
تا امید اس کی دیکھا چاہئے

قلبی خلیفہ

دائیں راز بھی ایک عجیب قلبی خلیفہ میں چلا تھے۔ جب وہ گھناؤنے مناظر..... جو قصر خرافات میں دیکھنے میں آتے تھے..... ان کے سامنے آئے تو وہ باور نہ کر سکے۔ جب باور کیا تو

اس کو اپنے وجود کے اندر سمونہ سکے۔ جب ان کو سمولیا تو بیان نہ کر سکے۔ جب وہ آتھیں راز دل و دماغ کی گہرائیوں سے اہل کرب تک آیا تو وہ سامعین کو تسلیم نہ کروا سکے۔ کیونکہ جو عمرانی رویت پر برقِ خاطر بن کر گرتی ہے۔ وہ سماعت کو کیونکر گوارا ہو سکتی ہے۔ دل کی یہ کیفیت اوائل میں محض بے بسی تھی۔ لیکن یہ بے بسی مداوندہ پا کر برقِ ورحہ بنی۔ اس نے مجروح قلب لو جو اہل کو ایک نقطہ پر منظم کیا۔ انہوں نے زیر زمین تحریک چلائی۔ کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ وہ اس آتھیں راز کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ غالب نے خوب کہا ہے۔

پلٹنا پر نیاں میں شعلہ آتش کا آسان ہے
وے مشکل ہے حکمت دل میں سوز غم چھپانے کی

ہنکسی پیکار کی فتنہ سامانیاں

ویسے بھی تحلیل نفس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ اذیت داند اجلا شور میں چلا جاتا ہے۔ وہ تمام شعوری اعمال کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ اس کے شعوری مظاہر میں بجلی کا اثر ہوتا ہے۔ یہی وہ بجلیاں تھیں جو ربوہ میں کوندیس اور ایوانِ خلافت کو تزلزل کر دیا۔ خلیفہ محمود خود ”یوم تبلی السمرات“ کے خوف سے لرزہ بر اندام ہو گئے اور اس کے روک تھام کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس نے علاج بالمثل کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا۔ وہ فتنہ تھا۔ اپنے بیٹے میاں ناصر احمد کو خلافت کا وارث بنایا۔ اس ترکیب سے اس نے چاہا کہ لوگوں کی توجہ اس کے اعمال سے ہٹ جائے گی اور وہ ایک اور فتنے سے الجھ جائیں گے۔ لیکن یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ کیونکہ اس سے ایک ہنکسی پیکار کا آغاز ہوا اور اس پیکار سے چند صالح اور سرفروش جو ان کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے اپنی مساعی کو منظم کیا اور اس تنظیم کا نام ”حقیقت پسند پارٹی“ رکھا۔ وہ خلیفہ محمود کے ہتھکنڈوں سے خوب واقف تھے۔ وہ مسائل میں بالکل نہ الجھے اور عوام اور حکام کی توجہ کو قصر خرافات کے باطنی رازوں پر مرکوز کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جوش و غلوں کا یہ نتیجہ تھا کہ اسلامی اخبارات کا غیور طبقہ ان کے ساتھ تعاون کرتا رہا۔ ارباب بصیرت کی نظریں بھی من قال سے زیادہ ماقال پر لگی رہیں۔ یہ دلیر جو جوان خلیفہ کی سفاکیوں اور تعدیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے برابر نبرد آزما رہے اور اس کی بوسیدہ شخصیت کو قادیانیت اور مسلمانوں کے سوا او عظیم کے سامنے بے نقاب کر کے چھوڑا۔ حتیٰ کہ اس کی متعفن لاش زمین کا ناسور بن گئی۔

داغ داغ اجالا

انہوں نے کمال تدبیر سے خلیفہ محمود کی زندگی کے تاریک گوشوں کو اجالے میں لانے کی

کامیاب کوششیں کیں۔ انہوں نے قادیانیوں کو بتایا کہ تمہارا اجالا داغ داغ اور تمہاری سحر شب گزیدہ ہے۔ انہوں نے خلیفہ کے چہرے سے نقاب اٹھا کر اس کی لادینی کولوگوں پر روشن کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پندرہ سال ہزہولی نیس His Holiness کے لقب سے ملقب کرتا رہا۔ وہ اسلام سے کتنا دور اور کلیسائی شرک سے کتنا قریب ہے۔ کیونکہ اسلام تجسیم خداوندی کا دشمن ہے اور عیسائیت اس کی علمبردار ہے۔ یہ ان فوجوانوں کی سعی مشکور کا نتیجہ ہے کہ خلیفہ محمود یوکلہ کر توازن کھو بیٹھا۔ خطبات سے اپنے رازدوں کو طشت ازبام کرتا رہا۔ کبھی اپنے آپ کو فخر رسل کہہ کر اسلام اور رسالت مآب کے خلاف بغاوت کرتا رہا۔ کبھی پاکستان اور ہندوستان کی حد فاصل کو مٹانے کے لئے دعائیں کرتا رہا۔ گویا نہ وہ دین کے وقادار نہ وطن کا بھی خواہ۔

اس طرح اس شخص نے اپنی اکاون سالہ خلافت میں دین کے ساتھ تلعب کیا اور شریعت کو بازی گاہ بنائے رکھا اور اپنے فن و فراست اور جماعت کے وسائل و ذرائع کو اپنے اعمال کی پردہ داری کے لئے وقف کر دیا۔ اسی تالیف میں اس شخص کی زندگی کو ایک ملت کے گناہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر جماعت دین کو خلیفہ کی تمناؤں پر مقدم رکھتی تو وہ آج قصر نزلت میں گر کر تاریخ میں ایک عبرت ناک باب نہ بنتی۔ چونکہ اس معصیت میں ایک ملت کی ملت شریک ہے۔ یہ خدا کی تقدیر سے کیسی بچ سکتی ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جو اس تالیف میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھ کر ایک قاری اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ قادیانی جماعت کا المناک انجام قریب ہے۔ زمین و آسمان حرکت میں ہیں۔ فطرت کی تعزیریں عمل کے لئے بے تاب ہیں۔ خدا کبھی اس جرم کو معاف نہیں کر سکتا جو ساٹھ سال سے قادیانی نظام کے حدود اربعہ میں ہو رہا ہے۔

فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

قادیانی سرکس کے مناظر کی تاریخ

وہ شاخ نور جسے ظلمت نے سینچا ہے اگر پہلی تو شراروں کے پھول لائے گی
نہ پھل سکی تو نئی فصل گل کے آنے تک ضمیر ارض میں اک زہر چھوڑ جائے گی
جارحانہ فتنہ انکار ختم نبوت کی عمر اس وقت تقریباً پون صدی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے
بھی ایک دور تھا جو ۱۹۱۴ء کو ختم ہوا۔ دوسرا دور محمودی (بلکہ نامحمودی) استبداد کا تھا۔ اس کی عمر پچاس

سال تھی۔ قادیانوں کے اپنے عقیدہ کے مطابق پہلے دور کو دوسرے دور سے وہی تعلق ہے جو شجر کو ثمر سے ہوتا ہے۔ گویا انہوں نے اپنی تحریک کے پرکنے کی کسوٹی خود ہی تجویز کر دی ہے۔ وہ کسوٹی خلیفہ محمود کی وہ لکن ترانیاں ہیں جو افضل کی پیشانی پر ہر روز جلوہ گر ہوتی رہیں۔ وہ لکن ترانیاں قیادت کے مزاج اور جماعت کی ذہنیت کی نماز ہیں۔ ابتداء میں ہی مرزا محمود احمد پر لٹری کا کالیوں سوار تھا۔ اس نے جماعت کے پیر پرستار جذبے سے فائدہ اٹھا کر **Brain Washing** کا عمل حکیم نور الدین کے دور خلافت میں ہی شروع کر دیا تھا۔ اس نے چالیس آدمیوں کے دستخطوں سے صدر انجمن کے خلاف ایک بیان جاری کیا تھا اور اپنے لئے زمین ہموار کرنی شروع کر دی۔ اب اپنے دور میں معمولی اختلاف کو بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اپنے پیشرود کی وفات تک اس نے اپنے زیر زمین سازش کی سرگلیں دور دور تک جماعت میں بچھادی تھیں۔ اس کے حریف اگرچہ بے خبر نہ تھے۔ لیکن بے ہنر ضرورتاً ہوتے۔ کیونکہ انہوں نے نہ کوئی تذکرہ کیا اور نہ ہی تاب مقاومت کا مظاہرہ کیا۔

سازشوں کا ابوالہول

جونہی حکیم نور الدین کی وفات ہوئی۔ محمودی سازشوں کا ابوالہول نمودار ہوا اور اس وقت کے ارباب اختیار جو ہانی کے لورتن تھے۔ بھاگ کھڑے ہوئے ان کا فرار مرزا محمود کے لئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا۔ سوڈیشی خلافت کا تاج پہن کر اس نے برطانوی حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات استعار کئے اور اس کی پشت پناہی حاصل کی۔

چونکہ مرزا محمود بچیس سال کی عمر میں ہی خلافت پر قابض ہو گیا تھا۔ اس لئے ڈیکٹیٹروں کی طرح نفرت کی فصلیں استوار کر کے ہی زندہ رہ سکتا تھا اور جماعت کو اپنے ساتھ وابستہ رکھ سکتا تھا اور اس میں کلام نہیں کہ یہ کارنامہ اس نے اس طرح انجام دیا جس کی اسے آرزو تھی۔ اس نے مسئلہ تکفیر کو خوب اچھالا اور مسلمانوں سے عمرانی مقابلہ کر کے جماعت کو تدریجاً اپنے سامنے بے بس بنا کر چھوڑ دیا۔

ڈیکٹیٹر شپ کا پروان چڑھنا

اس کے قادیان (اور اس کے بعد رپوہ) کی فضا بڑی سازگار ثابت ہوئی۔ قادیان سے باہر مرید اپنے پیر کی تعلیمات کی پیروی میں مسلمانوں کے سوا داعیہ سے کٹ گئے تھے۔ ان کا بچا و ماویٰ قادیان (رپوہ) بن گیا تھا۔ اس پر قدرت کی تسم ظریفی کہ خلیفہ محمود کو اپنی جماعت کی تربیت کے لئے اس وقت تک (علاقت کا عرصہ نکال کر) پینتالیس سال لے اور اس طویل مدت میں

قادیاہوں کی کئی نسلیں خلافتی استبداد سے بگڑ گئیں۔ خلیفہ محمود کے سارے پروگراموں کا مفاد اس کی اپنی آمریت کو قائم کرنا اور جماعت میں ”سمعنا و اطعنا“ کی ذہنیت پیدا کرنا تھا۔ اس نے جماعت میں اپنے لئے عملاً وہی مرتبہ پیدا کیا جو مذہب میں نبی اور سیاست میں ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے۔ اس مخزومی اور ایلہیسی تربیت کے لئے اس نے خواب اور رویا کا سہارا لیا۔ کیونکہ ان کے سامنے دلیل اور حجت کی گنجائش نہیں تھی اور پھر اپنے خوابوں کے قافلے کو اس ہنرمندی اور چابکدستی سے چلایا کہ مریدان کو الہام اور وحی تصور کر کے اپنے عقل کو معطل کر دیتے رہے۔ جماعت کے اندر جعلی اصطلاحات کو رائج کیا تاکہ کسی مرید کی نظر ان کے ذاتی اعمال پر نہ پڑے۔ اگر کوئی بے باک نظر پڑ بھی جائے تو دوسروں کی اندھی ارادت اس کو بے اثر کر دے۔ اگر یہ بھی کارگر نہ ہو تو مرکز میں خلافت مآب کا معاشی کھنڈہ تنقید کی قوتوں کو مفلوج کرنے کے لئے کافی تھا۔ کیونکہ مرکز میں ہی افشائے راز کا خطرہ تھا اور مرکز میں ہی خلافت مآب کی گرفت ہمیشہ آہنی رہی۔

بایزیکاٹ کا جان لیوا حربہ

الفضل کے صفات سوشل بایزیکاٹ کے اعلانات سے معمور رہتے تھے۔ جس کا بایزیکاٹ ہوتا اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ اگر کوئی عزیز ترین رشتہ دار مرض اور موت کے وقت بھی اس کے لئے رحم کے جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی معمولی ہمدردی کا کام کر بیٹھتا یا اس کا ارادہ کرتا تو اس انحراف کی پاداش میں وہ روح فرسا مقلد کا شکار ہو جاتا اور ہر مقلد پر بڑی بے حیائی اور بے باکی سے یہ اعلان کیا جاتا کہ رسول اللہ ﷺ بھی معاذ اللہ منحرفین کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھتے تھے۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اپنی آمرانہ ہنرمندی سے خلیفہ محمود اپنے مریدوں سے اسی قسم کے غیر مسئول اطاعت چاہتے تھے۔ جو صحابہ کرام کو حضرت رسول اکرم ﷺ سے تھی۔ رحمت اللعالمین ﷺ پر یہ ایلہیسانہ بہتان کسی قادیانی کو ناگوار نہ گزرا۔ کیونکہ ان کے دل اور دماغ سے اسلامیت کا ابتدائی تصور کاٹا نکل چکا تھا۔ وہ ”کمال انعام ہل ہم اضل“ ہو چکے تھے۔ اگر کسی میں اس پر انتہا پس پیدا ہوتا بھی تو خلافتی استبداد سے ڈر کر اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ یہ اس جماعت کا حال ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے اور مسلمانوں کو کافر کہہ کر ان پر مقابل آنے کی آرزو رکھتی ہے۔ عملاً محض معمولی اختلاف کے خفیف شبہ پر اس بایزیکاٹ کو روا رکھتی تھی جو ابوجہل کی قیادت میں کفار کے مسلمانوں کے خلاف نافذ کیا کرتے تھے۔

پاک الفاظ کا ناپاک استعمال

اس خوف و ہراس کی کیفیت کو عقیدت کہا جاتا ہے۔ کتنے پاک لفظ کا کتنا ناپاک

استعمال ہے۔ صالح مرشد سے صحیح عقیدت کر گس کو بھی شاہین بنا دیتی ہے۔ لیکن جس عقیدت سے شاہین کر گس بن جائیں وہ ذہنی غلامی کا بدترین نمونہ ہے۔ اس دینیاتی استبداد کو نظام کہا جاتا تھا اور اس نظام کے آئینی ہونے پر اب بھی فخر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس نظام کا مزاج روح پرور ہو اس کو آہنی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی نظام کو آہنی ہونے کی ضرورت ہے جو انسان کی جبلتوں کو مردہ کر کے زندہ رہ سکتا ہے۔ آہنی نظام اور آئینی نظام میں فرق ہوتا ہے۔ ایک موت وارد کرتا ہے اور دوسرا حیات بخشتا ہے۔

اس قادیانی نظام میں عقل و خرد کو اس واسطے ذبح کیا جاتا ہے کہ ان کے فروغ سے صحیح دینی غلبہ کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ قادیانی خلافت کے نظام میں اخلاقی جرائم کی سزا ساری اور عارضی اور نمائش کے لئے ہوتی ہے۔ ربوہ میں شاید ہی کوئی ایسا ناظر یا عالم ہوگا جس پر کسی اخلاقی لغزش کی پاداش میں خلیفہ محمود نے فرد جرم نہ لگایا ہو۔ لیکن وہ مجرم کبھی اپنے عہدے سے برطرف نہیں ہوا۔ اگر برطرف ہوا بھی تو بحال بھی ہو گیا۔ عالموں کو طاغوتی چوہے اور جمعراتی ملاؤں کے القاب عطاء ہوئے۔ مگر وہ بدستور قاتل المرام رہے۔ ان کے ایک برادر نسبتی ناظر امور عامہ تھے۔ ان کے متعلق شارع عام میں بورڈ پر یہ اعلان ہوا کہ وہ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگ ان سے متنبہ رہیں۔ لیکن وہ اپنے منصب سے الگ نہ کئے گئے۔ اس کے برعکس کسی کے متعلق قادیانی خلافت کو یہ شبہ ہو کہ وہ ان کی کسی رائے سے اختلاف رکھتا ہے یا اس نے کوئی نکتہ چینی کی ہے تو اس پر تعزیرات سے عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا۔ گویا قادیانی نظام میں خدائی نافرمانی قابل عفو ہو سکتی ہے۔ مگر خلیفہ کی نافرمانی کا محض شک بھی ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی واسطے ایمان بالخلافت پر ان دنوں بھی بڑا زور ہے۔ جماعت کے افراد کا بے بس ہو جانا قادیانی خلافت پر ایک سنگین طعنے ہے۔

رنگ ماسٹری کا کردار

اگر یہ عقیدت بھی سمجھی جائے تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں۔ کیونکہ دوسرے شخصیت کش عیرو خانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مرید اپنے مرشد کی ہر لغزش کو رشد سمجھتے ہیں۔ ایسی کیفیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایک نفسیاتی بے بسی ہے جو سرگس کی تربیت سے ہر مرید اپنے عیروؤں میں پیدا کر دیتا ہے۔ سرگس کا رنگ ماسٹر Ring Master درندوں کو سدھا کر ان سے وہ کام لیتا ہے جو ان کی فطرت کے منافی ہوتے ہیں۔ سرگس کا شیر اپنے رنگ ماسٹر کے چابک کی آواز پر ناچتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ درندہ کی فطرت کو سخ کرنا اس پر احسان ہے۔ ایک عام مداری چڑیا کی ایسی تربیت کر دیتا ہے کہ وہ عام مجمعے میں تماشاخیوں کے

ہاتھوں سے تانبے چاندی کے سکے چونچ میں لاکر مداری کی گود میں ڈال دیتی ہے اور اس کام کے لئے اس کو تماشاخیوں کے ہجوم سے ڈر نہیں لگتا۔ لیکن اگر کوئی اپنی ہتھیلی میں دانے رکھ کر اس کو دکھانے کی کوشش کرے تو نہ وہ دانے دیکھے گی اور نہ وہ اڑ کر آئے گی۔ اپنی خوراک مداری کے ہاتھوں سے ہی لے گی۔ خلیفہ محمود نے بھی طویل تربیت سے اپنے مریدوں میں سرکس کے شیر اور مداری کی چڑیا والی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ جس طرح شیر سرکس سے الگ ہو کر جنگل میں نہیں جاسکتا اور چڑیا بچرے سے اڑ کر دوسری چڑیوں میں نہیں مل سکتی۔ کیونکہ وہ دونوں اپنی فطری داعیات سے عاری ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اس مفاہرت پر جو ان میں اور ان کے ہم جنسوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ غالب نہیں آسکتے۔ یہی حال قادیانیوں کا ہے۔ وہ سودیشی خلافت کی خلوتوں کا مشاہدہ کرتے اور تعزیروں کا نشانہ بنتے ہیں لیکن وہ اس عذاب حیات سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں۔ ”جانکس جانکس کہاں؟“

تنظیم کی خونی قربان گاہ

خلافتی سرکس نے ۱۹۶۶ء میں کو اپنے اور اپنے خاندان کے لئے رحمت اور جماعت کے لئے لعنت بنا دیا ہے۔ قادیانی جماعت میں نظام کی وہی کیفیت ہے جو شریعت کی یہودیوں میں ہو گئی ہے۔

نظام اس وقت تک ہی رحمت رہتا ہے جب تک اس کا مقصد جماعتی بہبود ہو۔ لیکن جب جماعت کے مفادات نظام کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھنے لگیں تو یہ آمرین کا ٹکجنہ بن جاتا ہے اور جو لوگ نفسیاتی تربیت اور اضطرابات مشروط کی تدبیروں سے اس ٹکجنے میں مقید ہو جاتے ہیں۔ ان کی بصارت اور بصیرت ڈکٹیٹر کی مرضی کے تابع ہوتی ہے اور ان کو کہنا سننا بیکار ہوتا ہے۔

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر
مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر

شہزادہ ویلز کے حضور مرزا محمود

پہلی جنگ عظیم کے بعد جب شہزادہ ویلز ہندوستان کی سیاحت کے لئے لاہور آیا تو خلیفہ محمود کو ریش بجالانے کے لئے قادیان سے آئے۔ اس وقت ان کی موٹر کے پھریرے پر *His Holiness* لکھا تھا۔ حالانکہ عیسائیوں میں پوپ *His Holiness* کہلاتا ہے۔ وہ بھی بادشاہوں اور شہزادوں کے پاس نہیں جاتا۔ اس ایک غلامانہ فعل سے خلیفہ کے فضل عمر بننے کی ملعون تدبیر کی بھی قلعی کھل گئی۔ حضرت فاروق اعظم کا رب ذوالجلال کے علاوہ کسی بادشاہ کے

دربار میں جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان کی خلافت دنیاوی بادشاہوں پر بھاری تھی۔ لیکن کہاں قادیانی ٹانگہ کا بھروسہ اور کہاں غیبِ حتم رسول ﷺ! لیکن اس خلیفہ کا بیک وقت پوپ کا روپ دھارنا اور اسلام کا نام لینا کسی قادیانی کی عقل و دانش پر گراں نہیں گزرتا۔ چونکہ قادیانی کی صحت اور صلاحیت کی بناء کے لئے جماعت کا فیور ہونا ضروری ہے اور جو نبی جماعت میں غیرت ختم ہوتی ہے۔ جماعت کا سربراہ کھائز میں جھلا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں اس کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہی حال قادیانی خلافت کا ہوا۔ مرزا محمود نے جنسی عارضہ سے مظلوم ہو کر وہ وہ حرکات کی ہیں کہ ان کے بیان کے لئے زبان کے سانچے نہیں بنے۔ اگر ان کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو ادب کی پیشانی پر شکنیں پڑ جائیں۔ قصر خراقات عفت اور عصمت کی لاشوں کا قبرستان تھا۔ کیونکہ وہ افعال دیکھنے پر بھی مانے نہیں جاسکتے۔ سننے پر کیسے تسلیم ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے:

زندگی جبر کے سانچوں میں ڈھلے گی کب تک ان فضاؤں میں ابھی موت ملے گی کب تک بدنامی سے بچنے کا کمزور سہارا

جب قادیانی خلافت کی سنگین ظلتوں کے رنگین راز ہاہر فضا میں نالہ دل اور دو چراغِ محفل بن کر پھیلے تو اپنی صفائی میں حضرت فاروقؓ سے اٹھل بننے والے نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک واقعہ کے چار گواہ لاؤ۔ کبریائی کا دعویٰ اور صفائی کا یہ معیار اس طریق سے توجہ خانے کے لوگ بھی زنا کے الزام کی تردید کر سکتے ہیں۔ خدا کے بندے اپنی صفائی کے لئے دنیاوی عدالتوں کے وضع کردہ جیلوں کا سہارا نہیں لیتے۔ وہ اپنی مدافعت اور حفاظت کے لئے خدا کا فیصلہ طلب کرتے ہیں تاکہ سیاہ وسفید میں تمیز ہو جائے۔ لیکن وہ خلیفہ جو ہر وقت یہ کہتا ہے خدا کی انگلی مل رہی ہے۔ خدا میری طرف بھاگا آ رہا ہے۔ اپنی صفائی کے لئے آسمان پر دستک دینے سے خائف ہے۔ تیس سال سے اس کو مہلبہ کا چینیچ دیا جا رہا ہے۔ مسٹر یوسف ناز کی مؤکد بالعذاب قسم نے تو اس کو کہیں کا نہیں رکھا۔ اس نے حلیہ بیان ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا کہ خلیفہ اپنی ازدواج کو خود پیش کرتا تھا۔ (ماخوذ از کمالات محمود یہ ص ۳۹)

یوسف ناز اس کی محفل کا ہیرو تھا۔ اس نے کراچی کے فرم مختار لمیٹڈ کے مالک کے سامنے وضو کر کے خلفا کہا کہ وہ اس قتلِ عفت کا عینی شاہد ہے۔ اسی وجہ سے اس کو خلیفہ کے پاس رسائی تھی۔ قادیانی لوگ اس کی دست گیری کے محتاج رہتے تھے۔ جب اس نے خوفِ خدا سے معصیت سے توبہ کی تو اس کو جماعت سے نکلنا پڑا۔

خلیفہ کے ماموں کی شہادت

خلیفہ صاحب کے ماموں نے جوڑا کڑھے ۱۹۳۷ء میں انہی الزامات کے جواب میں کہا تھا کہ جماعت کو ان پر کان نہیں دھرنے چاہئیں۔ اگر ان میں حقیقت ہے تو وہ خلیفہ صاحب کی دماغی صحت کے زوال میں جلوہ گر ہو کر رہے گی۔ چنانچہ اب وہ وقت بھی موت سے پہلے آیا جب خلیفہ کے دل و دماغ پر لسیان اور ہڈیاں کا غلبہ ہو گیا۔ اس کی گفتگو غیر واضح۔ اس کی نماز اور خطبات بے ربط ہو کر اٹھو کہ روزگار بن گئے۔ کیونکہ جس سرعت اور عجلت سے وہ سجدہ کرتا تھا وہ ایک بھون کی سیما بی حرکات معلوم ہوتی تھیں۔ لوگوں نے بھی تجھیے میں کہا شروع کر دیا ہے کہ خلیفہ صاحب کے پیچھے نماز کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن مسجد میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ خدا کے گھر میں قادیانیوں کی نمازیں ان کی خود ساختہ خلافت کے ہاتھوں رسوا ہوتی رہیں اور یہ بول نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ وہ کچھ کہتے اور ترمیم و تنسیخ کے بعد کچھ اور شائع ہو جاتا تھا۔ علماء کا منتقارزیر پر ہونا تعجب کا مقام ہے۔ کیونکہ عبادت کی تھیک پر بھی ان کی رگ حسیت نہیں پھڑکتی تھی۔ آخر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور تڑپ تڑپ کر اور بول و براز میں شرابوں کو کر مرا۔ اس کے گھر والوں نے یہ انجام دیکھا۔

چونکہ ساری قادیانی ملت اپنے خلیفہ صاحب کے جرائم میں شریک رہی ہے۔ اس واسطے خدا کے ہلش شدید سے بچ نہیں سکتی۔ اگر محض خلیفہ صاحب کی ذنوب کا معاملہ ہوتا تو سی اور دراز ہو جاتی۔ مگر ساری ملت اپنے کردار کے عواقب سے بچ نہ سکی اور ۲۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کو قاتلونا غیر مسلم قرار دی گئی اور سنا ہے کہ اب حرمت شراب کے خفا کے بعد وہ ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کی طرح بغیر پر مٹ شراب لے سکتی ہے اور اب بت عنب کے عشاق قادیانی بن کر اپنی حرص پوری کریں گے یا قادیانیوں کو اپنا ایجنٹ بنا لیں گے۔ اب منکرین شتم نبوت تعزیر الہی کا شکار ہو کر ام النہایت کے دامن سے وابستہ ہو کر یہ کہیں گے۔ ”دیکھو! میں جو دیدہٴ عبرت نگاہ ہو“ اور زمین سے آسمان تک سوٹنی کا باب بن کر شتم ہو جائیں گے۔

مالی خیانت کے لرزہ خیز انکشافات

قادیانی پولیس افسر کی کھلی چھی بھام چوہدری ظفر اللہ خاں

نوٹ..... سابق پولیس افسر (مولوی) صدر الدین (مرحوم) (کنہ چک سکندر تحصیل کھاریاں ضلع گجرات) نے چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب کے نام ایک کھلی چھی (۱۵ مئی ۱۹۵۸ء) میں ظفر طریق سے اپنا تعارف کرایا۔ بطور ایڈیٹر اس پر جن لرزہ خیز مالی خیانت کاریوں کا پردہ چاک

ہوا ان کو اختصار کے ساتھ اپنی چشمی میں بیان کیا ہے۔ لیکن جس ناپاک تنظیم میں جان اور ایمان پر ڈانکے پڑ رہے تھے وہاں اپنے ساختہ پر داختہ دین لادین کے پردہ میں جو مال اکٹھا کیا جا رہا تھا اس کو کس طرح کھلے خزانے لوٹا گیا۔ پہلے تو مراسلہ نگار کو اپنے عقیدے سے تائب ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس نے دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارے کہ کس طرح لوٹ کھسوٹ بند ہو۔ اس نے اس وقت کی حکومت کو، کبھی سیکرٹریٹ کے سامنے کبھی اسمبلی ہال کے سامنے بھوک ہڑتال کر کے ربوہ کے درون خانہ کی مالی غنومتوں کا احتساب کرانے کی سعی تبلیغ کی۔ لیکن حکومت نے تعزیری دھمکیوں سے اس کو بے بس کر دیا۔ حالانکہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سردار عبدالرشید صاحب نے انسداد کا وعدہ فرمایا۔ لیکن وہ مرکزی حکومت کے کسی اشارہ پر شاید کچھ نہ کر سکے۔ اپنی کوششوں کے ضمن میں اس نے چوہدری ظفر اللہ خاں کے دل پر دستک دی۔ شاید کہ اس کے دل میں اتر جائے اس کی بات۔ لیکن انکار ختم نبوت کے متعفن حمام میں کون ننگانہ تھا۔ جتنا کوئی دنیاوی طور پر بڑا قادیانی سمجھا جاتا تھا اتنا ہی اس کی عربیائی ہوشربا تھی۔ چوہدری صاحب مذکور جو خلیفہ کے ساتھ ہمیں میں *Blue Cinema* بیوسینما اکٹھے دیکھنے کا شغل فرماتے رہے۔ وہ ایک دیانتدار پولیس ایڈیٹر کے انکشافات سے کپسے متاثر ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات ﷺ کی لائٹانی رفعت کے انکار کی تعزیر میں ان لوگوں کو حسن و جح، رشد و غی، میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے کاملاً محروم کر دیا تھا۔ چنانچہ اس تاریخی مراسلہ کا مکتوب الیہ پر کوئی اثر نہ ہو۔ (مؤلف)

یہ چشمی خلیفہ صاحب کے مسجح موعود کے اقوال کی روشنی میں لکھی گئی تھی۔

قول نمبر: ۱..... دشنام دینی اور چیز ہے اور بیان واقعہ گو وہ کیسا ہی تلخ اور سخت ہو، دوسری شے ہے اور ہر ایک محقق اور حق گو کا فرض ہے کہ سچی بات پورے طور پر مخالفت گم گشتہ کے کانوں تک پہنچا دے۔ پھر اگر وہ مسجح سن کر برا فروختہ ہو تو ہوا کرے۔ (ازالہ ابہام ص ۱۹، خزائن ج ۳ ص ۱۱۲)

قول نمبر: ۲..... مہلبہ صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنیاد رکھ کر دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔ (اخبار الحکم مورہ ۲۳ مارچ ۱۹۰۲ء)

قول نمبر: ۳..... مظلوموں کے بخارات نکلنے کے لئے یہ ایک حکمت عملی ہے کہ وہ بھی مباحثات میں سخت حملوں سے سخت جواب دیں۔ (کتاب البریہ ص ۱۱، خزائن ج ۳ ص ۱۲)

قول نمبر: ۴..... خان، زانی، فاسق، فاجر، سودخور، ظالم، دروغ گو، میری جماعت میں سے نہیں ہیں۔ (کشمی نوح ص ۱۸، خزائن ج ۱ ص ۱۹)

گزارش احوال واقعی

مکرمی چوہدری ظفر اللہ خاں صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

چونکہ آپ کو جماعت ہائے احمدیہ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ نیز اس کے علاوہ آپ ایک بین الاقوامی شخصیت بھی ہیں۔ جس کی وجہ سے آپ کی جماعت خاص طور پر عوام الناس کی نظر میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ نیز وقت بے وقت جماعت بھی آپ کی شخصیت اور اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتی ہے اور چونکہ یہ عاجز اپنی داستان مظلومیت کو فرداً فرداً بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اسی لئے اس کھلی چٹھی کے ذریعے آپ کی وساطت سے جماعت ہائے احمدیہ کے فہمیدہ اشخاص سے خصوصاً اور اپنے دوست و احباب سے اور اہل ملک تک عموماً اپنی نجف اور دردناک آواز گوش گزار کرنا فرض منہی سمجھتا ہوں۔ کیونکہ میری درد بھری داستان اس شخص کے مظالم کے خلاف احتجاج ہے جو آیات استخلاف کے مطابق خلیفۃ اللہ ہونے کا مدعی ہے اور بقول آپ کے خلیفہ صاحب (مرزا محمود احمد) کا ہر ارشاد دین کے معاملہ میں جماعت کے لئے قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ (بیان تحقیق عدالت ۱۹۵۳ء)

یہ عاجز آبائی طور پر چک سکندر ضلع گجرات کا باشندہ ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً ۶۲ سال ہے اور میں پیدائشی طور پر جماعت قادیان سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے ۱۹۴۳ء میں دوسری شادی کے بعد مستقل طور پر قادیان میں رہائش اختیار کر لی۔ مگر بسلسلہ ملازمت قادیان سے باہر ہی رہا۔ جس کی وجہ سے مجھ پر قادیان کے کسی سربستہ راز کا انکشاف نہ ہوا۔ حتیٰ کہ میں قیام پاکستان کے بعد دوبارہ اپنے سابقہ وطن کھاریاں ضلع گجرات میں بحیثیت مہاجر آباد ہو گیا اور ۱۹۵۰ء میں ملازمت سے پشٹن حاصل کر لی اور ۱۹۵۳ء میں حسب ارشاد خلیفہ صاحب ربوہ چھوٹی سرکار کی ملازمت چھوڑنے کی وجہ سے حکم سے صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ کے حسابات کی پڑتال پر مامور ہوا۔ معمول کے مطابق خلیفہ صاحب کے مواعظ حسنہ سے متاثر ہو کر میں نے انجمنی اخلاص اور محنت اور جانفشانی سے کام کیا اور انجمن میں لاکھوں روپے کا نفع اور مالی بدعنوانیاں ثابت کیں اور ان کو میں نے تحریری طور پر خلیفہ صاحب کو پیش کر دیا۔ چونکہ منبر پر خلیفہ صاحب کے وعظ کا نچوڑ یہ ہوتا تھا کہ دیانت داری ہمارا اصل اصول ہے اور جماعت کی بہترین خدمت یہ ہے کہ بددیانتوں کا سراغ لگایا جائے اور قومی بیت المال کو ایسے لوگوں سے صاف کیا

جائے تاکہ اشاعت اسلام کا بے نظیر کام سچ اور عمدہ طریق پر چلایا جائے اور یہ کہ اس خدمت کو انجام دینے والے میری خاص دعاؤں کے مستحق ہوں گے۔ نتیجتاً مجھے بھی اس خدمت کے بجا لانے کا شوق دامن گیر ہو گیا اور مجھے یقین تھا کہ میری دیانتدارانہ محنت کی حقیقی داد دی جائے گی اور ظرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اور میں اس خدمت کے سلسلہ میں حضور کا مقرب بن جاؤں گا۔ حضور غرض ہوں گے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ مگر وائے قسمت! کہ بعد کے واقعات نے کچھ اور ہی منظر پیش کئے۔ جن کا اسی چشمی میں دوبارہ بیان کرنا تصحیح اوقات ہے۔ نیز یہ ایک طویل لڑخہ فیتر داستان ہے جسے چند جملوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ الخضر اس سچ بولنے اور دیانتداری اخلاص اور تقویٰ کی پاداش میں ایک سوچی سمجھی سقیم کے ماتحت مجھے گل کرنے کی سازش کی گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے محفوظ رکھا اور اس طرح جماعت اور حکومت کے سامنے اصل حقائق پیش کرنے کی توفیق ملی۔ (الحمد للہ) اور آج اس آواز کو اٹھائے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ میں نے حق و انصاف حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مگر غلیظہ ربوہ اور اس کے رفقاء اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے میرے انصاف حاصل کرنے کی راہ میں حائل رہے۔ مجھ سے میری جائیداد اولاد بھی چھین لی گئی ہے۔

جناب چوہدری صاحب! آپ چونکہ جماعت کے چوٹی کے بااثر بزرگ سمجھے جاتے ہیں اور جماعت کی نظر میں بھی غلیظہ کے بعد آپ ہی کی طرف اٹھتی ہیں۔ اس لئے میں اس کلی چشمی کے گذر بے ادب سے دور خواست کرتا ہوں کہ آپ ایک معزز زمین الاقوامی شخصیت ہونے کی حیثیت کا حق دار اخیال کرتے ہوئے حق کی آواز اٹھانے میں میری مدد کریں اور جماعت کے لمبیدہ اصحاب تک اصل واقعات پہچاننے میں معاون کریں۔ میری شکایات حسب ذیل ہیں جو آپ کی جماعت کے بارے میں ہیں۔

نمبر ۱..... جماعت کے دروازے کا کل سر نہایت کہاں ہے؟

نمبر ۲..... اگر کابن جماعت کی ذمہ داری لیا جاوے تو کبھی کبھی صیغہ لاف و مبالغہ اور امانت خیز کلام سے کئی لاکھ روپیہ کا سر نہایت غائب ہے۔ یہ سر نہایت کہاں ہے؟ کس کا استعمال میں ہے اور اب تک اس قدر سر نہایت کس کس کے ذریعہ اور کس کس کے ذریعے سے مناجح ہوا ہے۔

نمبر ۳..... جماعت کا کس قدر سر نہایت چھاتی ہوا ہوں، صنعتوں، ٹیکسٹریوں، کمپنیوں، ریلوے سرج انٹیلیجنٹ میں لگا گیا ہے اور ان میں آج تک کیا ہوا ہے۔ گو وہاں شایع کیا جائے تاکہ حقیقت واضح ہو۔

نمبر ۴..... صدر انجمن احمدیہ رجسٹرڈ اور تحریک جدید انجمن جدید رجسٹرڈ سے کتنے لاکھ روپے پرائیویٹ افراد کے پاس قرض ہیں۔ جس کے ذریعہ وہ لوگ اپنی ذاتی تجارت کر کے مالی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ قرض کتنے سال سے ان لوگوں کے پاس ہے اور اس کی واپسی کیوں نہیں ہوئی اور انجمن کو اس سے کیا مالی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔

نمبر ۵..... صدر انجمن احمدیہ پاکستان و تحریک جدید یعنی اشاعت اسلام کے دونوں ادارے اور خلیفہ صاحب خود بھی وسیع پیمانے پر احمدیوں سے نفع کے نام پر سودی کاروبار کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام بنیادی طور پر سود کے لیکن دین کے خلاف ہے۔ اس قول اور فعل کے تضاد کی وضاحت کی جائے۔

نمبر ۶..... حکومت سے اگم ٹیکس اور سیلز ٹیکس بچانے کے لئے جماعت کی طرف سے قائم کردہ لیٹنڈ کمپنیاں جو تقریباً دو درجن سے بھی زائد ہیں، جعلی حساب کتاب بناتی ہیں اور اکثر چور بازار میں اپنے کاروبار کرتی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور خلیفہ صاحب ربوہ باوجود ذاتی طور پر ان باتوں کا علم رکھنے کے ان باتوں کا تدارک کبھی نہیں کرتے۔ کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کچھ ان کے ایماء اور ہدایت پر کیا جاتا ہے۔

نمبر ۷..... خلیفہ صاحب ربوہ محمود احمد کے عزیز واقرباء کے خلاف کس قدر بھاری بھاری رقوم کی ڈگریاں دارالتقضاء صدر انجمن احمدیہ (ربوہ) (جماعت کی عدالت عاملہ) دے چکی ہے جو بھارے غریب احمدیوں کی ساری عمر کی پونجی ہے وہ اپنے اخلاص اور عقیدت کے نتیجے میں ہانی سلسلہ کے خاندان کے افراد کی نذر کر چکے ہیں۔ آخر ان کی ادائیگی میں روک کیا ہے۔ اس کے برعکس خلیفہ صاحب نے جن احمدیوں سے اپنا ذاتی رویہ لیٹا ہوتا ہے ان کو خارج از جماعت کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

نمبر ۸..... اشاعت اسلام کے لئے زعمی وقف کرنے والے اور دوسرے صدر انجمن کے کارکن جو بیت المال سے تنخواہ حاصل کرتے ہیں اور بعض دیگر افراد کے فنی کام کیوں کرتے ہیں۔ آخر ان کے اسباب و وجوہات کیا ہیں۔ کیا یہ قومی اموال میں خیانت نہیں اور ہر طرح قابل مذمت فعل نہیں؟

نمبر ۹..... جماعت کے فہمیدہ اصحاب سے اکثر مالی حالات کو چھپایا جاتا ہے اور انجمن کے سالانہ بجٹ میں (صدر انجمن اور تحریک جدید جو دونوں رجسٹرڈ شدہ ہیں) پیش کرنے سے روکا جاتا ہے۔ جماعت کے سامنے آخر ان تمام امور کو پیش کرنے سے کیا روک تھام ہے۔ اشاعت اسلام کے

ادارے میں آخر کیا خفیہ کارروائی ہے جو جماعت کے سامنے رکھنا مناسب نہیں۔ اس سے کیا خطرات ہیں؟

نمبر ۱۰..... ربوہ کے موجودہ ارباب اختیار اور تنظیم کے سربراہوں کے خلاف تعمیری اور صحت مند تنقید پر مشتمل لٹریچر جن میں بیت المال صدر انجمن کی مالی بد عنوانیوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے کے مطالعہ سے جماعت کو منظم طور پر آخر کیوں روکا جاتا ہے۔ جب کہ ان عیوب کی نشاندہی کرنے والے شاہد پر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اور ان معترضین کا سوشل ہائیڈرکٹ منظم طور پر وسیع پیمانے پر قراردادوں اور مرکز کے حکم ناموں کے ذریعے کیوں کیا جاتا ہے۔ کیا اس لئے تو نہیں کہ کہیں حضرات مرکز کی دھاندلیوں اور اصل حقائق سے واقف نہ ہو جائیں۔

نمبر ۱۱..... خلیفہ صاحب ربوہ (مرزا محمود) پر جماعتی روپیہ کے ناجائز استعمال اور مشکوک ذاتی کریڈٹ کے متواتر جوہار بار لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب وضاحتی بیان سے کیوں نہیں دیا جاتا۔ جب کہ محمد یوسف ناز صاحب آف کراچی مہبلہ کے لئے مرزا محمود احمد کو بار بار دعوت دے رہے ہیں اور بانی سلسلہ کا قول نمبر ۲ اور درج کیا گیا ہے..... اگر مہبلہ مناسب نہ ہو تو پھر ان الزام لگانے والے اصحاب کے خلف ملکی عدالت میں چنگ عزت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا جاتا۔ الزامات سے برأت کے یہی دو طریقے ہیں اور محض سکوت اور خاموشی سے الزام نہ صرف قائم رہتا ہے۔ بلکہ منظم ہو جاتا ہے۔ (خاموشی نیم رضا) اگر موجودہ خلیفہ کی زندگی میں ان الزامات کی صفائی نہ ہو سکی تو ان کی وفات کے بعد جماعت ربوہ مخالفین کے سامنے ان کا دفاع کیسے کرے گی اور خصوصاً ان کی اولاد کو صفائی پیش کرنا مشکل ہوگی۔

نمبر ۱۲..... کیا جماعت ربوہ میرے مندرجہ بالا کسی ایک الزام کی تردید کر سکتی ہے اور سب سے آخر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ میرے علم مشاہدہ اور تحقیقات کے نتیجہ سے یہ امر بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی انجمن احمدیہ کی امانت سے مبلغ پچاس ہزار روپیہ سال ۱۹۵۲ء میں وصول کیا ہے۔ جس کو خلیفہ صاحب نے خفیہ رکھنے کی ہدایت کی ہے اور رقم ابھی تک واپس نہیں ہوئی۔ یہ کیوں بدیں وجہ آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپ اپنی پوزیشن پبلک کے سامنے واضح کریں اور صدر انجمن احمدیہ رجسٹرڈ کے موجودہ نمبر سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور میرے الزامات کی تحقیقات کے لئے جماعت کو مجبور کریں اور میرے خلاف موجودہ سماجی ہائیڈرکٹ سے جماعت کو روکیں اور دنیا کو بتادیں کہ آپ کی جماعت غیرت ایمانی رکھتی ہے اور پیر پرست نہیں اور اسلام کی صحیح روح اور خدمت ان کا نصب العین ہے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اس جماعت کے قول اور فعل میں

بڑا تضاد ہے۔

محترم چوہدری صاحب! ہم دونوں ہی تقریباً زندگی کے آخری حصہ میں ہیں اور آخر ہم نے اپنے مولا حقیقی کے پاس جانا ہے۔ اس لئے میں اس حقیقی عدالت کے عدل و انصاف کی یاد دلا کر آپ کو اپنے فرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آپ جماعت کے فہمیدہ اصحاب کی رہنمائی کریں اور ان کو صحیح راہ پر لانے کے لئے پہل کریں اور اسی طرح حق و انصاف حاصل کرنے میں میری مدد کریں۔ والسلام!

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

گجرات، مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۵۸ء
خاکسار (مولوی) صدر الدین ساکن چک سکندر تحصیل کھاریاں ضلع گجرات

وظیفہ خوار خلیفہ

سلب و نہب کی ہوشربا داستان

(سلب حیا کی داستانوں کے ساتھ سلب زر جلب منفعت کی الف لیلیوی داستان ملاحظہ ہو۔ مؤلف)
اب ذرا ان امدادی رقوم پر نظر ڈالئے جو خلیفہ صاحب علی الاعلان انجمن سے وصول کرتے تھے۔ مرزا محمود کے لئے باپ کی وفات کے بعد ۱۹۰۸ء میں ساٹھ روپے کا ایک وظیفہ ان کی اس گذر اوقات کے لئے مقرر کیا گیا۔ یہ چیز اب آپ کے دائمی استحقاق میں تبدیل ہو چکی تھی اور خلیفہ بن کر یہ رقم بدستور وصول کرتے رہے۔ خلیفہ صاحب نے غالباً ۱۹۴۳ء میں یہ ڈھونگ کھڑا کیا تھا کہ میرے لئے انجمن ماہوار کچھ رقم مقرر کر دے۔ میں لیا نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا مقرر کر دیا جانا بہر حال ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے خلیفہ کے لئے راستہ بند نہ ہو جائے اور اس کے لئے بیت المال سے کوئی رقم لینے میں روک نہ ہو۔ یہ ایسا لغو اور معطلہ خیر عذر تھا کہ حیرت آتی ہے کہ خلیفہ محمود نے اس چیز کو اپنے کا سہ گدائی کے لئے پردہ کس طرح سمجھ لیا۔ بات صاف تھی خلیفہ صاحب انجمن سے باقاعدہ ایک رقم ہتھیانا چاہتے تھے۔ نام لے دیا اگلے خلیفہ کا۔ اگر محض ”نام نہاد“ طور پر ہی یہ رقم رکھی جانی تھی اور محض خانہ پری ہی مقصود تھی اور محض ایک راستہ کھولنے کے لئے ظاہری شکل دینا نظر تھا تو یہ چھ ہزار روپے سالانہ کی رقم کس مقصد سے رکھی گئی۔ محض ایک روپیہ بطور ٹوکن (Token) رکھ دینا کافی تھا۔ انجمن کو اپنے بجٹ کو متوازن رکھنے کے لئے جو پریشانی

اٹھانا پڑتی تھی اس میں بہت حد تک کمی آ جاتی۔ لیکن چونکہ اصل مقصد مالی استیصال تھا۔ چھ ہزار کی رقم مالی بجٹ میں رکھوائی گئی۔ اس سے بھی بڑھ کر بات سننے کہ اس وقت خلیفہ محمود نے پردہ رکھنے کے لئے یہ تو کہہ دیا کہ میں اس رقم کو وصول نہیں کروں گا۔ لیکن آج تک اس کے مرنے کے بعد بھی اس رقم سے ایک جہ بھی انجمن کے خزانے کو واپس نہیں ملا اور خلیفہ صاحب تادم مرگ ہا قاعدہ ابتداء سال میں ہی چھ ہزار کی رقم وصول کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی پردہ دری پر آتا ہے تو بڑے بڑے خطاط اس کی درمیں آنے سے نہیں بچ سکتے۔ اسی خلیفہ صاحب نے جو بڑی چابکدستی سے اپنے اس مالی استیصال کو چھپاتے آتے تھے۔ خود ایک سال ایسا قدم اٹھایا جس سے پردہ چاک ہو گیا۔

استیصال کی پردہ دری

۱۹۵۷ء کو خلیفہ صاحب کی پردہ دری سے خاص نسبت ہے۔ صدر انجمن احمدیہ کا بجٹ ۵۸-۱۹۵۷ء ملاحظہ کیجئے۔ خلیفہ صاحب کے نذرانہ کی یہ رقم جو سا لہا سال سے چھ ہزار روپیہ اور جسے محض بطور Token بجٹ میں رکھا گیا تھا۔ مرزا محمود کی مالی امداد اس سے مقصود نہ تھی۔ صرف یہ مقصد تھا کہ آئندہ کسی آنے والے خلیفہ کے لئے بیت المال کے بجٹ میں رقم کا رکھوانا مشکل نہ ہو جائے۔ اسے بڑھا کر یکدم بارہ ہزار روپیہ کر دیا گیا۔

(بجٹ صدر انجمن احمدیہ ۵۸-۱۹۵۷ء ص ۱۹)

مالیات پر دست درازی

بات بالکل صاف اور واضح ہے۔ اگر نذرانہ خلافت کا مقصد خلیفہ صاحب کی مالی امداد نہیں اور اس کی تہہ میں خلیفہ صاحب کو مالی استیصال نہ نظر نہیں تھا تو اس رقم کو چھ ہزار رکھوانے کی کیا ضرورت تھی اور اب اس وقت اسے بڑھا کر بارہ ہزار کس مقصد سے کرایا گیا ہے۔ جب کہ یہ سال جماعت کے چندوں کے لئے بڑی اسی مشکلات کا سال ہے۔ تحریک جدیدہ کو ایک لاکھ کا خسارہ ہے۔ اس کے وکیل المال لکھتے ہیں: ”وکالت مال اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود آبد بجٹ کے مطابق پیدا نہیں کر سکی۔ اس وجہ سے بجٹ غیر متوازن ہو گیا ہے اور ایک لاکھ روپیہ کا خسارہ متوقع ہے۔“

(بجٹ تحریک جدیدہ ۵۸-۱۹۵۷ء)

یہی حال صدر انجمن کا تھا۔ بہت سے ضروری اخراجات میں تخفیف کی گئی تھی۔ کئی ایک ضروری اخراجات ترک کر دیے گئے۔ انجمن کے کارکنوں میں بیس فیصد کی تخفیف کی جارہی

تھی۔ لیکن خلیفہ صاحب کا وظیفہ تھہ ہزار سے بڑھا کر بارہ ہزار پورا دو گنا کر دیا گیا تھا۔ خلیفہ صاحب قوم پر اثر تو یہ ڈالنا چاہتے تھے کہ میری وجہ سے صدر انجمن پر کوئی ہار نہیں۔ میں خلافت کا کام مفت سرانجام دے رہا ہوں۔ لیکن عملی حالت یہ تھی کہ دو دو ہاتھوں سے سلسلہ کے اموال لوٹ رہے تھے۔

کسی شخص کی حقیقی ضروریات کھانا، کپڑا، مکان، ضروری سفر اور اولاد کی تعلیم کے اخراجات ہوا کرتے ہیں۔ خلیفہ صاحب کے کھانے، کپڑے کے لئے بارہ ہزار روپے بجٹ میں موجود ہیں اور بجٹ کی پوری کی پوری رقم یہ وصول کر لیتے تھے۔ مکانات انجمن نے ہوا کر دے رکھے تھے۔ پہلے فوری طور پر ریلوے کی رہائش کے لئے عارضی تعمیر کر کے دی۔ کچھ دن اس میں رہائش رکھی۔ پھر آدھی عارضی رہائش کے لئے دوبارہ مکانات ہوا کر دیئے۔

خلیفہ کے لئے تللے

اب تیسرے مرحلے پر پختہ مکانات بن گئے اور سب انجمن کے خرچ پر۔ آپ کی بیویاں چار ہی رہتی تھیں۔ اگرچہ ہوش لیوا مرض سے پہلے تعداد میں کمی آگئی تھی۔ لیکن مکان انجمن سے آپ نے پانچ لے رکھے تھے اور ان کے ساتھ پائیں باغ بنوانے کا ارشاد فرما رکھا تھا۔ گرمائی مستقر کے لئے جاپ (خوشاب) میں کوٹھی تھی۔ کراچی کی سیر کے لئے وہاں ایک وسیع کوٹھی بن چکی تھی۔ خلیفہ صاحب کی ضروریات کا یہ سارا بندوبست قوم کے روپیہ سے کیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ ضروریات کے لئے بجٹ میں سفر خرچ کے مصارف کے لئے رقم موجود تھی۔

(بجٹ صدر انجمن احمدیہ ۵۸-۱۹۵۷ء ص ۱۹)

اولاد کی تعلیم کے لئے اتالیق میسر تھے اور اگر یورپ کی تعلیم کی ضرورت ہو تو اس کے لئے قوم کے عمامدین کی جیبوں پر عجیب و غریب ڈھنگوں سے ڈاکہ ڈالا جاسکتا تھا۔ موٹریں انجمن نے لے کر دے رکھی تھیں۔ نجی کاموں کے لئے نوکر موجود تھے۔ پھرے دار حاضر تھے۔ ڈیوٹی بردار دن رات مستعد کھڑے رہتے تھے۔ یہ سارا بندوبست قوم ہی کے روپیہ سے تو کیا گیا تھا لیکن ابھی بھارے خلیفہ صاحب کا کسی رنگ میں ہاتھوں کے سر پر نہیں۔ یہ اللہ تلے اب بھی روز افزوں طریق سے چل رہے ہیں۔ اب تیرہ چودہ کروڑ روپیہ جوہلی کے لئے جمع کر دیا گیا تھا اور اب خلیفہ قوم سیاست پاکستان کے بگاڑ میں بڑے انتظام سے لگ رہی تھیں۔ ان حالات میں خلیفہ صاحب کا یہ کہنا کہاں تک درست تھا۔ ”یہ مال دین کی خدمت میں صرف ہوتا ہے اور مجھ کو ذاتی طور پر کوئی نفع نہیں پہنچتا۔“

میں جانتا ہوں جو وہ کہیں گے جواب میں

خلیفہ صاحب جس طرح قومی مال کو خورد برد کرتے تھے اس کے دفاع میں تین جواب ہماری نظر سے آج تک گزر چکے تھے۔

پہلا جواب ان کے ماموں اور خسر جناب ڈاکٹر محمد اسماعیل کے قلم سے تھا جو کہتے تھے کہ لوگ مالیات کے بارے میں خلیفہ صاحب پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ ”قرآن مجید میں خدا نے سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ (افضل مورس ۱۹ مورس ۱۸ جون ۱۹۲۶ء)

دیکھئے کس بے حیائی سے ایک تنگ انسانیت وجود کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے مشابہت دی گئی تھی۔ قرآن کی ازلی اور ابدی صداقتوں پر اس طرح حملے اب بھی جاری ہیں۔ موجودہ خلیفہ جو ”القینا علی کرسیہ جسدا“ کا مضداق ہے۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدعو قرار دیا جا رہا ہے۔

آساں راقی بود گر خون بہا رہ زہیں

چور ہے چور

دوسرا جواب خلیفہ صاحب خود فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: ”تمہاری اور میری مثال تو اس شخص کی سی ہے جو کسی گھر میں اپنا مال رکھے۔ جب لینے جائے تو گھر والا شور مچا دے، چور ہے چور ہے۔“ (افضل مورس ۱۹ مارچ ۱۹۳۹ء، افضل مورس ۳ جنوری ۱۹۲۵ء)

تیسرا جواب ملاحظہ ہو: ”جب یہاں ہمارے عقیدہ کے مطابق خدا تعالیٰ خلیفہ قائم کرتا ہے وہ اگر اموال تلف کرتا ہے یا تلف کر دیتا ہے تو وہ خود خدا کے حضور جواب دہ ہے تم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔“

سبحان اللہ! اس ملعون جماعت کے نزدیک معاذ اللہ خدا ایسے خلیفہ بنایا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ جسے خدا نے خلیفہ بنایا تو وہ فرماتے ہیں: ”اگر میں نیک کام کروں تو میری امداد کرتا اور اگر غلط راہ اختیار کروں تو مجھے فوراً ٹوک دیتا۔ جب تک میں خدا اور رسول کے احکام پر چلتا رہوں تو میرا کہا نا تو اور اگر ان کی اطاعت سے منہ پھیر لوں تو میری بات نہ مانو۔“

لیکن یہ خلیفہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ میری بے راہ رویوں پر مجھے مت روکو۔ افسوس! خلیفہ صاحب مالی استیصال میں کس پست ذہنیت پر اتر آئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک اجتماعی محاسبہ قوت کے فقدان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ خلیفہ صاحب نے کمال

چاہکتی سے اس روح کو بیدار ہونے سے روکے رکھا۔ لیکن ذہنوں میں جو حقائق پرورش پارہے تھے۔ جماعت کا لیڈر طبقہ جس سچ پر سوچنے لگ گیا تھا اس کی موجودگی میں مقلعہ و اخراج، منافقت اور مندرجہ بالا پروپیگنڈے کے کزور اور لالچ یعنی سہارے اب زیادہ دیر تک کام نہیں آسکتے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ ساتھ روپیہ کا یہ وظیفہ خوار تھا۔ جس کے پاس خلافت کے پہلے دن ایک اشتہار چھاپنے کے لئے بھی پیسہ نہ تھا اور جو خود اقراری ہے کہ: ”میسوں مرتبہ میں نے اپنی آمد اور اخراجات کا حساب کیا ہے تو اخراجات ہمیشہ آمد سے دو گنا ہوتے ہیں۔“

(افضل مورخہ ۷ ستمبر ۱۹۳۷ء)

اور تقسیم ملک کے وقت جس کی حالت یہ تھی کہ وہ خود کہتا ہے: ”قادیاں سے نکلنے وقت مجھ پر لاکھوں روپیہ فرض تھا۔ جس کی آدائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔“

(افضل مورخہ ۷ اپریل ۱۹۵۲ء)

کروڑ پتی خلیفہ

آج وہ لاکھوں کا مالک کیسے بنا۔ ربوہ میں یہ دھڑا دھڑ درجنوں کوٹھیاں کہاں سے بن رہی ہیں۔ ڈھیروں ڈھیروں افراد خانہ کے ساتھ یورپ و انگلستان کے سفر کسرتے پر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نئی نئی کمپنیوں میں حصے کہاں سے خریدے جا رہے تھے۔

دنیا سمجھنے لگ گئی تھی اور خوب سمجھنے لگ گئی ہے کہ خلیفہ صاحب کی ساری دولت گمناؤنے فریب سے بنی ہے۔ خلیفہ صاحب ساری عمر جماعت کے روپیہ میں ناجائز تصرف کرتے رہے اور مختلف حیلوں بہانوں سے جماعت کی جیبوں سے روپیہ کھینچا گیا۔ ہم نے تو یہاں پر چند اشارے کئے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیلات بڑی لمبی داستان ہے۔ اگر موجودہ خلیفہ صاحب کو ان حقائق سے انکار ہے تو وہ غیر جانبدار آڈٹ کمیشن کو قبول کر کے اخلاقی جرأت کا ثبوت دیں۔ حقائق خود بخود منظر عام پر آ جائیں گے۔ آڈٹ کے اخراجات ان کے معترضین ادا کرنے کے لئے تیار ہیں۔

اور تو خرقتے میں سب چھپ جائے گا

سے کی بوتل بھی چھپا لی جائے گی؟

غرض لاکھوں بطور خلافت الاؤنس وصول کر کے اور لاکھوں روپے بطور نذرانہ وصول کر کے اور لاکھوں روپے قرضہ جات کے ذریعہ حاصل کر کے اور لاکھوں روپے بذریعہ جوہلی فنڈ وصول کر کے اور لاکھوں روپے خرید و فروخت اراضی کی پر اسرار راہیں اختیار کر کے اور لاکھوں

روپے مساجد فنڈ کو استعمال کر کے اور لاکھوں روپے قوی سرمایہ سے نت نئی کینیاں کھول کر اور ان میں اپنے بیٹوں اور دامادوں کو بطور ڈائریکٹر خطیر مقرر کیا ہیں۔ دلوا کر لاکھوں روپے زکوٰۃ فنڈ کے وصول کر کے یہ قوم کو غنیمت خلیفہ پر اسرار ساٹھ روپے ماہوار کا وظیفہ خوار عمر بھر دنیا میں العیاذ باللہ محمد رسول اللہ ﷺ کا نام بلند کرنے اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے نعرے لگا رہا اور یہ ساٹھ روپے ماہوار کا وظیفہ خوار کروڑوں روپے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا مالک بن گیا۔ قوم گمراہی میں چندے دے دے کر تھک گئی۔ لیکن اس نام نہاد خلافت کی جملہ موعومہ برکات خلیفہ صاحب خود سمیٹ کر آج اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی خیر خواہی کی ہے۔ واقعی ساٹھ روپے کے وظیفہ خوار کا اولاد کے لئے کروڑوں روپے کی جائیداد بنا ڈالنا بڑی بھاری خیر خواہی ہے۔

خلافت جو ملی فنڈ

جس کی تحریک بھی حضور نبی کے ایماء پر چوہدری ظفر اللہ خان نے کی اور مدتوں افضل میں پروپیگنڈا کر کے اور چوہدری صاحب موصوف نے شانہ روز کو ششوں کے نتیجے میں تین لاکھ کی رقم جناب خلیفہ صاحب کی جموںی میں ڈال دی۔ پہلے تو اس امداد کو چندہ قرار دیا گیا اور جماعت کو بتایا گیا کہ یہ چندہ قوی ضروریات اور سلسلہ کے مفاد ہی پر خرچ ہوگا۔ اعتراض پر مرزا بشیر احمد نے بیان دیا کہ: ”بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خلافت جو ملی کا چندہ کہاں خرچ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رقم جمع کر کے ”حضرت امیر المؤمنین“ کے سامنے پیش کی جائے گی اور حضور اس سلسلہ کے مفاد ہی میں جس طرح پسند فرمائیں گے خرچ فرمائیں گے۔“

(افضل مورچہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۹ء)

اور یہ وعدے دے کر اور اس طرح جوش دلا کر کہ: ”خلافت جو ملی کی تقریب تاریخ اسلامی میں اپنی نوعیت کی پہلی اور نادر تقریب ہے۔“

(افضل مورچہ ۲۵ مارچ ۱۹۳۹ء)

اور ”فنڈ بھیج کر لوگوں سے ان کی ماہوار آمد سے لڑھ گنا چندہ طلب کر لیا گیا۔“

(افضل مورچہ ۹ فروری ۱۹۳۹ء)

اور آخر میں اسے خلیفہ صاحب کی خدمت میں ان کی ذاتی ضروریات کے لئے نذرانہ قرار دے کر لکھتا ان کے تصرف میں یہ ساری رقم دے دی گئی۔ اول اول تو خلیفہ صاحب نے بھی اس رقم سے لاکھوں لاکھ ٹریکٹوں کی اشاعت وغیرہ کا ذکر کر کے حساب برابر کر دیا۔ لیکن اس کا انجام بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔

خلیفہ صاحب کو نذرانہ دینے کے لئے جو ملی فنڈ کی تحریک مالی لحاظ سے کن نازک ایام میں ہوئی اس کا اندازہ خلیفہ صاحب کے الفاظ سے کیجئے۔ مجلس مشاورت ۱۹۳۸ء کا افتتاح کرتے ہوئے خلیفہ صاحب نے فرمایا: ”مالی قربانیوں کے لحاظ سے جماعت کے لئے یہ نازک ایام ہیں۔ صدر انجمن کے قرضہ کی مقدار چار لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔“

(افضل اپریل ۱۹۳۸ء)

سوال یہ ہے کہ جب جماعت کے لئے مالی لحاظ سے نہایت نازک ایام تھے اور انجمن چار لاکھ کی مقروض ہو چکی تھی۔ کارکنوں کو تین تین ماہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں تو ایسے نازک اور محروم ایام میں جو ملی فنڈ کی تحریک کیوں چلائی گئی۔ کیا اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ قوم اپنے پیٹ کاٹ کر اور انجمن کا خزانہ اپنا روپیہ اگل کر تین لاکھ روپے خلیفہ صاحب کی جھولی میں ڈال دے۔ کیا خلیفہ صاحب کا فرض نہیں تھا کہ اپنی جیب میں تین لاکھ روپیہ ڈالوانے سے پہلے سلسلہ کا چار لاکھ روپیہ قرض ادا کرنے کا انتظام کرتے۔ فی الحقیقت جو ملی کی تحریک خود خلیفہ صاحب نے کروائی۔ ۱۹۳۱ء میں ایک موقع پر فرمایا: ”ہم کو اس سال چالیس سالہ جو ملی منانی چاہئے۔“

(افضل مورچہ ۱۲ جون ۱۹۳۶ء)

حدیث شریف میں آتا ہے: ”من لم یشکر الناس کم یشکر اللہ“

خلیفہ صاحب کی ناشکر گزار اور احسان فراموش طبیعت کا ان الفاظ سے اندازہ کیجئے:

”جو شخص مجھ کو کوئی تحفہ دیتا ہے وہ مجھ پر احسان نہیں کرتا۔ بلکہ خدا تعالیٰ اس ذریعہ سے اس پر احسان کرتا ہے۔“

(افضل مورچہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

لوٹ کھسوٹ کے ہتھکنڈے

خلیفہ کی مالی پالیسی کو دیکھو، برابر وہ جماعت کو کپتے چلے گئے کہ میں تمہارے لئے ریزرو فنڈ تیار کر رہا ہوں۔ میں ایسی جائیداد بنا رہا ہوں جس سے سلسلہ کی تبلیغی ضروریات کے لئے روپیہ مہیا ہوتا رہے گا۔ تحریک جدید گذشتہ تیس اکیس سال سے اس ریزرو فنڈ اور قیمتی جائیدادوں کے بنانے میں مصروف بیان کی جاتی ہے۔ پھر کہنیوں اور تھارتوں میں بیوقوف جماعت کو لاکھوں روپیہ یہ کہہ کر تلف کروا دیا کہ بڑے بڑے منافع ہوں گے اور فریب کارانہ مشن ان ہی کی آمد سے چلا کریں گے۔

آج تک ان فریب خوردہ لوگوں نے ایسی تھارتوں اور کہنیوں سے کیا فائدہ اٹھایا۔ خدا نے اس کا وہی حشر کیا جس کے یہ مستوجب تھے۔ احمدیہ شعور کا کیا حشر ہوا۔ گلوب ٹریڈنگ کہنی کہاں گئی۔ گٹ فیکٹری کا کیا نتیجہ ہوا۔ سٹار ہوزری کہاں دم توڑتی رہی ہے۔ دارالصناعت کے

پرزے کیا ہوئے۔ ہمالیہ گلاس فیکٹری کہاں کبھی، ویدک یونانی دواخانہ زینت محل دہلی کا کیا بنا؟ سندھ ویجی ٹیمپل آئل اینڈ الائیڈ کمپنی اب تک کتنا منافع دے چکی ہے؟

بے راہ رو جماعت کا لاکھوں روپیہ اس طرح برباد کروا دیا گیا کہ یہ سلسلہ ڈوبنے والی تجارتوں کے لئے قائم ہوا تھا۔ کیا کبھی الہی سلسلوں نے بھی تجارتوں اور صنعتوں کے بل بوتے پر اپنی اشاعت کی ہے۔ اصل میں اس جماعت کا دین سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس لئے ”مال حرام جائے حرام رفت“ کا معاملہ کر کے خدا نے اس کو دنیا میں بھی جعلی خلافت کے ہاتھوں سزا کا مزا چکھا دیا۔

خلیفہ نے درجنوں مشترک سرمایہ کی کمپنیوں میں جماعت کا لاکھوں روپیہ پھنسا کر رکھا ہوا ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ خلیفہ صاحب نے ایسی کمپنیوں میں کچھ روپیہ اپنے بیٹوں اور دامادوں کے نام سے بھی لگوائے ہیں اور پھر انہیں اس کمپنی میں ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیئرمین بھی بنوادیتے ہیں اور اس طرح نہ صرف قوم کے خرچ پر ٹریڈنگ دلوانے میں بلکہ سفر خرچ، اجلاسوں کی شرکت کی بھاری بیسوں اور بعض معلوم اور غیر معلوم طریقوں سے ان کی آمد کی سہیلیں پیدا کرواتے ہیں اور خلیفہ صاحب کی اپنی اولاد کی آمدنیوں کا بہت بڑا حصہ انہیں کمپنیوں کے حصص اور ان کی ڈائریکٹریاں اور صدارتیں ہیں۔

آخر تک قوم کا یہ کہتے چلے گئے کہ بڑا عظیم الشان ریزرو فنڈ قائم ہو رہا ہے۔ روپیہ منافع پر لگا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مفید کام اس سے انجام پذیر ہوں گے۔ اللہ غور کرو، اب تک پرائیویٹ اور پبلک لمیٹڈ اور غیر لمیٹڈ کمپنیوں پر بے شمار روپیہ صرف ہو چکا ہے۔ قوم مقروض پر مقروض ہوتی چلی گئی۔ تجربہ پر تجربہ ٹیل ہوتا رہا۔ آپ کو آخر کس حکیم نے نسخہ بتایا ہے کہ تجارت کرواتے چلے جائیں اور خسارے کے سودے بند نہ ہوں اور ان معاملات کو قوم کے سامنے بھی نہ لائیں۔

امانت فنڈ

صدر انجمن احمدیہ پر لاکھوں روپیہ کی ذمہ داری امانت فنڈ کے نام سے موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن خلیفہ صاحب مختلف آنوں بہانوں سے اسے قوم کے سر پر اپنی موجودہ شکل میں مسلط کئے رکھنے پر مصر تھے۔ قطع نظر اس کے جو اس نے اب ایک بظاہر باقاعدہ لیکن درحقیقت بالکل بے قاعدہ بینک کی شکل اختیار کر لی ہے جسے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور کوآپریٹو سوسائٹی کے مرکزی دفتر کی اجازت کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ جو آئینی رنگ میں سخت قابل اعتراض بات ہے۔

مسجدوں کا روپیہ تجارتوں پر

خلیفہ نے خانہ خدا کی تعمیر کو بھی استیصال مال کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ مثال کے طور پر اس راہ گم کردہ جماعت کی سب سے پہلی مسجد لندن میں بنی۔ معروف مسجد جرمنی کا حال سن لیجئے۔ جہاں کی مسجد کے لئے اب دوبارہ فرینکلنٹورٹ (جرمنی) کے نام سے چندہ مانگا جا رہا ہے۔ لندن کی مسجد کے لئے ایک لاکھ روپیہ جمع ہوا تھا اور ستر ہزار روپیہ برلن (جرمنی) کی مسجد کے لئے جمع ہوا تھا۔ (افضل مورچہ ۹ نومبر ۱۹۳۶ء)

لیکن جرمنی میں تو مسجد بنوائی ہی نہ گئی اور لندن کی مسجد کے لئے جو زمین اس وقت خریدی گئی تھی اس پر بہت تھوڑی رقم صرف ہوئی تھی۔ کیونکہ مٹی جہاں یہ مسجد ہے مضافات لندن میں واقع ہے۔ اس پر معترضین نے شور مچایا کہ جناب ایک لاکھ ستر ہزار روپیہ مسجدوں کے نام سے وصول کیا گیا ہے۔ خرید زمین پر تو معمولی رقم صرف ہوئی۔ یہ باقی کاروبہ کہاں گیا؟ بڑا ٹیڑھا اور بے ڈھب سوال تھا۔ اس لئے پہلے تو فرمایا: ”یہ فتنہ گروں کی فتنہ گریاں ہیں جو جماعت کو پست کرنے کے لئے کی جا رہی ہیں۔“ (افضل مورچہ ۹ نومبر ۱۹۳۶ء)

لیکن سوال بڑے پتے کا تھا۔ جواب کے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمایا: ”اس میں سے ستر اسی ہزار روپیہ مکان اور فرنیچر وغیرہ کے خریدنے پر صرف ہوا اور ساٹھ ہزار روپیہ سے تجارتی کام چلایا گیا..... تین ہزار کی یہاں جائیداد خریدی گئی ہے۔“ (افضل مورچہ ۹ نومبر ۱۹۳۶ء)

ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح مساجد کی تعمیر کے لئے بنورا ہوا روپیہ فرنیچر وغیرہ کے خریدنے، تجارتی کام چلانے اور قادیان میں جائیدادوں کی خرید پر صرف کر دیا گیا۔

جب قوم نے مساجد فنڈ کا حساب پوچھا تو آخر بادل نخواستہ انہیں اقرار کرنا پڑا کہ میں نے اس میں سے روپیہ نکلوا کر تجارت پر لگا دیا ہے۔ یہ جرم بہتوں کی آنکھیں کھولنے والا تھا۔ اس لئے ان کی آنکھوں کو موندنے کے لئے کئی ایک حربے استعمال کئے گئے۔ کبھی تو یہ کہا گیا کہ یہ باتیں کرنے والے منافق اور حشٹی ہیں۔ یہ لوگ جماعت کو پست کرنے والے ہیں۔ باقی رہا روپیہ تو مساجد سے بھی زیادہ بابرکت کام پر صرف ہوا ہے اور لگے سبز باغ دکھانے، اس کی آمد سے ابد الابد کے لئے لندن مشن چلا کرے گا اور سلسلہ کے چندوں پر اس مشن کا بار نہیں رہے گا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ایک ہی خطبہ میں اس بارے میں تضاد بیانیہاں شروع کر دیں کہ اس تجارت پر کتنا روپیہ لگا ہوا ہے۔ پہلے کہا ساٹھ ہزار، پھر کہا تیس ہزار اور پھر کہا ستر ہزار، واقعتاً یہ تھا اسی ہزار۔ (افضل مورچہ ۹ نومبر ۱۹۳۶ء)

شیخ مصری کا نفسیاتی تجزیہ

”قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا“

شیخ مصری نے تین مخطوط لکھے اور بیعت ترک کر کے نہروآزما ہوا۔ یہ جرأت کسی باغی تھے اس وقت تک نہیں کی تھی۔ اس کا ایک خط بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شخص مکرین فتنہ نبوت کے سربراہ ثانی کا ایک ایسا مرید تھا جو جب تک مریدی کی زنجیر میں اسیر رہا اس نے اپنا ذہن، اپنا علم بلکہ اپنا سب کچھ اپنے سربراہ کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ اس کے تاریخی خط کو درج کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی دین حقیقی سے مغائرت اور غیرت فروش مریدی کی ابتداء اور انتہاء کا ذکر کیا جائے تاکہ خط کی زلزلہ خیز اہمیت قارئین پر اجاگر ہو جائے۔ یہ لاہور میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا ہندو نام شکر داس تھا۔ اس نے ۱۹۰۵ء میں اپنا آبائی مذہب چھوڑا اور قادیانی جماعت میں شامل ہو گیا۔ یہ خوش رنگ پست قامت نوجوان تھا۔ یہ بڑا ذہین تھا۔ جدی وراثت سے خوشامد اور بڑوں کی رضا جوئی کا ملکہ ملا تھا۔ ان اوصاف کو بدولت وہ نوزائیدہ اور اسلامی معاشرہ سے منحرف جماعت میں جلدی کھل گیا۔ ذہانت اور محنت سے اس نے اپنی نئی جماعت کی رانگج کردہ اسلامی تعلیم میں نوجوانی میں ہی امتیازی مرتبہ حاصل کر لیا۔ ۱۹۰۸ء کے بعد وہ زیادہ تر جماعت کے سربراہ کی صحبت میں رہنے لگا اور اتنا قریب ہو گیا کہ اس کو سربراہ اول نے تعلیم اور تبلیغ کے لئے مصر بھیج دیا۔ اس کی اپنی روایت ہے کہ وہ مصر کے مایہ ناز مفسر رشید رضا صاحب کا ہم جماعت تھا۔

لاہوریوں کا قادیان سے فرار

مصر سے واپسی کے بعد قادیان میں اس نے حالات کو بدلا ہوا پایا۔ ۱۹۱۳ء میں سربراہ اول نے وفات پائی اور بانی سلسلہ کا بیٹا پونے پچیس سال کی عمر میں جماعت قادیان کا سربراہ بن گیا۔ اس نے طویل مدت تک بڑی چابکدستی سے زیر زمین سازش قائم کر رکھی تھی۔ جونہی سربراہ اول بہت لمبی بیماری کے بعد وفات پا گیا تو احتجاج کے وقت مرزا محمود احمد کے Storm Troopers (طوفانی دستے) مصروف کار خاص تھے۔ ان کے سامنے قادیان کے بڑے لوگوں کی جن کے ہاتھ میں زمام کار تھی، پیش نہ گئی۔ ان کے اعصاب پر اس نے یہ کہہ کر چھاپہ مارا کہ اس کا باپ نبی تھا اور اس کے نہ ماننے والے (معاذ اللہ) کافر ہیں۔ یہ تدبیر کام کر گئی۔ اس کے حریف لوگ جو بہت تھوڑے رہ گئے تھے قادیان سے فرار ہو کر لاہور میں رام گلی میں آ گئے۔ کیونکہ

اس گلی میں ان کے چند سر بر آوردہ افراد رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے اس رام گلی کا وہ حصہ جو براہ رُوح روڈ کے ساتھ تھا احمدیہ بلڈنگس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ لاہوری جماعت کہلائے۔

ہٹلر معکوس کا ٹولہ

جس طرح مرزا محمود برسرِ اقتدار آیا۔ اس کا تقاضا تھا کہ اس کو اپنے بڑھبڑھ کے کچھ اہل علم لوگ ملیں۔ کچھ اہل قلم دستیاب ہوں اور کچھ چرب زبان مقرر ملیں۔ تاکہ نئے اور ترقی یافتہ فتنے کا کاروبار چلے۔ اہل علم میں یہ شیخ مصری اور میر محمد اسحاق تھے۔ لکھاڑو قسم کے لوگوں میں اس کو شیخ یعقوب علی عرفانی ایڈیٹر الحکم اور مفتی محمد صادق ایڈیٹر البدور اور میر قاسم علی ایڈیٹر الفاروق مل گئے۔ آخر الذکر دہلی کا باسی ہونے کی وجہ سے بڑا طرار قسم کا شیخ مقرر تھا۔ اس کی تحریروں میں بھی سوتیانہ ڈرامائیت تھی۔ یہ سب لوگ باری باری اپنے ساختہ پرواختہ ہٹلر معکوس کے مظالم کا شکار ہو کر رہے اور صیدزیوں ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ سب سے زیادہ اہم اول الذکر شخص مصری تھا۔ یہ فحش نگاری کا اہل نہ تھا اور نہ ہی شعلہ بیان تھا۔ یہ ایک لفظ میں ادا ہونے والی بات کئی فقروں میں ادا کرتا تھا۔ فقروں میں ادا ہونے والی بات کئی صفحوں پر پھیل جاتی تھی۔ ویسے سوسائٹی میں ”عبس و تولى“ ہو کر رہتا تھا۔ سربراہ ثانی کے قریب نے اس کے مزاج کو خاصہ بگاڑ دیا تھا۔ ویسے اس بہتی کے شہرہ آفاق جنسی مصائب اور مالی خیانت کاریوں کے الزام سے وہ جب تک وہاں رہا، پاک رہا۔ وہ اپنی دربارداری کی وجہ سے بڑا نامقبول تھا۔ چونکہ اس کے خلاف اخلاقی قسم کے سنگین الزامات بھی نہیں گئے۔ اس لئے سربراہ ثانی کے لئے اس کا شب و روز بہت مفید تھا۔ خلیفہ بھی پسند نہ کرتا تھا کہ اس کے حاشیہ نشین افراد لوگوں میں معتبر تصور ہوں۔ نہ ہی اس کے لئے وہ لوگ کاربردار تھے جو اس کے مصائب کے پروے میں گنہگار یوں کے ارتکاب کرتے رہیں۔ خلیفہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے افعال ناقصہ کے لئے تفصیل ہوں نہ کہ وہ ہی جرائم اور خیانت کی پردہ واری اور مدافعت کرتا رہے۔ اس اصول کے مطابق مصری سے بڑھ کر اس کے ائم اور عددان میں کوئی کامیاب محاذ نہ بن سکا۔

مرید آمریت کے شکنجے میں

جب احرار نے فتنہ انکار ختم نبوت کے خلاف محاذ گرم کیا اور اپنا ایک عالم مولوی عنایت اللہ صاحب بیچھا اور مسلمانوں اور دوسرے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تو خلیفہ نے اپنی حفاظت اور مریدوں کی حراست کے لئے آمریت کا جال بچھایا اور جاسوسی کاروبار کو فروغ دے کر انہوں اور

غیروں کو ہراساں کر دیا۔ اس سیاق و سباق میں مصری نے سی آئی اے کا کام کیا۔ وہ افضل میں بھی اس کی قصیدہ خوانی کر کے باہر کی جماعتوں کو اندھیرے میں رکھتا تھا۔ جلسوں میں تھکا دینے والی تقریریں کرتا تھا۔

مصری کی سال ٹاؤن کمیٹی کی رکنیت

ان خدمات کی بدولت اس کو قادیان کی سال ٹاؤن کمیٹی کا نامزد کن کرایا گیا۔ وہ کمیٹی کے اجلاسوں میں اس انداز سے باتیں کرتا گویا کمیٹی صدر انجمن احمدیہ کی اضافی شاخ ہے۔ اس لئے جب ہاؤس ٹیکس کی نادمندگی کے خلاف کسی اقدام کا فیصلہ ہوتا تو وہ روک بن جاتا۔ قادیان میں خلیفہ نے گلبرگ کی سی آبادی دارالصدر بنائی اور اپنی کوشی دارالحمہ کے علاوہ اپنے زلہ پرواروں کے مکانات تعمیر کرائے۔ وہ سال ٹاؤن کمیٹی کے دائرہ اختیار سے باہر تھے۔ لیکن مصری نے بڑا زور لگایا کہ کمیٹی شہر سے اس ہستی تک پہنچنے سڑک بنائے۔ چونکہ یہ قانوناً ناممکن تھا۔ اس لئے مصری کی تیل منڈے سے نہ چڑھی۔ لیکن اس ناکامی کا انتقام اس طرح لینے کی سعی لاکھائی کہ اس نے سارا بار ملامت کمیٹی کے چیز مین کے سر پر ڈال دیا۔ یہ چیز مین مولوی محمد دین کے نام سے قادیان کی ساری آبادی میں معروف تھے۔ اپنی جماعت میں ضدی مشہور تھے۔ لیکن اپنی جماعت سے باہر حتیٰ کہ ضلعی حکام میں ان کی سادگی اور راست گوئی کی بڑی شہرت تھی۔ اس لئے وہ خلیفہ کی آنکھوں میں کھلکتے تھے۔ کیونکہ ناجائز سفارشات کو وہ رد کر دیتے تھے۔ چونکہ وہ جماعت کے ہائی اسکول (تعلیم الاسلام ہائی اسکول) کے ہیڈ ماسٹر بھی تھے۔ اس لئے ان کو انجمن کے اور خلیفہ کے اقتدار کو محکمہ تعلیم کے اختیار کے ساتھ متوازن رکھنا پڑتا تھا۔ اس رویے سے خلیفہ کو چڑھتی تھی۔ اس لئے وہ مولوی محمد دین سے مسلسل ناراض رہا۔ ایک دفعہ اس نے خطبہ میں کہا تھا کہ مولوی محمد دین کی ہیڈ ماسٹری میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں قادیانیت کے خلاف ہم تیار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ مصری موقع بے موقع ہائی اسکول کے اس بے باک ہیڈ ماسٹر کے خلاف مجاذ آرائی کرتا رہتا تھا۔

عبدالرحیم ورد کا فتنہ

جب مصری ”خلیفہ“ کی کوشی تک سڑک بنوانے میں ناکام ہوا اور خلیفہ بھی اس بارے میں خائب و خاسر رہا تو مصری کو ایک اور موقع ہاتھ آ گیا۔ خلیفہ کا ایک ناظر بہت منظور نظر تھا وہ عبدالرحیم ورد۔ وہ ناظر تعلیم و تربیت تھا۔ اس کے رویے سے تمام ماتحت تعلیمی ادارے نالاں تھے۔ وہ جب قادیان سے باہر کسی شہر میں بطور معلم کے ملازم تھا تو وہ چھٹی لے کر قادیان میں آن کر اسکول میں ملازم ہو گیا اور وہ بدستور دو مقامات سے تنخواہیں لیتا رہا۔ جب یہ جرم طشت از بام ہوا تو

مولوی محمد دین نے انکشاف راز میں کوئی لیت و لعل نہ کیا۔ اس لئے جب عبدالرحیم درود قادیان میں آن کر مولوی محمد دین کا افسر لگا تو اس نے بھی بڑھ چڑھ کر خفیف حرکتیں کیں۔ اب مصری اور درود کا متحدہ محاذ بن گیا اور ان کا کائد خلیفہ خود تھا۔

درود کی مقبوریت بڑھتی جا رہی تھی۔ کیونکہ وہ شخص ”جس طرف اللہ رو ہے“ کا مصداق تھا۔ خلیفہ نے اس کو لندن میں اپنی مسجد کا امام بنا کر بھیج دیا۔ جب ریلوے اسٹیشن پر مشایعت ہو رہی تھی تو اس وقت ایک اور مبلغ فضل الرحمن حکیم تاجبیر یا روانہ ہو رہا تھا۔ زخم خوردہ طلباء کو موقعہ غنیمت ہاتھ آیا۔ انہوں نے صرف فضل الرحمن سے مصافحہ کیا اور درود کو کمال بے دردی سے چھوڑ دیا۔ خلیفہ بھی وہاں تھا۔ لیکن اس کو علم نہ ہوا۔ شیخ مصری نے فوراً خلیفہ کی توجہ اس منظر کی طرف مبذول کرائی اور کہا کہ حضور آپ کی موجودگی میں یہ احتجاج بے باکی سے ہو رہا ہے۔

شیخ مصری کی گہری چال

شیخ مصری نے اس عیاری سے خلیفہ کو مشتعل کیا کہ خلیفہ نے دوسرے دن جمعہ کے خطبہ میں ساری جماعت کو ابلیس کی اولاد اور شیطان کی ذریت کہا اور سخت تعزیری کارروائی کی دھمکی دے کر ایک کمیشن مقرر کیا جس کے ارکان مرزا بشیر احمد خلیفہ کا منجھلا بھائی اور ایم ایم احمد کا باپ چوہدری فتح محمد سیال، مولوی شیر علی اور مفتی محمد صادق تھے اور خلیفہ خود صدر تھا۔ کارروائی کے لئے دو زدو نویس تھے۔ ایک الفضل کا ایڈیٹر غلام نبی بلا نوی اور دوسرا فخر الدین جو کچھ عرصے کے بعد خلیفہ کی سیکورٹی فورس کے ہاتھوں قتل ہوا اور طویل مقدمہ کے بعد اس کا قاتل چھانسی لگا اور اس کی لاش قادیان میں زیارت گاہ بن گئی۔

ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سر ڈگلس نے فیصلہ لکھا اور حکومت کے ایماء پر یہ فیصلہ ہندوستان کے تمام مشہور روزناموں میں شائع ہوا تھا۔

یہ کمیشن پندرہ دن کام کرتا رہا اور سارے شہر پر خوف مسلط تھا۔ اس کارروائی کے دوران مؤلف کے سامنے مصری نے خلیفہ سے کہا کہ یہ ساری شرارت مولوی محمد دین کی ہے۔ چونکہ مؤلف خلیفہ کی مستورات کا اتالیق تھا اور مصری بھی عربی کا اتالیق تھا۔ اس لئے خلیفہ کی شام کی چائے پر مؤلف اور مصری اکٹھے تھے۔ اس لئے مصری کی غمازی کا علم ہوا۔ مصری کی بات سے خلیفہ بیخ ہو گیا۔ ازاں بعد مؤلف نے الفضل کے نائب ایڈیٹر رحمت اللہ شاہ کو جب وہ کمیشن کے سامنے پیش ہو کر داپس جا رہا تھا، اتفاقاً کہہ دیا کہ مولوی محمد دین کے خلاف الزام مصری کی

سازش ہے۔ کیونکہ وہ تو الوداعی طور پر درود کو خود طے تھے۔ اس پر مؤلف کو خلیفہ نے سمن کر لیا اور آٹھ گھنٹے تک بوج ہوتی رہی۔ لیکن خلیفہ اپنے ارادے میں سرخرو نہ ہوسکا۔ گویا یہ آفت بھی مصری نے برپا کی تھی۔ اس وجہ سے وہ ہر وقت ہر بات سے خلیفہ کی کبریائی ثابت کرنا چاہتا تھا۔
دولہا دلہن کے لئے سڑک

ان خدمات رذیلہ کے بدلے مصری قادیان میں صدر عمومی مقرر ہو گیا۔ اس کا تسلط مسیحوں کے ذریعے ہر جگہ پر تھا۔ اس نے قادیان میں مسلمان محنت کاروں کا ناک میں دم کر دیا۔ مسلمان بہشتیوں کو کتوں سے پانی لینے سے روک دیا۔ انہی دنوں خلیفہ کے بڑے بیٹے ناصر احمد (جو آج کل خلیفہ ربوہ ہے) کی شادی اپنی پھوپھی کی بیوی لڑکی منصورہ سے ہونے والی تھی۔ ہارات مالیر کوٹلہ میں شیردانی کوٹ جانی تھی۔ وہاں سے تزک واقشام سے واپس ہونی تھی۔ قادیان کی مرکزی آبادی اور اضافی آبادی میں ایک وسیع نشیبی میدان تھا۔ جس کو ریتی چملا کہتے تھے۔ برسات سے یہ ایک وسیع تالاب بن جاتا تھا۔ مصری نے خلیفہ کی خدمت کا منصوبہ بنایا کہ مرکزی آبادی کے آخری سرے پر ایک کیسٹ بھائی محمودی وکان تھی۔ اضافی آبادی کے شروع میں خلیفہ کے ماموں ڈاکٹر محمد اسماعیل کا مکان تھا۔ سچ میں ریتی چملا واقع تھا۔ مصری نے قادیانوں سے چندہ اکٹھا کر کے سڑک تیار کرادی تاکہ دولہا اور دلہن جب مالیر کوٹلہ سے قادیان آئیں تو ان کی ہارات سڑکوں میں ہی مرکزی آبادی میں واقع گھر سے ہوتے ہوئے دارالحمہ پہنچے اور ریتی چملا کا وجود روک نہ سکیں۔

چونکہ خلیفہ کے رازداری کے درون خانہ لٹھا میں پرواز کرتے پھرتے تھے۔ اس لئے بے پردہ اور درپردہ احتجاج کی کلیت سے اجازت تھی۔ اس معرکہ و مناظر میں مصری کا وہی خلیفہ کے لئے بڑا سازگار ثابت ہوا۔ وہ ہر جگہ یا مسعودہ ہائی پر کیمپن مقرر کروانا تھا اور کیمپن درود فرسا سزا میں صادر کروانا تھا۔ وہ آلہ کار بن کر خلیفہ کے فریب سے فریب تر ہوتا گیا۔ لیکن عوام میں اس کے خلاف نفرت طوفان کی صورت اختیار کرنی چلی جاتی تھی۔

اس کی ایک لڑائی لڑانے کے اذیت کا شرف حاصل کر چکی تھی اور خلیفہ کے قصر خرافات میں اس کی بیوی آؤ بگلت ہوتی تھی۔ مؤلف بطور امانت کے جب وہاں جایا کرتا تھا تو اس کو اس خانوں کے نازوں کی خبر دیتی تھی۔ وہ دوسری عوامین کی طرح "فسلسع لسونہا نصور النظارین" میں کریمات نظر ہوا کرتی تھی۔ مصری بھی لڑانے کے دوسرے طلا سے برتر تسلیم ہونے لگا تھا۔ حالانکہ اس کو انگریزی میں نہ تقریر کا لگتا تھا نہ غریبا۔

خلیفہ کے لئے مشرکانہ القاب

چونکہ خلیفہ اذعانے باطل کا مریض تھا۔ مصری نے اس کے لئے مواد خام مہیا کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ پہلے اس کو *His Holiness* کا لقب اختیار کرنے کی کامیاب ترغیب دی۔ حالانکہ یہ عیسائی لقب ہے جو تجسیم خداوندی کے ناپاک عقیدے پر مبنی ہے۔ جب باہر لومہ لائم کا سیلاب اٹھا تو اس لقب کو ترک کر دیا۔ پھر فضل عمر کے خطاب کے لئے مصری نے ساز و سامان کیا۔ اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے مصلح موعود کے ہانس پر چڑھانے کی ناپاک کوششیں شروع کر دیں۔ اس نے سارے علمی مطالعہ کو اس طرح استعمال کیا کہ خلیفہ قادیان میں گوسالہ سامری بن کر رہ گیا۔ دوسرے پڑھے لکھے ”نگ ننگ دیدم دم نہ کشیدم“ کے مصداق بنے ہوئے تھے۔

تعم کی لازوال تاثیر

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود مصری نے یہ نہ شائستہ حرکات کیوں کیں۔ اس کی وجہ صاف ہے۔ وہ ہندو ذہنیت سے آزاد نہ ہو سکا۔ انگریزی کی ضرب البطل ہے کہ انسان سمیٹ سے باہر نکل سکتا ہے۔ اپنی چمڑی سے باہر نہیں آ سکتا۔ اسلام رگ و پے میں سرایت کر جائے اور کوئی قوت قدسی مصیطر کے طور پر نگران ہو تو کفر کی سمیات کا استیصال ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نعمت روحانی نصیب نہ ہو تو محض تعلیم کفر کی زہر کا تریاق نہیں بن سکتی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ احد اپنی جگہ سے بدل سکتا ہے۔ لیکن انسان اپنا مزاج اور سرشت نہیں بدل سکتا۔ انگریزی میں اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔

You can Educate Brain but you cannot

Educate Blood.

(یعنی تعلیم سے ذہنی تغیر تو ہو سکتا ہے لیکن نظام دہوی یعنی صلب اور وطن سے آئے ہوئے

اثرات تعلیم سے زائل نہیں ہو سکتے)

ایسے آدمی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے صدق شاید جانا ہے مانا با لکل نہیں۔ اس لئے بے روح دین ماننے والا صحیح تعوی سے محروم رہتا ہے۔ یہی حال مسیح مصری کا تھا۔ اگر رائی بھر بھی اس پر اس کے علم کا اثر ہوتا تو وہ خلیفہ سے اپنے ربط خاطر کو جنون کے درجہ تک نہ لے جاتا۔ جب خلیفہ نے ختم نبوت کے پاکیزہ و دینی مسلک کے خلاف ناپاک اور کافرانہ تعبیریں شروع کیں اور غل اور بروز کی اصطلاحوں کے مفہوم مسخ کئے اور دنیا نے اسلام کو کافر قرار دیا تو مصری نے جو

خلیفہ سے زیادہ عالم تھا اور عربی زبان کا خاصہ درک رکھتا تھا۔ التباس و تلمیذ سے خلیفہ کی مصلحت کاری کا پورا پورا ساتھ دیا۔ عمائد کو مدعا نہ بنانے میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہا۔

افشائے راز کا سانحہ

اس زمانہ میں جب مصری خلیفہ کی آنکھ کا تار اہنا ہوا تھا۔ خلیفہ نے اس کے خاندان میں نقب لگائی۔ مصری اپنی اولاد کو ہم عمروں سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے سکول اور ہوسٹل کے صحن میں ایک اکھاڑا بنا رکھا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا حافظ بشیر احمد اکھاڑے میں تن سازی کرتا تھا۔ ایسا نونیز جوان خلیفہ کے عشرت کدہ کا کارساز رکن بن گیا۔ جب بیٹے نے حضور کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا اور حضور نے اس کی پاکبازی اور تزک سازی کی تعریفیں کیں تو مصری کی مسرت کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ اس نے سمجھا اس کا بیٹا حضور کی نظر کرم سے ولایت کے راستے پر پڑ گیا ہے۔ لیکن حضور کے اس بازار کی آب و ہوا ہی مختلف تھی۔ چنانچہ وہ لڑکا بڑا ہوا اور بے باک ہو کر گھر میں بھی دام دست قلندر ہو کر رہنے لگا۔ مصری جو عادی نمازی اور صرئی و نحوی قسم کا واعظ تھا، بڑا استمیر ہوا۔ جب وہ بیٹے کو نماز کے لئے کہتا تو بیٹے کے جواب میں الجداد کا پورا پورا انداز ہوتا تھا۔ مصری کو خدا سے تعلق کا ہمیشہ بڑا دعویٰ رہا اور اپنی بیوی کی اولیائی پر بھی اس کو پورا بھروسہ تھا۔ لیکن ان دونوں کو خلیفہ کی سیاہ کاریوں کا خاک علم بھی نہ ہوا۔ وہ اہلیس صفت تنگ انسانیت شخص کو قریباً قریباً پیغمبر کے برابر دلی مانتے تھے۔ ادھر بیٹے کا یہ حال تھا کہ وہ خلیفہ کی سیاہ کاریوں کا مجلس کا کرتا دھرتار کن تھا۔ اس کے دل سے مذہب کا مالا نکل چکا تھا۔ ادھر وہ اپنے باپ کی حماقت کے تماشے دیکھتا تھا۔ گویا اس کو باپ سے وہی تعلق رہ گیا جو ایک جنگلی انسان کو والد سے ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں باپ اور ماں کی عبادتوں اور عقیدوں کا محول اڑاتا رہا۔ اس سے مصری کے گھر میں خطرناک بے سکونی آگئی۔ کیونکہ بیٹا کبھی کبھی برملا خلیفہ کی ناپاک زندگی کی طرف اشارہ کر دیتا تھا اور مذہب پر تو تمسخر کرتا ہی تھا۔ مصری نے سمجھا کہ قادیان میں خلیفہ کے مخالف گروپ نے اس کے بیٹے کو اپنی مجرمانہ لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس لئے اس نے باادب ملاحظہ حضور سے اس کیفیت کی شکایت کی۔ جواب میں حضور نے اس کے بیٹے کی پاکدامنی اور کریکٹری بڑی تعریف کی تاکہ مصری کے شکوک کا ازالہ ہو جائے۔ خلیفہ کو پورا علم نہ تھا کہ مصری کا بیٹا گھر میں اس کے متعلق کیا کھل کھیل رہا ہے۔ اس طرح سیاد اپنے جال میں خود آ گیا۔ اس کی تعریف تازیا نہ بن کر مصری کے قلب پر لگی کہ دیکھو حضور پر نور تو بشیر کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور یہ نالائق بیٹا حضور پر کچھڑا چھال دیتا ہے۔ چنانچہ تحقیق دقیق و محقق کرنے کا خیال اس کے دل پر غالب آ گیا۔ ان دنوں بشیر کی دھمکہ میں کالج کی

تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مصری نے حضور سے وہاں جا کر تحقیق کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس کی اندھی عقیدت نے خلیفہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے مصری کو بزارہ کا لیکن وہ نہ رکا۔ ادھر بشیر کو بھی پریشانی ہوئی کہ یا باپ کو ترک کرے یا خلیفہ کو بچائے۔

دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی

اتنے میں خلیفہ نے عبدالرحیم درد کے بھائی سلطان محمود کو پور تعلقہ بھیجا کہ وہ بشیر کو پکا کرے تاکہ راز افشاء نہ ہو۔ اس ٹھیسے میں بشیر نے یہ تجویز کی کہ سلطان سے کہا کہ وہ اس کو لکھ کر حضور کے احکام دے۔ کیونکہ بورڈنگ کے کمرے میں اس کے اور کلاس فیلو بھی ہیں۔ سلطان محمود رقعوں میں خلیفہ کی طرف سے ساری باتیں لکھتا گیا اور بشیر لکھ کر جواب دیتا رہا۔ لیکن اقرار کے باوجود اس نے سلطان محمود کے سارے رقعے جن میں حضور کی طرف سے اخفاء کی ہدایات تھیں سنبھال لیتا رہا اور جعلی کاغذ کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کر خلیفہ کے جاسوس سلطان محمود کو جھوٹی تسلی دیتا رہا۔ اب مصری وہاں پہنچا تو اس نے سختی سے بشیر سے باز پرس کی اور اس کو خلیفہ سے باغی ہونے پر ملامت کرتا رہا۔ بشیر اب باپ سے کیا کہتا۔ اس نے سلطان محمود کے سارے رقعے باپ کو دے دیئے اور آپ لحاف میں منہ لپیٹ کر لیٹ گیا۔ خلیفہ کی سیاہ کاریوں کا انکشاف برق خاٹف کی طرح مصری پر گر اور وہ ساری رات روتا رہا۔ یہ سارا ماجرا بشیر نے مؤلف کو خود سنایا۔ جب وہ اور اس کی فیملی قاویان سے رخصت ہو کر لاہوری جماعت کی پناہ میں آ گئی تھی۔

جوابی حملے کی تیاریاں

اب پانسا پلٹا۔ مصری نے در پردہ تحقیق شروع کر دی۔ لیکن خاموش رہا۔ حالانکہ ان دنوں یا اس سے پہلے خلیفہ نے اپنے ماموں میر محمد اسحاق کو جلسہ سالانہ کی نظامت علیا سے معزول کر کے مصری کو سارے جلسہ کا ناظم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ لیکن بشیر کا معمرہ اشکاف ہونے پر مصری انتقامی کارروائی پر مائل ہو گیا۔ اتنے میں بشیر کی شادی ہوئی اور خلیفہ کے منظور نظر نوجوان عبدالرحمن عرف مائیں کے متعلق افواہ اڑی کہ اس نے مصری کی بہو کے زیور چرائے ہیں۔ مصری نے سرکاری عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ لیکن جماعت کی طرف سے مہینہ سارق کی تائید شروع ہو گئی اور مصری کو مقدمے میں بڑی دقتیں پیش آئیں۔ وہ ان افراد سے مل کر حالات دریافت کرنے لگا جو کسی زمانے میں اسی کے ہاتھوں مظالم اور خلیفہ کی سزاؤں کے ہدف بنے تھے۔

رمضان کا مہینہ تھا۔ مصری اپنے حصے کا درس قرآن دے رہا تھا کہ مؤلف قاویان گیا۔ مصری خاص طور پر مؤلف کو ملا اور خلیفہ کے حالات دریافت کرنے لگا۔ چونکہ مؤلف کو بہت

کچھ معلوم تھا۔ مؤلف نے مصری کو بتایا اور بین السطور ملامت بھی کی کہ اب اس کی مظلومیت اور بے بسی اس کی خلیفہ سے فدا کاریوں اور ستم رانیوں کا ثمرہ ہے اور ”چاہ کن راجاہ در پیش“ کا معاملہ ہے۔

شغال کی شیرانہ جرات

جب مصری نے اپنے خیال میں کافی مواد اکٹھا کر لیا تو اس نے خلیفہ کو پہلے ایک بہت طویل خط لکھا جس میں اس کی سیاہ کاریوں کا مفصل اور موثر ذکر کیا اور اس بات کا بھی کھلا ذکر کیا کہ کس طرح اس نے اپنے مرید (مصری) کے گھر بھی نقب لگائی اور اس کی اولاد کو اپنی جنس کاری اور ہوسنا کی کا شکار بنانے رکھا۔ (یہ خط بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے اس باب کے بعد درج کیا جا رہا ہے) اور خط کے ساتھ ہی خلیفہ کی بیعت سے لٹکنے کا اعلان کر دیا اور یہ اعلان الفضل میں خلیفہ نے اپنے ڈھنگ پر شائع کرایا۔ لیکن جواب نہ ملنے پر یکے بعد دیگرے دو مختصر خط بطور یاد دہانی مصری نے لکھے۔ یہ مصری کو خاص امتیاز ہے کہ اس نے خروج کا آغاز کیا اور بیعت ترک کرنے کا خود جلی اقدام کیا۔ حالانکہ وہ رابع صدی تک خلیفہ کا مرغ دست آموز بنا رہا۔ ایسے غلام ذہن اور چالیںس ذہنیت والے مرید کا خود لٹکنے کا اعلان کرنا ایک تاریخی سانحہ تھا۔ یہ خلیفہ کے لئے بھی قدرت کی طرف سے تازیانہ عبرت تھا کہ شغال صفت بیرو کے ہاتھوں رسوا و خوار ہوا۔ وہ مصری کی بغاوت سے اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اپنی ایک تقریر کے دوران کہا کہ وہ اس وقت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے زیادہ یتیم ہے۔ ساری ساری رات ماں اس کو چھت پر لئے پھرتی تھی اور اس کا غم فلفط کرتی تھی۔ ضمناً بطور جملہ معترضہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دینا ہے جا نہ ہوگا۔ خلیفہ کے ہم زلف شیخ بشیر احمد نے جو ہائیکورٹ پنجاب کے کچھ عرصہ جج رہے تھے۔ مؤلف سے جماعت چھوڑنے کا ذکر کرتے ہوئے بڑے مختصر سے کہا کہ دیکھو ہمارے بانی سلسلہ نے شغالیوں کو شیر بنا دیا ہے اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔

مؤلف نے جہاں کہا کہ ”دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔“ لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہاپ کے بتاتے ہوئے نام نہاد شیروں کے بیٹے خلیفہ نے کس ہنرمندی سے شغال بنا کر رکھ دیا ہے۔ پھر مؤلف نے شیخ بشیر احمد سے ان کے اپنے شغال ہونے اور سیاہ کاریوں کو دیکھ کر کف لسان ہونے کا حال پوچھا تو انگشت بدندان ہو کر رہ گئے۔ کیونکہ شیخ بشیر خود پورے طور پر آگاہ نہ تھے۔

بارگاہ محمودی میں مصری کا استغاثہ

شیخ مصری نے خروج کے بعد ایک بڑا اقدام یہ کیا کہ الزامات کی طویل فہرست بنا کر

بارگاہِ خلافتِ جعلی میں پیش کر کے خلیفہ کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا۔ اس سے پہلے اس نے چند واقعات راز کوئل کر گواہ بنانے کی سعی کی۔ ان میں مولف بھی تھا۔ قادیان کی فضا میں شدید کھپاؤ تھا۔ گویا جماعتِ شدیدہ کھنکی تصادم میں جھٹلائی۔ مصری کی طرف سے پوسٹر لگتے تھے کہ خلیفہ سیاہ کاریوں کی سزا میں معزول ہونا چاہئے۔ اس کے حلیف جنگِ فخر الدین نے بڑے بڑے پوسٹر لگا کر قادیان کو فحش کے اڈوں کا مرکز قرار دیا۔ ان دنوں مولف ۲۸۔ ایمپرس روڈ پر احمدیہ ہوسٹل کے پڑوس کی کوشی میں خان بہادر عبدالعزیز مرحوم (جنگِ سنگھ کے مقدمہ میں سرکاری انعام حاصل کرنے والے پولیس افسر) کے خاندان کی ایک قرعہ شاخ میں بطور تالیق معیم تھا۔ ان کے صاحبزادے مسٹر ایس اے محمود صاحب اس وقت بیرسٹر تھے۔ حال ہی میں وہ حج ہائیکورٹ ہو کر ریٹائر ہوئے تھے اور سرورمز ٹریبونل کے صدر بھی رہے۔ ایک رات انہی ایام میں رات کے پچھلے پہر مولف کو کسی آدمی نے جگایا وہ فخر الدین تھا۔ ہم دونوں میں اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مصری نے اپنے استغاثہ میں مولف کو گواہ کے طور پر پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے اور یہ اقدام اس گفتگو پر مبنی ہے جو اس کی کچھ عرصہ پیشتر رمضان کے دوران قادیان میں مولف سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ قادیان میں مولف، مولوی محمد دین اور ملک غلام فرید شہرت رکھتے ہیں کہ وہ جرأت سے راسی پر قائم رہنے والے ہیں۔ یہ حملق تھا یا تدبیر، یہ خدا کو معلوم۔ لیکن یہ بات ٹھیک تھی کہ مولف اور دوسرے دو اشخاص آپس میں گہرے تعلق رکھتے تھے اور یہ بات خلیفہ کو بڑی کھنکی تھی۔

مولف کا اندیشہ شہادت

مولف نے فخر الدین سے وعدہ کیا کہ وہ ٹھیک ٹھیک شہادت دے گا۔ چونکہ قادیان میں قہر دانہ کھنکس جاری تھی اور پوسٹر بازی ہو رہی تھی۔ مولف کے گواہ بننے کی بات نکل گئی۔ اس کے بعد مولف کے پاس بعض شناسا لوگ آنے لگے اور کئی رنگ اور کئی ڈھنگ سے ہادر کھینے کی تدابیر کرنے لگے۔ مولف کو اس بات کا اعتراف ہے کہ بوجہ ماضی کی ٹٹی ہوئی **Brain Washing** کے اس کے دل پر قادیانی فرعون کا خوف ضرور طاری تھا۔ کیونکہ برطانوی راج بھی اس کا حامی تھا اور اندیشہ تھا کہ ہوسکتا ہے کہ کسی خوف یا نا تجربہ کاری سے گواہی تیر بہدف نہ ہو سکے۔ اس کی پیش بندی کے لئے مولف نے ہر طے والے قادیانی سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ شہادت کے لئے دیدہ براہ ہے۔ یہ طریق اس لئے اختیار کیا گیا کہ مولف کو علم تھا کہ خلیفہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں خود شغال صفت ہو کر رہ گیا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ خلیفہ نے مولف کو نہ

بلا یا۔ ویسے بھی اس کے گھر میں طبقہ اثاثہ کا اتالیق ہونے کی وجہ سے خلیفہ پر اس کی حسن طبیعت کا اثر تھا۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ اپنی جنسی خطا کاریوں کے اضطراب شعور سے خلیفہ کو مولف کی شہادت سے خدانے اسے خوفزدہ کر رکھا تھا۔

صداقت کی تیغ بے دریغ

اس ضمن میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک دن احمدیہ ہوسٹل سے گذرتے ہوئے قادیانی جماعت کے اس وقت کے مقامی امیر اور خلیفہ کے ہم زلف شیخ بشیر احمد مل گئے۔ وہ منصوبہ سے طے پا رہا جاتی طور پر۔ یہ خدا کو معلوم ہے۔ مولف کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم طے اور کہنے لگے کہ آپ کی (مولف کی) گواہی کا قادیان میں بڑا چہ چاہور ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ مولف نے جواب دیا کہ کتنا شہادت تو گناہ ہے اور جھوٹی گواہی بہت ہی مکروہ گناہ ہے۔ اس پر شیخ بشیر مولف کے خروج کی بے خبری کے عالم میں کہنے لگے کہ اگر سچی گواہی سے جماعت (قادیان) کو نقصان پہنچے تو پھر؟ مولف نے کہا کہ اگر یہ جماعت اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ سچ سے مجروح اور جھوٹ سے محفوظ رہتی ہے تو مصری و صری کی بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اندریں حالات ان کو خود فیصلہ کرنا چاہئے کہ اس جماعت سے خود مذہب کو کتنا خطرہ لاحق ہے جو جماعت جھوٹ سے بچتی ہے اور سچ سے مرجھا جاتی ہے۔ اس کو ختم کرنا ہی اسلام کی بڑی خدمت ہے۔ اس صاف گوئی بلکہ شیخ نوائی سے امیر مقامی جو خود از درون خانہ سے واقف تھے، چپ ہو کر چلے گئے۔ مولف کا خیال ہے کہ ان کی رپورٹ قصر خلافت میں پہنچ گئی ہوگی۔ جب خلیفہ نے اپنی عدالت قائم کی تو مصری کے بتائے ہوئے گراہوں کو مولف کے سوا سب کو بلا لیا گیا۔ اس کے بعد ساری کارروائی الفضل میں مخیم صورت میں شائع ہوئی۔ مولف کا کہیں ذکر نہ تھا۔ اس پر فخر الدین کی طرف سے یا احرار کی طرف سے بڑے بڑے پوسٹر قادیان میں لگے۔ جن کے عنوان میں مولف کا نام جلی حروف میں تھا اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ مرزا محمد حسین سے گواہی کیوں نہیں لی گئی۔ یہ صداقت کی تیغ بے دریغ کا جان لیوا خوف تھا کہ خلیفہ نے مولف کی گواہی نہ لی۔

ایک حیلہ پرویزی

چونکہ مولف کو ابتداء میں جنس کاریوں کی خبر خلیفہ کی سوتیلی خوش دامن مراد بیگم کے سگے بیٹے (ڈاکٹر) احسان علی نے دی تھی اور اس کے بھائی عبدالرحمن (المعروف مائیں) سے مصری کا مقدمہ چل رہا تھا۔ اس لئے جماعت کی طرف سے احسان علی نے چند پوسٹر لگائے جس میں مولف کو دھمکی دی گئی تھی۔ مولف نے ایک زبانی پیغام سے احسان علی کو اس اقدام کے عواقب سے آگاہ

کیا تو اس نے چپ سادھ لی۔ اس کے بعد مؤلف کی ضمیر پر ایک اور سمت سے حملہ ہوا۔ مؤلف کے گہرے محبت کرنے والے ایک اہل قلم ملک غلام فرید تھے۔ ان کی طرف سے مؤلف کو خط آیا جس میں مؤلف کو ترغیب دی گئی کہ وہ قادیان میں آئے اور میاں عبداللہ خاں (خلیفہ کے بہنوئی) کے گھر میں قیام کرے۔ چونکہ اس سے پہلے دور میں ملک صاحب کے ہاں ہی قیام ہوا کرتا تھا۔ اس لئے مؤلف کو یہ ناگوار ہوا اور جواب میں احتجاج کیا۔ اس پر ملک صاحب نے اپنی بے بسی اور معذوری کا ذکر کیا اور اصرار کیا کہ مؤلف ضرور آئے اور خلیفہ کے بہنوئی میاں عبداللہ خاں کے پاس ہی ٹھہرے جو اس وقت خلیفہ کی دارالصدر والی کوٹھی دارالاحمد میں رہتے تھے۔ یہ حیلہ پرویزی تھا جس کے پیچھے خلیفہ کا خفیہ ہاتھ کار فرما تھا۔

ایک پہلو دار تحریر

مؤلف نے ملک صاحب کو لکھا کہ جو کچھ مصری نے لکھا ہے وہ خلیفہ کے تاریک حالات سے بہت کمتر ہے اور یہ کہ مؤلف تو جماعت کو تیاگ چکا ہے اور بعض مصلحتوں کی بناء پر خاموش ہے۔ کیونکہ خوف غماز، عدالت کا خطر، دار کا ڈر نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی قادیان آنے کے لئے لکھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد ملک صاحب نے مؤلف کو بتایا کہ وہ مؤلف کے خط سے بہت مطمئن ہوئے تھے اور گھر والوں سے مؤلف کی سچ کی پاسداری کا ذکر کیا تھا۔ مؤلف قادیان گیا اور خلیفہ کے بہنوئی کے پاس اضطرار اقام کیا۔ ان کی بیگم صاحبہ نے جو مؤلف کی شاگردہ چچی تھیں کہا کہ ان کے بھائی (خلیفہ) مؤلف کے رویے سے خائف ہیں۔ کیونکہ مؤلف ان کے گھر کی خواتین کا کئی سال اتالیق رہ چکا ہے اور اس کے ہولناک معلومات کا توڑ مشکل ہے اور یہ بھی کہا کہ ان کے بھائی کو امید ہے کہ ان (خلیفہ کی بہن) کے کہنے سننے سے معاملہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔

مؤلف نے پہلو دار خط بنام خلیفہ اس کی ہمشیرہ کو دیا۔ وہ پڑھ کر خاموش ہو گئیں اور اس خط کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر خلیفہ نے مؤلف کے خلاف درپردہ جارحانہ کارروائی چھوڑ دی تو مؤلف بھی مصلحتاً خاموش رہے گا۔ لیکن خلیفہ طبعاً اس پر پابندی نہ کر سکا۔ لیکن خدا نے مؤلف کو اس کے گزند سے محفوظ رکھا۔ اس عارضی قیام کے دوران خلیفہ کے ایک سالے صاحب ولی اللہ شاہ ملے اور کہنے لگے جاؤ فوراً معافی مانگ لو۔ مؤلف نے کہا: ”کیوں! ڈاکہ تو نہیں مارا، چوری تو نہیں کی ہے۔“

اس پر طے کے طور پر خلیفہ کا سالہ کہنے لگا: ”تم گندے لطیفے بڑے سناتے ہو۔“

مؤلف نے جواب دیا میں گندے فصل تو نہیں کرتا۔ میرے لطیفوں کا معاملہ تو آپ کی اہماد ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے اور آپ کے مرشد کے گندے افعال و اعمال کا حق القہنی علم ہے۔ اس صاف گوئی سے ان کے منہ پر قفل پڑ گئی۔

خلیفہ کا خط بنام مولانا سالک (مرحوم)

اس کے بعد فخر الدین ایک اشتعال انگیز خطبے کے چند گھنٹے بعد قتل ہو گیا۔ خلیفہ نے ایک طویل خط میں مولانا سالک مرحوم کو اپنے خطبے کا حال لکھا اور بڑے فخر و مہابت سے سامعین کا اس کے خطبے کے بعد بچھاڑیں کھا کر گرنے کا منظر بیان کیا۔ مؤلف کو مولانا مرحوم سے گہرا قلبی تعلق تھا۔ انہوں نے سارا خط مؤلف کو دفتر انقلاب میں سنایا اور ساتھ ہی بتایا کہ انہوں نے خلیفہ سے قادیان کی کیفیت دریافت کی تھی اور یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو فخر الدین سے زیادہ مصری سے خائف ہونا چاہئے۔ کیونکہ جو مصری نے معز دلی کا مسئلہ چلایا ہے یہ دور تک مستقبل میں پھیل جائے گا۔

مذموم راجھو و ساخت

جب تک مصری لاہور نہیں آیا تھا۔ اس کا گھر خلیفہ کی طرف سے یورشوں کا نشانہ بنا رہا۔ اس کو کئی اطراف سے اور کئی ایک جگہ چھٹ جوائوں سے خونیں حملے کا خطرہ تھا۔ ایک قتل کے بعد خون منہ لگ گیا تھا۔ مؤلف کو سرحد کے مرحوم وزیر اعظم صاحبزادہ عبدالقیوم مرحوم کے ایک قادیانی عزیز نے بتایا تھا کہ اسے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو حکم تھا کہ مصری کی لڑکیوں کو اٹھایا جائے۔ اس کے گھر کا دودھ بند کر دیا گیا تھا۔ قادیان کے ایک مشہور دودھ فروش محمد یوسف خان نے مؤلف کو بالمشافہ یہ حال بتایا ہے۔ جب سر سے پانی گذر گیا تو مصری دودھ چراغ محفل بن کر قادیان سے نکل آیا اور لاہوری جماعت کے سائے میں پناہ گزین ہوا۔ اس کے بعد اس نے اس فتور منظم جماعت کو اپنے جوڑ توڑ کی جولان گاہ بنا لیا۔ وہ پچیس سال خلیفہ قادیان کی مدح اور مولوی محمد علی کی قدح کرتا رہا۔ چونکہ پرستاری عادت مستمرہ تھی۔ اس لئے لاہور آنے کے بعد مرزا محمود کی دشنام آمیز قدح اور مولوی محمد علی کی مبالغہ آمیز مدح کرنے لگا۔ اس کی جبین کسی نہ کسی استان کی محتاج تھی۔ اب پچیس سالہ مقہور ذات پر گھمائے عقیدت نچھاور ہونے لگے۔ خوشادک حیر نشانے پر بیٹھے اور مولوی محمد علی نے اس کو جماعت کی انتظامیہ کا دواہی رکن بنا دیا۔ وہ محمود راجھو و ساخت اور مذموم راجھو و ساخت کے قدیم مشغلی میں مصروف ہو گیا۔ چونکہ وقاداری بشرط استواری اس کی فطرت کے منافی تھی۔ اس لئے جب مولوی محمد علی بیماری کے ہاتھوں معذور ہوا تو مصری نے اس

کے مخالفین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا اور مولوی محمد علی جس پر مصری اپنے مرشد کی ساری (پیش گوئیاں) لگا تا رہا تھا وہ اب اس کی سازش کا شکار ہو گیا۔ گویا: ”ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں۔“ کا مضمون بن گیا اور مولوی محمد علی نے وصیت کی کہ مصری کو اس کا جنازہ نہ پڑھنے دیا جائے۔ جب وہ جنازے کے ساتھ جا رہا تھا تو مولوی محمد علی کے پیچھے چوہدری فضل حق نے اس کو لات مار کر گرا دیا۔

نادانوں کی نادانی نہیں جاتی

لاہوری جماعت کے متعلق مصری کے کارہائے نمایاں سے اس صدا بھرا جماعت کے متعلق اس باب میں اتنا لکھنا ہی کافی ہے کہ یہ جماعت فتور غیر منظم ہے۔ یہ جمود ہے اور خود ہے۔ اس کے دعاوی تو بڑے ہیں۔ لیکن ساٹھ سال میں ایک گلی کو رام نہیں کر سکے۔ وہ بدستور رام گلی ہے۔ اب اس گلی سے بھی نکل رہے ہیں۔ ان کے جلسے، ان کی عیدیں اور ان کے جلسے ان کی جماعت کی ہنسی خلفشار کے نماز ہیں۔ اگر حالات کا تیر ہدف پر نہ بیٹھے تو ان کا حال یہ ہے۔ آپ اٹھلاتے ہیں گرتیر خطا ہوتا ہے۔

مولوی محمد علی کی پالیسی نے علمی نسل کشی کی۔

یعنی اپنے سوا کسی کو علمی سطح پر ابھرنے نہ دیا۔ جو چند پہلے سے عالم تھے ان سے اپنی تالیفات کا کام اس انداز سے لیا کہ وہ عسرت اور لا علاج مرض کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب مصری کا نزول ہوا تو وہ خطرہ بن سکتا تھا۔ کیونکہ وہ یقیناً مولوی محمد علی سے زیادہ عربی کا عالم تھا اور اس کا قادیانی لٹریچر کا مطالعہ بھی وسیع تھا۔ چونکہ وہ اپنی بات کو مختصر موزوں الفاظ میں سو سکتے کے ملکہ سے یکسر عاری تھا اور مولوی محمد علی اس کا بہت ملکہ رکھتا تھا۔ اس لئے مصری کو ابتداء میں ہی محفوظ سمجھ لیا گیا اور دواہی رکنیت کا انعام عطا کر کے اسے کالا انعام بنا کر رکھ دیا۔ لیکن مصری اپنی بات کر کے رہا۔ مولوی محمد علی کے مخالفین کا سرغنہ بن کر مولوی کی تالیفات کو اس کے خاندان کے تصرف میں دینے میں موثر روک بنا دیا اور چھوٹی سی تنظیم بھی کھڑی کر دی جس سے مجبور ہو کر مولوی محمد علی نے مرض الموت کی حالت میں فیملی ٹرسٹ بنانے کی تجویز داپس لے لی۔ جب مصری اس جماعت میں شامل ہوا تو اس جماعت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کا خیر مقدم کیا۔ یہ شخص معاویہ کے طور پر کیا مصری کے راستے میں اس کا اپنا ماضی حاصل تھا۔

اس نے یہ ترکیب نکالی کہ اس نے قادیان کتب کا دوبارہ بالاستیعاب مطالعہ کیا اور اس مطالعہ سے اس پر اس کے قول کے مطابق یہ بات روشن ہوئی کہ وہ چالیس سال پہلے کے مطالعہ

سے نائب ہو کر لاہوری جماعت کا ہم نوا ہو گیا۔ یہ محض ملائی عیاری تھی۔ لاہوری جماعت کے ایک امیر کبیر کن شیخ محمد فاروق نے جب مصری سے یہ پوچھا کہ قادیان میں قادیانی لٹریچر کے گہرے مطالعہ سے تو اس پر مرشد مرزا کی نبوت ثابت ہوئی۔ لیکن رام گلی میں آ کر مطالعہ کرنے سے پہلا مطالعہ باطل ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا معنی ہے تو مصری نے جواباً کہا کہ یہ طویل بحث کا موضوع ہے۔ لیکن لاہوری جماعت ”غشاشوۃ بصیر اور وقر اذنان“ کی مریض تھی اور وہ اپنی دیرینہ تاوانی سے حالات کا صحیح جائزہ لینے سے عاجز تھی۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ مصری نے محمودی مطالعہ سے نجات اور عافیت حاصل کرنے کے لئے یہ قلابازی لگائی ہے۔ اگر محمود جیسا جاہر، قاہر، ہمہ گیر آمر مصری کو سنجال نہ سکا تو لاہوری جماعت جن کے بطون و قلوب پر اسلام سے زیادہ رام گلی کی چھاپ گئی ہوئی تھی، مصری کو کیسے سنجال سکتی تھی۔

وصیت اور وصیت کرنے والے کا جنازہ

مولوی محمد علی نے جو وصیت کی اس کو پیش افتادہ چیز سمجھ کر رومی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ تمام وہ زور دار مخالفین جمع مصری کے جماعت پر مسلط رہے۔ امیر بھی وہی بنا جس سے مولوی محمد علی اپنے اعلانات کے مطابق ساری عمر تالاں رہے اور اس کی نیگم نے اپنی مظلومیت کی روئیداد شائع کی، وہ بھی صدائے برنخواست ہو کر رہ گئی۔ اب میدان میں مصری سے زیادہ عالم کوئی نہ تھا۔ اس کے سارے عقائد محمودیت کا گہرا رنگ لئے ہوئے تھے۔ وہ کفیر اہل قبلہ کا قائل تھا اور اس اٹم کبیر کا مبلغ بھی تھا۔ وہ مسلمانوں کے جنازے کے خلاف فتوے دیتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کا قائل تھا۔ حالانکہ مولوی محمد علی نے اس کے خلاف اپنی تفسیر میں بہت کچھ لکھا تھا۔ محمودی جماعت رفع الی السماء کی قائل تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ہونے کی قائل تھی۔ لیکن یک نہ شد و شد کے طور پر لاہوریے باپ کے ہونے کے بھی قائل تھے۔ سر آغا خان مرحوم کی وفات کے بعد جب جماعت کے ایک حصہ نے نماز جنازہ پڑھا تو کچھ لوگ مصری کے ساتھ مل کر جنازہ سے الگ ہو گئے۔ یہ وہ اعمال تھے جن کی پاداش میں مصری کی اولاد ساری کی ساری دین سے عملاً باغی ہو چکی تھی۔ اس کے دو بیٹے مؤلف کے ایک قسم کے شاگرد تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ مسجد سے پیٹھ پھیر کر گزرتا اپنا مسلک سمجھتے ہیں۔ جماعت کے شعبہ نشر و اشاعت کے ایک انچارج نے جو (اب وہ سبکدوش ہو چکے ہیں اور لندن میں مقیم ہیں) کئی دفعہ مؤلف کو بتایا کہ مصری کو مولوی محمد علی کی تفسیر پر شدید اعتراضات ہیں۔ وہ اس کو تقسیم تفسیر تصور کرتا ہے۔ چونکہ جماعت گروہی تصادم میں محصور تھی۔ مصری ”مولوی ادھر علی ادھر“ بنا ہوا تھا۔ جب

ایک حصہ پھٹ کر نکل گیا اور مال روڈ کی ایک دکان پر میاں محمد کے ساتھ مل گیا تو مصری وہاں بھی کبھی کبھی امامت کیا کرتا تھا اور مرکز کے وابستگان سے کہتا تھا کہ وہ اس لئے وہاں جاتا تھا کہ کہیں وہ بہت دور نہ نکل جائیں۔ پھر جب پھٹا ہوا حصہ واپس لوٹا تو مصری پھر پردھان بنا رہا۔ کیونکہ جماعت جمود و نمود بن چکی تھی۔ کارخانہ داروں کے واڈ اور تھے اور مصری کے واڈ اور۔ وہ استیصال کرتے تھے اور مصری بھی سلب و ہب میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتا تھا۔

”مولوی ادھر علی ادھر“ کے بیٹے کا عقوبتی حملہ

مصری نے اپنے بیٹے کو دوکنگ مسجد کا پہلے کارکن پھر امام بنا کر بھجوادیا۔ حالانکہ ایک ریٹائرڈ ڈی. آئی. جی قسم کے ایک رکن نے کہا کہ اس محبوب الحال جوان کا ماضی بہت واغدار ہے۔ لیکن جماعت کے اس شعبے کا انچارج ایک کرنل مذہبی روح سے بیگانہ تھا۔ اس نے کسی کی نہ سنی اور بشیر کو دوکنگ بھجوادیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ محمود کا صید زبوں اب لاہوریوں کا مبلغ بن کر مشرقی افریقہ (شاید یوگنڈا) کے کسی ملک میں گیا۔ کئی ہزار روپے برائے تبلیغ لئے۔ جب اس سے حساب طلب کیا گیا تو اس نے جواباً یہ کہا کہ اس نے تبلیغی لٹریچر شائع کیا ہے اور وہاں سے سوہیلی زبان کی انٹ سٹ کتا میں بھیج دیں۔ کیونکہ اس کو لاہوری جماعت کی حماقت کا پورا علم تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہاں کسی کے مشورے پر ان کتب کو کسی سوہیلی زبان کے جاننے والے سے پڑھوایا گیا تو ملی تحیلے سے باہر آ گئی۔ حافظ بشیر نے اقرار جرم کے بعد بھی وہ خطیر رقم شاید واپس کی ہو۔ اس سانحہ خبیثہ کے باوجود اس ”مولوی ادھر علی ادھر“ نے اپنے بیٹے کو دوکنگ مسجد میں پہلے نائب امام اور پھر پورا امام بنا کر بھجوادیا۔ اس نے اس منصوبے سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ جب لندن میں فتنہ انکار ختم نبوت کے خلاف اشتعال پیدا ہوا اور اس عاصب امام سے معاملہ نہ سنبھالا گیا اور مولوی لال حسین اختر صاحب سے شکست کھا کر دوکنگ مرکز میں اس کی پر تکلف دعوت کر کے دوکنگ مسجد کے سارے کاروبار کو مولوی لال حسین اختر صاحب کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر پہلے پہلے پاکستان میں فیصل آباد کے ہفتہ وار میگزین لولاک میں نکلی۔ پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لاہوریوں میں خیف سا اضطراب نمایاں ہوا۔ لیکن وہ ہنسی خصوصیات میں اسیر تھے۔ وہ چپ بی رہے۔ ہامر مجبوری ”مولوی ادھر علی ادھر“ کے بیٹے کو فارغ کیا گیا۔ لیکن وہ باپ کے توسط سے نوسو پونڈ کی رقم لے کر گیا۔ گویا یہ رقم اس کے فریب عظیم کا معاوضہ تھا۔

جناب بیگم بھوپال مرحومہ کی پیشکش کی تو ہیں

اس واقعہ سے ارباب ربوہ کو پروپیگنڈا کا خوب خوب موقع ملا۔ چونکہ دوکنگ مسجد

جناب بیگم جو پال مرحومہ نے خوبہ کمال الدین کو خالص اسلام کی تبلیغ کے لئے تقویض کی تھی۔ ہادی اختر میں لاہور یہ مرزا محمود سے سبقت لے گئے تھے۔ کیونکہ منکرین ختم نبوت کا مرکز پٹنی میں بہت بعد میں بنا تھا۔ پہلے پہل ٹرسٹ کے زیر سایہ دوکنگ مسجد کا معاملہ صراط مستقیم پر چلانے کی سعی جاری رہی۔ لیکن مخالفت اسلام کا غبار اس پر چھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مصری جیسے منکر کے بیٹے کو اس کی نگرانی مل گئی۔ مرزا محمود لاہوریوں کی نام نہاد سبقت سے طول رہتا تھا۔ جب اس کے تربیت گزیدہ مصری کے بیٹے نے خوب خوب استیصال کے بعد مسجد کو اپنی طعون نگرانی سے پاک کر دیا اور مسجد پھر اہل اسلام کے پاس آ گئی۔

”لاہوریوں کی اس سبقت کے خاتمہ کو مرزا محمود نے اپنی کامیابی سمجھ لیا۔ بلکہ اس کے پرچار کوں نے یہ پروپیگنڈا بڑے زور سے کیا کہ مصری نے مرزا محمود کی ایازی سے نکل کر انجام کار کام وہ ہی کیا جو مرزا محمود کے مفاد کے فروغ کا موجب بنا۔“

شیخ مصری کی بوکھی

مصری کو جب بھی جمعہ کا خطبہ دینے کا موقع ملتا تو وہ اپنے مرشد مرزا کی اولاد کے متعلق پیش بندیوں کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ اپنی ماضی کی محمود پرستیوں کی یاد تازہ کرتا رہا۔ وہ اپنے مرشد کی ایک عزیزہ کے اسراف و تہذیر کا اس طرح ذکر کرتا اور اس کے لباس فاخرہ اور زیورات کو اس انداز سے بیان کرتا گویا یہ خدا کی طرف سے انعام تھے۔ یہ کالا انعام عالم خدا کی نعمت اور خدا کی لعنت میں تمیز کے ملکہ سے عاری ہو چکا تھا۔ لاہور یہ اس کی بوکھی کی تشخیص نہ کر سکے۔ حالانکہ اس کے اعمال و اقوال کی رسی اس کے گلے میں طوق حقوبت بن کر پڑی ہوئی تھی۔

اب اس باب کے بعد اس کا وہ عطف پیش کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوگا کہ وہ کس طرح مکافات عمل کا شکار ہو کر اپنے جلسوں کے لئے درس عبرت بن کر قید حیات و بند غم میں گھر کر زندگی بسر کر رہا ہے۔

مصری نے اکیلے جنگ کیوں لڑی

اس باب کے ختم پر یہ لکھتا ہے ربط نہ ہوگا کہ اتنا بزدل ہو کر مصری کو خلیفہ جیسے جاہل اور قاہر کے مقابلے کی جرأت کیسے ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اخراج اور مقابلہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ اس نے رہ جانے کی پیشکش کی تھی۔ خلیفہ خائف ہو کر اس کو تاہود کرنے پر مل گیا تھا۔ ابتداءً اس کو نبرد آزمائی کی جرأت اس واسطے ہوئی کہ خلیفہ کا سا ماموں میر محمد اسحاق مصری کا شاہد حلیف بن گیا تھا۔ ماموں اور بھانجا دونوں جنسی فحشا میں ہم پرواز تھے۔ بعد اس ناگفتہ بہ جرم نے لکراؤ کی

صورت پیدا کر دی۔ میر محمد اسحاق خلیفہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ خلیفہ نے اس کا قادیان میں مقبول عام درس بند کر دیا تھا اور الفضل میں نام کے خلاء کے ساتھ ماموں کو بے نقاب کیا اور ماموں کو احساس دلایا کہ وہ اب ماموں نہیں۔ لیکن ایک وقت جا کر اپنی بہن یعنی خلیفہ کی ماں کے کہنے پر پیچھے ہٹ گیا اور مصری کو اپنے اشتعال خوسا تمی فخر الدین کے ساتھ مل کر جنگ لڑنی پری۔ جب وہ قتل ہو گیا تو مصری اکیلا رہ گیا۔ اس کے لئے مفرزہ تھا اس واسطے اس کو قادیان سے فرار میں قرار ملا۔ لیکن دم تحریر تک اس کے خوف زدگی کی یہ حالت ہے کہ اگر گھر میں کسی ملاقاتی سے ملتا ہے تو تمام دروازے اندر سے مقفل کر لیتا ہے۔

یہ ہیں وہ لوگ جو ختم نبوت کے انکار سے عملاً اور عقلاً اپناج ہو کر رہ گئے۔ گویا خدائی تعویز اس زندگی میں شروع ہو گئی ہے۔ جنسی جھاکاری نے خلیفہ کو بھی ایک متعفن لاش بنا کر چھوڑا۔ اس کے اہل خانہ اس سے گریز کرتے تھے۔

مصری کا خط بنام مرزا محمود افشائے راز کا شاہکار

مدت سے میں چاہتا تھا کہ آپ سے دو ٹوک بات کروں۔ مگر جن باتوں کا درمیان میں ذکر آتا لازمی تھا وہ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایسی تھیں کہ انکے ذکر سے آپ کو سخت شرمندگی لاحق ہونی لازمی تھی اور جن کے نتیجے میں آپ میرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہ سکتے تھے اور چونکہ اکثر ہمیں آپس میں ملنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تہذیب اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ آپ ہمیشہ کے لئے میرے سامنے شرمندگی کی حالت میں آئیں۔ اس لئے میں اس وقت تک آپ کے ساتھ فیصلہ کن بات سے رکا رہا ہوں۔ لیکن اب حالات نے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کی اصل **Situation** رکھ دوں اور آپ کو بتاؤں کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے لئے کیسی پرخطر بات ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں نے تو مظلوم ہو کر بھی (جس کو شریعت نے بھی ظالم کے ظلم کے علی الاعلان اظہار کی اجازت دی ہے) اس بات میں شرم محسوس کرتا رہا کہ آپ کے سامنے بالمشافہ یا تحریر کے ذریعے آپ کی ان خاص راز کی باتوں کا ذکر لاؤں لیکن آپ جو ظالم تھے اور ایسے افعال شنیعہ کے مرتکب تھے جن کے سننے سے بھی ایک معمولی شریف آدمی کی بھی روح کانپتی ہے۔ اس آدمی کو جس کا قصور اور جرم صرف اسی قدر تھا کہ بد قسمتی سے اس کو آپ کے افعال شنیعہ کا علم ہو گیا اور آپ کو یہ علم ہو گیا کہ اسے علم ہو گیا ہے۔ دکھ دینے اور قسم قسم کے مصائب کا اسے نشانہ بنانے اور اس کو جماعت کی نظر میں گرانے کے لئے

طرح طرح بہتان اس پر ہاندھنے اور ان بہتانوں کو ہاتھ میں لے کر اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی لگاتار انتھک کوشش کرنے میں ذرا شرم محسوس نہیں کی۔

انکشاف روکنے کے لئے محمود کی ذلیل کوشش

یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا کہ آپ کا مجرم ضمیر ہر وقت آپ کو اس بے شر اور بے ضرر انسان کے متعلق اندر سے بھی آواز دیتا رہا کہ اگر اس شخص نے میری ان کارروائیوں کا جو میں اندر خانے کر رہا ہوں، جماعت کو علم دے دیا تو میرا سارا کاروبار بگڑ جائے گا اور میں شہرت سے گر کر قعر مذلت میں جا پڑوں گا۔ کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس شخص کو قادیانی جماعت میں عزت حاصل ہے۔ مستزیوں کے متعلق تو اس قسم کے عذر گھڑ لئے گئے تھے کہ ان کے خلاف مقدمہ کیا گیا تھا یا ان کی لڑکی پر سوت لانے کا مشورہ دیا تھا۔ مگر یہاں اس قسم کا کوئی بھی عذر نہیں چل سکتا۔ اس کی بات کو قادیانی جماعت مستزیوں کی طرح رد نہیں کرے گی۔ بلکہ اس پر اسے کان دھرنا پڑے گا اور وہ ضرور دھرے گی۔ اس لئے آپ نے اسی میں اپنی خیر گنجی کہا ہستہ آہستہ اندر ہی اندر اس شخص کو جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعہ جماعت کی نظر سے گرا دیا جائے اور اس کو اس مقام پر لے آیا جائے کہ اگر یہ میرے گندے راز کو فاش کرے تو جماعت توجہ نہ کرے اور اس کی بات کو بھی اس طرف منسوب کرنے لگ پڑے کہ اس شخص کو بھی کچھ ذاتی اغراض اور خواہشات تھیں جن کو چونکہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس لئے یہ بھی ایسا کہنے لگ پڑے ہیں اور ادھر ادھر سے آپ شور مچانا شروع کر دیں کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ اندر سے مستزیوں یا پیغامیوں یا احراریوں سے ملے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لئے جن کو آپ کے ان گندے رازوں کا علم ہو جاتا ہے آپ کے پس زیادہ تر یہی ایک حربہ ہے۔ یہ آپ مت خیال کریں کہ جو کچھ آپ میرے خلاف کر رہے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہوتا۔ مجھے آپ کی ہر کارروائی کا علم ہوتا رہا ہے۔ اگر میں بھی آپ کے اشتعال انگیز طریق سے متاثر ہو کر جلد بازی سے کام لیتا اور ابتداء ہی میں اپنا منی بر حقیقت بیان شائع کر دیتا اور جو تقدس کا سراسر جھوٹا پردہ اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے اس کو اٹھا کر آپ کی اصلی شکل دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا تو آج نامعلوم آپ کا کیا حشر ہوتا۔ یعنی میں نے محض صبر سے کام لیا۔ آپ کے ظلم پر ظلم دیکھے اور افسوس تک نہیں کی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میری خاموشی سے آخر آپ سبق حاصل کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ یہ شخص اس راز کو فاش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور کچھ عرصہ تک میرے رویہ کو دیکھ کر خود بخود اپنی غلطی محسوس کر کے نادم ہو کر اپنی ان ناجائز اور ظالمانہ کارروائیوں

اور جھوٹے پراپیٹنڈے سے باز آجائیں گے۔ لیکن آپ کا مجرم ضمیر آپ کو کب آرام سے بیٹھنے دے سکتا تھا اور آپ کا اضطراب اور گھبراہٹ سے بھرا ہوا دل اس وقت تک آپ کو چین کی نیند نہیں لینے دے سکتا تھا۔ جب تک آپ اس شخص کو اپنی راہ سے دور نہ کر لیں۔ جس سے آپ کو ذرا سا بھی خطرہ خواہ وہ ہم ہی محسوس ہو رہا ہو۔ آپ غالباً اس وقت تک اس غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا اس وقت تک جو میں خاموش رہا ہوں، اپنی ملازمت کے چلے جانے کے ڈر سے رہا ہوں۔ اس غلط فہمی کو جتنی جلدی بھی ہو سکے اپنے دل سے نکال دیں اور آپ کی دلیری بھی زیادہ تر اسی وجہ سے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی روزی می آپ کے قبضے میں ہے۔ مگر میں مشرک نہیں ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس بات کا خیال کرنا تو کجا اس کو وہم میں بھی لاسکوں۔ پس یہ آپ کو یاد رہے کہ میں جو اس وقت تک باوجود آپ کی غلط کاریوں کا علم ہو جانے کے اور اپنے خلاف غلط کارروائیوں کو دیکھنے کے خاموش چلا آ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کسی قسم کے مالی یا جانی نقصان کا ڈر نہ تھا۔

ابلیسی جارحیت کی انتہاء

آپ کو تعلقات کا اتنا بھی پاس نہ ہوا جتنا کہ ایک معمولی قماش کے بدچلن انسان کا ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بدچلن آدمی بھی اپنے دوستوں کی اولاد پر ہاتھ ڈالنے سے احتراز کرتا ہے۔ لیکن افسوس آپ نے اتنا بھی نہ کیا اور اپنے ان مخلص دوستوں کی اولاد پر ہی ہاتھ صاف کرنا چاہا جو آپ کے لئے اور آپ کے خاندان کے لئے جانیں تک قربان کر دیتا بھی معمولی قربانی سمجھتے تھے۔ میرے اخلاص کا تو یہ عالم ہے کہ جس وقت آپ کے ایک مرید (فضل داد) سے اجمالی علم ہوا اور پھر اپنے بیٹے بشیر احمد نے اس کی تفصیلی تصدیق کی تو میرا یہی فیصلہ تھا کہ اپنے بیٹے بشیر احمد کو گھر سے نکال دوں اور ہمیشہ کے لئے اس سے تعلقات منقطع کر لوں۔ مگر میں نے اس سے نرمی اس لئے کی کہ اس کے ذریعہ سے اب میں اس سازش کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس کے متعلق میں پہلے یقین کئے بیٹھا تھا کہ آپ کے چال چلن کی باتیں آپ کو بدنام کرنے کے لئے کوئی زیر میں گروہ اپنا کام کر رہا ہے۔ مجھے اس وقت یہی خیال غالب تھا کہ میرا بیٹا بشیر احمد بدقسمتی سے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے جو اس سازش کے ہانی مہانی ہیں۔ کیونکہ مجھے یہ علم ہے کہ اس کو آپ کے اور آپ کے خاندان کے ساتھ بڑا اخلاص تھا اور اس اخلاص کی موجودگی میں وہ کبھی بھی جھوٹے الزام آپ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ پس ایسی حالت میں میرے نزدیک دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں یا یہ الزامات سچے ہیں یا یہ کہ بشیر احمد بعض ایسے آدمیوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور انہوں

نے اس کو قتل وغیرہ کی دھمکیاں دے کر اس سے یہ کہلوا لیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں بشیر احمد سے اس سازش کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس بناء پر اول میں نے بشیر احمد کے ساتھ مختلف رنگوں میں انتہائی کوشش کی کہ وہ ان باتوں کے غلط ہونے کا اقرار کرے۔ مگر قطعاً کامیابی نہ ہوئی اور کامیابی ہوتی کس طرح اور کسی سازش کا پتہ لگتا کس طرح جب کہ کسی سازش کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ بلکہ برخلاف اس کے اس نے بعض ایسے دلائل پیش کئے جو ایک حد تک قابل کر دینے والے تھے۔ ان میں قطعاً بناوٹ نہ معلوم ہوتی تھی۔

قصہ مصری کے بیٹے کا

دوسری طرف میں حیران تھا کہ وہ سب باتیں ان باتوں سے پوری پوری مطابقت کھاتی ہیں جو آپ کے خلاف بغاوت کرنے والے مسز یوں کی بیٹی اور بیٹا کہہ چکے تھے۔ پس جب میں ادھر سے اپنے مقصد میں ناکام رہا تو میں نے اپنی تحقیق کا رخ دوسری طرف موڑا اور میں نے لوگوں میں زیادہ ملنا جلنا شروع کیا اور اس وقت تک میری یہی نیت تھی کہ میں سازش کا سراغ لگاؤں۔ اس گہری سازش کا سراغ تو کیا پاتا تھا۔ الٹا چاروں طرف سے واقعات اور حقائق کا طومار میرے سامنے لاکھڑا کیا جو بشیر احمد کے بیان کے لفظ لفظ کی تصدیق کرنے کے لئے کافی تھا۔ پس اس وقت میں نے بشیر احمد کو معذور سمجھ کر اس کو سزا دہی کا خیال ترک کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ بچے کو اسٹن بول سے جو میں اس پر آپ کے ساتھ اپنے فرط محبت اور فرط اخلاص کی وجہ سے کرنے لگا تھا۔ یعنی ساری عمر کے لئے اس کو جاہ و برہاد کرنے کا جو تہیہ کر لیا تھا اس سے بچانے کے لئے یہ سامان پیدا کر دیے کہ کئی جگہوں سے اس کے بیان کی تصدیق ہوتی چلی گئی اور ایسی ایسی جگہوں سے ہوئی جن کے متعلق وہ ہم بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کوئی شرارت کریں گے یا کسی شریر کی سازش کا فکرا ہوں گے یا خود سازش کے ہانی ہوں گے۔ آپ تو ابھی طرح سے واقف ہیں کہ اشارہ سے ہی آپ کو فوراً اشارہ لیا کہ پتہ چل جائے گا اور میں کسی مصلحت سے اپنی تحریر کو تفصیل دلائل سے خالی رکھنا چاہتا ہوں۔ غرضیکہ میرے پاس ان باتوں کے اثبات کے لئے دلائل کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پبلک میں ظاہر کیا جائے گا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بشیر احمد سچا ہے اور یہ سب افضال جو اس نے بیان کئے ہیں آپ سے سرزد ہوتے رہے ہیں۔ مگر باوجود ان تمام باتوں کا علم ہو جانے کے جو میرے اور میری بیوی کے لئے سخت دکھ کا موجب تھیں اور جنہوں نے ہم دونوں کی صحت پر اتنا گہرا اثر کیا کہ آج تک بھی ہم اپنی صحت

بحال نہیں کر سکے۔ کافی عرصہ تک ہم دونوں کمرہ میں اکیلے دروازہ بند کر کے روتے رہتے تھے۔ بچے بھی ہماری حالت دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ مگر ان کو کوئی علم نہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ ہماری آنکھیں سرخ دیکھتے اور کہم جاتے ہیں۔ مگر ادب سے وجہ دریافت نہ کرتے۔ باوجود اس قدر شدید صدمہ کے پھر بھی میں نے اس قدر شرافت سے کام لیا اور اپنے نفس پر اس قدر قابو رکھا کہ کس کے سامنے ان باتوں کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں سے مجھے مختلف واقعات کا علم ہوتا رہا۔ ان سے بھی صرف واقعات سننا ہوا اور یہاں تک احتیاط سے کام لیا کہ کسی ایک کو بھی کسی دوسرے کے بتائے ہوئے واقعات کا علم نہیں ہونے دیا۔ اس کا علم صرف اس کے بتائے ہوئے واقعات تک ہی محدود رہنے دیا۔ (یہ خدائی کوڑا تھا جو مصری کی پیٹھ پر برس کر اس کو اپنی جلا دیاں یاد دلانا رہا۔ مؤلف)

بیٹے کی تہدید باپ کی تلقین

ادھر بشیر احمد کو یہ سمجھایا: "ان الحسنات یذہبن السیئات" کے ماتحت ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور اسے تاکید کی کہ کسی کے سامنے اب ان باتوں کو دہرانا نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی پوچھے بھی تو صاف انکار کر دینا۔ بشیر احمد نے جب دیکھا کہ آپ میرے خلاف پراپیگنڈا کر کے مجھے جماعت میں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر اس کو بھی گرانے کے درپے ہیں تو اس نے کئی دفعہ مجھ پر زور دیا کہ میں اعلان کر دوں۔ لیکن میں نے اس کو ہمیشہ صبر کی تلقین کی۔ آخر تنگ آ کر اس نے خود اعلان کا فیصلہ کر لیا اور ایک اعلان لکھ کر میری طرف بھیج دیا۔ چنانچہ اسے سچہ اس خط کے ساتھ ارسال کر رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اجازت کے بغیر شائع نہیں کر دیا۔ ورنہ "تیرا زکمان جتہ" کا معاملہ ہو جاتا۔ لیکن میں اسے ہمیشہ روکتا رہا اور اس اعلان کو بھی روک لیا اور ہمیشہ اسے یہی تلقین کی کہ خواہ کتنا ہی ہم کو بدنام کر لیں اور کتنی ہی کوشش ہمیں جماعت سے گرانے کی کر لیں، ہم نے ابتداء نہیں کرنی اور ہماری طرف سے یہی کوشش رہے گی کہ ہم صبر سے برداشت کرتے چلے جائیں۔ حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم جوابی طور پر اپنا بیان شائع کرنے پر مجبور سمجھے جائیں تو جب کسی سے مقابلہ آ پڑے تو مقابلہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے جو نقطہ نگاہ ہوتا ہے۔ اس کے لحاظ سے مدافعت بہت بعید از وقت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے۔ چنانچہ اس وقت تک میں اس پر کار بند رہا ہوں۔

تنگ آمد بچنگ آمد

اور اب جو میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں وہ بھی اس لئے کہ آپ پر آخری دفعہ حجت پوری کر دوں اور آپ کو متنبہ کر دوں کہ کہیں آپ مجھے اپنی مدافعت پیش کرنے پر مجبور نہ کر دیں۔ چنانچہ اگر آپ نے اس قسم کا قدم اٹھانے کی غلطی کی تو میں مجبور ہوں گا کہ اصل واقعات کو روشنی میں لاؤں اور جو انخفاء کا پردہ آج تک ان واقعات پر پڑا آ رہا ہے، اسے اٹھا دوں۔ مبادا میں دائمی طور پر بدنامی کے ساتھ یاد کیا جاؤں۔ پس اگر میں آپ کے افعال مذمومہ کے اظہار پر مجبور ہوا تو پھر اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی اور سمجھ لیں کہ ”الفتنة ناسمه لعن الله من ايقظها“ کا مصداق کون بنے گا۔ میں نے آپ کے ظلم پر ظلم دیکھے اور صبر سے کام لیا۔ لیکن آپ باز آنے میں ہی نہیں آتے اور اپنے مظالم میں حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پس اب میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ اس لئے انجام کو آپ اچھی طرح سے سوچ لیں۔ اس کی ذمہ داری آپ پر آئے گی۔ میں تو آپ یاد رکھیں اب تنگ آ چکا ہوں اور اگر آپ نے مجبور ہی کیا تو میں نے مقابلہ کے لئے مصمم ارادہ کر لیا ہے اور جب تک میری جان میں جان ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ! آپ کا مقابلہ کروں گا اور آپ کے تمام دجل و فریب کو آشکارا کر کے چھوڑ دوں گا۔

شیخ مصری کا چیلنج اور انکشاف

مجھے اس بات کی پروا نہیں کہ اس مقابلہ میں میری جان جائے یا مجھے مالی نقصان ہو۔ میں خاموش ہوں تو خدا تعالیٰ کے لئے اور اگر اٹھوں گا تو محض خدا تعالیٰ کے لئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ نے اپنی عیاشی کو انتہا تک پہنچایا ہوا ہے۔ جس لڑکی کو چاہا اپنی عجیب و غریب عیاری سے بلایا اور اس کی عصمت دری کر دی اور پھر ایک طرف سے اس کی طبعی شرم و حیا سے ناجائز فائدہ اٹھالیا اور دوسری طرف دھمکی دے دی کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو تیری بات کون مانے گا۔ تجھے ہی لوگ پاگل اور منافق کہیں گے۔ میرے متعلق تو کوئی یقین نہ کرے گا اور اگر کسی نے جرأت سے اظہار کر دیا تو مختلف بہانوں سے ان کے خاندانوں یا والدین کو نال دیا۔ مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا یہ طلسم صرف اس لئے ان پر چل جاتا تھا کہ وہ اپنے معاملہ کو انفرادی معاملہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جس وقت ان کے سامنے تمام واقعات مجموعی حیثیت سے آئے تو پھر ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ سب دھوکا ہی تھا جو ہمیں دیا جا رہا تھا۔ لڑکیوں اور لڑکوں کو پھنسانے کے لئے جو جال آپ نے ایجنٹ مردوں اور ایجنٹ عورتوں کے ذریعے بچھایا ہوا ہے اس کا راز جب فاش کیا جائے گا تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کس طرح ان کے گھروں پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ وہ جو آپ کے ساتھ اور

آپ کے خاندان کے ساتھ تعلق پیدا کرنا فخر سمجھتے تھے ان کے گھروں میں سب سے زیادہ ماتم پڑے گا اور دوسری طرف جن لوگوں کو آپ کی غلط کاریوں کا علم ہو جائے اسے کچلنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور اسے کچلنے میں رحم آپ کے نزدیک تک نہیں پہنچتا اور پتھر سے بھی زیادہ سخت دل کے ساتھ اس پر گرتے ہیں اور آپ کی سزا دہی میں انتقامی پہلو ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر مستزیوں کی عزیزہ ہی کو لے لو۔ کس قدر ظلم اس پر آپ کی طرف سے ہو رہا ہے جو کچھ اس نے کہا تھا اس کی سچائی تو اب بالکل ثابت ہو چکی ہے۔ لیکن وہ بے چاری باوجود سچی ہونے کے قیدیوں سے بدتر زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ اس کی صحت بھی جاہ ہو چکی ہوگی۔ ایک اور مثال فخر الدین کی ہے۔ اس کو بھی آپ نے اس وجہ سے سزا دی ہے کہ اس کو آپ کی غلط کاریوں کا علم ہو چکا ہے اور آپ پر یہ خوف غالب ہے کہ یہ مجھے بدنام کرے گا۔ حالانکہ یہ آپ کا وہم ہی تھا۔

روٹی کی مار کا خوف

چنانچہ اس وہم کی ہی بناء پر آپ مدت سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کبھی کوئی موقع ہاتھ آئے تو اسے جماعت سے نکال دیا جائے۔ تاکہ یہ روٹی سے تنگ آ کر ذلیل ہو کر معافی مانگ لے۔ پھر ساری عمر آپ کی سیاہ کاریوں کے متعلق ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال سکے اور آپ اطمینان سے اپنی عیاشیوں میں مشغول رہیں۔ جیسا کہ اب آپ پہلے اس طریق سے بعض ایسے آدمیوں کو چپ کر چکے ہیں۔ قاضی اکمال صاحب (نامور صحافی اے آر شکی کے والد) پر جو ظلم کیا گیا اس کی تہ میں بھی یہی مقصد کام کر رہا تھا۔ اس طرح اور بہت سی مثالیں ہیں جن کو وقت آنے پر پیش کیا جائے گا اور ان تمام مظالم کی داستانیں جو بناوٹی تقدس کے پردہ میں آپ کر رہے ہیں، وقت آنے پر کھول کھول کر لوگوں کو بتائی جائیں گی۔ ان تمام مظالم کو ڈھانے میں آپ کو جرأت ایک تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ نے لمبے عرصے تک مختلف رنگوں میں کوشش کر کے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرادی ہے کہ آپ ایک مقدس انسان ہیں۔ کہیں اپنے آپ کو مصلح موعود کی پیش گوئی کا مصداق بتایا ہے۔ کہیں موعود خلیفہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ طلسم آپ کا بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ لوگ آپ کے اس طلسم کے نیچے صرف اس وقت تک ہی ہیں جب تک ان کو آپ کے غلیظ چال چلن کا صحیح علم نہیں ہوتا اور ان کو پتہ نہیں لگتا کہ جس قدر دلائل آپ کو مصلح موعود بنانے کے لئے دیئے گئے ہیں وہ سب غلط ہیں۔

اقتدار کا گھمنڈ

ایک طرف تو آپ کو اس وجہ سے جرأت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں غلط طور پر آپ کا

تقدس بٹھلا دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات کو خدائی بات سمجھ بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو اپنی طاقت اور اقتدار کا گھمنڈ ہے جو اول الذکر کی وجہ سے آپ نے حاصل کیا ہوا ہے۔ تیسرے اس وجہ سے آپ نے یہ چال چلی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہ دیا جائے اور منافقوں سے بچو! منافقوں سے بچو! کے شور سے لوگوں کو خوفزدہ کیا ہوا ہے اور ہر ایک کو دوسرے پر بدظن کر دیا ہوا ہے۔ اب ہر شخص ڈرتا ہے کہ میرا مخاطب کہیں میری رپورٹ ہی نہ کر دے اور پھر فوراً مجھ پر منافق کا فتویٰ لگ کر جماعت سے اخراج کا اعلان کر دیا جائے گا اور یہ سب کچھ آپ نے اس لئے کیا ہوا ہے کہ آپ کی سیاہ کاریوں کا لوگوں کو طعم نہ ہو سکے۔ لیکن یہ آپ کا غلط خیال ہے قادیان میں بھی اور باہر بھی ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کی سیاہ کاریوں سے واقف ہے اور روز بروز یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ عنقریب یہ مواد پھولے گا۔ بہت سے لوگ کسی جرأت کرنے والے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اکثر لوگ خود جرأت نہیں کر سکتے۔ لیکن جرأت کے ساتھ کسی کو اٹھادیکھ کر خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آخری بات جو آپ کو ان تمام مظالم پر جرأت دلارہی ہے وہ ہائیکاٹ کا خربہ ہے۔ آپ نے قادیان کے نظام کو ایسے رنگ میں چلا دیا ہوا ہے کہ تمام کی روزی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ بے شک ان باتوں کی وجہ سے جو اقتدار آپ کو حاصل ہو چکا ہے آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ اپنے مد مقابل کا سر ایک آن میں چل سکتے ہیں اور اب تو آپ فدائیوں کا گردہ بھی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ میں جو آپ کے مقابلے کے لئے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ ایک نہایت ہی کمزور، بے بس، بے کس، بے مال، بے یار و مددگار ہوں اور جہاں آپ کو اپنی طاقت پر ناز ہے وہاں مجھے اپنی کمزوری کا اقرار ہے۔ ہاں! میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حق کی قوت میرے ساتھ ہے اور غلبہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کو ہوتا ہے جو حق کی تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابتداء میں میری بات کی طرف توجہ نہ کی جائے اور میں اس مقابلہ میں پکلا جاؤں۔ لیکن حق کی تائید کے لئے اور باطل کا سر کچلنے کی غرض سے کھڑے ہونے والے مرد اس قسم کے انجاموں سے کبھی نہیں ڈرتے۔ حضرت ابن زبیر حق کی خاطر باطل کی فوجوں کے مقابل میں اکیسے ہی میدان جنگ میں نکلے اور جان دے دی۔ لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا..... حضرت امام حسینؑ چند آدمیوں کے ساتھ باطل کی فوجوں کے ساتھ صف آراء ہو گئے اور ایک ایک کر کے جان دے دی۔ لیکن باطل کی اطاعت نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس بات کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، آخر ثابت ہو کر رہی۔

مصری کی انجام سے بے پرواہی

میں اس مقابلہ میں مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پروا نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا اور میری بات کوئی سنے گا یا نہیں۔ میری تقویت اور ہمت بڑھانے کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ میں حق پر ہوں اور آپ باطل پر ہیں اور باطل کا سرکپٹے ہوئے اگر میں اور میرے اہل و عیال بھی شہید کر دیئے گئے جس کا اقدام بھی اگر کیا گیا تو سخت ناواقبت اندیشہ ہوگا اور خطرناک نتائج پیدا کرے گا۔ ہم کامیاب رہیں گے ناکام نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ! آپ ہمیں اس مقابلہ پر پیٹھ پھرتے نہیں دیکھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری تائید کرے گا اور اگر آج نہیں تو آئندہ لوگ حقیقت سے آگاہ ہو کر رہیں گے اور ان پر سچائی ظاہر ہو کر رہے گی۔ ہماری قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور آپ کے چال چلن سے واقف ہو کر جماعت خلافت کے حقیقی مفہوم سے آگاہ ہوگی اور آئندہ اپنے انتظام کی بنیاد محکم اصولوں پر رکھے گی اور ان فریب کاریوں سے جن میں آپ نے قوم کو رکھا ہوا ہے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے گی۔ کیونکہ دلائل اور حقائق کا مقابلہ آخر لوگ کب تک کریں گے۔ کس قدر ظلم ہے کہ جس شخص کے متعلق پیچھے جاسوس لگوادینے جاتے ہیں اور ان کو مقرر کرنے سے قبل انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ فلاں شخص منافق ہے۔ اس کے نفاق کو روشنی میں لاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ کر کہ خلیفہ نے بتایا ہے کہ فلاں منافق ہے۔ اگر ہم ایسی رپورٹیں نہ دیں جو اس کے نفاق کی تائید کرتی ہوں تو ہم تالاق سمجھے جائیں گے۔ فوراً اس کی ہر نقل و حرکت سے اس کے ہر لفظ و حرف کو اسی رنگ میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں اور رپورٹوں پر رپورٹیں بھیجتے چلے جاتے ہیں۔ جن سے ایک فائل تیار ہوتی رہتی ہے اور اس فریب کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کو پکڑنے کے لئے کس کس قسم کے جال بچھائے جا رہے ہیں اور وہ اس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ ایک ڈرامے بہانے پر اس کو پکڑ کر سزا دی جاتی ہے اور گذشتہ تمام رپورٹوں کو بھی دلیل بنا لیا جاتا ہے۔ جن کی کوئی تحقیق نہیں کی جاتی۔

آپ کو خود چاہئے کہ جلد از جلد اپنی سیاہ کاریوں سے توبہ کریں اور یہ مظالم جو آئے دن آپ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد کوئی نہ کوئی آپ کا راز دان آپ کی ذات پر اتھام لگانے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات ضرور جماعت کی توجہ کو تحقیق کی طرف پھیر دے گی اور پھر آپ کی خیر نہیں۔ اس لئے آپ فوراً ان باتوں سے توبہ کر کے اپنے اوپر رحم کریں۔

زلزلہ خیز بدکاری

میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ فخر الدین کو نکالنے میں آپ نے سخت غلطی کی ہے اور جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اس کو آپ کے چال چلن کے متعلق بہت سے واقعات معلوم ہیں اور اس نے ان کی اشاعت سے باز نہیں آنا۔ صرف واقعات ہی نہیں بلکہ ان تمام اشخاص کے نام بھی شائع کرے گا جنہوں نے آپ کی بدچلتی کی نہ صرف شہادتیں دی ہوئی ہیں بلکہ کئی واقعات اپنی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو حیران کر دینے والی ہوگی بلکہ دنیا کو بھی حیرت میں ڈال دے گی اور جماعت میں قیامت خیز زلزلہ پیدا کر دے گی۔ پھر ان میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو جھٹلانا یا جن کو جماعت سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو عین وقت پر بتا دیا ہے۔ ”فقد اعذر من انذر“

گو آپ اپنی بدچلتی کی وجہ سے معزول ہونے کے قابل ہیں۔ مگر جماعت آپ کے ہاتھ میں اپنے نظام کی باگ ڈور دے چکی ہے۔ میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیونکہ مجھے مختلف ذرائع سے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ جیسی ہونے کی حالت میں ہی بعض دفعہ نماز پڑھانے آجاتے ہیں۔

میں نے جو کچھ عرض کرنا تھا سچائی اور دیانتداری کے ساتھ سلسلہ کی اور آپ کی بہتری کو مدنظر رکھ کر عرض کر دیا ہے۔ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جو قضا ہوگی وہ جاری ہو کر رہے گی۔ یہ خط یکم جون ۱۹۳۷ء کو لکھا گیا اور ۱۱ جون ۱۹۳۷ء کو بھیجا گیا۔

ماخوذ از کمالات محمودیہ مرتبہ مظہر الدین ملتانی!

(نوٹ: اس خط میں جن باتوں کا اعادہ اور تکرار تھا یا بہت ہی عریاں باتیں تھیں ان کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ باقی کثیر حصہ اس مراسلہ کے حق کو اظہر من الشمس کرنے کے لئے کافی ہے۔ مؤلف)

محمد یوسف ناز کا حلفیہ بیان

اگرچہ میں نے خلیفہ صاحب ربوہ کا مباہلے کا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان تحریروں میں کسی نقص کا جواز نکال لیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ اس کی زنا کاری کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس لئے مباہلہ نہیں کر سکتا۔ وقت کی بچت کی خاطر میں محمد یوسف ناز اپنا بیان ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

”نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم . اشهد ان لا اله الا الله وحده

لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده ورسوله“

میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ خدا کے نبی اور خاتم النبیین ہیں اور اسلام سچا

مذہب ہے اور اس کے بعد میں مؤکد عذاب حلف اٹھاتا ہوں۔

”میں اپنے علم، مشاہدہ اور روایت یعنی اور آنکھوں دیکھی بات کی بناء پر خدا کو حاضر

و ناظر جان کر اس پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ربوہ نے خود اپنے

سامنے اپنی مندرات کے ساتھ دیوٹی کا منظر سٹیج کروایا۔ اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی

لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ اس بات پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ بالمقابل حلف

دستخط: محمد یوسف ناز!

اٹھانے کو تیار ہوں۔“

معرفت عبدالقادر تیرتھ سنگھ جے بلوچی روڈ عقب شالیمار ہوٹل کراچی

ماخوذ از انکوائری محمدیہ ص ۳۹، ناشر: بیت القرآن پوسٹ بکس نمبر ۱۰۲۸ لاہور

(نوٹ: اس حلیہ بیان میں عربیائی کے ازالے کی سعی کی گئی ہے۔ مؤلف)

جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے

سول سرجن کی شہادت

ڈاکٹر میر محمد اسماعیل سول سرجن خلیفہ صاحب کے ماموں اور خسر بھی تھے۔ وہ کہتے

ہیں: ”بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ خلیفہ عیاش ہے۔ اس کے متعلق میں کہتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں اور

میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو چند دن بھی عیاشی میں پڑ جائیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں جنہیں انگریزی

میں Wreck کہتے ہیں۔ ایسے انسان کا نہ دماغ کام کارہتا ہے نہ عقل درست رہتی ہے۔ نہ

حرکات صحیح طور پر کرتے رہتے ہیں۔ غرض سب قوتی اس کے برباد ہو جاتے ہیں اور سر سے لے کر

پھر تک اس پر نظر ڈالنے سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عیاشی میں پڑ کر اپنے آپ کو برباد کر چکا

ہے۔ اسی لئے مجھے ہیں: ”الزنا یخرج البناء“ کہ زنا انسان کو بنیاد سے نکال دیتا ہے۔“

(الفضل مورہ ۱۰ جولائی ۱۹۳۷ء)

خلیفہ ربوہ ہمینہ ان امراض میں مبتلا ہو کر مرا..... اس کا دماغ ماؤف ہو چکا تھا۔ نہ عقل

کام کرتی تھی نہ اعضاء صحیح طور پر کام کرتے تھے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ زنا انسان کو

بنیاد سے نکال دیتا ہے۔ من و عن یہی حالت طاری تھی۔ خمیٹ مرض یعنی فالج کا شکار تھا۔ خصوصاً لوگوں نے اس کی عقل و فہم کا اندازہ جلسہ سالانہ پر بخوبی لگا لیا تھا کہ کس طرح وہ اپنی عقل کے دیوالیہ پن کا مظاہرہ کرتے تھے اور حاشیہ بردار درمیان میں لقمہ دیتے تھے۔ مگر یہ لقمہ بے سود ثابت ہوتا تھا۔ خود خلیفہ صاحب کا بیان بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس کی اپنی عبارت درج ذیل ہے:

”میری بیماری کی وجہ سے دماغ کو خوراک پہنچنی بند ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں دماغی حالت اپنے معمول پر آ جائے گی۔ لیکن اب تک جو ترقی ہوئی ہے اس کی رفتار اتنی تیز نہیں..... آدمیوں کے سہارے سے ایک دو قدم چل سکتا ہوں۔ مگر وہ بھی مشکل سے۔ دماغ اور زبان کی کیفیت ایسی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لئے بھی خطبہ نہیں دے سکتا اور ڈاکٹروں نے دماغی کاموں سے قطعی طور پر منع کر دیا ہے۔“

مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پاخانہ پیشاب کے لئے بھی امداد کا محتاج ہوں۔ دو قدم بھی نہیں چل سکتا۔

(الفضل مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۵۵ء)

”۲۶ فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر ہائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لئے میں ہاتھ پاؤں سے محذور ہو گیا..... دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں اس وقت بالکل بے کار ہوں اور ایک منٹ نہیں سوچ سکتا۔“

(الفضل مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۵۵ء)

باپ کی بیٹے کے متعلق پیش بینی

”جو اس مقدس تعلیم کو اپنی بد کرداری کے ثمن سے ناپاک کرے گا اس کا حشر ڈاکٹر ڈوٹی سے کم نہ ہوگا۔ نہایت سخت دکھ کی مار۔ قہر الہی، غضب الہی اور خمیٹ امراض یعنی فالج اور پاگل پن کا شکار ہوگا۔“

خلیفہ صاحب خود کہتے ہیں: ”میں اب ۶۸ سال کی عمر کا ہوں اور فالج کا شکار ہوں۔“

(الفضل مورخہ ۲۳ اگست ۱۹۵۶ء)

محمودی اعمال نامہ کی ایک جھلک

خلیفہ صاحب قادیان (ریوڈ) کی اپنی شریعت میں سب کچھ جائز ہے۔ فرانس کے ناچ گھر میں نچے ناچ دیکھنا شریعت محمودیہ کے عین مطابق ہے۔ پھر اطالوی حینہ کو سسل ہوٹل سے لے جانا ان کے جمونے تقدس کی ادنیٰ مثال ہے۔ مرزا محمود نے خود ہی تسلیم کیا: ”جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوگا۔ قیام

انگلستان کے دوران میں مجھے اس کا موقع نہ ملا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چوہدری ظفر اللہ خان صاحب سے جو میرے ساتھ تھے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی عریاں نظر آسکے۔ وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے۔ مجھے اومپرا Ompra میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ چوہدری صاحب نے بتایا یہ وہی سوسائٹی کی جگہ ہے اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری نظر چونکہ کمزور ہے اس لئے دور کی چیز اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چوہدری صاحب سے کہا کیا یہ تنگی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تنگی نہیں بلکہ شفاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس لئے تنگی معلوم ہوتی ہیں۔“

(الفضل مورخہ ۲۸ جنوری ۱۹۳۳ء)

اطالوی حسینہ اور خلیفہ قادیان

انگریزی ہونٹوں میں اکثر جوان لڑکیاں خدمت گزار ہوتی ہیں۔ جو معزز لوگ وہاں کھانے پینے جاتے ہیں وہ جوان لڑکیاں ان کے سامنے ان کی خوشی کی اشیاء لاکر پیش کرتی ہیں۔ آج کل کی تہذیب کی رد سے ان مہذبوں کا بھی دستور ہے کہ کھانا لانے والیوں کی بھی تواضع کرتے ہیں اور وہ عموماً اس کھانے میں شریک ہو جاتی ہیں۔ اسی اثناء میں تقریبی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ دوران گفتگو میں ہی سب مراحل طے ہو جایا کرتے ہیں۔ خلیفہ قادیان لاہور سسل ہوٹل ٹنگمری روڈ میں گئے۔ وہاں پر جو کچھ ہوا اخبارات کی زبانی سنئے: ”مرزا محمود کی آمد اور سسل ہوٹل کی منتظمہ کی گمشدگی تلاش کے باوجود اس کا کوئی پتہ نہیں مل سکا۔ یکم مارچ ۱۹۳۳ء کو سسل ہوٹل کی طرف سے مشتہر ہوا تھا کہ جمعرات یکم مارچ پانچ بجے سے ساڑھے نو بجے رات تک ناچ ہوگا۔ بڑے بڑے انعامات بدستور تقسیم کئے جائیں گے۔ تماشائی شام چار بجے سے جمع ہونے شروع ہو گئے اور پانچ بجے اچھا خاصا مجمع ہو گیا۔ ہر ایک شخص کھیل شروع ہونے کا منتظر تھا۔ مگر خلاف توقع رسٹ ڈرائیو شروع ہوا۔ ناچ کا بینڈ بجنا شروع ہوا۔ آخر استفسار پر سسل ہوٹل کے ایک ہیرے سے معلوم ہوا کہ رسٹ ڈرائیو کا تمام سامان منتظمہ کے کمرے میں ہے اور منتظمہ کو مرزا محمود موٹر میں بٹھا کر لے گئے ہیں۔“

(نامہ نگار زاد مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۳۳ء)

اس واقعہ کو زمیندار نے نظم کی صورت میں یوں شائع کیا۔

اطالوی حسینہ از نقاش

اے کشور اطالیہ اے باغ کی بہار لاہور کا دامن ہے تیرے فیض سے چمن

پروردگار عشق تیرا دلربا چلن
ہیں جس کے ایک تار سے وابستہ سو سخن
اور وہ جنوں ہے تیری بوئے پھر نہن
بیجانہ سرد تیرا مرمی بدن
جس پر فدا ہے شیخ تو لٹو ہے برہمن
سب نشہ نبوت ظلی ہوا ہرن
جادو وہی ہے آج اے قادیاں شکن
(زمیندار لاہور مارچ ۱۹۳۳ء، از مخان قادیان ص ۳۹، مکتبہ کارواں لاہور)

پیغمبر جمال تیری چلبلی ادا
الچھے ہوئے ہیں دل تیری زلف سیاہ میں
پروردہٴ فسوں ہے تیری آنکھ کا خمار
پیمانہ نشاط تیری ساق صندلیں
رونق ہے ہونٹوں کی تیرا حسن بے حجاب
جب قادیاں پہ تیری نعلی نظر پڑی
میں بھی ہوں تیری چشم پر فسوں کا معترف

اطالوی رقاصہ کا (قادیان آنے کا) الفضل میں اعتراف

اس کے بعد مختلف اخباروں میں شور و غوغا ہوا کہ خلیفہ صاحب قادیان کے خطبہ کی جو تقریر شائع ہوئی اس میں اس اطالوی لیڈی کے لے جانے کا اعتراف کیا۔ مگر اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس لیڈی کو اپنی بیویوں اور لڑکیوں کو انگریزی لہجہ سکھانے کے لئے لایا تھا۔

(الفضل مورخہ ۱۸ مارچ ۱۹۳۳ء)

اس کا جواب اہل حدیث نے یوں لکھا: ”پس مطلع صاف ہو گیا مگر سوال یہ ہے کہ اطالوی عورت خاص ہوئی کی انگریزی کیا پڑھائے گی۔ اطالوی لوگ تو خود انگریزی صحیح نہیں بول سکتے۔ انگریزی زبان میں دو حرف (D) اور (T) بالخصوص ممتاز ہیں۔ دونوں حروف اطالوی لوگ عربوں کی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ علاوہ اس کے ایسی معطلہ مخصیات کا اثر لڑکیوں اور پردہ نشیں بیویوں پر کیا ہوگا۔“

اطالوی حسینہ

سسل ہوئی لاہور کی ایک اطالوی منتظمہ جو ہوئی میں مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان کے ایک روزہ قیام کے بعد اچانک غائب ہو گئی تھی۔ دوسرے دن قادیان کی سرزمین میں دیکھی گئی اور اخبار زمیندار نے نظم کی صورت میں اسے یوں شائع کیا۔

ہوئی سسل کی رونق عریاں کہاں گئی

ہوئی سسل کی رونق عریاں کہاں گئی
کیا کیا نہ تھا جو لے کے وہ جان جہاں گئی

عشاق شہر کا ہے زمیندار سے سوال
اس کے جلو میں جان گئی ایمان کے ساتھ ساتھ

خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا
بن کر فروش حلقہ زندان لم یزل
روما سے ڈھل کے برق کے سانچے میں آئی تھی
یہ چیتاں سنی تو زمیندار نے کہا
آنکھوں سے شرم سرور کون و مکاں مٹی
لے کر مٹی وہ حشر کا سامان جہاں مٹی
اب کس حریم ناز میں جان جاں مٹی
اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ قادیان مٹی
(زمیندار مورخ ۱۵ مارچ ۱۹۳۷ء، ارمغان قادیان ص ۵۰، مکتبہ کارواں پکھری روڈ ملتان)

جب چارواں عالم شور مچا تو خلیفہ نے اطالوی حسینہ کو اپنے رازدار ڈرائیور کے ساتھ
پانچ ہزار روپے دے کر قادیان سے رخصت کر دیا۔ یہ بات ڈرائیور مذکور نے مؤلف کو قادیان
میں بتائی تھی۔ لاہور آن کر حسینہ نے لوگوں کے کہنے سننے پر مقدمہ کی تیاری پر کمر باندھی۔ وہ اس
وقت ایک وکیل کے پاس گئی۔ (جو جج اعلیٰ ہو کر ریٹائر ہوا) تو اس وکیل نے اس سے کہا۔ تم جیسی
پیشہ ور لڑکیاں یہاں اس کسب کے لئے آتی ہیں۔ تم کو عصمت کا دعویٰ زیب نہیں دیتا اور نہ ہی تم
عصمت شکنی ثابت کر سکتی ہو۔ جو اب اس پیشہ ور حسینہ نے کہا: ”آپ کی بات صحیح ہے۔ لیکن مجھے
جس بات سے صدمہ ہوا ہے وہ خلوت سیہ نہ تھی بلکہ اس جنسی ملاپ کے وقت خلیفہ کا اپنی بیٹی کو
پاس بٹھالینا مجھ پر شاق گذرا۔“ جو نبی اس نے یہ کہا وکیل نے اس کے کاغذات پھینک دیئے کہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی معصیت کے وقت بیٹی کو پاس بٹھالے۔ اطالوی حسینہ کی بات ٹھیک تو تھی
لیکن اس کو فوراً احساس ہو گیا کہ خلیفہ کا یہ طریقہ واردات ہے کہ اس کی یورش زدہ لڑکی کی بات
نا مقبول ہو کر رہ جائے۔ بلکہ مقدمہ کرنے پر وہ خود پھنس جائے۔ خلیفہ کی معصیت ہی اس کی
مدافعت بن جاتی تھی۔

توہین رسالت کا المیہ، عالم اسلام کے لئے لمحہ فکریہ

جماعت احمدیہ ربوہ نے اپنی پرانی روایات کے پیش نظر ایک بار پھر ایسا موضوع پیدا کیا
جو تمام عالم اسلام کے لئے نہ صرف موجب کلب قلق ہے۔ بلکہ اس سے اختلاف کا ایک نیا باب دا
ہو گیا۔

روزنامہ افضل ربوہ کی اشاعت مورخہ ۳ جولائی ۱۹۵۹ء میں مرزا بشیر احمد (جو خلیفہ
محمود کے بھائی تھے) نے ایک طویل مضمون میں اس بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ
آنحضرت ﷺ کو نوح و ہود علیہ السلام حدیبیہ کے غم میں نسیان کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ حالانکہ قرآن کریم
میں اس کو فتح مبین کہا گیا ہے اور انگریز مستشرق ہانٹ گری واٹ نے اس کو Non-

Aggression Pact قرار دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس بیثاق حدیبیہ سے محمد ﷺ کو مدینے میں اسلامی نظام کو مستحکم کرنے کا موقع ملا اور یہودیوں کے فتنے کا سدباب کیا۔ مکے کے کفار رسول اللہ ﷺ کی بیعت مدبر سے ذبح ہو کر واپس لوٹے۔ اس کے عرب قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔

(Muhammad At Medina p:49)

مرزا بشیر احمد نے کوئی چوبیس خطرناک بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمام عوارض انبیاء کو ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ ہم اس مضمون کو ضروری حصہ من وعین درج ذیل کرتے ہیں۔ قارئین خود اس امر کا اندازہ لگالیں گے کہ موجودہ حالات میں ایسے موضوع پر قلم اٹھانا کن ناگفتہ بہ حالات پر منتج ہوا کرتا ہے۔ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے: ”بالآخر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ جو خدا تعالیٰ کے ایک عالی شان نبی بلکہ افضل الرسل اور خاتم النبیین تھے۔ آپ کو لسیان کا عارضہ کیوں لاحق ہوا۔ جو بظاہر فرائض نبوت کی ادائیگی میں رخنہ انداز ہو سکتا ہے تو اس کے جواب میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ مرض نامیفانڈ سے فوت ہوئے تھے۔ سل، دق، دمہ، نزلہ، کھانسی، نفرس، دوران سر، پھوڑے پھنسیاں، آنکھوں کا آشوب، جسم کے درد، جگر کی بیماری، اندھنوں کی تکلیف، اسہال کی بیماری، انتڑیوں کی بیماری، گردے کی بیماری، پیشاب کی بیماری، اعصابی تکلیف، ذکات حس، گھبراہٹ اور بے چینی، دماغی کوفت، لسیان، حوادث کے نتیجہ میں چوٹیں اور زخم، لڑائی کی ضربات وغیرہ وغیرہ سب کی زد میں آسکتے ہیں اور آتے رہے ہیں۔“

آپ بعض اوقات نماز پڑھاتے ہوئے رکعتوں کی تعداد کے متعلق بھی بھول گئے اور لوگوں کے یاد کرانے پر یاد آیا۔ ”آنحضرت ﷺ کو کبھی کبھی عام اور وقتی لسیان ہو جاتا تھا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے بعد کچھ عرصہ کے لئے بیماری کے رنگ میں لسیان ہو گیا۔“

مرزا بشیر احمد نے اپنے مضمون میں جن چوبیس بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے درپردہ اپنے معذور بھائی خلیفہ کی کج حالات کا دفاع کیا ہے۔ میاں صاحب اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ان انبیاء کے اسماء گرامی بھی درج کرتے جن کو یہ بیماریاں لاحق ہوتی رہی ہیں۔ مرزا بشیر احمد کے اس مضمون کی اشاعت کے بعد بیشتر حلقوں نے اس کے خلاف اپنی آراء کا اظہار کیا تھا۔ مفت روزہ چٹان کے مدیر شہیر آغا شورش کاشمیری نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر جس محتاط انداز میں حکومت وقت کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی ہے اس سے زیادہ محتاط طریق اس بارہ میں اختیار نہیں کیا جاسکتا۔

چنان مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۵۹ء کے ادارہ کا نوٹ درج ذیل کیا جاتا ہے: ”مرزا بشیر الدین محمود بڑے زمانے سے بیمار ہیں۔ عمر کے ساتھ مختلف بیماریوں نے گھیر رکھا ہے۔ انہی بیماریوں میں نسیان اور اس کے ہم قافیہ عوارض بھی شریک ہیں۔ چونکہ آپ نے اپنے معتقدوں میں خاص قسم کی تقدیس کا درجہ حاصل کر رکھا ہے۔ اس لئے اپنی بیماریوں کی صفائی میں عجیب و غریب تاویلات و تعبیرات گھڑ رہے ہیں۔ ہمارے نوٹس میں ایک دوست ۱۳ جولائی ۱۹۵۹ء کا افضل کا شمارہ لائے ہیں۔ اس شمارہ کے پورے چار صفحات میں آنحضرت ﷺ کے امراض کی حدیثیں زیر بحث لا کر نہایت ہوشیاری سے مرزا محمود کی ان بیماریوں کا دفاع کیا گیا ہے۔ جن کے احساس سے آپ کے پیروؤں کی ایک جماعت اعتقاداً متزلزل ہے۔ ہم محکمہ تعلقات عامہ کے افسروں سے صرف یہ التماس کریں گے کہ جس باریک بینی سے ان کی احتسابی نگاہیں دنیوی خداوندوں کے معترضین کی زبان و قلم کا جائزہ لیتی ہیں۔ اگر اسی نسبت سے ایک چھبھلی ہوئی نگاہ اس مقالہ پر ڈال چکے ہوتے تو ہم ان مملوف الفاظ میں عرض کرنے کی جسارت نہ کرتے۔“

افضل کو اپنے امام کی مدح و ستائش کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن ان بیماریوں کو بالواسطہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری سے ملا کر ان کے تقدس کا ناپھونکننا نہ صرف بے ادبی ہے۔ بلکہ اس سے ہم ایسے لوگوں کے جذبات کو صدمہ پہنچاتا ہے جن عاجزوں کی معراج یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے کتوں سے مماثلت دیتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔

نہیج خود بہ سگت کردم و بس محکم
ز آنکہ نسبت بہ سگ کوئے تو شد بے ادبی

(چنان مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۵۹ء)

مرزا بشیر احمد نے تمام بحث نسیان پر کی ہے اور یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ خلیفہ کو محض ذرا سا نسیان ہو گیا ہے جو نعوذ باللہ! رسالت مآب کو بھی ہو گیا تھا۔ حالانکہ جو حدیث مرزا بشیر احمد نے پیش کی ہے وہ پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو یہود کی اس ناپاک سازش کا علم ہوا تو حضور ﷺ نے خود جا کر اس جگہ کو پامال کر دیا اور لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ سحر کے نتیجہ میں حضور ﷺ کو کوئی نسیان کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ صد افسوس کہ مرزا بشیر احمد نے چودہ سو سال بعد وہی تاثر پیدا کرنا چاہا ہے جو اس زمانے کے شریکین یہودیوں نے پیدا کرنا چاہا تھا۔ ”لا حول

ولا قوة الا بالله العلی العظیم“

مرزا بشیر احمد چاہتے تھے کہ انبیاء کی طرف سل ووق منسوب کر کے خلیفہ کی بیماریوں کا دفاع کیا جائے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ وہ خلیفہ کی اصل بیماری ”فالج“ اور اس کے جنسی محرکات کا ذکر کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ جس میں ان کے بھائی نام نہاد مصلح ربانی خلیفہ ثانی بطور عذاب جتلا ہیں۔ اگر مرزا بشیر احمد کو بھی اس بارہ میں نسیان ہو گیا ہے تو وہ الفضل کے فائل کھول کر دیکھیں جن میں جا بجا فالج کا چرچا ہے اور پھر ایک اور مضمون لکھا ہے کہ انبیاء (نعوذ باللہ) مدقوق اور مسلول ہی نہیں مفلوج بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ سل اور وق کے مریض کو تو حکماء عامۃ الناس سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب مامورین کو ہمہ وقت بندگان خدا سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے اور فریضہ تبلیغ میں شب وروز مشغول رہتے ہیں تو پھر یہ امر خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے منافی نہیں ہے کہ وہ ایسے متعدی مرض میں جتلا شخص کو ہدایت کے لئے مامور فرمائے جو خود مدقوق و مسلول ہو اور دوسروں کے لئے باعث خطرہ۔

دراصل مرزا بشیر احمد خدا تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرنا چاہتے ہیں جو شان خداوندی کے خلاف ہے اور رسول کی ذات پر وہ بیماری چسپاں کرنا چاہتے ہیں جو شان رسالت کے منافی ہے۔ اس کفر کاری اور جہنمی جسارت کا خدا نے یہ انتقام لیا کہ مرزا بشیر احمد خود اور اس کا بڑا بھائی خلیفہ اور سب سے چھوٹا بھائی مرزا شریف احمد گونا گوں عوارض اور امراض میں مدتوں جتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے۔ چھوٹے بھائی کا تو یہ حال تھا کہ وہ لوگوں سے مانگ مانگ کر پیتھے ڈین کا چسکا پورا کرتا تھا۔ مؤلف کو لاہور یوں کے امیر نے بالمشافہ بتلایا کہ یہ شخص اور نڈھال ہو رہا تھا۔ انجمن کے خزانے سے اس کو رقم خطیر دی۔ یہ اس بیٹے کا حال تھا جس کے متعلق اس الہام کو اچھالا جاتا ہے۔ بادشاہ آتا ہے وہ متعدد اشخاص کا مقروض تھا اور جن لوگوں نے کسی جیلے بہانے کے چکر میں آن کر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی جمع شدہ فنڈ کی رقم اس کو بطور قرضہ حسد دی تھیں۔ وہ قرضہ سیدہ ہو کر ان کی موت کا پیغام بن گئیں۔

حضرت رسول اکرم ﷺ کے متعلق مزعومہ اور ملخو نہ فہرست امراض بتانے والوں کے درون خانہ کا اگر طبی محاسبہ ہو تو محاسبہ کرنے والے لطیب درطہ حیرت میں غرق ہو کر رہ جائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَدْرَسَةُ اَلْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّةِ
بِیَعْلَبُودِ

وادیِ طلسمات
یعنی
ساحران ربوہ کی داستان



خواجہ محمد اسماعیل لندنی جھوٹا مدعی نبوت

”ان هؤلاء متبر ماہم فیہ وباطل ملکناو یعلمون (الاعراف)“

یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں
باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں
کب تک رہو گے ضد و تعصب میں ڈبوئے
کیونکر کرو گے رد جو محقق ہے ایک بات
سچ بچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب
پھر بھی یہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں

”اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم • بسم اللہ الرحمن الرحیم • نحمدہ ونصلی
علی رسولہ الکریم • یا لا شریک لہ“

وادئِ ظلّسمات یعنی ساحران ربوہ کی داستان

(فصل دوم)

فصل اول میں واضح ہو چکا ہے کہ قرآن حکیم نے مرسلین کی بعثت کی غرض توحید و انذار بتائی ہے اور ان کی پہچان نشانات آسمانی سے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ برعکس اس کے کفار کی سنت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ باطل کی راہوں سے جھگڑ کر حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور نشانات اور انذار کو ہنسی میں ہی ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ قاضی محمد نذیر لائل پوری صاحب آف ربوہ کو اس حقیقت سے آگاہ کر کے لکھا گیا تھا۔ ”مزید تفصیل ان احکام کی انشاء اللہ اگلے حصہ میں بیان کی جائے گی۔“

ایک ضروری وضاحت

اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور اہم امر کی وضاحت کی ضرورت پیش آگئی ہے جس کا سبب قاضی محمد نذیر صاحب کا تیسرا جملہ ہوا ہے جو انہوں نے مجھے ۱۵ مارچ ۱۹۶۵ء کو روانہ کیا اور ۶ ماہ کو یہاں پہنچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس میں حسب ذیل بیان لکھا ہے: ”واضح ہو کہ آپ کے جواب تمہید بصورت فصل اول بعنوان ”وادئِ ظلّسمات“ مجھے موصول ہوئی۔ (افسوس ہے کہ قاضی صاحب نے ربوہ کے ایک ذمہ دار عالم ہونے کے باوجود میرے رسالہ بعنوان ”وادئِ ظلّسمات“ کا نام غلط لکھا ہے۔ یعنی ”وادئِ ظلّسمات“ اور اس طرح انہوں نے اپنی انتہائی بے پرواہی کا ثبوت دیا ہے۔ لہذا اس اصلاح کی ضرورت پیش آئی ہے) جس میں آپ نے میرے خط پر ۲۳ فروری ۱۹۶۵ء کی بجائے ۲۳ فروری ۱۹۶۳ء لکھا جانے اور اس کے بعد یاودہائی والے خط پر تقویٰ آپ کے ۱۸ مارچ ۱۹۶۵ء (درحقیقت خط پر تاریخ اس طرح درج ہوئی ہے۔

۱۸ مارچ ناقل) لکھا جانے پر یوں شبہ ظاہر کیا ہے کہ دونوں خطوں میں تاریخیں اس طریق سے لکھی گئی ہیں جن سے کتمان حق کی راہ نکالی جائے۔ چنانچہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک خط ۱۹۶۳ء میں لکھا تھا جس کی یاد دہانی کروائی گئی۔ لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ جو اب عرض ہے کہ یہ مجھ پر بدظنی کی انتہاء ہے۔ ورنہ میرے ذہن کے کسی گوشہ میں بھی یہ خیال نہ تھا کہ آپ کو اس طرح کا خلاف تقویٰ الزام دوں۔“ قاضی صاحب نے اپنے اس خط کے آخر پر مجھے یہ بھی لکھا ہے کہ: ”آپ بھی ”اجتنبوا کثیراً من الظن“ کو سامنے رکھیں۔ انسان سے سہو خطا ممکن ہے۔ ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا“

تحریف

فصل اول میں میں نے قاضی صاحب کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق یہ امرست اللہ میں داخل ہے کہ ہر رسول کے خلاف اس کے زمانہ کے لوگ جو اکابر میں شمار ہوتے ہیں، بد مذہبیریں کرتے ہیں۔ جس کی سزا انہیں اس طرح ملتی ہے کہ ان کا مکرا لٹ کر انہی پر پڑتا ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب کے اپنے بیان ہی سے اس صداقت کا زندہ ثبوت مہیا کیا گیا تھا اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے ۲۳ فروری گذشتہ والے خط میں میرے بیانات میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کر کے خود اپنے ہی بیانات میں تضاد پیدا کر لیا تھا۔ پس اگر قاضی صاحب کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی تو وہ اس عظیم الشان نشان کو دیکھ کر توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رسالت کو قبول کر کے بخشش کے امیدوار ہوتے۔ قاضی صاحب حضرت مہدی علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور مہدی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا تھا کہ:

اک نشان کافی ہے گر ہودل میں خوف کروگار

تو جب کہ قاضی صاحب نے اقرار کیا ہے کہ انہیں میری کتابیں پہنچتی رہی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کی نظر سے وہ پیش گوئیاں بھی گزری ہیں جو وحی الہی کے ماتحت کی جاتی رہیں اور پھر انہیں پورا ہوتے بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں ان میں ایسے رسائل بھی تھے جو ہدایت پانے والوں نے شائع کر کے رسالت حقہ کی شہادت دی ہے اور یہ ایسے امور ہیں کہ ایک متقی کے لئے ان میں ہدایت اور نور ہے۔ لیکن اگر اس قدر نشانات کے باوجود بھی قاضی صاحب کی بصیرت کی آنکھ نہ کھل سکی تھی تو جو بین نشان ان کی ذات میں ظاہر ہوا ہے اس سے ان کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہئے تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ قاضی صاحب اس سے فائدہ اٹھاتے۔ انہوں نے ایک اور خطرناک قدم اٹھایا ہے جس کا سبب اور اس کے نتائج کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہوا ہے کہ:

”فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم (العائدة)“

گویا جب لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ دیتے ہیں یعنی تقویٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ خدا سے دور ہو کر سخت قلب ہو جاتے ہیں۔ پس جب وہ حق سے مغلوب ہوں تو یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ صداقت کے الفاظ کو ان کی اصل جگہ سے بدل دیتے ہیں اور ان کی یہ خیانت بار بار ظاہر ہوتی ہے۔

چنانچہ قاضی صاحب نے بھی یہی راستہ اختیار کر کے میری تحریر میں سراسر تحریف کی ہے اور مولوی یان فن مناظرہ سے کام لے کر میرے بیان میں سے صرف چند سطور لکھ دی ہیں اور ان کے سیاق و سباق کو حذف کر دیا ہے۔ تا وہ بآسانی مجھ پر بدظنی کا الزام لگا سکیں۔ اس لئے میں اپنے بیان کا مضمون اس جگہ نقل کرتا ہوں: ”اس بیان سے ظاہر ہے کہ قاضی صاحب کو یہ شبہ بھی ہوا ہے کہ شاید ان کا خط مجھے ملا ہی نہ ہو۔ پس ایک تجربہ کار عمر رسیدہ عالم کے لئے یہ بات سمجھنا چنداں مشکل نہیں کہ ایسی صورت میں انہیں لکھنا چاہئے تھا کہ فلاں تاریخ کو میں نے خط لکھا تھا مگر چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا ان کے اس طرز تحریر سے شبہ ہو سکتا ہے کہ دونوں خطوں میں تاریخیں اس طرح سے لکھی گئی ہیں کہ جن سے کتمان حق کی راہ نکالی جائے چنانچہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک خط ۱۹۶۴ء میں لکھا تھا جس کی یاد دہانی بھی کروائی گئی۔ لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ خصوصاً اس صورت میں یہ شبہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے پہلے خط میں بالا راہہ غلط بیانیوں کی ہیں اور جیسا کہ میری سابقہ تحریروں میں ایسی نمایاں مثالیں پیش کی جا چکی ہیں جن سے ثابت ہو گیا ہے کہ جماعت ربوہ کے لوگ نہایت بے باک ہو کر جھوٹ بولتے ہیں اور ان میں سب سے بڑی مثال ان کے خلیفہ کی ہے۔ جس نے ۱۹۵۷ء میں اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعہ اخبار الفضل میں میری ذات پر اس قدر خوفناک افتراء کیا تھا کہ گویا میں نے قادیان میں رہتے ہوئے اسلام کے خلاف تقریریں کی تھیں اور آنحضرت ﷺ کی جنک کی تھی۔ (نعوذ باللہ من ذالک) لہذا میں نے ان امور کی وضاحت کرنا ضروری خیال کیا ہے اور اگرچہ قاضی صاحب کے دل کا حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے یا وہ خود جانتے ہیں۔ مگر بہر حال اس کے دونوں پہلو ہیں۔ سو اگر قاضی صاحب کی نیت بخیر ہے تو میری اس وضاحت سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ برعکس اس کے اگر ان کا ارادہ کوئی بیچ ڈالنے کا ہو تو مندرجہ بالا حقائق حق پسندوں کے لئے یقیناً نور ہدایت ثابت ہوں گے۔“

اب قاضی صاحب اگر میرا مندرجہ بالا بیان خواہ دس دفعہ بھی پڑھیں تو انہیں ہرگز ہرگز اس میں کوئی ایسی بات نظر نہ آئے گی جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں نے قاضی صاحب پر بدظنی کی تھی۔

بلکہ یہ نہایت ہی صاف اور سادہ کلام ہے۔ جس کی اصل حقیقت اس کی آخری زیر خط کشیدہ سطور سے بالکل واضح ہے کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کی ہے جو اس نے اپنی وحی میں مجھے دیا ہے اور وہ کلام الہی میرے رسالہ عصمتہ النبی میں درج ہو چکا ہے کہ: ”یا ایہا الذین امنوا ان جامکم فاسق فتبیتنوا، فقد لبثت فیکم عمراً من قبلہ افلا تعقلون“ اور اس کلام اللہ کا مفہوم میں نے یہ بیان کیا تھا کہ: ”پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہوشیار کیا کہ فاسق لوگ آ کر تم کو میرے مرسل کے خلاف جھوٹی باتیں کہیں گے۔ سو تم ان سے ایسی باتوں کا ثبوت طلب کرو اور میری طرف سے یہ دعویٰ پیش کیا گیا ہے کہ اے مکارو! غور کرو کہ میں نے کتنا طویل عرصہ تمہارے سامنے گزارا ہے۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں نے تم میں سے کسی کو کوئی جھوٹی سی غلط بات بھی کہی تھی؟“

سو اس میں فاسقوں سے محتاط رہنے کی واضح ہدایت ہے اور جیسا کہ میرے بیان مندرجہ بالا کے مطابق یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ربوہ کے لوگ نہایت بے باک ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ ان کے خلیفہ نے بھی مجھ پر خوفناک افتراء کیا تھا تو کیا اس صورت میں ضروری نہ تھا کہ قاضی محمد نذیر لاکل پوری صاحب جو جماعت ربوہ ہی کے ایک فرد ہیں، میں ان سے اس بات کی وضاحت چاہتا کہ انہوں نے اپنے ۲۳ فروری والے خط کی تاریخ درج کرتے وقت بجائے ۱۹۶۵ء کے ۱۹۶۳ء کیوں لکھا تھا؟ اور کہ بعد میں یاد دہانی والے ۱۸ مارچ ۱۹۶۵ء کے خط کا سن کیوں لکھا گیا تھا؟ چنانچہ مندرجہ بالا بیان سے صاف صاف ظاہر ہے کہ میں نے یہی سوال پوچھنے کے بعد صاف دلی سے لکھا کہ: ”اگرچہ قاضی صاحب کے دل کا حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے یا وہ خود جانتے ہیں۔“

جس سے ظاہر ہے کہ میں نے اس بات کا فیصلہ ہرگز نہیں کیا کہ ان کا ارادہ بد تھا۔ بلکہ اس سے آگے یہ مزید وضاحت بھی میری تحریر میں موجود ہے کہ: ”اگر قاضی صاحب کی نیت بخیر ہے تو میری اس وضاحت سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ برعکس اس کے اگر ان کا ارادہ کوئی بیچ ڈالنے کا ہو تو مندرجہ بالا حقائق حق پسندوں کے لئے یقیناً نور ہدایت ثابت ہوں گے۔“

اب قاضی صاحب جو تقویٰ کے مدعی ہیں۔ تقویٰ ہی کے مد نظر بیچ بیان دیں کہ کیا ایسی وضاحت چاہنے کے لئے بدظن کی اصطلاح استعمال کرنا جائز ہے؟ لیکن اگر قاضی صاحب اپنے ربوائی تبحر فی العلم کے باوجود بھی میری اس سیدھی ساوچی بات سے مطمئن نہ ہو سکے ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام: ”اجتنبوا کثیراً من الظن“ رکھنے سے پہلے اس بات پر کیوں غور نہیں کیا کہ اس حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی

موجود ہے کہ: ”یا ایہا الذین امنوا ان جاکم فاسق نبیاء فتبتینوا“

گویا مومنوں کے لئے ضروری ہے کہ فاسق کی ہر بات کی تحقیق کر لیا کریں۔ پس اگر قاضی صاحب بھی خود کو اس حکم کا پابند خیال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی فاسق سے واسطہ پڑنے کی صورت میں وہ بھی اس سے بالکل اسی طرح وضاحت چاہیں گے جیسا کہ میں نے ان سے طلب کی ہے۔ سو وہ بتائیں کہ کیا اس فاسق کو یہ حق حاصل ہے کہ قاضی صاحب پر بدظنی کا الزام لگا دے؟ اور اگر نہیں تو یقیناً قاضی صاحب نے عدل نہیں کیا۔ کیونکہ جو بات انہوں نے اپنے معاملہ میں ناپسند کی وہی میرے معاملہ میں جائز خیال کر لی تو ایسی صورت میں قاضی صاحب تقویٰ کے معیار سے گر گئے اور یہ تو صاف بات ہے کہ عدل کو مٹانے کے لئے ظلم کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ مجھ پر بدظنی کا الزام تھوپنے کی غرض سے قاضی صاحب نے اس قدر ظلم کیا ہے کہ سیاق و سباق کو حذف کر کے میری ایک عبارت اس طریق سے نقل کر دی ہے کہ جس سے ان کا ناجائز مقصود حاصل ہو جائے۔

پس اللہ تعالیٰ کے حکیم کلام کی صداقت ایک دفعہ پھر ظاہر ہو گئی۔ ”وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون“ گویا کفار کا بر جو بھی بدتدبیر رسالت الہیہ کے خلاف کریں گے وہ ان کی کم عقلی کے باعث انہی کو نقصان دے گی۔

اب چاہئے کہ قاضی صاحب میرے اس فیصلہ پر حشڈے دل سے علیحدگی میں غور کریں اور اگر پسند کریں تو اپنے محکمہ قضا کے کسی قابل اعتماد دوست سے مل کر اس پر تدبیر کریں۔ سو اگر ان کی روح شہادت دے کہ یہی فیصلہ برحق ہے اور قاضی صاحب سے خطا سرزد ہوئی تو میرے حکم اور عدل ہونے میں کیا شک باقی رہ گیا؟ پس یقیناً میں ہی وہ موعود مسیح ہوں جس کی خبر قرآن حکیم کی سورۃ یونس کے پانچویں رکوع میں اس طرح دی گئی تھی کہ: ”اذا جاء رسولہم قضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون“ کیونکہ شجرہ طیبہ کی پہچان صاف صاف اس کے طیب پھل سے ہوگی۔ سبحان ربی العظیم

قاضی صاحب کے ایمان کا امتحان

قاضی محمد نذیر صاحب نے یہ تصدیق کرنے کے بعد کہ درحقیقت ان کا ۱۳ فروری والا خط اور ۱۸ مارچ کی یاد دہانی ۱۹۶۵ء میں ہی لکھی گئی تھی۔ آخر میں پھر اپنے تقویٰ کا یقین اس طرح دلایا ہے کہ: ”میں جھوٹ بول کر آپ کو نیچا دکھانا نہیں چاہتا۔ خدا مجھے ایسے خلاف تقویٰ فعل سے باز رکھے۔“

اس بیان سے بظاہر تو یہی سمجھا جائے گا کہ قاضی صاحب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان ہیں اور نہیں چاہتے کہ کسی غلط راہ پر ان کا قدم پڑے۔ سو میں انہیں یقیناً ان کی بھلائی کے

لئے نہایت ہی نیک مشورہ دیتا ہوں۔

قاضی صاحب! یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ پھر آپ تو یوں بھی آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ بس غور کریں کہ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اصلاح خلق کی غرض سے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں وہی موعود مسیح ہوں جس کی خبر انجیل قرآن اور احادیث نبوی میں دی گئی تھی اور میں گزشتہ چار سال سے دنیا کو انداز کرتا چلا آ رہا ہوں اور وحی الہی کے مطابق میں نے وقتاً فوقتاً پیش گوئیاں شائع کیں۔ جن کا ظہور اس شان سے ہوا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر مسیح کی بعثت کا نمایاں نشان جو قرآن کریم میں اس طرح بتایا گیا تھا کہ اس وقت یا جوج و ماجوج ہر ایک بلندی پر تیزی سے چڑھتے چلے جائیں گے۔ اسے پورا ہوتے آپ نے چشم خود دیکھا ہے اور یہ کہ آسمان بروج سے بھر جائے گا تو اس کی صحیح شکل ظہور میں آگئی ہے۔ چنانچہ جورا کٹ فضا میں بیچھے جاتے ہیں وہ بالکل بروج کی طرح کے ہوتے ہیں اور زمین کو زلازل اور طوفانوں نے زیر کر دیا ہے۔ جس سے لاتعداد انسانی جانیں ہلاک ہو چکی ہیں اور اس سلسلہ میں تازہ ہیبت ناک نشان امریکہ میں آندھی کا طوفان ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کا کلام *Disaster* جو میرے اشتہار بعنوان "آٹھ آسمان موزعہ ۳" اگست ۱۹۶۳ء میں شائع کیا گیا تھا۔ تیسری بار ظہور میں آیا ہے۔ چنانچہ انسانی اموات کے علاوہ ۸ ملین کا مالی نقصان ہوا اور میں نے اس جاہلی کی تصویر ٹیلی ویژن پر دکھائی ہے۔ جہاں امریکہ کا پریذیڈنٹ خود موجود تھا اور اس نے یہ فقرہ اس موقع پر کہا کہ:

"I have never seen such complete destruction."

یعنی میں نے ایسی مکمل جاہلی اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور پھر بتایا گیا کہ پریذیڈنٹ جاسن نے اس جاہلی کے تین علاقوں کو *Disaster Area* قرار دے دیا ہے۔ نیز اس سے قبل ۱۱ ستمبر ۱۹۶۳ء کو امریکہ کے پریذیڈنٹ نے جارجیا اور فلوریڈا کے علاقوں کو *Disaster Area* قرار دیا تھا جو تیسرا آندھی سے تباہ ہوئے تھے اور ان جاہلوں کی تفصیل میرے اشتہار "ظہاب شدید کی خبر" اور "ایک کشف" میں بیان کی جا چکی ہے اور اس کے بعد ۶۵ دسمبر ۱۹۶۳ء کو یہ خبر نشر کی گئی کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں پانچ ریاستیں سیلاب سے تباہ ہوئیں جس سے سترہ ہزار خاندان بے گھر ہو گئے اور نہایت شدید جاہلی والے علاقوں کو امریکہ کے پریذیڈنٹ نے *Disaster Area* قرار دے دیا اور اس کا ذکر میرے اشتہار بعنوان "وسط آف اٹریا" مورخہ ۲۸ دسمبر ۱۹۶۳ء میں ہو چکا ہے۔ تین بار بڑی شان سے پورا کر کے دکھایا۔

جس سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ جو بیخانات میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں، وہ آسمان سے ہی مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میری سچائی کو ظاہر کرنے والا یہ تازہ نشان ہے کہ میں نے اپنے اشتہار لہخونان ”عذاب شدید کی خبر“ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۶۳ء میں وحی الہی ”فاما الذین کفروا فاعذبہم عذاباً شدیداً“ درج کر کے اس کے ساتھ ہی اپنا ایک خواب بھی درج کیا تھا کہ: ”اس کے بعد میں نے رویا میں دیکھا کہ آسمان سے ایک بندوق چلی جس کی نالی زمین کی طرف نشانہ کر رہی تھی اور ایک وسیع علاقہ میں پانی میں لاتعداد سیاہ کبوتر تھے جن میں سے ان کی بہت بڑی تعداد یکدم ہلاک ہو گئی اور باقی جو مرنے والوں سے زیادہ تھے وہ حرکت کر رہے تھے۔“ اور اس کلام الہی اور رویا کی حقیقت میں نے اس طرح بیان کی تھی کہ: ”سواس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنے کلام پاک میں مجھے اطلاع دی کہ آسمان پر یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اس کی رسالت کا انکار کرنے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا اور پھر اپنے اس حکم کے نفاذ کی عملی صورت کا نظارہ مجھے دکھایا۔“

یہ کس قدر صاف پیش گوئی تھی جس کا ظہور لفظ بلفظ ویت نام میں ہوا ہے کہ بیشمار جاہل آتھین اسلحہ سے ہلاک ہو چکی ہیں اور اس خطہ ارض میں جنم ہی کا نظارہ نظر آتا ہے۔ جس سے اقوام عالم تھڑا اٹھی ہیں اور ہر قوم اس فکر میں ہے کہ کسی طرح یہ آگ بجھ جائے۔ مگر باوجود ہر قسم کی کوشش کے یہ آگ ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پس صاحب بصیرت اگر وحی موصوف اور اس رویا کو ایک طرف رکھے جو ”عذاب شدید کی خبر“ میں بیان کی گئی تھی اور دوسرے طرف ویت نام کے ہلاکت کے منظر پر نظر کرے تو ہرگز ممکن نہیں کہ اس کی روح چلا نہ اٹھے کہ اس ہولناک جہاں کا نقشہ صحیح صحیح اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور اس رویا میں کھینچا تھا جو اس نے اپنے مرسل کو قبل از وقت دکھادی تھی۔

پس اے قاضی صاحب! اب قضا کا حق اپنے نفس سے ادا کریں اور اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں اور پھر بتائیں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی واضح خبریں بار بار دے کر بڑی شان سے ان کو پورا کرتا ہے۔ اس کے رسول اللہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ورنہ کلام الہی ”فلا یظہر علی غیبہ احداً الا من ارتضیٰ من الرسول“ کا کوئی اور مفہوم بیان کریں اور واضح ہو کہ میری صداقت کی شہادت دنیا کے ہر حصہ سے مہیا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جن اروا اشتہارات میں ان پیش گوئیوں کا ذکر ہے جو اوپر بیان کی جا چکی ہیں ان کے علاوہ میرے انگریزی اعلانات بھی اسی سلسلہ میں شائع ہو کر مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے۔ مثلاً **Another Alarming** Wust of India اور **news, Disaster a vision** جن میں وحی الہی کا

ترجمہ انگریزی میں کر کے قبل از وقت وہ خبریں دی گئیں اور پھر ان کے ظہور کی تفصیل بھی بیان کی گئی اور اس سے بڑھ کر یہ امر ہے کہ میرے ابتدائی اعلان میں ہی اللہ تعالیٰ کا کلام یوں درج ہوا:

”انا او حینا الیک کما او حینا الی عیسیٰ و موسیٰ و النبیین“

یعنی ہم نے تجھ پر بالکل اسی طرح اپنی وحی نازل کی ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ اور موسیٰ پر نازل کی تھی اور اس رسول پر کی تھی جو خاتم النبیین کہلایا۔ جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ مجھ سے کلام کرنے والی ذات وہی ہے جس نے جمیع انبیائے کرام سے خطاب فرمایا تھا اور اس کے فعل نے اس کے عہد کا واضح ثبوت بھی کئی رنگوں میں مہیا کیا۔ جس کی ایک عجیب مثال یہ ہے کہ میرے اشتہار وسط آف انڈیا مورخہ ۲۸ دسمبر ۱۹۶۳ء میں اللہ تعالیٰ کا کلام ۳۰ جنوری شائع ہوا۔ جس کے ساتھ ہی وحی الہی العید تنال منه فتحاً قریباً عظیماً بھی درج کی گئی جس میں اس عظیم الشان نشان کے قریب وقت میں ظاہر ہونے کی خبر صاف صاف دی گئی تھی۔ چنانچہ اس کے جلد ہی بعد یعنی ۳۰ جنوری کو سر و نسلن چرچل کا ماتم منایا گیا جو ایک غیر معمولی ماتم تھا اور جس کی تفصیل میرے رسالہ اردو بعنوان ۳۰ جنوری میں اور انگریزی اشتہار: ”30th of January“ میں بیان کی جا چکی ہے کہ اس عظیم ماتم سے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا جو اس نے آج سے دو ہزار سال پیشتر اسرائیلی مسیح پر نازل فرمایا تھا کہ: ”اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیشیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بالوں پر آتے دیکھیں گی۔“

گویا موعود مسیح کا نشان کلام الہی سے ملے گا جو آسمان ہی سے آتا ہے اور پھر اسی کلام کے مطابق زمین کی سب قومیں ماتم کریں گی۔ جس سے اس موعود کی صداقت ظاہر ہوگی کہ اسے آسمان ہی سے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ مسٹر چرچل کے ماتم میں اقوام عالم کے شاہان اور شہزادگان نیز حکومتوں کے نمائندگان اکٹھے ہوئے جنہوں نے مل کر ماتم کیا اور اپنے عمل سے میری صداقت پر کھلی کھلی شہادت دی کہ جس غالب خدا نے دو ہزار برس پیشتر وعدہ دیا تھا کہ وہ دوبارہ ابن آدم کو نازل فرمائے گا۔ اس نے اپنے عہد میرے وجود میں پورا کر دکھایا۔ سبحان ربی الاعلیٰ

اور اے قاضی صاحب! خشیت اللہ کو دل میں لے کر یہ بھی سوچیں کہ اس قدر عظیم الشان نشانات میری اس پکار کے بعد ظاہر ہوئے جو میں نے ۲۷ اگست ۱۹۶۳ء کو اپنے رسالہ بعنوان ”سب سے بڑا عالم کون ہے“ میں ان الفاظ میں اس قہار و جبار کے حضور کی تھی کہ اگر میں نے یہ افتراء تیری ذات پر کیا ہے تو اے عظیم و خیر ذات جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں تو اس

سارے کاروبار کو تباہ و برباد کر دے اور اس کا نام و نشان نہ چھوڑتا، تیری مخلوق مگر اسی سے بچ جائے۔ لیکن اے میرے محسن و مہربان رب! اگر تو نے ہی مجھے فرمایا کہ:

تو تجھ کو ساری دنیا کا امام بنانا ہوں

اور تو نے ہی مجھے اپنا نبی اور رسول قرار دیا ہے اور تو نے ہی میرا نام مسیح رکھا ہے اور تین سال سے زیادہ عرصہ سے تو ہی میری صداقت ظاہر کرنے کے لئے آسمان سے قہری نشانات ظاہر کر رہا ہے۔ تو اے قہار و جبار اور غالب آقا تو ان ظالموں کے گھروں پر آگ برسا جو تیرے راست بازنمی و رسول پر بہتان باعہتے ہیں اور ایسے کذاب کا نام و نشان مٹا دے اور ایسے نمایاں قہری نشانات ظاہر فرما کہ جس سے ان نیک لوگوں کی آنکھیں کھلیں جن کے دل ماحول کے بد اثرات سے رنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تازمین کے چپے چپے پر تیری ہی بادشاہت قائم ہو اور یہ دنیا راست بازوں سے مہر جائے۔ جو ہر آن تیرے ہی آستانہ پر پڑے رہیں۔ اے مالک! تیری ہی توحید غالب ہو۔ اللہم آمین ثم آمین

اور اس کے بعد میں نے رسالہ عصمتہ النبی میں اللہ تعالیٰ کا کلام: ”فقد لبثت فیکم عمراً من قبلہ افلا تعقلون“ اور ”یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق فقبینوا فقد لبثت فیکم عمراً من قبلہ افلا تعقلون“

درج کر کے آپ لوگوں کو پہنچایا گیا کہ میری پچیس سالہ زندگی جو آپ لوگوں میں گزری اس میں کوئی خفیف سے خفیف غلط بیانی ثابت کریں جو میں نے کی ہو اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ یہی معیار صداقت ہے کہ جو قرآن حکیم نے پیش کی ہے اور اسے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی راست بازی کی زبردست دلیل ٹھہرایا ہے۔ پس میری دعا جو اوپر نقل کی گئی ہے۔ بالکل وہی ہے جو حضرت مہدی نے اپنی ایک فارسی نظم میں کی تھی جس کا پہلا مصرعہ یہ ہے کہ:

اے قدر و خالق ارض و سما

اور آپ لوگ اسے مہدی کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت قرار دیتے ہیں۔ پس عدل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ شرح صدر سے مجھ پر ایمان لے آئیں۔ ورنہ آپ لوگ مہدی کے بھی منکر ہیں۔ پھر جب کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی راست بازی کا نشان یہ ہے کہ آپ کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی میں آپ کی سچائی پر کوئی شخص حرف نہ رکھ سکا تو یہی پہنچ جائے کہ میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو رسالہ ”عصمتہ النبی“ میں پیش کیا جا چکا ہے جو یکم فروری ۱۹۶۵ء کو شائع ہوا۔ گویا ڈھائی ماہ سے زیادہ عرصہ اس پر گزر چکا۔ مگر آج تک آپ لوگوں میں سے ایک فرد

بھی ایسا نہیں اٹھا جو میرے دعویٰ سے پہلے زندگی میں میری کوئی خفیف سے خفیف غلط بیانی ہی ثابت کر سکے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں میرا انکار حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا انکار ہے۔ لہذا جمع انبیائے کرام علیہم السلام کا انکار ہے۔ رہیں آپ لوگوں کی فاسقانہ چالیں سو ہر کذاب جو مقابل پر آیا اس نے اپنا عبرتناک انجام خود دیکھ لیا ہے۔ جس پر ہزار ہا انسان شاہد ہیں اور آئندہ کے لئے میری یہ پیش گوئی رسالہ عصمت النبی میں موجود ہے کہ: ”مگر اے فاسقو! جو جھوٹی خبریں اڑا کر اللہ کی راہ میں روک بنا چاہتے ہو۔ سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ ”واللہ یعصمک من الناس“ پس اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی زور لگائیں تو آسمانی ارادوں میں ذرہ بھر بھی خارج نہ ہو سکیں گی۔ اس کی رسالت ضرور ضرور غالب آئے گی اور ساری زمین پر آسمانی حکومت قائم ہوگی۔“ اب بتائیے قاضی صاحب! ”فبأی حدیث بعدہ تؤمنون“

وادئ ظلمات

قاضی صاحب نے میرے رسالہ ”وادئ ظلمات“ کا نام ”وادئ ظلمات“ لکھ دیا ہے۔ چنانچہ اس امر کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اس کا سبب لغزش قلم ہوا ہے۔ مگر میں انہیں ایک معرفت کی بات بتاتا ہوں کہ بسا اوقات ایسے امور اس حکیم ذات کے خاص تصرف کے ماتحت ظہور میں آتے ہیں۔ پس درحقیقت فطرت صحیحہ انسان کے قلب پر بار بار ٹھوکر مارتی ہے اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ ہر قلبی کیفیت انسان کے دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ پس گو قاضی صاحب کا نفس تکلف سے غیر طبعی رجحان اختیار کرتے۔ مگر اس کی ذرہ سی غفلت سے حقیقت پھسل کر باہر آ جائے گی اور دراصل یہی صورت اس موقع پر بھی ان سے پیش آئی ہے اور اب ہم اسی اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

گذشتہ آٹھ سال سے میری تحریرات میں یہ افسوسناک واقعہ بیان کیا جاتا رہا ہے کہ مارچ ۱۹۵۷ء میں اللہ تعالیٰ کی خاص تائید سے میرے ہاتھوں سے کتاب ”حقیقت آزادی“ لکھی گئی۔ جس میں انسان کو اس کے مقصود حقیقی کی طرف متوجہ کیا گیا۔ تا وہ مادی الجھنوں کی قید سے آزاد ہو کر صعودی اللہ کرنے لگے۔ مگر چونکہ یہ امیر مذہبی سیاستدانوں کے کھیل کو بگاڑنے والا تھا۔ لہذا مرزا بشیر الدین خلیفہ ربوہ اس لاجواب بیان کو پڑھ کر اس قدر مغلوب و غضب ہوا کہ اس نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعہ روزنامہ ”الفضل“ مورخہ ۷ جون ۱۹۵۷ء کی اشاعت میں میری شہرت کو خراب کرنے کے لئے ایک نہایت ہی نامعقول بیان شائع کروا دیا کہ: ”گو یا جب میں قادیان میں تھا تو میں نے (نعوذ باللہ) اسلام کے خلاف کئی تقریریں کی تھیں اور رسول اللہ ﷺ کی جنک کی تھی۔“

اور کہ اس سبب سے مجھے جماعت سے بلکہ قادیان سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ قاضی صاحب! غور کیجئے کہ جو شخص اسلام کے خلاف تقریریں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اسلام کو ترک کر چکا ہے اور کوئی اور دین اس نے اختیار کر لیا ہے۔ پس جب کہ آپ کے خلیفہ صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے کئی تقریروں میں (نعوذ باللہ) اسلام کو ترک کر دینے کا اعلان کر دیا تھا تو لازماً اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میں آپ کی جماعت سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ اب خوب سوچ کر جواب دیجئے کہ اس کے بعد آپ کے خلیفہ صاحب کا مجھے اپنی جماعت سے علیحدہ کرنے کا مفہوم کیا سمجھا جائے؟ اندریں حالات آپ خود ہی فیصلہ دیں کہ جو بیان آپ کے خلیفہ صاحب نے میرے متعلق روزنامہ الفضل مورخہ ۷ رجون ۱۹۵۷ء میں شائع کر دیا تھا۔ اس کے مطابق انہیں مجھ کو اللہ کو اس سمجھا جائے یا کذاب؟ کیونکہ اس کے سوائے کوئی اور تیسری صورت ممکن نہیں۔ آپ قاضی کہلاتے ہیں۔ سوان دو میں سے جو فیصلہ بھی آپ دین گے ہم پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر کوئی عذر نہ ہوگا۔ بلکہ ہم اسے یقیناً خوشی خوشی قبول کر لیں گے۔ باقی رہا یہ سوال کہ خلیفہ صاحب کے قول کے مطابق انہوں نے جبراً مجھے قادیان سے نکالا تھا تو اس کی ضرورت انہیں کیوں پیش آگئی؟ ظاہر ہے کہ معاذ اللہ اسلام کو ترک کر دینے کے بعد مجھے قادیان کے ماحول سے کوئی دلچسپی نہ ہو سکتی تھی۔ کیونکہ یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ ہر شخص ایسی ہی فضا میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں اس کے ہم خیال لوگ ہوں۔ چنانچہ آپ کے خلیفہ نے بھی اسی غرض سے پاکستان میں ایک شوریلی زمین ہی کو قبول کر کے ربوہ کی ہستی بسائی تھی۔ پس اگر میں نے اسلام کو ترک کر کے کوئی اور دین اختیار کر لیا تھا تو مجھے خود ہی قادیان کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس چلا جانا چاہئے تھا۔ جن کا دین میں نے قبول کیا تھا تو یقیناً یہ بعید از قیاس امر ہے کہ خلیفہ صاحب کو مجھے قادیان سے نکالنے کے لئے جبر سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ ہاں ہمارے اگر بفرض محال کوئی ایسی وجہ تھی کہ میں نے قادیان میں ہی رہنا پسند کیا تھا تو محض دینی اختلاف کی بناء پر آپ کے خلیفہ کا مجھے جبراً وہاں سے نکالنا سراسر ظالمانہ فعل تھا۔ لیکن قاضی صاحب! اگر اس خیال سے کہ جو کچھ بھی آپ کا خلیفہ کرے آپ کو اس پر آمنا و صدقاً کہنا چاہئے۔ آپ اس فعل کو جائز بلکہ مستحسن یقین کریں تو پھر کیوں نہ پاکستان کے لوگ احمدیوں کو جبراً ملک بدر کر دیں؟ جب کہ وہ انہیں بے دین اور مرتد قرار دیتے ہیں۔ قاضی صاحب! انصاف کیجئے۔

اور اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ قادیان میں جب میں اسلام کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا تو وہ کہاں کیا کرتا تھا؟ اور اپنی تقریر کرنے کے لئے سامعین کو

کیونکر اکٹھا کرتا تھا؟ قاضی صاحب! آپ ایک لسبا عرصہ قادیان میں رہے ہیں اور غالباً ان دنوں بھی آپ وہیں تھے جب میرا بایکٹ کیا گیا تھا تو بتائیے کہ کیا قادیان میں کوئی اجتماع بغیر وہاں کے نظام کی اجازت کے ممکن تھا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر میں اپنی تقریریں کس کو سنانا تھا؟ لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ لوگ نظام کو توڑ کر میری تقریریں سننے کے لئے کہیں جمع ہو جاتے تھے تو اس میں خلیفہ صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ حیرت ہے کہ آپ لوگ بلند بانگ دعاوی کرتے ہیں کہ آپ ساری دنیا پر چھا گئے ہیں اور کہ ہر ملک میں آپ لوگوں کو احمدی بنا رہے ہیں۔ تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ آپ کے خلیفہ صاحب اکیلے خواجہ محمد اسماعیل سے اس قدر خائف تھے کہ اگر وہ قادیان میں رہا تو سب احمدی اس کی تقریریں سن کر اس کے ہم خیال ہو جائیں گے؟ ورنہ اسے قادیان سے نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟

حقیقت حال

اور اس کے بعد میں اس حقیقت کو واضح کرتا ہوں کہ قطع نظر اس سے کہ میں نے قادیان میں کس بحث پر تقریریں کی تھیں جس کی بناء پر خلیفہ صاحب کو مجھے جماعت سے عائدہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ واحد وقہار گواہ ہے جو سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے اور جھوٹوں پر اس کی لعنت ہوتی ہے کہ جب تک میں قادیان میں رہا میں نے ہرگز ہرگز کوئی تقریر نہیں کی۔ یہاں تک کہ میرا بایکٹ کر دیا گیا۔ سو اس کے بعد شام کے وقت میں اپنے گھر کے گن میں پڑوس کے لوگوں کو بلند آواز سے اللہ اور رسول کے احکام بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ جو طریق انہوں نے اختیار کیا ہے وہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اور حضرت مہدی نے جو تعلیم آپ لوگوں کو دی تھی آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں۔ چنانچہ جیسا کہ میرے رسالہ الحکم میں بیان ہو چکا ہے۔ پڑوس کی ایک عمر رسیدہ خاتون نے مجھے پیغام بھیجا کہ جب میں تمہارا کلام سنتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ دودھ کا پیالہ بھر کر تمہیں بھیجوں۔ مگر ڈرتی ہوں کہ ایسا کرنے سے یہ ظالم لوگ مجھ سے بھی ایسا ہی سلوک کریں گے۔ جو تم سے کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں شکر یہ ادا کر کے یہ پیغام بھیجا کہ مجھے دودھ کی ضرورت نہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔

پس یہ ہیں اصل حالات اور کذاب خلیفہ ربوہ نے مجھ پر سراسر بہتان باندھا ہے کہ (نعوذ باللہ) میں نے قادیان میں اسلام کے خلاف کئی تقریریں کی تھیں اور رسول اللہ ﷺ کی جنگ کی تھی۔ تو یہ کس قدر اندھیر مگر ہے کہ ربوائی جاہل قوم کے لوگ اپنے خلیفہ کے ایسے لغو اور خلاف عقل بیانات کو بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لیتے ہیں۔ پس حقیقت الامر یہی ہے کہ اسی اندھیر مگر کی کا

تصور قاضی محمد نذیر لائل پوری صاحب کے ذہن کو ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ جس کے نتیجے میں ان کی قلم نے لفظ کش کھا کر میرے رسالہ کا نام بجائے ”داویٰ طلسمات“ کے ”داویٰ ظلمات“ لکھ دیا ہے اور ان کے تحت اشعور میں ہر لمحہ یہ صداقت ابھرتی رہتی ہے کہ وہ داویٰ ظلمات میں بری طرح اسیر ہیں۔ سوان کی اس نہایت ہی قابل رحم حالت کے مد نظر میں انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہوں۔ قاضی صاحب! ”یقین کریں کہ میں ہی وہ موعود مسیح ہوں جس کے متعلق حضرت مہدی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں خبر دی تھی کہ وہ آ کر اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔“ پس اگر آپ اس خوفناک ظلمت سے نجات کے خواہاں ہیں تو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کر کے اس کے مرسل کا ہاتھ تمام لیجئے۔ جونہی کہ آپ میری ہدایت پر عمل کریں گے آپ خود کو نورانی فضا میں پائیں گے اور ہر غم سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا۔

شہادات

قاضی صاحب نے میرے صرف یہ دریافت کرنے پر کہ ان کے خطوں میں تاریخوں کی غلطی کیوں ہے۔ مجھ پر بدظنی کا الزام لگا دیا جس کی تردید اور پرکھی جا چکی ہے۔ پس چاہئے کہ وہ غور کریں کہ ان کے خلیفہ نے میری ذات پر کس قدر خطرناک افتراء کیا ہے۔ سو میرے لئے یہ کس قدر دکھ کا باعث ہے۔ چونکہ قاضی صاحب نے تقویٰ کا دعویٰ کیا ہے۔ لہذا میں ان کو تقویٰ ہی کا واسطہ دے کر حسب ذیل شہادات پیش کرتا ہوں۔ وہاں سے مؤکد وعدہ اب قسم کے ماتحت شہادت لے کر حق گوئی کریں۔

..... مولوی جلال الدین شمس صاحب: خلیفہ نے جو افتراء مجھ پر کیا اس سلسلہ میں ایک سائل نے خلیفہ کے چھوٹے بھائی مرزا بشیر احمد سے استفسار کیا تھا جس کے جواب میں مرزا بشیر احمد نے چشمی نمبر ۱۵ مورخہ ۱۸ جولائی ۱۹۶۲ء لکھی جس میں سرسرا کر ڈھریب سے کام لیا۔ چنانچہ اسی چشمی کا کچھ اقتباس میں نے اپنے رسالہ الحکم میں درج کر کے اصل حقیقت ظاہر کی تھی۔ مگر اس چشمی کے آخر میں یہ بیان بھی درج تھا کہ: ”بہر حال آپ کو مولانا جلال الدین صاحب مناسب جواب دیں گے۔“ سو مولوی جلال الدین صاحب بتائیں کہ انہوں نے سائل کو خط اس کے بعد لکھا؟ اگر نہیں تو اس کا سبب کیا ہوا؟

..... قاضی محمد نذیر لائل پوری صاحب: آپ اپنا ۱۹۶۲ء کا نظارت اصلاح و ارشاد کا ریکارڈ دیکھ کر بتائیں کہ کیا سائل موصوف کو ۹ مارچ کو کوئی چشمی اس سلسلہ میں لکھی گئی تھی؟ اگر جواب مثبت میں ہو تو بتائیں کہ اس میں کیا بیان درج ہوا تھا؟ نیز یہ کہ کیا اس کے آخر میں یہ وعدہ

بھی کیا گیا تھا کہ مکمل جواب بعد میں دیا جائے گا؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو کیا آپ نے کوئی مکمل جواب اس کے بعد بھیجا تھا؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟

۳..... سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب: جب قادیان میں میرا بیٹا نکاٹ کیا گیا تھا تو کیا آپ ان دنوں ناظر امور عامہ تھے؟ اور کیا آپ ہی نے میرے ہائیٹ کا اعلان کیا تھا؟ اگر یہ صحیح ہے تو بتائیے کہ میرے ہائیٹ کا سبب آپ نے کیا بتایا تھا؟ اور کیا یہ صحیح نہیں کہ آپ نے میرے ہائیٹ کے اعلان میں اس کا سبب "اتحاد عالمین" بتایا تھا جو میرا ایک رسالہ تھا جس میں میں نے مذاہب اور اقوام عالم کو آپس میں محبت اور اتحاد کی تحریک کی تھی؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ صحیح نہیں کہ آپ نے میری یہ کتاب اپنے دفتر میں دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ تو سلسلہ کی خدمت آپ کر رہے ہیں۔ ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے اسٹنٹ شیخ یوسف علی نے جب آپ کی بات کو ٹوکا تو آپ نے اسے بلند آواز سے کہا کہ:

"No, I finally decide it."

لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد جب آپ میرے مکان پر مولوی ابوالعطاء کے ہمراہ آئے تو آپ نے مجھے اس رسالہ کی اشاعت سے منع کیا اور جب میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے تو اسے سلسلہ کی خدمت قرار دیا تھا تو آپ نے صاف جھوٹ بول دیا کہ گویا ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا میرے ہائیٹ کا سبب اسلام کے خلاف تقریریں اور آنحضرت ﷺ کی جگہ بھی تھا؟

۴..... مولوی ابوالعطاء صاحب جالندھری: کیا یہ صحیح ہے کہ میرے ہائیٹ سے موثر آپ سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کے ہمراہ میرے مکان پر آئے تھے اور آپ لوگوں نے مجھے "اتحاد عالمین" کی اشاعت سے روکا تھا؟

۵..... مولوی قمر الدین صاحب مولوی فاضل: کیا یہ صحیح ہے کہ میرے ہائیٹ کے بعد آپ کے سلسلہ نے مجھ پر ایک مقدمہ بنالہ کی عدالت میں کیا تھا؟ اور کہ اس مقدمہ کے دوران میں ایک پیش قادیان کے سال ٹون کمیٹی کے دفتر میں ہوئی تھی؟ جس میں آپ بطور گواہ پیش ہوئے تھے؟ اور کیا یہ ٹھیک ہے کہ وکیل طرمان نے آپ پر جرح کی تھی اور اس میں آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کاغذ ہے جس پر آپ نے نوٹ کئے ہوئے ہیں؟ جس کا جواب آپ نے پہلے تو یہ دیا کہ میرے پاس ایسا کاغذ ہے کہ ہونے لگا؟ مگر جب وکیل نے آپ کو ڈانٹ کر کہا کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ایسا کاغذ ہے کہ نہیں تو آپ نے اقرار کیا کہ ہاں ہے اور پھر

آپ نے وہ کاغذ اپنے جیب سے نکالا جس کے ساتھ ہی آپ کے منہ کے پٹھے کھینچ گئے اور آپ یکدم بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ کو ایک چارپائی پر ڈالا گیا۔ جس کے کچھ عرصہ بعد آپ کو ہوش آئی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا بایکاٹ کیوں کیا گیا تھا؟

۶..... چوہدری علی محمد صاحب بی. اے. بی. ٹی: کیا آپ ان دنوں محلہ دارالفضل کے پرنڈینٹ تھے۔ (جہاں میری رہائش تھی) جب کہ میرا بایکاٹ کیا گیا تھا اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے بایکاٹ کا سبب کیا بتایا گیا تھا؟

۷..... مرزانا صاحب احمد صاحب صدر، صدر انجمن احمدیہ: کیا آپ ان دنوں قادیان میں ہی تھے۔ جب کہ میرا بایکاٹ کیا گیا تھا؟ کیا آپ اللہ سے ڈر کر سچ بتا سکتے ہیں کہ میرے بایکاٹ کا سبب کیا ہوا تھا؟ اور کیا یہ صحیح نہیں کہ آپ کے ابا جان نے مجھ پر یہ سراسر افتراء کیا تھا کہ میں نے اسلام کے خلاف کئی تقریریں کی تھیں اور آنحضرت ﷺ کی جنک کی تھی؟ اس جگہ فصل دوم ختم ہوئی۔

”اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم . بسم اللہ الرحمن الرحیم“

سلسلہ الہبیہ کی غرض

رسالت الہبیہ کا انحصار روح القدس پر ہے جس کا مقصد محض مردہ روح انسانی کو زندہ کرنا ہے۔ پس تمام وہ لوگ جو جماعت السابقون میں شامل ہیں۔ ان پر واضح ہو کہ ملازمت میں بڑے عہدہ کی خواہش، اموال کی کثرت کی آرزو، جائیدادوں کے حصول کی سعی اور سیاسی قیادت کی ہوس، یہ سب ایسے امور ہیں جن سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اور اگر پوچھو کہ پھر تمہیں کیا کرنا چاہئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف حصول تقویٰ اور ترغیب تقویٰ، تمہارا آغاز بھی یہی ہے اور اسی پر تمہارا انجام ہونا چاہئے۔ پس اگر کسی کے دل کی تہہ میں اس کے سوائے کچھ اور ہے تو اسے چاہئے کہ فوراً السابقون سے علیحدہ ہو جائے۔ ورنہ وہ منافق ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن۔

یہی ہدایت ان لوگوں کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کی مقدس جماعت میں شامل ہونا چاہئیں۔ سواگران کی روح گواہی دے کہ وہ معیاد مذکور پر پورے اثر سکتے ہیں تو ضرور اس آسانی جہاد میں شامل ہوں کہ اس سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی نہیں۔ بصورت دیگر جو بھی یہ قدم اٹھائے گا۔ وہ سخت خطرہ میں ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی سزا منافق کے لئے ہے۔ پس نہ دھوکہ دو اور نہ دھوکہ کھاؤ۔ النبی خواجہ محمد اسماعیل (مسح الموعود)، لندن مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۶۵ء

مکتبہ المدینہ، لاہور

خلیفہ ربوہ کے دو مذہب

عدالت سے باہر

اور

عدالت کے اندر



جناب محمد صالح نور سابق قادیانی

برادران اسلام!

احمدیہ تحریک کے متعلق عامۃ المسلمین میں گونا گوں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیم اور عقائد کا اندازہ موجودہ جماعت احمدیہ ربوہ کے متفکرانہ اعتقادات سے لگاتے ہیں جو ایک خطرناک غلطی ہے۔ دراصل ۱۹۱۳ء میں مولانا حکیم نور الدین صاحب کی وفات کے بعد ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے پیر پرستی کے رجحان کو فروغ دیتے ہوئے اپنے عقائد کی پونجی کو مرزا قادیانی کے صاحبزادہ مرزا محمود احمد کے دامن میں ڈال دیا اور ان کا ساختہ پرداختہ ہی جماعت کے اس حصہ کا ایمان ہو گیا اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اصل اسلامی تعلیم کو پس پشت ڈالتے ہوئے چند ایسے خلاف اسلام عقائد کی نینو ڈالی۔ جس سے وہی مسلمان جو مرزا قادیانی کو اسلام کا پہلوان یقین کرتے تھے وہی ان نئے نیلے اعتقادات کی وجہ سے احمدیہ تحریک کو شک و شبہ اور نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ گئے۔ اس گروہ کے متعلق جواب جماعت احمدیہ ربوہ کہلاتا ہے۔ مرزا قادیانی کو قبل از وقت خدا تعالیٰ نے متلا دیا تھا کہ یہ ضرور اس قسم کی دیوانہ جرات سے کام لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں: ”پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھونھیاں رکھی ہوئی ہیں۔ چوہوں کی طرح میرے نی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۷ حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۱۴۰)

مرزا قادیانی کی اس تحریک کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حدیث ”لا نسی بعدی“ جو مختلف جگہوں میں قریباً چالیس مرتبہ احادیث میں آئی ہے۔ اس کے خلاف خلیفہ اس حدیث کو کترتے ہوئے مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی تعلیم، عمل اور اعتقادات قرآن پاک اور سنت نبوی کے عین مطابق تھے۔ ضرورت ہے کہ بطور مثال حضور کے چند اقوال پر یہ قارئین کئے جائیں۔ اس کے بعد بتلایا جائے گا کہ خلیفہ صاحب ربوہ ان انوکھے اعتقادات سے جو انہوں نے بعض ذاتی مفادات کی بناء پر لپٹائے ہوئے تھے اور ۱۹۵۳ء تک ان عقائد و خیالات کو فروغ دیتے رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت کے پیش نظر وہ ان باطل عقائد سے ایک وقت میں آ کر کس طرح منحرف ہو گئے اور یہ سفر اس وقت پیش آیا جب پنجاب میں قادیانی جماعت کے خلاف ایک تحریک نے زور

پکڑا اور حکومت نے اس تحریک کے نتیجے میں ہونے والے فسادات کی تحقیقات کے لئے ایک عدالتی کمیشن کا تقرر کیا اور خلیفہ صاحب کو عدالت کے روپر و بطور گواہ پیش ہو کر اپنے اعتقادات کی صفائی دینی پڑی۔

۱..... مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب تھا کہ آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں: ”پس یہ کس قدر جرأت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے کہ وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی۔ پھر سلسلہ وحی نبوت جاری کر دیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے۔ اس کی وحی بلاشبہ نبوت کی وحی ہوگی۔“
(ایام الصلح ص ۱۳۶، خزائن ج ۱۳ ص ۳۹۳)

۲..... مرزا قادیانی نے جیسا کہ جماعت ربوہ کے عقیدہ کی وجہ سے عام خیال پایا جاتا ہے۔ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بلکہ آپ کا دعویٰ محض مجدد اور محدث ہونے کا تھا۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں: ”میں نبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کلیم ہوں۔ تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں اور اس نے مجھے صدی کے سر پر بھیجا۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۳، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

نیز دعویٰ نبوت کے متعلق غلط فہمی کا ازالہ اس طرح فرماتے ہیں: ”سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں..... ابتداء سے میری نیت میں جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے۔ اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے..... بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو (یعنی لفظ نبی کو) کاٹا ہوا خیال فرمائیں۔“

(اشہار مورخہ ۳ فروری ۱۸۹۲ء، مجموعہ اشتہارات حصہ اول ص ۳۱۳)

۳..... مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ پر ایمان نہ لانے والے کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں: ”پھر اس جھوٹ کو تو دیکھو کہ ہمارے ذمہ یہ الزام لگاتے

ہیں کہ گویا ہم نے میں کروڑ مسلمانوں اور کلمہ گوؤں کو کافر ٹھہرایا ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۲۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۲۳)

۴..... مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعویٰ پر ایمان نہ لانے والوں کے نماز جنازہ کی اجازت فرمائی ہے۔ جیسا کہ فرمایا: ”متوفی اگر مکذب اور ملکر نہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ علام الغیوب خدا ہی کی ذات ہے۔“

(مجموعہ فتاویٰ احمدیہ جلد اول ص ۱۱۸، مورخہ ۱۸ اپریل ۱۹۰۲ء)

خلیفہ ربوہ نے جن نئے اعتقادات کو از خود جنم دیا تھا اور ان کو زبردستی مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کی طرف منسوب کرتے رہے۔ چونکہ وہ حقیقت میں غیر اسلامی عقائد تھے۔ اس لئے ایک نہ ایک دن ان سے انحراف ضروری تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا قبیلہ ایک دفعہ گمراہ ہو جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ تیری جماعت کی اصلاح ضرور کر دے گا۔ ”یصلح اللہ جماعتی انشاء اللہ“ (اللہ تعالیٰ میری جماعت کی ضرور اصلاح کر دے گا)

لہذا ۱۹۱۴ء سے ۱۹۵۳ء تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مانند چالیس سال تک گمراہ رہنے کے بعد فسادات پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں خلیفہ کو سابقہ اعتقادات سے منہ پھیرنا پڑا کہ یہی مقدر تھا۔

۱۹۵۳ء سے پہلے خلیفہ کا عقیدہ تھا:

۱..... ”لیکن اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اسے کہوں گا تو جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔ آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔“

۲..... ”ورنہ ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں کہ ہزاروں نبی آئیں گے۔“

(انوار خلافت ص ۶۵، ۶۶)

مگر عدالت میں فرماتے ہیں:

سوال..... کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے روحانی درجہ کا کوئی شخص آئندہ آسکتا ہے؟

جواب..... اس کا امکان ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آیا اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص مبعوث کرے گا یا نہیں۔
(عدالتی بیان)

۲..... عدالت سے قبل خلیفہ کا مندرجہ بالا عقیدہ کے خلاف یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو خاتم النبیین کے مرتبہ پر قائم کر کے آپ پر ہر قسم کی نبوتوں کا خاتمہ کر دیا۔

(بدر مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۱۱ء)

گو خلیفہ ۱۹۱۱ء میں ختم نبوت کے قائل تھے۔ مگر عدالت میں ذیل کا بیان دیتے ہیں:

سوال..... مرزا قادیانی نے پہلی مرتبہ کب کہا کہ وہ نبی ہیں؟

جواب..... جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے ۱۸۹۱ء میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔

(۱۸۹۱ء میں خلیفہ صاحب کی عمر دو سال تھی)

حالانکہ ۱۸۹۳ء میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

۱..... ”ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت رسول کریم ﷺ کا وصال ہوا تو زمین

چلائی کہ اے میرے رب میں قیامت تک کے لئے نبیوں کے آنے سے محروم کر دی گئی۔ پس

اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی فرمائی کہ تجھ پر میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جن کے قلوب انبیاء

کے قلوب سے مشابہ ہوں گے۔“ (تحفہ بغداد ص ۱۱، خزائن ج ۷ ص ۱۵)

۲..... ”حالانکہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور خدا تعالیٰ نے

آپ کا نام خاتم الانبیاء رکھا۔ پس کہاں سے آپ کے بعد نبی آسکتا ہے۔“

(تحفہ بغداد ص ۲۸، خزائن ج ۷ ص ۳۳)

۳..... ۱۹۵۳ء سے قبل عامۃ المسلمین کے متعلق خلیفہ کا عقیدہ تھا کہ: ”ہمارا فرض ہے کہ

غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے

ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔“

(انوار خلافت ص ۹۰)

مگر عدالت میں فرماتے ہیں:

سوال..... اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی پر واجبی غور کرنے کے بعد دیا شدہ

سے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ آپ کا دعویٰ غلط تھا تو کیا پھر بھی وہ مسلمان رہے گا؟

جواب..... جی ہاں!

سوال..... آپ نے اب اپنی شہادت میں کہا ہے کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ کیا شروع سے آپ کا یہی نظریہ رہا ہے؟

جواب..... ہاں!

۴..... ۱۹۵۳ء سے پہلے خلیفہ کا عقیدہ تھا: ”یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں۔“ (آئینہ صداقت ص ۳۵)

مگر عدالت میں فرماتے ہیں:

سوال..... کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو ان مامورین میں شمار کرتے ہیں جن کا ماننا مسلمان کہلانے کے لئے ضروری ہے؟

جواب..... میں اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ کوئی شخص جو مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا، دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (عدالتی بیان)

۵..... ۱۹۵۳ء سے قبل کسی غیر احمدی کی نماز جنازہ کے متعلق خلیفہ کا عقیدہ تھا کہ: ”اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی تو حضرت مسیح موعود کے منکر ہوئے۔ اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے۔ لیکن اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے۔ میں یہ سوال کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا اور کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ پس غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہے۔ اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔“ (انوار خلافت ص ۹۳)

مگر عدالت میں فرماتے ہیں: ”احمدیہ کریڈ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شخص حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو نہیں مانتا اس کے حق میں نماز جنازہ Infuctious (ناجائز) ہے..... اس سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر اپنے قلم سے لکھی ہوئی ملی ہے..... جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا ملکر یا مکذب نہ ہو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں حرج نہیں۔ کیونکہ جنازہ صرف دعا ہے۔“ (عدالت کے سات سوالوں کا جواب)

۶..... تحقیقاتی عدالت سے قبل خلیفہ صاحب کا عقیدہ تھا کہ: ”جو شخص غیر احمدی کو رشتہ دیتا

دیا جاسکتا ہے اور کبھی کسی نبی کا انکار بھی فروری اختلاف ہوا ہے۔ دراصل پہلے تمام اختلافات بنیادی تھے۔ مگر عدالت میں جا کر فروری ہو گئے۔ این چہ بو العجیبی است!

سوال کیا احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان اختلافات بنیادی ہیں؟

جواب اگر بنیادی کا وہی مفہوم ہے جو ہمارے رسول کریم ﷺ نے اس لفظ کا لیا ہے۔ تب یہ اختلافات بنیادی نہیں ہیں۔

سوال اگر لفظ بنیادی عام معنوں میں لیا جائے تو پھر؟

جواب عام معنوں میں اس کا مطلب اہم ہے۔ لیکن اس مفہوم کے لحاظ سے بھی اختلافات بنیادی نہیں بلکہ فروری ہیں۔

..... ۹ ۱۹۵۳ء سے قبل خلیفہ کا عقیدہ تھا:

..... ۱ ”کسی کا دل گردہ ہے جو یہ کہے کہ مسیح موعود کا ماننا جزو ایمان نہیں۔“

(الفضل مورخہ ۲۰ مئی ۱۹۱۳ء)

..... ۲ ”جب آپ نبی ثابت ہوئے تو آپ کا ماننا جزو ایمان ہوا..... الہا ما فرمایا جو شخص تیری

پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی

نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔“ (الفضل مورخہ ۶ مئی ۱۹۱۳ء، مجموعہ اشعارات ج ۳ ص ۲۷۵)

مگر عدالت میں فرماتے ہیں:

سوال کیا ایسا شخص جو ایسے نبی کو نہیں مانتا جو رسول کریم ﷺ کے بعد آیا ہو۔ اگلے جہاں میں

سزا کا مستوجب ہوگا۔

جواب ہم ایسے شخص کو گنہگار تو سمجھتے ہیں۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا یا نہیں۔ اس کا

فیصلہ کرنا خدا کا کام ہے۔

سوال تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانا جزو ایمان ہے؟

جواب جی نہیں۔

(عدالتی بیان)

خلیفہ ربوہ کے دونوں مذہب اوپر بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اب قارئین کرام از خود

اندازہ لگالیں کہ عدالت سے پہلے خلیفہ کا کیا مذہب تھا اور عدالت میں جا کر کیا ہو گیا؟ اتنے واضح

بیانات پر ہمارے کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَدْرَسَةُ اَلْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّةِ
بِیْرُطْنِیَّةِ

خلیفہ ربوہ کی مالی بے اعتدالیاں



جناب سبط انور، رکن حقیقت پسند پارٹی

تعارف

رسالہ ہذا میں ایک ایسے شخص کی مالی دراز دستیوں کا محل احوال بیان کیا گیا ہے جس کے روحانی خطابات کی لہرست طویل ہے اور مجملہ ان خطابات کے وہ فضل عمر ہونے کا مدعی ہے۔ مریدوں کا ایمان ہے کہ اس کی آمد سے گویا (نحوہ اللہ) خود خدا تعالیٰ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ یہ پراسرار شخصیت تقدس مآب خلیفہ ربوہ ہے جس کی ذاتی کردار اور شہرت کی وجہ سے ایک خالص روحانی تحریک یعنی تحریک احمدیت اپنے ملک میں اس قدر بدنام و مشتبہ ہو گئی کہ اس سے ملک کا ہمیدہ طبقہ حیران و بدعن ہو گیا۔ جس کے چلن کی آلودگی کے بارے میں اس کے اپنے مریدوں کی حلیفہ مؤکدہ اب شہادتیں متواتر پریس میں آرہی ہیں۔ جس نے پروپیگنڈا تکنیک سے ایک پوری قوم کی ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج و ناکارہ کر کے رکھ دیا اور صرف ایک صلاحیت باقی رہنے دی کہ گردش لیل و نہار صرف اور صرف خلافت مآب کی خاطر برپا کی گئی ہے۔ جس نے کروڑوں روپیہ غریب قوم سے وصول کیا اور اس کا بیشتر حصہ ذاتی عیش و آرام پر خرچ کر دیا جس کو رات دن اسلام کے جھنڈے گاڑنے کی فکر رہتی ہے اور جس نے ایسے درباری مولوی تیار کئے کہ جنہوں نے یوگل اور فرائیڈ کے فلسفہ کے پرچھے نفا میں اڑا دیے اور یورپ پر ایسی پلغار کی کہ عرصہ قریباً پچاس سال میں ایک بھی معروف و مشہور شخصیت حلقہ بگوش اسلام نہ ہو سکی۔ رات دن یہ درباری مولوی خلافت مآب کے فلک بوس مقام کی رفعت مظلوم کرنے میں سرگرداں ہیں مگر بیکار۔ تا حال انہیں ان کے ارفع و اعلیٰ مقام کی انتہاء نظر نہ آئی۔ خلافت مآب کا یہ گراڈیل بت جسے کہ خود ساختہ قواعد و ضوابط کے ذریعہ موروثی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو کہ ایک قوم کی پچاس سالہ کدو کاوش کا سرمایہ ہے۔ آج مفلوج ہو چکا ہے۔ اس خود تراشیدہ گرتے ہوئے بت کو اب کون سنبھالا دے ایک طرف انسانی تمدن ہے۔ دوسری طرف خدائے جبار و قہار کی تقریر۔ شاید کہ مکافات کا وقت آن پہنچا۔ فی الحال ہم قارئین کو اس کی مالی دراز دستیوں کا محل احوال بیان کر رہے ہیں اور اس کی مذہبی حیثیت کو سمجھنے کے لئے انہیں رسالہ ”بلائے دمشق“ اور ”خلافت اسلامیہ“ کے پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ فقط!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

ساتھ روپے کا وظیفہ خوار

روحانی مصلحین اور پاک باز اور بے لوث قائدین قوم کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی لیڈری اور قیادت سے دشمنی لحاظ سے قطعاً کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس عہدہ کے بعد اور اس کی وجہ سے وہ کوئی جائیداد نہیں بناتے۔ وہ "لا اسئلكم علیہ من اجب" کی عملی تفسیر ہوتے ہیں۔ پاک محمد مصطفیٰ ﷺ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے تمام عمر قوم کے رویہ سے ایک جہ کی جائیداد بھی نہ بنائی بلکہ اپنی ورثہ کی جائیداد اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا لاکھوں کا کاروبار دین کی راہ میں صرف کر دیا اور عمر بھر نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وفات کے وقت اتنا بھی پاس نہ رکھا کہ آخر عمر میں بھدرایام مرض ہا رام زندگی بسر کرتے۔ بوقت وفات دریافت فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ایک دینار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو۔

(بحوالہ الحکم مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۸۹۸ء)

"نہ آپ مال جمع کرتے نہ کھانے میں تکلف نہ پہننے میں، نہ آپ کوئی مکان بناتے ہیں، نہ کوئی جائیداد مہیا کرتے ہیں۔ نہ اپنے لہس کا اعزاز چاہتے ہیں یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کی آمد پر کھڑے ہوں۔ خاکساری ایسی کہ گدھے پر بغیر کاشی سواری کر لیتے ہیں۔ اپنی جوتی خود کاٹھ لیتے۔ مجلس میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اپنے خاندان سے کسی کو اپنے بعد سلطنت کے لئے منتخب نہ فرمایا۔"

(الفضل مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۳ء)

ان ایام جدال و قتال میں زرہ نہایت ضروری سامان حرب تھا۔ لیکن وہ بھی جو کے چند سیردانوں کے عرض رہن تھی۔ باقی رہی اولاد اسے بھی زکوٰۃ اور صدقہ لینے سے منع کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ" محمد رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے نمونہ اور اسوۃ حسنہ ہیں۔ آئندہ دنیا کی نجات کسی عبدالقادر، کسی داؤد، کسی ہارون الرشید، کسی خلیفہ سلیمان، کسی زید و بکر کی راہ کے اختیار کرنے میں نہیں۔ بلکہ متابعت کے لائق اگر کوئی ہے اور رہبری اور نمونہ کا کام کوئی دے سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ﷺ کی پاک اور مطہر ذات ہے۔ پھر فرمایا: "ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ (آل عمران: ۳۲)" آج اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا ذریعہ محمد رسول اللہ کی متابعت اور پیروی ہے اور کسی

کے متعلق معلوم کرنا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب ہے یا نہیں تو یہ دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، اس کی سادگی اس کے مالی معاملات وغیرہ اس ذات اقدس و اطہر کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر دیکھو کہ رسول اللہ ﷺ کا طریق اور تھا اور اس شخص کا اور، آپ ﷺ کا انداز رہائش سادہ تھا اور دوسرا عیش و عشرت کی راہوں پر گامزن ہے تو اس شخص کے ہزار دعوؤں، ہزار تلقیوں اور ہزار کسوف و روڈیا کی فراوانیوں کے باوجود یقین رکھو کہ وہ جھوٹا ہے۔ لاف زن ہے۔ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور ابلہ فریبی سے کام لینا چاہتا ہے۔

آئیے! اس معیار پر ہم جناب خلیفہ ربوہ محمود احمد صاحب کی زندگی کو جانچیں اور دیکھیں کہ یہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا مقرب و محبوب ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ: ”اس زمانہ کا مصلح میں ہوں اور اس وقت اسلام کی ترقی خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔“ (الفضل سورہ ۵ جنوری ۱۹۳۷ء) اور میرے لئے اتنے نشانات ظاہر ہوئے ہیں کہ اولیاء امت میں سے کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئے۔ (الفضل سورہ ۱۰ بحوالہ خلیفہ ربوہ کی مالی بے اعتدالیوں ص ۵)

خود یہ اپنے دعوؤں میں کس حد تک سچا ہے اور اس کی عملی زندگی پاک محمد مصطفیٰ ﷺ کے اسوۂ حسنہ سے کس حد تک مطابق رکھتی ہے۔ اس وقت ہم اس شخص کی سادہ زندگی اور مالی حالت کو لیتے ہیں۔ رہن سہن کا طریق اور انداز بو دو ماند کوئی مٹھی چیز تو ہے نہیں جس کے لئے بڑے دلائل اور براہین کی ضرورت ہو۔ ہر شخص آسانی سے اسے دیکھ سکتا اور پرکھ سکتا ہے۔ خلیفہ صاحب کی غذا ان کا لباس، ان کا مکان، مکان کا فرنیچر اور طرز رہائش پر نظر کرو۔ آپ کو نظر آئے گا کہ خلیفہ صاحب خوش خور و خوش لباس ہیں۔ کوشیوں میں رہتے ہیں۔ موٹریں رکھی ہوئی ہیں۔ گری کی معمولی تپش انہیں رول کر دیتی ہے۔ ہمیشہ شملہ، ڈلہوزی، پالم پور، کانگرہ، منالی، دھر مسالہ، منصورہ، مری، جابہ وغیرہ میں گرمیاں بسر کی ہیں۔ بلکہ پہاڑوں اور ٹھنڈے مقامات پر ہزاروں اور لاکھوں کے صرف سے کوشیاں بھی بنواتے رہے ہیں۔ ڈلہوزی میں کوشی تھی ”وارالفضل“۔ اب جابہ (خوشاب) خالص قوی روپیہ سے محض اپنے عیش و آرام کے لئے کوشی بنوائی ہے۔ معمولی مکان آپ کو کفایت نہیں کرتا۔ خوش نما اور خوش وضع بنگلے ہونے چاہئیں۔ ضروری ہے ساتھ پائیں باغ بھی ہوں۔ ربوہ میں لاکھ روپیہ کے متجاوز خرچ سے جو مکان قوی روپیہ سے اپنی رہائش خاص کے لئے بنوارکھا ہے اس کے متعلق متعدد بار انجمن کو کہہ چکے ہیں کہ اس کے ساتھ میری بیویوں کی تفریح کے لئے باغ تیار کرنے کی طرف توجہ دی جائے۔ ورنہ ان کی صحت کا کون ضامن ہوگا۔ خود ان کے خاندان کی خواتین کے انداز آرائش و زیبائش اور ہار و ستہارا اور نئے نئے چیزاتوں کے خریدیں اور

رہنشی لباسوں پر ہزاروں کا صرف ہے۔ مکانات نہایت اعلیٰ اور بیش قیمت ساز و سامان کے ساتھ مزین ہیں۔ رہنشی پردے لٹک رہے ہیں۔ قیمتی ٹائیپے بچھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائن کے صوفے موجود ہیں۔ میٹل پیس عجیب عجیب نوادرات سے بھرے پڑے ہیں۔ خواب گاہیں عیش و عشرت کے سامانوں سے مخمور ہیں۔ ڈرائنگ روم سجے بنے ہوتے ہیں۔ سلیپے کا نہ ہونا اور بات ہے..... سوال تو صرف کا ہے۔ ہزاروں احمدی ہیں جن کی گردنیں شرم سے منکسر ہو گئیں۔ جب ان کے غیر احمدی رشتہ داروں اور عزیزوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کی سادگی اور خلیفہ صاحب کی سادگی پر دوغظ کو خلیفہ اور ان کے گھر کی عملی حالت پر پیش کیا۔ ”لم تقولون مالا تفعلون“

جناب خلیفہ صاحب کی بیویاں چار ہیں۔ لیکن مکان جو قوی روپیہ سے بنوانے ہیں پانچ ہیں۔ ابھی پیچھے کراچی میں بقول ان کے صدر مملکت سے بھی زیادہ کروڑوں والی کوشی قومی خرچ سے تعمیر کروائی گئی ہے۔ یہ وہی کوشی ہے جس کے ایک آدھے کمرہ میں امیر جماعت احمدیہ کراچی نے چند دن کے لئے اپنا رہائشی سامان رکھنا تھا تو خلیفہ نے ایک جلابی خلیفہ دے دیا تھا کہ ان لوگوں کو میری کچھ پرداہ نہیں۔ اب میں اپنی بحالی صحت کے لئے جو کراچی جانا چاہتا ہوں کہاں جا کر رہوں۔ سفروں کا بھی خلیفہ کو بڑا شوق ہے۔ قادیان سے سندھ وہاں سے کراچی، کراچی سے بمبئی، بمبئی سے حیدرآباد، حیدرآباد سے آگرہ، آگرہ سے دہلی، دہلی سے قادیان۔ یہ ایک سفر ہے۔ دو دفعہ یورپ و انگلستان کی سیاحت ہو چکی ہے۔ ہر سال شملہ، ڈلہوزی، مری، کانگرہ، منالی، دھر مسالہ، جابہ وغیرہ کسی نہ کسی پہاڑ پر جاتے ہیں: ”لاہور تو قادیان کا محلہ بنا رہا۔ یہاں اکثر یہی آتا ہوں۔“

(الفضل مورخہ ۱۵ فروری ۱۹۳۳ء)

لیکن تعالیٰ یہ ہے کہ میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ حتی الوسع مرکز نہیں چھوڑوں گا۔ خلیفہ کے کچھ سفر تو وہ ہیں جن کا ذکر اخبارات میں آتا رہتا ہے۔ لیکن انداز سیاحت نرالے ہیں۔ کچھ سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر اخبارات میں نہیں آتا۔ چنانچہ الفضل لکھتا ہے: ”مہمات دینیہ میں دن رات مصروف رہنے کے بعد حضور کی صحت بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو مجبوراً حضور بحالی صحت کے لئے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ تاکام کا بار کسی قدر ہلکا ہو کر کسی قدر قوت حاصل ہو۔ پس حضور کے کسی مختصر سے سفر کا جو صرف بحالی صحت کے لئے کیا جاتا ہے عام اعلان نہ ہونے کی یہ وجوہات ہیں۔“

(الفضل مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۳۵ء)

دوبار یورپ کی سیاحت کے لئے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ایک دفعہ ۱۹۳۳ء میں مغرب کو فتح کرنے، دوسری دفعہ ۱۹۵۵ء میں اپنے فالج اور بعض دوسری پوشیدہ امراض کا علاج

کردانے، ہر دفعہ اپنے ساتھ ہزاروں ہزار روپیہ کا سامان لائے اور کشم سے بچنے کے لئے بیسیوں حیلے کئے۔ اس سامان میں یورپ کے نوادرات، لندن سے نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے، سوئٹزر لینڈ کے کلاک اور رسٹ واچیں، جرمنی کی استریاں اور سلاوی کی مٹھینیں، ہالینڈ سے لیدر بیک اور دیگر مختلف النوع چمڑے کے بکس، دمشق سے سونے کے زیورات اور مختلف جگہوں سے مختلف سامان بلکہ موٹریں تک بھی شامل ہیں۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس کی متاثر زندگی کا آغاز ۶۰ روپے ماہوار کے وظیفہ سے ہوا۔ مجلس مشاورت ۱۹۵۷ء کے موقع پر سنرا امریکہ کی بجنگ ابھی جماعت کے کانوں میں ڈال دی گئی ہے۔ تو امید ہے ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ اس صورت حال پر نظر ڈالو اور یہ بتاؤ کیا یہ ایک پاکہاز، بے لوث، دنیا سے منقطع انسان کی زندگی کا روپ ہے؟ یہ طریق رہائش، یہ انداز بود و ماند، یہ بیویوں کی تن آسانیاں، یہ متاع الحیاۃ الدنیا کی فراوانی۔ یہ شاہد، یہ پیش و عشرت کی زندگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسوۂ نبوی ﷺ کی پیروی میں ہیں۔ خلیفہ کو حضرت عمر کا مثیل بلکہ فضل عمر کہلانے کا بواشوق ہے۔ نور ہسپتال کے نام کو بدل کر فضل عمر ہسپتال کا نام دے کر شاہد انہوں نے بڑی آسودگی پائی ہوگی۔ لیکن کیا وہ یہ سب کچھ بھول گئے ہیں کہ عمر فاروقؓ وہ بادشاہ تھا جس کے کپڑوں میں بیسیوں پیوند تھے۔ جس کی گذر نان جویں پر تھی۔ ابو بکرؓ عثمان اور علیؓ کی زندگی کی کتنی سادہ تھی۔ یہی پاکہازانہ، سادہ اور دنیوی آلائشوں سے منقطع زندگی حضرت مسیح موعودؑ کی اور حضرت حکیم الامت علامہ نور الدین کی بھی تھی۔ آپ کو دیکھنے والے ابھی ہزاروں زندہ ہیں۔ ان سے پوچھ کر دیکھو وہ خلیفہ کے مقابل آپ کو بتائیں گے:

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

خلیفہ کی پستی، کہتری، دولت اور تر دامن کا اس سے بھی زیادہ کمزور پہلو یہ ہے کہ یہ سب شاہد ہا شاہد جماعت سر پر ہیں۔ گھر کی جائیداد کے وسیلے سے نہیں بلکہ قوم کے سر پر کیا گیا ہے۔ اس ناپاک زندگی کے لئے قوم کی جیبوں سے روپیہ لٹکوا لیا گیا ہے۔ مختلف آنے بھانے کر کے متنوع تدبیریں اختیار کر کے رہن و قرض کے پردے رکھ کر اور ڈرافٹ تک نوبت پہنچا کر بلکہ کاسہ گدائی ہاتھ میں لیتے ہوئے ان سب دنیوی اغراض کے لئے روپیہ مہیا کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ قوم کا امام اور خلیفہ بننے کے بعد میسر آیا۔ قادیان اور اس کے ملحقہ دیہات کی ملکیت، تعلقہ داری، ذخیل کاری اور وراثت کے بلند بانگ دعاوی سب پر فریب ہاتھ ہیں۔

بد حالی یا تقسیم مالی حالت

مسح موعودؑ کیسے ایک روحانی انسان تھا۔ انہیں دنیا داری سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اپنے والد

صاحب سے فرمایا کرتے: ”دو جوڑے کھدر کے اور معمولی روٹی مل جائے کافی ہے۔“
 اخبار الفضل کے الفاظ میں ہی سنو۔ مسیح موعود کے والد ماجد کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے: ”اس کا چھوٹا بیٹا (مسیح موعود) دنیا سے زیادہ سے زیادہ کنارا کش ہوتا چلا گیا اور اہل دنیا سے ہمیشہ از ہمیشہ بختل اختیار کرتا چلا گیا۔ وہ دن کو چھ ماہ تک روزوں کو خشوع و خضوع میں بھری ہوئی نمازوں میں اس قدر محو ہوتا کہ اگر کوئی شخص اس کے باپ سے پوچھتا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا کہاں ہے تو وہ نہایت افسردگی سے کہتا کہ جاؤ دیکھو وہ مسجد میں ہوگا۔ اگر وہاں نظر نہ آئے تو مسجد کے ستادہ کی ٹوٹی میں ہوگا یا وہاں نہ ملے تو کہیں کوئی شخص مسجد کی صف میں نہ لپیٹ گیا ہو۔ اللہ اکبر! یہ تھی اس دنیا دار اور ربیوں کے بیٹے کی حالت اور یہ تھا اس کا اطلاق الی اللہ! کہ اس نے جلوت کو چھوڑ کر محض خدا کے لئے خلوت اور سیاست کا خیال چھوڑ کر محض خدا کی چاکری اور امارت کے حصول کے منصوبے چھوڑ کر محض خدا کے لئے غربت اختیار کی۔“ (الفضل مورخہ ۲۹ جنوری ۱۹۲۹ء)

غرض مسیح موعود نے دنیا داری کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ بس آخر دم تک وہی جائیداد رہی جو آباؤ اجداد سے ورثہ میں ملی تھی۔ بلکہ دینی کاموں میں صرف کر کے اور بہشتی مقبرہ وغیرہ کے لئے اراضی دے کر اس میں معتد بہ کمی آچکی تھی۔ آباؤ اجداد سے کل جائیداد جو آپ کے حصہ میں آئی تھی اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ دس ہزار روپیہ تک تھی اور یہی وہ رقم ہے جس کا آپ نے براہین احمدیہ کے اشتہار میں ذکر کیا ہے۔ (الفضل مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۳۳ء)

پھر حضور فرماتے ہیں: ”اگر وہ امور ضعیفہ کے ظاہر ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے میں میرا مقابلہ کر سکا تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تمام جائیداد غیر منقولہ جو دس ہزار روپیہ کے قریب ہوگی۔ اس کے حوالے کر دوں گا۔“ (آئینہ کلمات اسلام ص ۲۷۶، خزائن ج ۵ ص ۱۵۱)

اور اس ساری جائیداد سے جو سالانہ آمدنی ہوتی تھی اس کی تحصیل یہ ہے جسے حضور علیہ السلام نے اپنے ایک خطی بیان میں لکھوایا۔

.....	۱۰	روپے
.....	۳۰۰	روپے
.....	۵۰۰	روپے
.....	۸۸۲/۱۰	روپے

میزان
 اس کے علاوہ آپ کی کسی قسم کی آمدنی نہیں تھی اور قومی آمدنی آپ کے ذاتی خرچ میں نہیں آتی تھی۔ (ضرورت الامام ص ۳۵، خزائن ج ۳ ص ۵۱۶)

اب دیکھیے یہ خود خلیفہ کے والد مرزا قادیانی کا اپنا حلقی بیان ہے۔ مرزا قادیانی جب فوت ہوا تو اس کی جائیداد کے شرعی وارث حسب ذیل تھے۔ ایک بیوی، چار لڑکے اور دو لڑکیاں۔ لڑکوں میں سے مرزا سلطان احمد کو بوجہ اس جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا گیا اور باغ بیوی کو حق مہر وغیرہ کے سلسلہ میں مل گیا۔ بلکہ دراصل یہ مرزا قادیانی انہیں اپنی زندگی میں ہی دے چکے تھے اور چند ہائٹی مکانات کے علاوہ بالکل معمولی سی زمین خلیفہ کے حصہ میں آئی جو دو روپیہ مرلہ کی بھی نہ تھی۔ (الفضل مورخہ ۱۱ فروری ۱۹۴۷ء)

اس طرح دو ہزار روپیہ سے بھی کم جائیداد خلیفہ کے حصہ میں آئی۔ بہر حال جو کچھ بھی خلیفہ کے حصہ میں آیا اس سے اتنی آمد بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ خلیفہ کی روٹی بھی چلے۔ قادیان کے سوا پہلے ہی کوئی جائیداد نہ تھی۔ (الفضل مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۵۸ء)

اس صورتحال کو دیکھ کر رشتہ داروں نے سازشیں شروع کر دیں کہ جماعت کے چندہ پر اپنا استحقاق جتایا جائے۔ (الفضل مورخہ ۸ نومبر ۱۹۵۸ء)

اگر اس وقت کسی خادم، کسی اللہ دتہ، کسی جعفراتی مولوی وغیرہ کا انجمن کے انتظام والصرام میں دخل ہوتا تو شاید سازش کا میاب ہو جاتی اور خاندان مسیح موعود کی عزت و حرمت کے واسطے دے دے کر وہ اس سلسلہ کو آج سے بہت پہلے تباہ کر چکے ہوتے اور پورا کا پورا الہی سلسلہ کسی پیر کی خانقاہ اور کسی فقیر کے تکیہ میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ جس کے مجاور اس خاندان کے لوگ ہوتے اور نذر و نیاز کی آمد حصہ رسدی تقسیم کر لیا کرتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور مسیح موعود کے ان خادموں کو جو اس وقت اس سازش کو ناکام بنانے کا موجب بنے، اتنا بڑا کارنامہ ہے جو رتی دنیا تک یاد رہے گا۔ پھر خلیفہ ویسی ہی ریشہ و انبوں میں منہمک ہیں۔ پھر اس سلسلہ کو اپنے خاندان کی جاگیر بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے سلسلہ کی حفاظت فرمائے گا۔ سحر کی یہ رسیاں آخر بے حقیقت ثابت ہوں گی۔ خلیفہ کا یہ اقتدار اور ان کے چند بے قیمت کاسہ لیسوں کا یہ گٹھ جوڑ اپنی موت مر جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ الہام بہر حال پورا ہوگا: ”یصلح اللہ جماعتی انشاء اللہ“ اللہ تعالیٰ میری جماعت کی انشاء اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا۔ (تذکرہ ص ۶۷، طبع سوم)

یہ الہام بتاتا ہے کہ جماعت میں ایک بگاڑ مقدر ہے۔ لیکن انجام بخیر ہے۔ یہ الہام خلیفہ اول کی ٹوٹ بک سے دستیاب ہوا ہے اور آپ کے اپنے قلم مبارک کا لکھا ہوا ہے۔ ہم بتا رہے تھے کہ مرزا قادیانی کی جائیداد سے جو حصہ خلیفہ کو ملا وہ برائے نام تھا اور

حضور کی وفات کے وقت خلیفہ بالکل بے زرتھا۔ ان کی جائیداد ان کے گزارہ کے لئے بھی کفایت نہ کرتی تھی۔ جسے دیکھ کر ان کے بعض رشتہ داروں نے قومی بیت المال پر ہاتھ ڈالنے کی صورتیں تجویز کرنا شروع کر دیں۔ دیکھئے کہ کس طرح خلیفہ خود اپنی سقیم حالت کے مقرر ہیں۔ فرماتے ہیں:

”سبح موعود فوت ہوئے تو بظاہر گزارہ کی کوئی صورت نہ تھی۔“ (الفضل سورہ ۸ نومبر ۱۹۳۹ء)

اس وقت آپ کا گزارہ صرف ساٹھ روپیہ ماہوار کے وظیفہ پر تھا جو نور الدین کے ایماء پر صدر انجمن احمدیہ قادیان کی طرف سے آپ کے لئے مقرر کر دیا گیا تھا یا اس امداد پر تھا جو ان کے والد کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے خلیفہ اول وقتاً فوقتاً برابر کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس ساٹھ روپے کے وظیفہ سے (جو ۱۹۰۸ء میں مقرر ہوا) اور گاہے بگاہے کی امداد سے مرزا محمود احمد کوئی جائیداد نہیں بنا سکتے تھے اور گو خلیفہ اول نے انہیں انجمن کا صدر بنوادیا تھا۔ لیکن اس عظیم انسان کی موجودگی میں کسی قسم کا خورد و نامکن تھا۔ چنانچہ ۱۹۱۲ء میں جب خلیفہ نے حج کیا تو اس کا خرچ بھی صدر انجمن احمدیہ نے دیا تھا اور کچھ وہ امداد بھی گئی جو حضرت سینٹھ ابو بکر آف جدہ نے دی۔

۱۹۱۳ء میں جب خلیفہ نے پیغام صلح کے مقابلہ میں الفضل جاری کرنا چاہا تو ان کے پاس کوئی روپیہ نہ تھا وہ ستاساں تھا۔ لیکن اس معمولی تیسرے درجہ کے اخبار کے لئے بھی جو اس وقت ہفتہ واری تھا، خلیفہ تمبی دست اور بے مال وزرتھے۔ ان کی بڑی اہلیہ نے بقول خلیفہ اس امر کو جانتے ہوئے کہ اخبار میں روپیہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے کنوئیں میں پھینک دینا اور خصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والا محمود ہو..... اپنے دونوں زیور مجھے وے دیئے کہ میں ان کو فروخت کر کے اخبار جاری کر دوں۔ (الفضل سورہ ۳ جولائی ۱۹۲۶ء)

اسی طرح فرماتے ہیں: ”میں نے جب الفضل جاری کیا تو اس وقت میرے پاس پیسہ نہ تھا۔ حکیم محمد عمر میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں آپ کو کچھ خریدار لادیتا ہوں اور تھوڑی دیر میں ایک پونڈی روپوں کی وہ میرے پاس لے آئے۔“ (الفضل سورہ ۲۳ مارچ اپریل ۱۹۳۷ء)

قطع نظر اس کے کہ ۱۹۲۳ء میں خلیفہ نے الفضل کے اجراء کی جو کہانی بتائی اور جس میں انہوں نے اپنی بیوی کے کڑوں کی فروخت کا ذکر کیا تھا۔ اس میں حکیم محمد عمر والی پونڈی کا کوئی ذکر نہیں تاہم دونوں حوالوں سے یہ ظاہر ہے کہ خلیفہ کی مالی حالت اس وقت بڑی سقیم تھی۔ ۱۹۱۳ء میں خلیفہ صاحب کی مالی حالت یہ تھی کہ فرماتے ہیں: ”پیغامیوں کے خلاف پہلا اشتہار جاری کرنے کے لئے میرے پاس روپیہ نہ تھا۔“ (الفضل سورہ ۲۳ مارچ اپریل ۱۹۵۷ء)

خلاصہ کلام یہ کہ سبح موعود کی جائیداد سے خلیفہ کو جو حصہ ملا وہ برائے نام تھا اور حضور کی

دقات کے وقت وہ بالکل بے ذر تھے۔ ان کی جائیداد ان کے لئے بھی کفایت نہ کرتی تھی۔ شاید کوئی خیال کرے کہ اس معمولی جائیداد کو انہوں نے دن رات محنت کر کے ترقی دے لی ہوگی۔ لیکن نہیں۔ یہ ”غریب“ تو عمر بھر مہمات امور دینیہ میں اپنا سارا وقت دیتا رہا اور اپنے ذاتی معاملات کی طرف توجہ دینے کے لئے ایک لمحہ بھری بھی اسے فرصت میسر نہیں آئی۔ بلکہ سوتے ہوئے بھی قوم کے کاموں میں مصروف رہتا۔ کیونکہ اس وقت بھی قوم کے لئے خواہیں دیکھتا۔ عمر بھر میں ملازمت نہیں کی۔ جو دنیوی علوم پڑھے ہوئے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ دراصل پرائمری بھی پاس نہیں۔ میٹرک تک رعایتی ترقی دیئے جاتے رہے۔ باقی رہی کاروباری قابلیت وہ جیسی کچھ تھی وہ بیوی کی زبان سن چکے ہو۔ جو سب سے بہتر اور درست فہم ہوتی ہے۔

”اس امر کو جاننے ہوئے کہ اخبار میں روپیہ لگانا ایسا ایسی ہے جسے کنوئیں میں پھینک دینا اور خصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والا محمود.....“ (الفضل مورہ ۲۳ مارچ ۱۹۳۰ء)

علاوہ ازیں مہلی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۹۰۸ء سے لے کر جب تک موجود کی دقات ہوئی ۱۹۱۳ء تک، جب کہ یہ خود سر پر آئے خلافت ہوئے۔ ان کی مالی حالت نہیں سدھری، مگر کا معمولی گزارہ تھا۔ لیکن جب یہ خود خلیفہ بن جاتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی مالی حالت میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے! جس خاندان کی جائیداد اتنی بے حیثیت ہو اور جس شخص کو وراثت میں اتنا بھی نہ ملا ہو کہ وہ گزارا دقات کر سکے اور جو عمر بھر مہمات امور دینیہ میں اپنا سارا وقت دے رہا ہو اور اسے اپنے ذاتی معاملات میں وقت صرف کرنے کے لئے ایک لمحہ کی بھی فرصت نہ ہو اور وہ ایسی طاقتور شخص کی زندگی بسر کرتا ہو جس کا ماہانہ خرچ ہزاروں سے تجاوز ہو۔ جس کی کروڑوں کی جائیداد بن چکی ہو اور جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر صرف مشرقی پنجاب میں چھوڑی ہوئی جائیداد کے لئے کروڑوں روپیہ کا کلیم داخل کرتا ہے۔ اس کی دیانت اور امانت کے حقائق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مذہب کی آڑ میں جلبِ ذر کے حیرت انگیز مناظر آگھوں کے آگے نہیں آجاتے۔ مرہوں کے گھوکھانہ پیہ کے مصارف کی توجیہ کچھ میں نہیں آجاتی اور معلوم نہیں ہو جاتا کہ خلیفہ کی گدی اور حقیقت گھس لے رہے ہیں اور حانیت، احمدیت، ناشاعت اسلام اور قرآن و مساجد کی آڑ میں جلبِ ذر کا ایک ڈھونگ ہے؟

سوچنے کی بات ہے کہ ایک بالکل بے مال و ذر سا شخص روپیہ کے خلیفہ خواہاں یہ حال کہ ربوہ میں ڈیڑھ دو جن سے زائد کوٹھیاں بنوا چکا ہے۔ سندھ میں لاکھوں کے مرتبے موجود ہیں لیڈر ایشیہ افریقین کمیٹی لیڈر، الشریک الاسلامیہ لیڈر، دی اور ٹیل رینس کارپوریشن، کرائی لیڈر، پھر مولانا پٹن،

اسلامک سٹیم شپ کمپنی لمیٹڈ، آئی سی ڈی سی لمیٹڈ، سٹیٹ بینک آف پاکستان، نیشنل بینک آف پاکستان، سندھ جنٹل فیکٹری کٹری وغیرہ میں بیٹوں اور دامادوں کے نام لاکھوں روپیہ کے حصص ہیں۔ خلیفہ میں ایمانی جرأت ہے تو بذریعہ اعلان عام مشتہم کر دیں کہ ان کمپنیوں یا تمام دوسرے کاروباروں میں میرے بیٹوں اور دامادوں کے نام سے جتنا روپیہ لگا ہوا ہے میرا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ نہ میں نے وہ ادا کیا اور نہ میرا اس سے کوئی واسطہ ہے اور وہ کلیتہً ان حصص اور ان کی رقم کے ذاتی طور پر مالک نہیں اور میرا ان پر کوئی کلیم نہیں۔ تا حقیقت حال کا اظہار ہو جائے۔

دعویٰ معطل عمر ہونے کا ہے اور عملی زندگی اس پاکہا ز اور بے لوث انسان سے قدم قدم پر مختلف ہے۔ عیش و عشرت پر ہزاروں ہزار روپیہ کا صرف ہے۔ یہ سارا روپیہ کہاں سے آیا ہے۔ ساتھ روپیہ کا وظیفہ خوار آج کارڈ زہتی کہاں سے بن گیا؟ دن رات اسے قوم کا لکڑ کھائے جا رہا ہے۔ شب و روز حضور امور روپیہ کی سرانجام دہی میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن لکھشی دیوی ہے کہ قدموں میں بھیجی جا رہی ہے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جموگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو اسی طرح نوازتا ہے۔ مصلح موعود نے صاحب عزت و دولت ہونا تھا۔ درست ہے۔ لیکن کیا مکاریوں، دھوکہ دہیوں، فریب کاریوں، ٹھین اور دوسروں کے اموال میں خود بے دردی کے قومی روپیہ میں ذاتی تصرفات، اور ڈرافٹ کے ذریعے سے یہ عزت و دولت حاصل کرنا تھی۔ لعنت ہے ایسی عزت اور ایسی دولت پر۔ وہ زمانے لہ گئے اب اس قسم کی لفظی مکاریوں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ سب قوم کا روپیہ ہے۔ یہ سب ٹھاٹھ باٹھ اور کس بل غریب جماعت کے گاڑے پسینے کی کماٹی ہے۔ یہ اشاعت اسلام اور تعمیر مساجد کے نام پر دیئے ہوئے چندوں کا ظہور ہے۔ نور کی بارش، ریزرفنڈ اور امانت فنڈ کے بادلوں سے برسی ہے۔ جسے فنی و مخفی کملی جلساڑیوں، مسلسل ٹھین اور کھلے طور پر حاصل کردہ رقموں اور نذرانوں، دعا کے وعدوں اور قرضوں کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔

گورنمنٹ کا ملازم جب معمولی ذرائع رکھتے ہوئے جائیدادوں کا مالک بنتا ہے تو اس کی تنقید کی جاتی ہے۔ لیکن ساتھ روپیہ کا وظیفہ خوار کرڈوں کا مالک بن چکا ہے لیکن انوں بہانوں سے اپنا اثنا حساب کر دانے سے اجتناب کر رہا ہے۔

حضرت عمرؓ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو کسی شخص نے بڑی جرأت اور دلیری سے کہا کہ خطبہ کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنی پوزیشن کو صاف کیجئے۔ اس قسم کا کپڑا جو آپ پہنے ہوئے ہیں، کہاں سے آیا۔ بظاہر حالات آپ کے پاس اس کے آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بات

معقول ہے۔ ایک قائد کا اولین فرض ہے کہ وہ قوم کے ذہن میں پیدا ہونے والے اعتراضات کو صاف کرتا رہے اور جب اس کی ذات زیرالزام آجائے تو ممکن ذریعہ سے جلد از جلد اپنی پوزیشن صاف کر لے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس وقت اس شخص کو منافق کہہ کر بٹھانہیں دیا۔ اس کا ہائیڈرکٹ نہیں کروایا۔ لوگوں کی غیرت کو نہیں ابھارا کہ اس سے سلام و کلام منقطع کریں اور نفرت و حقارت کا اظہار کریں، ریزولیشن پاس کریں اور اخلاص نامے بھجوائیں۔ بلکہ اس وقت بڑے پیار اور وضاحت کے ساتھ اپنی پوزیشن صاف کر دی۔ یہ نہند نام زنگی کا فور کا مصداق، حضرت عمرؓ سے بھی افضل کہلاتے۔ گزشتہ تینتالیس سال سے قوم کا روپیہ مختلف طریقوں سے کھا رہا ہے۔ لیکن کسی کھلی تحقیقات کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ اپنی عیاری سے قوم کے ذہنوں میں یہ تصور بٹھانا چاہتا ہے کہ میں قوم پر بار نہیں۔ میری وجہ سے بیت المال مقروض نہیں۔ بلکہ میں تو خود قوم کی امداد کرتا رہتا ہوں اور حساب کر کے ”لا تبطلو صدقاتکم بالمن“ اگر کوئی چندہ دیا بھی ہے تو اسے اکارت کر کے بتاتا رہتا ہے کہ اب تک میں اتنا چندہ دے چکا ہوں اور اب تک اتنا چندہ۔ ہمارا خیال ہے کہ لاکھوں کی جماعت میں سے شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو اپنے عمر بھر کے چندوں کو جمع کرتا ہو اور جماعت میں ان کا ڈھنڈورہ پینٹا رہتا ہو۔ لیکن یہ شخص بار بار کہتا رہتا ہے۔ اب تک میں اتنا چندہ دے چکا ہوں۔ اب اتنا ہو گیا ہے اور اس طرح یہ تاثر زندہ کرنا چاہتا ہے کہ سلسلہ ان کا زیر بار ہے۔ شاید لاکھوں روپے ہضم کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ جناب خلیفہ صاحب اپنے زمانہ خلافت کے آغاز سے جماعتی استحصال میں معروف ہیں اور جب سے ہی جماعت کے بیدار افراد اس بارہ میں چیخے ہی رہے ہیں۔ ۱۹۲۹ء میں ایک اخبار نے اس طرح خبر چھاپی کہ قادیان کی سرزمین داری، مذہب کے آڑ میں جلب زر کے حیرت انگیز منظر مریدوں کے لکھو کھا روپیہ کا صریح ضمن۔ پھر تحریک جدید کے ذریعہ خرد برد کا دروازہ کھولا۔ چنانچہ خلیفہ تعریف کرتے ہیں۔ یہ کسی کے..... نے کہا ہے کہ خلیفہ مسیح نے جو تحریک جدید جاری کی ہے۔ یہ اپنے سب انہوں نے روپیہ جمع کرنے کے لئے کی ہے۔

(الفضل مورخہ ۳ جنوری ۱۹۴۷ء)

اس وقت اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ ”بیت المال کی لاکھوں روپیہ کی

رقومات سے مرزا صاحب چائیدادیں خرید رہے ہیں۔“

جماعتی ذرائع اور ذاتی مفاد

قادیان کی ترقی کے متعلق حضرت مسیح موعود کے متعلقہ الہامات ہیں اور حضور کی بعض کشوف سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان دریائے بیاس تک پھیل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہجرت کی تحریک فرما چکے تھے۔ ”خدا تعالیٰ نے ان ہی اصحاب صفہ کو تمام جماعت سے پسند کیا ہے جو شخص سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ کر آباد نہیں ہوتا اور کم سے کم یہ تمنا دل میں نہیں رکھتا، اس کی حالت کی نسبت مجھ کو بڑا اندیشہ ہے کہ وہ پاک کرنے والے تعلقات میں ناقص نہ رہے اور یہ پیش گوئی عظیم الشان ہے اور ان لوگوں کی عظمت ظاہر کرنا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے علم میں تھے وہ اپنے گھروں اور وطنوں اور املاک کو چھوڑ دیں گے اور میری ہمسائیگی کے لئے قادیان میں آ کر بود و باش کریں گے۔“

پھر فرماتے ہیں: ”ہم اپنے دوستوں کو بار بار یہاں آنے اور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔“ (۲۳ جولائی ۱۹۰۴ء) اس ارشاد گرامی کے تحت بہت سے احمدی احباب ہجرت کر کے قادیان آنے شروع ہو چکے تھے اور قادیان کی ترقی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اندرون قصبہ میں جگہ ختم ہونے کے بعد خلافت اولیٰ میں بیرون قصبہ جات جانب شمال محلہ دارالعلوم کی آبادی شروع ہو گئی تھی۔ نواب محمد علی خان صاحب مالیر کوئلہ کی کوشی دارالسلام بن چکی تھی۔ تعلیم الاسلام ہائی سکول کی عمارت قریب الاعتصام تھی۔ اس کے بورڈنگ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا شیر علی صاحب مفسر تفسیر القرآن انگریزی کا وسیع مکان بن چکا تھا اور اس طرح اور بہت سے مکان آباد ہو چکے تھے۔ اس صورتحال کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ احمدی تو احمدی غیر مسلم لوگ بھی اس یقین سے بھر گئے کہ قادیان ضرور ترقی کر جائے گا اور آخر ایک دن بڑا شہر بن جائے گا۔ چنانچہ قادیان میں جہاں بعد میں محلہ دارالرحمت آباد ہوا ہے۔ وہ زمین سردار تھانگلہ نے خریدی۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہہ سکتا میں نے زمین خریدی ہے بلکہ یہی کہتا ہوں کہ میں نے سونا خریدا ہے۔

اور دن بدن قادیان کی زمین کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی اور ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ بلکہ عملاً دیکھ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود کی پیش گوئی وسعت قادیان کے متعلق پوری ہو نہیں سکتی جب تک کہ قادیان کی پرانی آبادی سے باہر نہ نکلا جائے۔ بہت سے دوستوں کی خواہش تھی کہ وہ قادیان میں مکان بنائیں۔ لیکن زمین نڈل سکنے کی وجہ سے وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔

جناب مرزا محمود احمد خلیفہ نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ عام حالات میں کوئی کاروبار کرنا قابل اعتراض بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے جماعتی مقام سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور جماعتی ضروریات کو پس پشت پھینکے کہ اس سے ذاتی منفعت حاصل کرنا چاہئے۔ تو یہ بہت بڑی خود غرضی ہی نہیں بلکہ سخت غداری بھی ہے اور انہوں نے اس

جماعت کی ترقی کی پیش گوئیاں تھیں۔ یہ چیز مسلمہ تھی کہ ان کی تکمیل کا اندازہ یہ جاری چار دیواری سے باہر نکل جائے اور یہ صورتحال دیکھ کر یقیناً بعض طرف ان سب میں آجائیں گے۔ فروخت اراضی کا کام ترقی کر جائے۔ زمین کی قیمت بڑھتی چلی گئی اور ہر ایک عام کام کے لئے یہ ابتداء میں تاثر جماعت میں پڑنے دیا گیا یہ صرف اپنے مفاد کے لئے تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایسا ہوا وہی زمین کبھی میں نے دوا نہ مرلہ میں بھی گراں تھی۔ دو دو ہزار روپے مرلہ پر فروخت ہوئی اور قوم کا لاکھوں روپے افراد کی بیبیوں میں چلا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ بالکل پرائیویٹ **Enter Prise** ہونے کی وجہ سے شہر کا کوئی نقشہ ہی جو بن نہ کیا گیا۔ محلے بد صورت بنے۔ گلیاں تنگ رکھی گئیں۔ بچوں کے لئے پرائمری اور مل سکولوں اور تفریح گاہوں بلکہ مسجدوں تک کے لئے کوئی مناسب جگہ ملے جات میں نہ چھوڑی گئی۔ آبادی کی صحت الگ بر باد ہو گئی اور اس طرح اٹھارہ ہزار کی جائیداد پانچ لاکھ روپے میں فروخت کی۔

(الفضل مورچہ ۱۳ مارچ ۱۹۵۸ء)

بجائے اس کے کہ پرانی آبادی کے ماحول کا سروے کر کے ایک ترقی پذیر شہر کے انداز کا نقشہ تیار کروایا جاتا۔ جس میں شہری اور جماعتی ضروریات مد نظر رکھی جائیں۔ جماعتی سرمایہ سے آہستہ آہستہ گروا کر دی زمین خریدی جاتی اور معمولی ڈیولپمنٹ چار چرلے کر اصل قیمت پر مہاجرین میں تقسیم کی جایا کرتی۔ اگر لالچ اور خود غرضی کو پس پشت ڈال کر یہ صورتحال اختیار کر لی جاتی تو سلسلہ کو کس قدر فائدہ پہنچتا۔ لوگوں کا لاکھوں روپے بچ جاتا۔ موجودہ تعداد سے کئی گنا زیادہ لوگ قادیان میں مکانات بنا لیتے۔ کیونکہ انہیں سستی اراضی ملتی۔ غرباء بھی زمین خرید لیتے۔ لیکن غلیظ لالچ میں اندھے ہورہے تھے۔ انہوں نے جماعتی ضروریات، افراد جماعت کے مفاد، حضرت مسیح موعود کے الہامات کی تکمیل کے فریضہ کو پس پشت پھینک کر اس تجارت کی **Monoply** اپنے خاندان میں کرنے کے ڈھنگ سوچنے شروع کر دیئے۔ اگر غلیظ قادیان میں کچھ اراضی کے مالک ہوتے تو اول تو ان کا فرض تھا کہ وہ قومی ضروریات کے پیش نظر مناسب قیمت پر سلسلہ کے ہاتھ فروخت کر کے اس شاندار کام کی عملی داغ بیل ڈال دیتے۔ لیکن جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا واقعہ تو یہ ہے کہ غلیظ صاحب اور ان کے خاندان کا اپنے والد ماجد کی طرف سے حصہ جائیداد بہت ہی معمولی تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے سر پر غلیظ کے گھر کے معمولی اخراجات بھی پورے ہو سکتے۔ اس وقت ان کے پاس آبادی کے قابل زمین چھ سات ایکڑ تھی۔

اس صورت حالات میں غلیظ نے جماعتی مفاد کو پس پشت پھینک کر اور اس اہم کاروبار کو جماعت کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے خود اس پر قبضہ کرنے کی تدبیریں کرنا شروع کیں اور

اپنے مقام خلافت کو اس کا ذریعہ بنایا۔

اوپر بیان ہو چکا کہ محلہ دارالرحمت کی اراضی دراصل ایک سکھ خرید چکا تھا۔ خلیفہ نے چاہا خواہ کچھ ہو اس زمین کو خرید لیا جائے۔ چنانچہ جس طرح بھی ہوا کوشش کر کے ہم نے گھر کے زیورات تک فروخت کر کے یہ زمین خرید لی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ خلیفہ قوم کے سربراہ تھے اس کے امام اور خلیفہ تھے جماعتی ضروریات ان کے سامنے تھیں وہ جانتے تھے کہ ہجرت قادیان میں بہت بڑی روک یہ پیدا ہو رہی ہے کہ سکئی اراضی مل نہیں رہی۔ تیس دن بدن بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کو جب باہر آبادی کی خواہش ہوگی تو وہ دوسروں سے زمین قیما خریدیں گے جو ہنگامی دیں گے اور اس طرح ہماری جماعت کو نقصان ہوگا۔ تو پھر انہوں نے پتھر ایکڑ زمین کا سودا ذاتی طور پر کیوں کیا۔ سلسلہ کے لئے کیوں نہیں کیا؟ یہ زمین آپ کو سونا نظر آئی۔ آپ نے اپنے گھر کے زیورات تک فروخت کر کے اسے خریدنا ضروری سمجھا۔ لیکن سلسلہ کے مفاد آپ کو نظر نہ آئے۔

اس سلسلہ میں خلیفہ صاحب کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے سردار تھانگہ سے یہ زمین جماعتی دہاؤ کے ماتحت خریدی وہ یہ جانتا تھا کہ زمین بہر حال احمدیوں نے خریدنی ہے اور اگر احمدی اسے نہیں خریدیں گے تو اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ سبھی دھمکی آپ نے اسے دی اور کہا ”اگر ہمارے پاس تم اس زمین کو فروخت نہیں کرو گے تو تم سے کوئی زمین نہیں خریدے گا۔“ چنانچہ ہائیکاٹ کا یہ حربہ کامیاب ہو گیا اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس نے بہت فائدہ مند سودا کیا ہے اور زمین نہیں بلکہ سونا خریدا ہے۔ پھر بھی وہ خلیفہ اور ان کے بھائیوں کے ہاتھ اس زمین کو فروخت کرنے پر بادل ناخواستہ تیار ہو گیا۔ اب دیکھو نہ صرف جماعتی ضروریات کو نظر انداز کر کے یا اسے ذاتی طور پر خلیفہ صاحب نے خریدی بلکہ جماعتی ذرائع اور جماعتی دہاؤ کے ماتحت خریدا، اس موقع پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ۱۹۱۳ء میں ایک اشتہار شائع کرنے کے لئے بھی خلیفہ صاحب کے پاس روپیہ نہ تھا اور اس سے پہلے افضل کا اجراء بھی انہوں نے بیوی کے زیورات بیچ کر کیا تھا۔ ساٹھ روپیہ کے تو وہ دیکھتے خوار تھے۔ چار سال کے اندر اندر اٹھارہ ہزار روپیہ کہاں سے آ گیا۔ جس سے سردار تھانگہ سے پتھر ایکڑ کی زمین خریدی تھی۔ یہ غالباً سب سے پہلا حربہ تھا جو جلب زر کی خاطر جماعت کے مفاد پر اور قوم کی اجتماعی اور انفرادی ضروریات کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کر دیا۔ حالانکہ جماعتی سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کا فرض تھا کہ وہ جماعتی ضروریات کو مقدم رکھتے۔

اس قسم کا دوسرا حملہ خلیفہ صاحب نے ۱۹۲۰ء میں کیا۔ اس اجمال کی تفصیل درج ذیل

ہے۔ یہ خلیفہ صاحب کا جھوٹا اور واقعات سے بعید پراپیگنڈا ہے کہ وہ جدی طور پر امیر کبیر ہیں اور قادیان کے وہ مالک ہیں۔ زمینیں ان کے قبضہ میں تھیں۔ وہ یہاں کے بڑے زمیندار تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم اوپر درج کر چکے ہیں۔ خلیفہ کو وراثت میں ایک معمولی سی جائیداد آئی تھی جو دراصل چند مکانات پر مشتمل تھی۔ ان کے اور ان کے بھائیوں کے پاس ملا کر کل چھ سات ایکڑ اراضی آبادی کے قابل تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ریاست بیکانیر کا اپنا پرنٹڈ پالیس مرزا اکرم بیک ولد مرزا افضل بیک (جو دراصل پٹی کے رہنے والے تھے) قادیان کی زمین کے ۱۶/۱۱ حصہ کے مالک تھے۔ محلہ دارالرحمت والی زمین جس کا اوپر اوپر ذکر گذر چکا ہے۔ یہ بھی دراصل مرزا اکرم بیک صاحب کی ہی تھی اور اس سکھ نے انہیں سے اس کا سودا کیا تھا۔ (الفضل مورخہ مارچ اپریل ۱۹۵۸ء) جماعتی کوششوں سے مرزا اکرم بیک صاحب و مسماۃ سردار بیگم بیوہ مرزا افضل بیک نے جوان کی والدہ تھی "ایک لاکھ اڑتالیس ہزار روپیہ میں قادیان کی کل جائیداد غیر منقولہ از قسم سکنی و اراضیات زرعی و غیر زرعی ہر قسم اندرون و بیرون سرخ لکیر معہ حصہ شاملات دیہہ و حقوق داخلی و خارجی متعلق جائیداد مذکور فروخت کر دیئے۔" ۲۱ جون ۱۹۲۰ء کو یہ بیعت نامہ تحریر ہوا اور ۵ جولائی ۱۹۲۰ء کو اس کی رجسٹری ہوئی اور بعد میں ۱۹۲۹ء میں اسی سووے پر دعویٰ و استقرار حق ہو گیا تھا جس کے لئے افضل میں دعاؤں کے اعلانات چھپتے رہے ہیں۔ اس دفعہ پھر خلیفہ نے قوم سے غداری کی اور یہ غداری کئی جہتوں سے ہے۔

اول اس سووے میں معتد بہ رقم جو ایک لاکھ سے متجاوز ہے۔ صدر انجمن نے ادا کی۔ لیکن رجسٹری خلیفہ اور ان کے بھائیوں کے نام سے کروائی گئی۔ جن کی طرف سے ادا شدہ رقم ساڑھے تیس ہزار روپیہ بتائی جاتی ہے۔

دوئم اس سووے میں پھر خلیفہ صاحب نے اپنی ٹانگ رکھی اور کچھ روپیہ اپنی طرف سے ڈال کر یہ کیا کہ زمین کے اتنے حصہ کے مالک وہ ہو جائیں گے۔ خلیفہ صاحب کی تحریک سے مختلف لوگوں نے حصے خرید کر روپیہ جمع کیا تھا۔ لیکن خلیفہ صاحب نے یہ تحریک نہیں کی کہ انجمن ساری زمین خرید لے۔

سوئم باوجود یہ جاننے کے سووہ بے نامی کا ہے اور زمین کی رجسٹری ان کے نام خود ان کے بعض حقیقی مصالح اور غیر حقیقی خطرات کی وجہ سے کروائی گئی ہے۔ پھر بھی وہ غلط طور پر افضل وغیرہ میں یہ پراپیگنڈا کرواتے رہے کہ اراضی قادیان کے ہم مالک ہیں۔

خلیفہ صاحب فرماتے ہیں: "اس وقت بھی قادیان کی زرعی زمین کے مالک صرف

میں اور میرے بھائی ہیں اور محض تھوڑی سی زمین بعض احمدی احباب کے قبضہ میں ہے، جنہوں نے وہ زمین ہم سے بغرض آبادی حاصل کی ہے۔“

(الفضل مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۲۹ء)

حالانکہ جیسا بیان ہوا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ خلیفہ صاحب اور ان کے بھائیوں کی تو یہاں صرف ۷ ایکڑ زمین تھی۔ بعد میں صدر انجمن احمدیہ نے مرزا اکرم بیگ سے زمین خریدی۔ اس میں خلیفہ نے بھی ناجائز طور پر اور اپنی خلافت اور امامت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نادرست طور پر شرکت کر لی۔ پھر بعض دوستوں نے مرزا اکرم بیگ سے براہ راست بھی سودے کئے۔ مثلاً حضرت مولانا مولوی شیر علی، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل اور شیخ احمد اللہ وغیرہ نے، اس طرح خلیفہ نے اس جگہ صریح کذب بیانی سے کام لیا ہے۔

چہارم..... اس کے بعد خلیفہ نے اس سلسلہ میں ایک جہاد شروع کر دیا کہ کوئی صاحب قادیاں اور ماحول قادیاں میں ان کی اجازت کے بغیر زمین کا سودا نہ کریں۔ بلکہ ان سے اجازت کے لئے بھی درخواست نہ کریں۔ حالانکہ جب اس سودے میں صدر انجمن احمدیہ شریک غالب تھی اور شاملات دیہہ و حقوق داخلی و خارجی میں بھی اس کا حصہ غالب تھا تو خلیفہ کون ہوتے ہیں جو احمدی پبلک کو قادیان میں اراضی خریدنے سے روکتے؟ مرزا اکرم بیگ جملہ حقوق مالکانہ رکھتے تھے۔ انہوں نے وہ فروخت کر دیئے۔ خریدنے والوں میں سے سب سے بڑی خریدار دراصل صدر انجمن تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ حقوق اس کی طرف بھی منتقل ہوئے۔ یہ خلیفہ نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا استحقاق کس بناء پر بنالیا کہ اب کوئی احمدی قادیان اور ماحول قادیان میں اراضی نہیں خرید سکتا۔

(الفضل مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۸ء)

شاید یہ بھی سانپ یعنی ابلیس کا سر کھینکے کا ایک طریقہ ہے جس پر خلیفہ عمل کرتے رہے ہیں۔ پنجم..... خلیفہ ساٹھ روپیہ کے وظیفہ خوار تھے۔ ابھی دو سال پیچھے ۱۹۱۸ء میں وہ ایک سکھ سے اٹھارہ ہزار کا سودا کر چکے تھے۔ اس کے بعد ۱۹۲۰ء میں ساڑھے تینتیس ہزار روپیہ کی کثیر رقم ان کے ہتھے کہاں سے چڑھ گئی کہ ایک نئے سودے پر انہوں نے ہاتھ ڈال لیا۔ یا تو اپنے تمام ذرائع آمد کے باوجود ۱۹۰۸ء سے لے کر ۱۹۱۳ء تک خلیفہ کی اتنی حیثیت بھی نہ ہوئی کہ ایک اشتہار کے لئے ان کے پاس روپیہ ہوتا۔ یا اب دھڑا دھڑ ہزاروں کے سودے ہونے لگ گئے۔ یہ امور بڑے توجہ طلب ہیں اور اس قابل ہیں کہ دوست مان پر غور کریں اور دیکھیں کس طرح اس شخص نے جس پر قوم نے اعتماد کر کے اپنی باگ ڈور اسے تمنا دی تھی، قدم قدم پر خداری کر رہا ہے اور اپنے مفاد کے لئے جماعتی مفاد کو قربان کر دیتا ہے۔

ششم..... بیان ہو چکا ہے کہ اس سووے پر مرزا اکرم بیگ کے لڑکے مرزا اعظم بیگ نے استقرار حق کا مقدمہ کر دیا تھا جو سالہا سال چلتا رہا۔ جس میں سلسلہ کی مشنری، اس کا نظام اس کی ساکھ اس کے کارکنوں کا بلا معاوضہ و حصہ رسدنی استعمال ہوتا رہا۔

ہفتم..... پھر حسب یہ اراضی حاصل ہو گئی تو اس کی قیمتیں ان وجوہات کی بناء پر چڑھاتے چلے گئے کہ جو سلسلہ کے خرچ یا سلسلہ کی ساکھ یا ایسی ہی کسی دوسری بناء پر پیدا ہو گئی تھیں۔ مثلاً قادیان میں سکول کھل گئے۔ انجمن نے بہت سارے پیسے خرچ کر کے تارگھر اور ٹیلیفون آفس کھلوائے۔ خاص راستے سے ریل گاڑی لائی گئی اور ان اراضی میں اور ان کے قریب اسٹیشن بنوایا گیا جو اکرم بیگ والے سووے میں خلیفہ صاحب کے حصہ میں آئی تھیں۔ تاکہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے۔

ہفتم..... اراضی کو ان کی قیمتیں خوب چڑھا چڑھا کر فروخت کیا گیا۔
 نہم..... گورنمنٹ خلیفہ اور ان کے بھائیوں کے نام تھی۔ گویا ایک بے نامی سودا تھا۔ لیکن بیشتر حصہ انجمن کا تھا۔ لیکن آج پاکستان گورنمنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم وہاں لاکھوں لاکھ کی جائیداد کے مالک تھے۔

دہم..... یہ خریدی ہوئی زمین بھی فروخت کر دی گئی تھی۔ لیکن سرکاری کاغذات میں نام پھر بھی خلیفہ اور ان کے بھائیوں کا رہا۔ کیونکہ جو احمدی یہ زمین خریدتے تھے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فروخت اور اس وجہ سے یہ فروخت شدہ زمینیں خلیفہ اور ان کے بھائیوں ہی کے نام پر سرکاری کاغذات میں درج رہی اور اس طرح خلیفہ محمد رسول اللہ کا نام بلند کرتے اور اسلام کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ خلیفہ سلسلہ کے مفاد پر ہی ہاتھ نہیں ڈالنے رہے بلکہ اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کے لئے سلسلہ کے ذرائع کو بھی استعمال کرتے رہے۔ بلکہ اس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے سچا موعود کی تعلیم کی بھی خلاف ورزی کی۔ حکومت کو دھمکیاں دیں۔ اپنا عہد وطن سے تعلقات خراب کر والے۔ قادیان میں چند مرلے اراضی ایسی تھی جس پر سکھوں کا دعویٰ تھا کہ ہماری ہے اور خلیفہ کا خیال تھا کہ اس کے مالک خلیفہ اور ان کے بھائی ہیں۔ یہ اختلاف محض اس بناء پر بڑھتا چلا گیا کہ خلیفہ نے سمجھا کہ قادیان میں احمدیوں کی اکثریت ہے۔ وہ جھڑے کے وقت ان کو جموں تک دیں گے۔ چنانچہ باث بروٹھی چلی گئی اور آخر وقت آ گیا کہ اہالیان قادیان سے محض لیگ کی زبان سے کہلویا گیا کہ ہم اپنی جائیں قربان کر دیں گے۔ مگر اس کلمہ زمین پر سکھوں کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہماری لاشوں کے اوپر سے ہی گذر کر وہاں تک پہنچ سکیں گے۔

(افضل مورخہ ۲۳ دسمبر ۱۹۳۸ء)

یہ کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا۔ عقائد پر جھگڑا نہیں تھا۔ باہانامک کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا نزاع نہیں تھا، جس پر احمدیوں کی جانیں قربان کی جا رہی تھیں۔ خلیفہ اور ان کے بھائیوں کی چند مرہ زمین کے لئے یہ سارا خون بہانے کا مغنوبہ تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پاک بندے اور بے نفس و جرد قوم کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے اس طرح بھینٹ چڑھا دیا کرتے ہیں؟

الفضل لکھتا ہے: "ایک زمین جس کے مالک حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح اور آپ نے بھائی ہیں اس کے متعلق سکھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں مٹی ڈال کر یا کوئی چھوٹا موٹا مکان بنا کر اپنا قبضہ بنالیں..... ہم حکومت کو قبل از وقت ان کی اس فتنہ انگیزی اور شرارت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ مالکان کے حقوق کی حفاظت کی جائے..... ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جو زمین ہماری ہے اس پر کوئی جاہل اور عالمانہ قبضہ کرے۔"

اور مرزا عبدالحق کی زبردست ۲۰ مارچ ۱۹۳۹ء کو پیش لیگ کا دیان کا ایک ہنگامہ خیز جلسہ کروایا گیا۔ الفضل کو حسب معمول اس پر وہیکلڈے کے لئے دقت کر دیا گیا اور بڑے طعناقی اور خود مرسانہ انداز میں سے کہا گیا بعض سکھوں کے فساد انگیز ارادوں کے خلاف پیش لیگ کیا کرنا چاہتی ہے اور سکھوں کے پٹے لگا دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ یہ سب کچھ مذہب قوم اور دین کے لئے نہیں، صرف چند مرہ زمین کے ٹکڑے کے لئے ساڈھ لوج مزیدوں کو خون آشامی کے لئے مشتعل کیا جا رہا تھا۔ جس کا فیصلہ ایک جڑو پیش عدالت ہی کر سکتی تھی۔

غرض کا دیان کی ترقی کی پیش گوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود (مرزا کا دیانی) ہجرت کی تحریک فرماتے ہیں۔ خود خلیفہ نے اس معاملہ ہجرت کو تحریک جدید کے مطالبات میں شامل کیا ہے اور اس پیش گوئی اور تحریک کو پورا کرنے کے لئے جماعت کے مخلصین اپنے وطنوں کو خیر باد کہہ کر اپنی جائیدادوں کو ترک کر کے کا دیان میں آئے اور بسنا چاہتے تھے۔ پھر دنیائے امیر بھی ہوئے ہیں اور عرب بھی ہوئے ہیں اور انہی سلسلوں میں تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ابتداء میں اس میں غرباء کی کثرت ہوتی ہے اور کا دیان کی ترقی میں بھی غرباء کے لئے کا دیان جا کر بسنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر یہ طبعی ترقی ہوتی جب بھی مرکز کا فرض تھا کہ ایسے ذرائع اختیار کرنا کہ وہاں زمینوں کی قیمتیں اتنی نہ بڑھیں جتنی کہ بڑھتی تھیں یا بڑھتی ہی نہیں۔

اندریں حالات یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کا دیان کی ترقی کے راستہ میں وہ لوگ یقیناً روک تھام جنہوں نے کا دیان میں زمینوں کی خرید و فروخت کا قحی طور پر کام شروع کئے رکھا۔ انہیں اگر قوم کے لئے درد تھا تو انہیں سوچنا چاہئے تھا کہ جماعت کے لوگ اتنا روپیہ کہاں سے لائیں

گے۔ جماعت کے لوگ جو پہلے ہی غریب ہیں۔ پھر چندوں کا بوجھ بھی ان پر ہے۔ وہ ان قیمتوں کے ہرگز متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ یقیناً اگر شروع سے ہی دیانتداری کے ساتھ یہ قاعدہ مقرر ہو جاتا کہ کوئی زمین تجارتی اغراض کے لئے فروخت نہ ہو تمام اراضی سلسلہ خریدتا اور پھر سلسلہ کی طرف سے واجب قیمت پر آگے فروخت ہوتی تو یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی اور شہر بھی ایسے طور پر نہ بنتا جس کا کوئی موزوں نقشہ ہی نہیں۔ لیکن افسوس خلیفہ زمینوں کی فروخت میں روپے بڑرتے رہے اور ان امور کی طرف جو جماعتی فلاح و بہبود کی خاطر ضروری تھے، کوئی توجہ نہ دی۔

یہ صورتحال بڑی ہی خوفناک تھی اور خلیفہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پر گامزن رہے۔ جب تک کہ خود ان کی زمینیں اتنی کم نہ رہ گئیں کہ وہ اس تجارت پر کوئی اثر نہ ڈال سکتے تھے، تب انہوں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا۔ لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود خون کا آخری قطرہ نچوڑ چکے تھے۔ تب انہوں نے اعلان کیا کہ: ”میرا انشاء ہے کہ آئندہ انفرادی خرید و فروخت کو کلیتاً روک دیا جائے۔“ (الفضل مورخہ ۱۱ فروری ۱۹۴۷ء)

لیکن اس سے پہلے خلیفہ کو یہ خیال کیوں نہ آیا کہ آخر لوگ قادیان میں کیوں زمینیں خرید رہے ہیں۔ قادیان میں لوگوں کا یہ زمین خریدنا محض اس لئے ہے کہ وہ قادیان ہجرت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا کہ جماعت کے مخلصین قادیان میں ہجرت کر کے آئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ ہوتا کہ قادیان کو بڑھاؤ۔ اگر صبح موعود کی پیش گوئیاں قادیان کی وسعت اور ترقی کے متعلق نہ ہوتیں تو دیوانہ وار ان سے بڑی بڑی قیمتوں پر زمین کیوں خریدتے؟ وہ زمین خریدتے ہیں۔ محض اس لئے کہ خدا کا حکم پورا ہو اور وہ صبح موعود کی پیش گوئی کے پورا کرنے کے ثواب میں شریک ہوں۔ ان اخلاص اور ایمان کے ساتھ آنے والوں سے اس قدر قیمتیں وصول کرنا ایسا ہی ہے جیسا قرآن مجید میں آتا ہے کہ بعض لوگ خدا تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ کھاتے ہیں۔ ایسے تاجر بھی خدا تعالیٰ کی آیات کو بیچ کر کھانے والے ہیں۔ لوگ آتے ہیں خدا کی بات پوری کرنے کے لئے۔ ان کا اخلاص اور ان کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم پورا ہو مگر یہ تاجر ان کے اخلاص سے اس رنگ ہی میں فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

دارالانوار ہاؤسنگ سوسائٹی (ماڈل ٹاؤن قادیان)

ہاؤسنگ سوسائٹیز کے طریق پر خلیفہ اور ان کے بھائیوں نے کس طرح جماعت کا روپیہ لوٹا۔ اس کی مثال دارالانوار کمیٹی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب امپروومنٹ ٹرسٹ یا کوئی

ہاؤسنگ سوسائٹی کسی آبادی کے لئے کوئی قطعہ زمین تجویز کرتی ہے تو زمین مالکان سے لے لی جاتی ہے اور پھر نقشے وغیرہ تجویز کر کے آگے فروخت کر دی جاتی ہے۔ لیکن خلیفہ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ڈھنگ نرالا ہے۔ قادیان کے مشرق کی طرف نئی آبادی میں ماڈل ٹاؤن آباد کرنے کی تجویز ہوئی۔ نقشے تیار اور قطعے فروخت ہونے شروع ہوئے۔ لیکن خلیفہ اور ان کے عزیزوں نے بہت سی زمین ریزرو کے نام سے بہترین جگہوں پر علیحدہ رکھ لی۔ آخر لوگ چلائے کہ یہ کیا ظلم کرتے ہو مرکزی جگہیں اور اچھے اچھے کھڑے خود رکھ لئے اور باقی لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنے کی سکیم بنالی۔ چنانچہ اس غلط فہمی کا ازالہ اس طرح کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی کہ بعض دوستوں کی زبانی اور تحریری گفتگو سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے نزدیک حصہ داروں نے پہلے ہی اپنے لئے دارالانوار میں زمین کے کھڑے تجویز کر کے تقسیم زمین کا معاملہ آسان کر لیا ہے۔

واضح رہے کہ ریزرو جگہ نقشہ میں وہی دکھائی گئی ہے جو مالکان اراضی نے اپنے لئے رکھی ہے..... اس جگہ یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کیا مالکان اراضی کو اپنی زمین میں سے اپنے واسطے زمین رکھ لینے کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جو شخص کسی زمین کا مالک ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زمین کو جس طرح چاہے، استعمال کرے۔ خواہ زراعت کی صورت میں اس سے نفع اٹھائے، خواہ مکانات بنوا کر، اس کے علاوہ دارالانوار کمیٹی نے مالکان سے زمین لیتے وقت یہ معاہدہ کیا تھا کہ مالکان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زمین میں سے جس قدر زمین چاہیں اپنے لئے ریزرو کر لیں۔ پس ان دو وجوہات سے مالکان اراضی اپنے لئے زمین ریزرو رکھ لینے کا حق رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے لئے زمین ریزرو رکھی ہے۔ (الفضل مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۳۳ء)

یہ مالکان زمین کون تھے۔ جناب خلافت مآب اور ان کے بھائی وغیرہ اور یہ معاہدہ کرنے والے کون تھے۔ یہ بھی خلافت مآب اور ان کے بھائی وغیرہ۔ پنجابی زبان کی مثل مشہور ہے۔ ”آپی میں رنجی بھی آپے میرے بچے جیون“ جو ہو، ہو یہاں چسپاں ہوتی ہے۔ خود ہی سکیم بنانے والے، خود ہی معاہدہ کرنے والے۔ خود ہی منظور دی دینے والے اور دنیا کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکی جا رہی ہے کہ نامعلوم کتنی ویانت، انصاف، قانون، صفائی اور خوبی کے ساتھ تمام معاملات انجام پذیر ہو رہے ہیں۔ پھر اگر مالکان نے اپنے لئے فرض کیجئے، دس ایکڑ زمین ریزرو کرنی تھی وہ کر لیتے۔ بعد میں نقشہ تجویز ہوتا اور حصہ رسدی وہ اپنی اراضی میں سڑکوں وغیرہ کے لئے چھوڑتے۔ لیکن انہوں نے اس دس ایکڑ کی تعیین پہلے کر لی اور پھر نقشہ کے بعد جو بہترین اور باموقع جگہیں دیکھیں وہاں وہاں کھڑے مخصوص کر کے یہ دس ایکڑ پورے کر لئے۔ اس طرح

دودو ہاتھوں سے پجارے حصہ داروں کو جن میں انجمن کے بھی چوبیس حصے تھے، لوٹنا شروع کر دیا۔ یعنی اصلی اراضی کی قیمت بھی وصول کر لی اور ڈیولپمنٹ چارجز بھی نہیں دیئے۔

دارالانوار کمیٹی میں پہلے تو یہ عذر تھا کہ مالکان سے معاہدہ تھا کہ مالکان اپنے لئے نہ کہ آگے فروخت کے لئے جس قدر چاہیں زمین رکھ لیں۔ لیکن ان ہی مالکان نے پہلے اپنے نام سے زمین ریزرو کروا کر پھر آگے اس کا مزید نفع لے کر فروخت شروع کر دی اور کہہ دیا کہ یہ اراضی کمیٹی دارالانوار کی خاص اجازت سے پرائیویٹ طور پر فروخت کی جا رہی ہے۔

(مختصر مورچہ ۳۰ اپریل ۱۹۳۳ء)

(خیال رہے ایسا کرنے والوں میں پیش پیش خلیفہ صاحب کے ایک بہنوئی تھے)

خلاصہ کلام یہ کہ مرکز جماعت کی تمام جدوجہد کا نقطہ مرکزی ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے قوم سے جان مال کی قربانی طلب کر لی جاتی ہے۔ وہ تمام سلسلہ کی جدوجہد کے لئے بمنزلہ قلب کے ہے۔ پھر ہجرت کی تحریک بھی ہے۔ اس لئے اسے کسی فرد یا خاندان کے لئے جلب زرکا ذریعہ نہیں بننے دینا چاہئے۔ مگر ایسا کیا گیا اور خلیفہ صاحب کے ایماء سے کیا گیا۔

(مختصر مورچہ ۳۰ مئی ۱۹۳۳ء)

اور اس لئے کیا گیا کہ سلسلہ کے سربراہ کی ذات اور اس کے خاندان کے مفاد کا یہی تقاضا تھا۔ اگر خلیفہ کے ذاتی مفاد نہ ہوتے تو الہامات کے انبار سلسلہ کے مفادات کی طولانی فہرستیں منطق کے صغریٰ، کبریٰ جمع کر دیئے جاتے۔ یہ نام نہاد خالد بن ولید لنگر لنگوٹ کس کرمیدان میں اتر آتے کہ قادیان کی آبادی اور ماحول قادیان کی آبادی مرکزی سکیم کے ماتحت ہوگی اور اسے کسی کے لئے بھی جلب زرکا ذریعہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ایسی کسی سکیم کا بنانا خلیفہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس لئے انہوں نے اسے نہ بنایا اور اس وقت تک قادیان کی اراضی کی قیمت دن دو گنی اور رات چو گنی بڑھنے دی گئی۔ جب تک کہ خلیفہ کے خاندان کی ذاتی اور مرزا اکرم بیگ وغیرہ سے خرید کردہ اراضی بالکل ختم نہ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ قادیان کی آبادی خلیفہ کی قابلیتوں کی مرہون منت نہ تھی۔ لوگ اپنے غلوں اور دینی وابستگی کے لئے گئے۔ لیکن اس غلوں اور دینی وابستگی کا مالی فائدہ خلیفہ نے ہی بھر وصول کیا اور اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے جماعت سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ عمر کا مثل بننے کا یہ مدعی کس قدر کھوکھلا ہے۔

بے نامی سودے

صدر انجمن احمدیہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے اور ہر قسم کی خرید و فروخت، حصص کی بیع و شراء

اور جنگوں کا حساب اس کے نام پر ہو سکتا ہے۔ لیکن خلیفہ بسا اوقات مختلف حیلوں بہانوں اور عذرات کی آڑ لے کر قانونی طور پر اپنے اپنے بھائیوں کے نام ایسی خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس سے مالی فوائد حاصل کرتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ اور ان کے بھائیوں کے پاس ابتداء میں آبادی کے قائل صرف چھ سات ایکڑ اراضی تھی۔ مرزا اکرم بیگ جو قادیان کی اراضی کے سولہ حصوں میں سے گیاہہ حصوں کے مالک تھے۔ ۱۹۲۰ء میں ایک لاکھ پینتالیس ہزار روپیہ میں ان کی بقیہ ملکیت کا سودا کیا گیا۔ یہ بے نامی کا سودا تھا۔ جو دراصل صدر انجمن کے لئے ہوا تھا۔ خلیفہ اور ان کے بھائیوں نے اس میں بیان کیا جاتا ہے، ساڑھے پینتیس ہزار روپیہ اپنا بھی شامل کیا تھا۔ گو یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس اشتہار چھاپنے کے لئے پیسے نہ تھے۔ پہلے ۱۹۱۸ء میں شریعتی سنگھ سے اٹھارہ ہزار کا سودا کرتا ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی اس کے پاس تیرہ سو روپیہ بھی نہیں ہوتا اور اسے بیویوں کے زیور فروخت کرنا پڑے۔

(الفضل مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۵۸ء)

اور اس کے دو سال بعد ساڑھے پینتیس ہزار روپیہ تک کا سودا کرنے کے قائل کس طرح ہو گیا اور پھر اس پورے سودے کی رجسٹری میں صدر انجمن کا ایک لاکھ سے تجاوز روپیہ بھی شامل تھا۔ خلیفہ اور ان کے بھائیوں کے نام کردائی گئی اور بعد میں دھوکہ پڑنی اس قانونی ملکیت سے کتنے انداز میں فائدہ اٹھایا گیا اور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ چند مثالیں سنئے:

اول ۱۹۲۳ء میں خلیفہ یورپ کی سیاحت کے لئے تشریف لے گئے تو بعض سر پھرے منافقین نے اعتراض کر دیا کہ خلیفہ کے پاس تو علاج کے لئے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے وہ ساٹھ روپے کے وظیفہ خوار تھے۔ یہ سارا سفر یورپ کا خرچ جو ہزاروں سے تجاوز کرتا ہے، کہاں سے مہیا ہوا۔ اس کا جو حقیقی جواب تھا وہ تو واقفان راز کو معلوم، لیکن مجلس مریدوں کو چپ کرانے کے لئے یہی بے نامی سودے اور رقبہ قادیان کی قدرتی ملکیت کام آگئی اور افضل نے ڈھنڈورہ پیٹ دیا۔ خدا کے فضل سے اس وقت آپ کا خاندان سارے رقبہ قادیان کا واحد مالک ہے اور یہ ملکیت جس طرح اور مختلف طریقوں سے جماعت کے لئے برکات کا باعث ہو رہی ہے اس طرح دین کی خدمت اور اشاعت کا باعث بھی بن رہی ہے اور میں معلوم ہوا ہے کہ اس جائیداد کے ایک حصہ کی امانت پر خلیفہ کے سفر یورپ کے اخراجات مہیا ہوتے ہیں۔ (الفضل مورخہ ۵ اگست ۱۹۲۳ء)

ملاحظہ فرمایا کس کس طرح یہ بے نامی سودے خلیفہ کے کام آتے ہیں۔ ایک تو مریدوں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ حضور تو بڑے امیر کبیر ہیں۔ ان کا خاندان سارے قصبہ قادیان کا

واحد مالک ہے۔ (حالانکہ یہ بھی جھوٹ تھا۔ صدر انجمن احمدیہ مرزا اکرم بیگ والی زمین کی خرید میں حصہ دار تھی۔ چوہدری ظفر اللہ خاں، چوہدری حاکم علی صاحب چک پنیر، شیخ احمد اللہ صاحب وغیرہ اور دوسرے لوگوں کا بھی اس میں حصہ تھا)

پھر دھوکہ دہی ملاحظہ ہو کہ: ”خاندان مالک ہے۔“ اس خاندان میں تو اس وقت پھوٹ تھی۔ نام نہاد جائیداد کا بڑا حصہ خاندان کے ان لوگوں کے پاس تھا جن کے ساتھ خلیفہ کے تعلقات ناگفتہ بہ تھے۔ پھر ان کی ملکیت کے ذکر کا کیا مطلب۔ سفر یورپ کے اخراجات کے لئے ان کی جائیداد جو ہے اور پھر اس جعلی جائیداد کی کفالتوں پر قرضے بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو غریب انجمن نے اس رقبہ کی خرید کے لئے اپنے پاس سے روپیہ دیا۔ پھر اس رقبہ کی کفالت پر قرضہ بھی مہیا کیا۔ پھر ساکھ کے بنانے میں یہ بے نامی سودے کیسے کچھ مفید ہوا کرتے ہیں۔ ہر شخص خوب جانتا ہے۔ پھر اس جھوٹے پراپیگنڈہ کی حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ قادیان سارا ہماری ملکیت ہے..... وہاں کے لوگ ہماری رعایا ہیں۔ (افضل مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۳۳ء)

یہاں تک ہی بس ہوتا تب بھی عافیت تھی۔ مرزا اکرم بیگ سے خریدی ہوئی یہ اراضی خلیفہ دوسرے مالکان کے آگے فردخت کرتے رہتے تھے اور ایک معمولی سادہ کاغذ بطور یادداشت لکھ دیا جاتا تھا۔ جس کی قانونی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اب جب ملک تقسیم ہو گیا تو وہ ساری جائیداد جو نہ معلوم خرید و فردخت کے کتنے مراحل گزار چکی ہے۔ ”قانوناً“ خلیفہ اور ان کے خاندان کی ہے اور یہ اس کی برکات ہیں کہ چار کروڑ روپیہ کا کلیم خاندان کی طرف سے داخل کیا گیا ہے۔

رجسٹر اور رجسٹریاں

خلیفہ کا ایک بڑا مشہور اور معنی خیز فقرہ ہے۔ مالی معاملات کے متعلق میں جو بھی برکتا ہوں، رجسٹروں کے ذریعہ کرتا ہوں۔ (افضل مورخہ ۲ جولائی ۱۹۱۷ء)

خلیفہ کے مالی معاملات کو سمجھنے اور پرکھنے کی یہ کنجی ہے۔ دیکھئے کس طرح رجسٹروں اور رجسٹریوں کے ذریعہ معاملہ کیا۔ آج رابع صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ صدر انجمن احمدیہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی کارکن صدر انجمن احمدیہ کے لئے کوئی چیز خریدتے وقت اس سودے میں اور اسی رسید میں اپنی چیزیں نہیں خرید سکتا۔ لیکن یہ قاعدہ تو رعایا کے لئے ہے۔ راہی قواعد کا تھوڑا ہی پابند ہوتا ہے۔ یہ دراصل رجسٹروں اور رجسٹریوں ہی کا چکر ہے جس کے فریب میں بات کو ڈال کر وہ سلسلہ کالاکھوں روپیہ غبن کر چکے ہیں۔

خلیفہ فرماتے ہیں: ”جب بھی کوئی شخص سوال کرے اسے وہ رجسٹرات دکھائے جاسکتے

ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ میرا ہی دینا لکھے گا۔ میرے ذمہ کسی کا کچھ نہیں لکھا۔“

(افضل جولائی ۱۹۳۷ء)

یہ اتنا بڑا جھوٹ اور فریب ہے کہ جس کی انہما نہیں۔ ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور آپ کے رجسٹر سے ہی ثابت کر دیں گے کہ قدم قدم پر آپ مقروض ہیں۔ مثلاً آپ ایک ماہ کو دس ہزار دیتے ہیں تو دوسری ماہ سے اٹھارہ ہزار وصول بھی کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ آٹھ ہزار کے مقروض ہو گئے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہمارے علم میں ہیں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ حاکم اعلیٰ ہیں۔ آمر مطلق ہیں۔ آپ پر بار بار خرد برد کا الزام لگتا ہے۔ حالانکہ صریحاً آپ کے خلاف ہیں۔ جب تک خلیفہ نہیں ہوئے آپ کی مالی حالت سخت خراب رہی۔ خلافت کے بعد جلد جلد وارے نیا رہے ہو گئے۔ ایسی مشکوک حالت کے باوجود آپ انجمن کے ساتھ مالی لین دین آخر کرتے کس مقصد سے ہیں؟ لاکھوں روپیہ آپ انجمن سے لے رہے ہیں اور لاکھوں ہی دے رہے ہوں گے اور اس لینے دینے کا ایسا مکروہ گورکھ دہندہ بنا رکھا ہے کہ ہزاروں ہزار کی رقوم کا سالوں پہلے نہیں چلتا کہ آپ نے انجمن سے لینی ہیں یا دینی ہیں۔

ذرا ان تفصیلات سے پردہ اٹھائیے جو آپ نے اپنے ذاتی کارکن کے لئے انعام مقرر کیا تھا کہ میری کچھ رقم انجمن سے لینی ثابت کر دو۔ تمہیں اتنا انعام دیا جائے گا اور یہ کون سا نام ممکن کام تھا۔ اس نے خوب ڈھیر سی رقم نکال کر دکھادی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر آپ نے اتنی رقم اس شیخ پرفن کو انعام میں نہ دی جس کا وعدہ کیا تھا۔ ایک ایسے شخص کے لئے جو خود ایک آخری حاکم ہے۔ آخری قاضی اور جج ہے۔ اسے کب روا ہے کہ آپ ذاتی لین دین اپنے ماتحت اداروں سے کرے۔ ”لاتاکلوا اموالہم الی اموالکم“ یہی وہ حکم ہے جس کی آپ نے صریحاً نافرمانی کی اور رقوم کے روپیہ کو رجسٹروں اور رجسٹریوں کے ذریعہ سے لوٹا۔

زکوٰۃ کا بے محل استعمال

یہ تو معلوم نہیں خلیفہ نے خود بھی زکوٰۃ دی ہے یا نہیں۔ لیکن ایک چیز پر انہیں بڑا اصرار ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کا تمام روپیہ براہ راست ان کی تحویل میں رہے اور وہ اسے جہاں پسند فرماویں اپنی صوابدید کے مطابق خرچ کیا کریں اور کوئی شخص حضور سے اس کا حساب نہ پوچھے۔ یہ خاص حق خلافت ہے۔ ذیل کا اعلان پڑھے: ”خلیفہ کے ارشاد کے ماتحت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آئندہ زکوٰۃ کی رقوم محاسب صدر انجمن کے نام نہ بھیجی جایا کریں۔ زکوٰۃ براہ راست خلیفہ وقت کے حضور آنی چاہئے۔“

(افضل مورچہ ۲۵ مئی ۱۹۳۲ء)

یہ صریحاً خلاف شریعت اور خلاف قانون کام ہوا ہے۔ قطعاً خلیفہ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ محاسب سے بالا ہالا سلسلہ کی بعض رقم کو وصول کریں۔ اس کے لئے قطعاً کوئی وجہ جواز نہیں۔ سلسلہ کے ایک ایک روپیہ کا حساب ہونا ضروری ہے۔ یہ بددیانتی کی انتہا ہے کہ ایک شخص اعلان کر دیتا ہے کہ قومی بیت المال سے ہالا ہالا بعض رقم جن کے صرف کے متعلق وہ قوم کو مطمئن کرنے کو بھی تیار نہیں بلکہ مختلف عذرات پیش کر کے ایسا راستہ کھولتا ہے جس میں بددیانتی، فریب اور بعض ناجائز، ناوجب اخراجات کے صریح اور واضح امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ صدر المجمعین، محاسب، نظارتیں، وکالتیں، دفاتر، سب کیا ہیں؟ ایک نظام کی مختلف کڑیاں اور خلیفہ کے دست و بازو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بعض رقم کو ہالا ہالا منگوانا اور ہالا ہالا صرف کر دینا ضروری سمجھا ہے۔ اس چیز نے زمین کا صریح دروازہ ہی نہیں کھولا بلکہ ہم اپنے قلبی اور عقلی علم کی بناء پر جانتے ہیں کہ خلیفہ کی بہت سی بدکاریوں کا موجب یہ طریق عمل ہوا ہے۔ وہ زکوٰۃ کے روپیہ میں سے ان عورتوں اور لڑکیوں کی مالی امداد کرتے ہیں جن سے بدکاری کرتے اور کرواتے ہیں اور اسی روپیہ کی وجہ سے وہ اپنے بہت سے جرائم پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

حک موعود خلیفہ مسیح اقول کا طریق عمل سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے زکوٰۃ اخذ کے متعلق وہ طریق نہیں اختیار کیا جو خلیفہ کر رہے ہیں۔ انہوں سے تیس ہزار روپیہ سالانہ زکوٰۃ کا ہونا ہے۔ یہ پوری کی پوری رقم خلیفہ سلسلہ کے بیت المال کے احتساب سے ہالا ہالا صرف کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ نہ سمجھا گیا جائے کہ اس میں سے معتد بہ رقم ان کی دیواندگیوں، بے راہ رویوں اور بدکاریوں پر خرچ ہو جاتی ہے۔ غریب، بے نوا، بے سوارا چند بہیوں کی خاطر مسکین لٹوانے والے کہاں نہیں مل جاتے؟ یہ کہ وہ خلیفہ صاحب اس رقم کی امداد سے اپنے گڑبھار کھتے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم کا کثیر حصہ ان دانشمندیوں کے معاشرہ پر صرف ہو جاتا ہے۔ ہم بڑے دردمند دل سے خود ان کی خدمت میں بھی گنہگار بن کر تھے ہیں کہ خدا کے لئے اس طریق کو چھوڑ دیں۔ تاہم بعض معاصمہ عمل چائے اور بنا انہیں اپنی ساداکاریوں سے بچنے کے لئے یہ بہت بڑا سہارا مل جائے اور قوم سے بھی کتنے ہیں کہ وہ خلیفہ کو اس طریق عمل کے بدلے پر مجبور کرے اور دیکھ لے کہ اس کا زکوٰۃ کے روپیہ کا مصرف کیا ہے؟

کہنیاں

جب بھی سلسلہ کی متعلق ضرورتوں تبلیغ کے سلسلہ اور تبلیغ کی اشاعت، نئے شعبوں کے کھولنے اور ایسے ہی ضروری اور بنیادی کاموں کا سوال آتا ہے تو خلیفہ جماعت کے سامنے مالی

مشکلات، مجبوریوں، تمہ بہ تمہ قرضوں کا پورا دفتر کھول دیتے ہیں اور جب اپنی تن پروری، اقربا نوازی، اپنے بڑھے ہوئے اخراجات کے لئے آمد کی نئی سہیلوں کے کھولنے اور بچوں کے لئے روزگار کا سوال سامنے آتا ہے تو تجارتی کمپنیوں، صنعتی اداروں، بینکوں کے حصوں، روٹ پر مشوں کے لئے سلسلہ کا ڈیروں ڈیروں یہ انہیں نظر آنے لگ جاتا ہے اور اگر خزانہ خالی بھی ہو جائے تو بڑی مصومیت سے کہہ دیا جاتا ہے۔ ”ہمارا کام خزانہ بھرنا نہیں بلکہ جو کچھ آئے، اسے خرچ کرنا ہے۔“

مالیات کے متعلق خلیفہ کی ساری تقریروں کا تفصیلی جائزہ لے کر دیکھ لو ہمیشہ انجمن اور تحریک کو لاکھوں کے بوجھ سے دبا ہوا بیان کرتے رہیں گے اور جب خود کسی جگہ خرچ کی پخت و پز کر چکے ہوں گے تو بے دھڑک مزید قرض کے احکام صادر فرمائیں گے اور اس وقت کبھی یہ سوال ان کے ذہن کو پریشان نہ کرے گا کہ سلسلہ پہلے ہی مقروض ہے۔ پھر یہ افریقن کمپنی لیٹینڈ، آئی بی ڈی سی لیٹینڈ وغیرہ کمپنیوں کے لئے مزید قرضہ کیوں دیا جا رہا ہے۔

یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ جماعت کے خرچ کا بجٹ برسوں سے سال گذشتہ کی اصل آمد سے کم تجویز کیا جاتا ہے اور ہر سال وکالت و نظارت مال کی رپورٹیں یہ ہوتی ہیں کہ اصل آمد مجوزہ بجٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمیشہ ہی آپ حضور پر نور کے منہ سے یہی سنیں گے کہ سلسلہ پھر مقروض ہو گیا ہے اور اس کا قرض لاکھوں سے متجاوز ہے۔ اول تو حالات کی یہ صورت ہی جماعت کے لئے بڑی توجہ طلب ہے۔ لیکن اس موقع پر ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت کے ہمیشہ مقروض بتاتے چلے جانے میں کیا حکمت ہے؟ اسے ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے۔

پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جماعت کو ہمیشہ ہی اضطراب اور کھچاؤ میں رکھا جائے۔
دوم یہ کہ جماعت کی جیبوں سے زیادہ سے زیادہ روپیہ کھینچا جائے۔ چنانچہ تحقیق کر کے دیکھ لو قرضوں کا ذکر ہمیشہ ہی اس وقت آتا ہے جب چندوں کی اپیل اور تحریک جاری ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ شریف آدمی کا فرض ہے کہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کا فکر کرے۔

سوم یہ کہ جماعت کو اس جہت سے مطمئن رکھا جائے کہ خزانہ عملاً خالی ہے۔ خلیفہ صاحب کے لئے مال خورد برد کا امکان نہیں۔

چہارم عموماً خلیفہ کی خورد برد کا راستہ اسی قرضہ اور ادائیگی قرضہ کے چکر میں معاملات کو ڈالنے سے کھلتا ہے۔

پنجم یہ قرضے عموماً ایسے کاموں کے لئے دیئے جاتے ہیں جنہیں کھول کر جماعت کے

نمائندوں کے سامنے رکھنے کی انہیں جرات نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جماعت کے اس نظام میں مالی اعتبار سے جو نقصان خلیفہ نے جماعت کو پہنچایا ہے۔ اس کی نظیر نہیں۔
 علاوہ اس خرد برد کے جو خود خلیفہ کرتے ہیں، چھوٹی موٹی رقوم کے لئے انہوں نے اپنی کابینہ میں جو نوترن جمع کر رکھے ہیں ان میں سے بھی بعض نیک نامی، دیانتداری نفع اندوزی اور بلیک مارکیٹ کے اعتبار سے گورہیکدانہ اور ایمان کے ستارے ہیں۔

تمام الہی سلسلوں پر نظر کر کے دیکھو کہ ان کے آغاز و اوائل میں دین کی اشاعت پر خرچ کئے ہوئے روپیہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک تو اس لئے کہ وہ وقت انتشار و روحانیت کا ہوتا ہے۔ مامور کی قوت قدسیہ اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ اثر ڈال رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کا معمولی خرچ بہت زیادہ فوائد کا موجب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے لکھا ہے کہ آج کا دیا ہوا ایک پیسہ بعد کے لاکھوں کے برابر ہے۔ دوسرے اس لئے کہ بعد میں سلسلہ نے ترقی کر رہی جانا ہوتی ہے۔ دنیوی فتوحات اور اعلیٰ کامیابیوں کے دروازے بھی اس پر کھل جاتے ہیں۔ اصل چیز تو غربت اور ضرورت کے وقت کی امداد ہے۔ ایک بھوکے شخص کے لئے روٹی کا خشک ٹکڑا بھی بہت کچھ ہے۔ ایک پیٹ بھرے ہوئے شخص کے لئے پلاؤ، زردہ، قنجن اور بریانی کی قابیں بھی بے قیمت ہیں۔ لیکن خلیفہ صاحب کی مالی پالیسی کو دیکھو برابر وہ جماعت کو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ میں تمہارے لئے ریزرو فنڈ تیار کر رہا ہوں۔ میں ایسی جائیداد بنا رہا ہوں۔ جس سے سلسلہ کی تبلیغی ضروریات کے لئے روپیہ مہیا ہوتا رہے گا۔ تحریک جدید گذشتہ بیس اکیس سال سے اس ریزرو فنڈ اور قیمتی جائیدادوں کے بنانے میں مصروف ہیں ان کی جاتی ہے۔ پھر کمپنیوں اور تجارتوں میں غریب سلسلہ کا لاکھوں روپیہ یہ کہہ کر تلف کروا دیا کہ بڑے بڑے منافع ہوں گے۔ ہمارے مشن ان ہی کی آمد سے چلا کریں گے۔ اچھی طرح غور کر کے دیکھ لو کہ ”یعدہم ویمنیہم“ کا کامل پرتو آپ کو خلیفہ کے ایسے خطبوں سے ملے گا۔ آج تک سلسلہ نے کیا فائدہ ایسی تجارتوں اور کمپنیوں سے اٹھایا۔ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ احمدیہ سنور کا کیا حشر ہوا؟ گلوب ٹریڈنگ کمپنی کہاں گئی؟ گٹ فیکٹری کا کیا نتیجہ ہوا؟ سٹار ہوزری کہاں دم توڑ رہی ہے؟ دارالصناعت کے پرزے کیا ہوئے؟ ہائیڈر گلاس فیکٹری کہاں کچی؟ ویدک یونانی دواخانہ زینت محل وہلی کا کیا ہنا؟ سندھ ویجی ٹھیل آئل اینڈ الائیڈ کمپنی اب تک کتنا منافع وے چکی ہے؟ قوم کا لاکھوں روپیہ اس طرح برباد کروا دیا گیا۔ کیا یہ سلسلہ ڈوبنے والی تجارتوں کے لئے قائم ہوا تھا۔ کیا کسی الہی سلسلوں نے بھی تجارتوں اور صنعتوں کے بل بوتے پر اپنی اشاعت کی ہے۔ کاش یہ سارا روپیہ جو صنعتوں، تجارتوں

اور کمپنیوں کے نام سے خرید کر دیا گیا، سلسلہ کی تبلیغ و اشاعت پر صرف ہوتا۔
 خلیفہ نے درجنوں مشترک سرمایہ کی کمپنیوں میں جماعت کالاکھوں روپیہ پھنسا کر رکھا
 ہوا ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ خلیفہ ایسی کمپنیوں میں کچھ روپیہ اپنے
 بیٹوں اور دامادوں کے نام سے بھی لگواتے ہیں اور پھر انہیں اس کمپنی میں ڈائریکٹر، مینیجنگ
 ڈائریکٹر اور چیئر مین بنوادیتے ہیں اور اس طرح نہ صرف قوم کے سر پر ٹریڈنگ دلوانے میں بلکہ سفر
 خرچ، اجلاسوں کی شرکت کی بھاری فیسوں اور بعض معلوم اور غیر معلوم طریقوں سے ان کی آمد کی
 سبیلیں پیدا کرداتے ہیں اور خلیفہ کی اپنی اولاد کی آمدنیوں کا بہت بڑا حصہ انہیں کمپنیوں کے حصص
 اور ان کی ڈائریکٹریاں اور صدارتیں ہیں۔ ہم بوجہ اس مرحلہ پر انہیں واضح کاف نہیں کرتے۔
 مناسب موقع پر ایسے ایسے پوست کنندہ حالات پبلک کے سامنے لائے جائیں گے کہ کیا احمدی اور
 کیا غیر احمدی انگشت بدنداں رہ جائیں گے۔

آخر آپ کب تک قوم کو یہ کہتے چلے جائیں گے کہ بڑا عظیم الشان ریزرو فنڈ قائم ہو رہا
 ہے۔ روپیہ منافع پر لگا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مفید کام اس سے انجام پذیر ہوں گے۔ لالہ غفور کر د!
 اب تک پرائیویٹ اور پبلک لمیٹڈ اور غیر لمیٹڈ کمپنیوں پر بے شمار روپیہ صرف ہو چکا ہے۔ قوم
 مقروض پر مقروض ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تجربہ پر تجربہ ٹل ہو رہا ہے۔ آپ کو آخر کس حکیم نے یہ
 نسخہ بتایا ہے کہ تجارت کرداتے چلے جائیں اور خسارے کے سووے بند نہ ہوں اور ان معاملات کو
 قوم کے سامنے بھی نہ لائیں۔

امانت فنڈ

صدر انجمن احمدیہ پر لاکھوں روپیہ کی ذمہ داری امانت فنڈ کے نام سے موجود ہے۔ یہ
 اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک درومند دل اس کے تصور سے بھی کانپ جاتا ہے۔ لیکن خلیفہ
 صاحب مختلف آنوں بہانوں سے اسے قوم کے سر پر اپنی موجودہ شکل میں مسلط کئے رکھنے پر
 ہیں۔ قطع نظر اس کے جو اس نے اب ایک بظاہر باقاعدہ لیکن درحقیقت بالکل بے قاعدہ بینک بنا
 شکل اختیار کر لی ہے۔ جسے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور کوآپریٹو سوسائٹی کے مرکزی دفتر کی
 اجازت کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ جو آئینی رنگ میں سخت قابل اعتراض بات ہے۔ اس موقع پر ہم
 ان فوائد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو سلسلہ کو اتنی بھاری ذمہ داری کے نیچے پھنسا کر خلیفہ اس
 سے حاصل کرتے ہیں۔

اد پر بیان ہو چکا ہے کہ خلیفہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لئے درجنوں کاروبار جاری کر

رکھے ہیں اور تجارتی سوجہ بوجھ رکھنے والے دوست آپ کو بتائیں گے کہ تجارتوں میں جو عوامل سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں۔ ان میں ساکھ اور مضبوط بنیاد کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں بینکوں کی امداد سے اور بینک، مرکزی بینک کی ضمانتوں پر چلتے ہیں۔ خلیفہ کی ان تمام کمپنیوں کے پشت پناہ یہ صیغہ امانت ہے اور اس کی ساکھ پر بغیر کسی حقیقی Transaction کے مدت سے مالی فوائد اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس سے لین دین کی تفصیلات کا جائزہ لے کر ہمارے اس قول کی صداقت کو پرکھا جاسکتا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کاروبار میں ایسے ایسے نازک وقت آجاتے ہیں کہ بعض اوقات فوری نوٹس پر روپیہ کی ضرورت آ پڑتی ہے۔ اس وقت التواء، توقف سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس غرض سے اچھی کمپنیاں ہزاروں ہزار روپیہ بے مصرف موجود رکھتی ہیں۔ بینکوں سے معاہدے کرتی ہیں کہ بوقت ضرورت ہمیں وہ روپیہ مہیا کر دیں اور اس غرض سے سالہا سال تک مقررہ رقم ادا کرتی رہتی ہیں۔ خواہ انہیں روپیہ کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے۔ خلیفہ بغیر ایک پیسہ کی ادائیگی کے یہ فوائد اس امانت فٹڈ سے حاصل کرتے ہیں اور فوری نوٹس پر جب چاہیں چھٹی رقم چاہیں برآمد کروا سکتے ہیں اور کرواتے رہتے ہیں۔ ایک عام شخص کو یہ سہولت حاصل نہیں، لیکن خلیفہ اس سہولت سے مالا مال ہیں۔ وقت پر فرضی کفالت کے ساتھ ہی سبھی قرضوں کا اکل جانا بڑی عقیمت ہے۔ یہ عقیمت بھی خلیفہ کو اس امانت فٹڈ کے توسط سے ملتی رہتی ہے۔ **Our Draft** کے لقب میں تو خلیفہ کی کافی رسوائی ہو چکی ہے اور برسرِ منبر وہ خود اپنے اس مالی جرم کا اقرار کر چکے ہیں۔

آخر کار ہم ہونے والے ایک بعد از ہزار رسوائی

لیکن یہ ایک اقرار ہے وہ حسابات کو آڈٹ کروانے دیں۔ ایسے کتنے ہی جرائم کا اقرار انہیں کرنا پڑے گا۔

دیکھ لو قوم کو بڑی بھاری ذمہ داری کے بوجھ کے نیچے کھل کر اور نہ ہی اور روحانی رنگ میں تحریریں کر سکے اور یہ بتا کر کہ تمہارے جانی دشمن امانت فٹڈ کے ذریعہ شکست کھاتے ہیں اور یہ امانت فٹڈ کی تحریک ایک الہامی تحریک ہے۔ (فضل سورج ۱۸ جنوری ۱۹۳۸ء)

کس طرح اس سے مالی اور مادی فوائد اٹھائے جا رہے ہیں۔

مسجدوں کا روپیہ تجارتوں پر

خانہ خدا کا بنانا کتنی نیکی کا کام ہے۔ لیکن کس طرح خلیفہ نے اسے بھی جلت زر کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آپ جو آئے دن خلیفہ کی طرف سے مساجد کے لئے روپیہ کی تحریک پڑھتے رہتے

ہیں۔ یہ بھی خالی از غلط نہیں۔ خلیفہ اول کہا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی کوشش اور محنت سے ایک مسجد کے بنوانے کی تحریک کر رہا تھا۔ مجھے خیال پیدا ہوا کہ یہ بڑا ہی نیک آدمی ہے۔ کس طرح خانہ خدا کی تعمیر کی اسے مگر ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ کسی دوسری مسجد سے اس کی امانت چھین چکی تھی اور اسے تلاش روزگار میں یہ سب سہمی اور کوشش ہے۔ یہی حال خلیفہ کا ہے۔ انہوں نے بھی خانہ خدا کی تعمیر کو استحصال مال کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر سلسلہ کی سب سے پہلی عبادت گاہ لندن اور مشہور و معروف عبادت گاہ جرمنی کا حال سن لیجئے۔ جہاں کی عبادت گاہ کے لئے اب دوبارہ فریڈنگلورٹ (جرمنی) کے نام سے چندہ مانگا جا رہا ہے۔ لندن کی عبادت گاہ کے لئے ایک لاکھ روپیہ جمع ہوا تھا اور ستر ہزار روپیہ برلن (جرمنی) کی عبادت گاہ کے لئے جمع ہوا تھا۔

لیکن جرمنی میں تو عبادت گاہ بنوائی ہی نہ گئی اور لندن کی عبادت گاہ کے لئے جو زمین اس وقت خریدی گئی تھی اس پر بہت تھوڑی رقم صرف ہوئی تھی۔ کیونکہ چلی جہاں یہ عبادت گاہ ہے، مضامین لندن میں واقع ہے۔ اس پر منافقوں نے شور ڈالا کہ جناب ایک لاکھ ستر ہزار روپیہ عبادت گاہوں کے نام سے چندہ وصول کیا گیا ہے۔ خرید زمین پر تو معمولی رقم صرف ہوئی۔ یہ باقی کاروبار کہاں کیا۔ بوائےز حادوڑ ہے واجب سوال تھا۔ اس لئے پہلے تو فرمایا: ”یہ چندہ کروں کی چندہ گزیاں ہیں جو جماعت کو پست کرنے کے لئے کی جا رہی ہیں۔“ (انتقل مورخہ نومبر ۱۹۳۶ء)

لیکن سوال بڑے پتہ کا تھا۔ جواب کے بغیر چارہ نہ تھا فرمایا: ”اس میں سے ستر ہزار روپیہ مکان اور فرنیچر وغیرہ کے خریدنے پر صرف ہوا اور ساتھ ہزار روپیہ سے تجارتی کام چلایا گیا۔“ تین ہزار روپیہ کی یہاں جائیداد خریدی گئی ہے۔“ (انتقل مورخہ نومبر ۱۹۳۶ء)

ملاحظہ کر لیجئے اس طرح عبادت گاہوں کی تعمیر کے لئے ہزار ہوا روپیہ فرنیچر وغیرہ کے خریدنے سے تجارتی کام چلائے اور گادیاں میں جائیدادوں کی خرید پر صرف کر دیا گیا۔ کیوں صاحب ضرورتوں سے اپنے زبیران ہی نیک و پاک مقاصد کے لئے دسے واسطے تھے۔ مردوں نے اپنے گاڑھے پیسے کی کمانی اسی واسطے چندہ میں بھادی تھی کہ خلیفہ گادیاں میں جائیدادیں خرید لیں۔ تجارتیں چلائیں اور فرنیچر وغیرہ پر اسے برباد کر دیا جائے۔ اس سلسلہ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ہی دونوں خلیفہ نے جماعت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لئے یہ سبز باغ بھی انہیں دکھائے تھے کہ میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے اور ایسی تجارت کی بنیاد رکھ دی ہے کہ لندن کے مشن کے اخراجات کا ہر سلسلہ کے خزانہ پر نہیں رہے گا۔

(انتقل مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۳۳ء)

بڑی خوش کن سکیم تھی۔ خلیفہ نے اس نام سے قوم کو اسی ہزار روپیہ خزانہ سے نکلوا لیا اور سارے انتظام کو براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا۔ قابل دریافت یہ سوال ہے کہ خلیفہ بڑے دانا، بڑے ذہین اور فطین اور بڑے کامیاب کاروباری آدمی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹی سونا بن جاتی ہے۔ چھ ایکڑ زمین کو ترقی دے کر وہ قادیان کی ساری زمین کے واحد مالک بن گئے تھے۔ یہ اسی ہزار کا تجارتی کاروبار یقیناً بیس سال بعد لاکھوں تک تو پہنچ چکا ہوگا اور لندن مشن کا سارا بار اس تجارت نے اٹھا لیا ہوگا اور اب لندن کا مشن جیسا کہ کہا گیا تھا کہ اس (تجارت) کی غرض یہ ہے کہ اس آمد سے وہاں کا مشن چلایا جائے گا۔

اس کی آمد سے چل رہا ہوگا اور سلسلہ کے چندوں پر اس کا بار نہ ہوگا۔

(افضل مورچہ ۱۶ جنوری ۱۹۳۲ء)

لیکن نہیں قوم بدستور اس مشن کا خرچ برداشت کر رہی ہے۔ یہ تجارت خلیفہ نے قوم کو پوچھے بغیر شروع کی تھی اور عبادت گاہوں کے فنڈ کا اسی ہزار روپیہ اس پر لگا دیا تھا۔ جب قوم نے عبادت گاہوں کے فنڈ کا حساب پوچھا تو آخر بادل ناخواستہ انہیں اقرار کرنا پڑا کہ میں نے اس میں سے روپیہ نکلوا کر تجارت پر لگا دیا ہے۔ یہ جرم بہتوں کی آنکھیں کھولنے والا تھا۔ اس لئے ان کی آنکھوں کو موندنے کے لئے کئی ایک حربے اختیار کئے گئے۔ کبھی تو کہا کہ یہ باتیں کرنے والے منافق اور مشغی ہیں۔ یہ لوگ جماعت کو پست کرنے والے ہیں۔ باقی رہا روپیہ تو عبادت گاہوں سے بھی زیادہ باہر کت کام پر صرف ہوا ہے اور لگے سبز باغ دکھانے۔ اس کی آمد سے ابدلاً باد کے لئے لندن مشن چلا کرے گا اور سلسلہ کے چندوں پر اس مشن کا بار نہیں رہے گا۔

جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ایک ہی خطبہ میں اس بارہ میں تضاد بیانیاں شروع کر دیں کہ اس تجارت پر کتنا روپیہ لگا ہوا ہے۔ پہلے کہا ساٹھ ہزار پھر کہا پچھتر ہزار اور پھر کہا ستر ہزار واقعہ تھا۔ اسی ہزار۔

عبادت گاہ برلن کے چندے کو جس طرح خرد برد کیا گیا۔ اس کی طرف سے قوم کو مطمئن کرنے کے لئے کیسی قلابازیاں کھائیں۔ خلیفہ کی اپنی زبان سے سنئے: ”اب میں عورتوں میں تحریک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ یا تو وہ عبادت گاہ لندن اپنے اس روپیہ کے معاوضہ میں لیں اور یا اپنا روپیہ بطور قرضہ ہمارے پاس رہنے دیں۔ تاہم اسے سلسلہ کی اور ضروریات کے لئے کام میں لے آویں۔ ان دو باتوں میں سے جو بات وہ پسند کریں اس کے لئے ہم تیار ہیں۔“

(افضل مورچہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۰ء)

صاف بات ہے کہ عورتوں نے جرمنی کی عبادت گاہ کے لئے روپیہ دیا اور مختلف تجارتوں کے نام سے خرد برد کیا گیا۔ عملاً اس کا کہیں وجود نہ تھا۔ اب امام جماعت عورتوں کے ساتھ سودا بازی فرما رہے ہیں۔ مجھ سے لندن کی عبادت گاہ چندہ کے عوض لے لو۔ کیا طفلانہ اور مضحکہ خیز باتیں ہیں۔ لیکن ستم یہ ہے کہ خلیفہ ان ہی میں اپنی پردہ پوشی سمجھتے ہیں۔ اب خلیفہ روتا رہے ہیں۔ جماعت نے ہیبرگ (جرمنی) کی عبادت گاہ کے لئے چندہ جمع کرنے میں سستی دکھائی ہے۔

اس کے پیچھے بھی یہی حقیقت کا فرما ہے کہ جماعت پہلے ایک بار جرمنی کی عبادت گاہ کے لئے روپیہ دے چکی ہوئی ہے۔ اب پھر خلیفہ نے بڑے زور و شور سے عبادت گاہوں کے فنڈ کی تحریک شروع کر رکھی ہے اور بڑے تاجر، چھوٹے تاجر، ملازمین، وکلاء، ڈاکٹر، کنٹریکٹر صاحبان، صنایع، زمیندار، مزارع سے التجا کی ہے کہ وہ رنگارنگ طریق سے اس مد میں روپیہ جمع کرادیں اور شادی بیاہ مکان کی تعمیر، امتحانات میں کامیابی، گریڈوں کی ترقی اور برکت کے سودوں کے مواقع پر جھولی پھیلائی ہے۔ لیکن جماعت کے دوستوں کو خلیفہ کے الفاظ میں ہی کہتے ہیں۔ جماعت کے اموال سے بھی آپ لوگوں کو واقفیت حاصل کرنا چاہئے کہ وہ کہاں سے آتا ہے۔ کتنا آتا ہے اور کیونکر خرچ ہوتا ہے؟

سندھ کی اراضی پر اسرار

سندھ کی اراضی ۱۹۳۲ء میں خریدی گئی۔ کل سودا پانچ لاکھ کا تھا۔ تیس ہزار شروع میں ادا ہوا۔ پچیس ہزار سالانہ کی قسط تھی اور تیس ہزار سالانہ کی ابتدا میں آدھا خیال تھا۔

(الفضل مورس ۸ جنوری ۱۹۳۳ء)

یہ وہ عظیم الشان ریزرو جائیداد ہے جس کے نام سے خلیفہ گذشتہ بائیس سال سے قوم کی جیبوں سے روپیہ نکلوا رہے ہیں۔ سندھ کی اراضی کی جو بھی قیمت ہو، بہر حال اس پر قومی خزانہ کا صرف تیس ہزار روپیہ ہوا۔ لیکن تحریک جدید کا کتنا روپیہ آج تک اس عظیم الشان جائیداد کی تعمیر میں صرف ہو چکا ہے۔ جس کے سر پر ابلا آہاد کے لئے چندہ دینے والوں کا نام دنیا میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا اور اشاعت اسلام کی عظیم الشان بنیاد ڈال دی جائے گی۔

خلیفہ نے حسب دستور اس کاروبار کو بھی جماعتی احتساب سے اس وقت تک باہر رکھا جب تک اس کے خون کا آخری قطرہ نہیں چوس لیا۔ تمام کاروباری اور تجارتی معاملات کئے۔ تعلق خلیفہ کی سوچی سمجھی تدبیر ہے کہ پہلے وہ اسے جماعت کے سامنے رکھے بغیر شروع کر دیتے ہیں۔

پھر اس کے متعلق بڑے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں۔ ابتداء میں اسے عام آڈٹ سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ نئے نئے دفاتر کھلوا دیتے ہیں۔ حتیٰ الوسع براہ راست اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں۔ جب کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ اس کا روہار کا خون چوسا جا چکنا ہے تو اسے عام دفاتر کی طرف منتقل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی آہستہ آہستہ تمام ابتدائی حساب و کتب نئے نئے ہاتھوں میں گھما کر بہادر کروا دیا جاتا ہے۔ قانوناً ذمہ دار کوئی اور ہوتا ہے اور براہ راست خلیفہ ہدایات دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس سے کام کرنے والوں ہی میں بد مزگی اور خلفشار ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ خلیفہ کاغبین اور دست برد بھی پردہ غیب میں چلی جاتی ہے۔ سندھ کی اراضی کا بھی یہی ہوا۔ ہزاروں ہزار کے ماہوار صرف سے مرکزی دفاتر قائم ہیں۔ نظارتیں ہیں، وکالتیں ہیں۔ محاسب ہے۔ دوہرے دوہرے آڈیٹریں ہیں۔ لیکن اس طویل و عریض انتظام کے باوجود جب سندھ کے مربیعے حاصل کئے گئے تو سنڈیکٹ کے نام سے ایک نیا دفتر کھول دیا گیا۔ جس کا صدر انجمن سے کوئی تعلق نہ تھا۔ جس میں کبھی مرزا محمد اشرف کو محاسب بنا دیا۔ کبھی منشی فرزند علی خان کو، حیرت ہے قوم سے تحریک جدید کے نام سے یہ کہہ کر روپیہ وصول کیا کہ اشاعت اسلام ہوگی۔ پھر کہا میں قوم کے لئے جائیدادیں بنا رہا ہوں۔ صدر انجمن سے روپیہ علیحدہ وصول کیا۔ اس حالت میں خلیفہ کا فرض تھا کہ وہ اس کا حساب صدر انجمن احمدیہ یا تحریک جدید میں رکھواتے۔ لیکن انہوں نے نئے نئے گھمے کھول کر علیحدہ کارندے، علیحدہ محاسب اور سیکرٹری مقرر کر دیئے۔ خود اپنے پاس اس کا انتظام رکھا۔ آخر اس کی کیا وجہ جواز ہے؟ جب قوم کا روپیہ ہے، قوم کی جائیداد ہے اور قوم کے پاس ہزاروں ہزار کے صرف سے حساب کتاب اور نگرانی کا انتظام موجود ہے تو پھر سندھ کی اراضی کے انتظام کو علیحدہ رکھ کر اسے گورنمنٹہ بنانے اور براہ راست اپنی ذاتی نگرانی میں رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ خاص طور پر جب کہ خود آپ کی اپنی زمین اور اس کا حساب کتاب بھی اس میں شامل اور مشترک ہے اور پھر آپ خاص طور پر اپنے بیٹوں اور دامادوں کے سپرد اس کام کو کرتے رہے ہیں۔

خلیفہ کہتے ہیں، سندھ کی زمین مجھے سونا اگل کر دے رہی ہے اور اسے ہی انہوں نے اپنے موجودہ پیش و عشرت کے مصارف کا پردہ بنا رکھا ہے۔ سونا نہیں، تحریک اور انجمن کو چاندی ہی میسر آ جاتی۔ انہیں تو چھانکنے کے لئے وہاں سے خاک بھی نہ ملی۔ بعد میں جب اس مرضی کے اثروں کے ختم ہونے کا وقت آیا اور زمین کی ساری طاقت چوس لی گئی۔ وہاں پھر اور سیم پھونٹے لگ گئی اور ادھر تحریک اور انجمن کا انتظام اپنے رشتہ داروں کی گرفت میں آچکا تھا۔ سندھ کا انتظام بھی قومی اداروں کو دے دیا گیا۔ لیکن اس میں بھی احتیاط کر لی گئی کہ تحریک اور انجمن کے سپرد علیحدہ

علیحدہ انتظام کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ اصل ریکارڈ کسی کے بھی پاس نہ رہے یا تو اشتراک کا اتنا زور تھا کہ انجمن تحریک کی اراضی کے ساتھ اپنے نام سے بھی کچھ اراضی شامل کر دی اور سارا حساب مشترک کر لیا اور جب دیکھا کہ ذاتی فائدہ علیحدہ کر دینے میں ہے تو تحریک اور انجمن کی اراضی کے انتظام کو بھی مشترک نہ رہنے دیا اور انجمن میں نظارت زراعت قائم کر کے معنی القاب، کہہا القوم ماہر اراضیات جن کی سات پستیں گدھے ہانگتی تھیں نہ کہ زراعت کا پیشہ کرتی آئی تھیں کے سپرد کر دیا۔ (ان الفاظ پر کوئی صاحب ناراض نہ ہوں۔ یہ بھی سلت محمودیہ ہے)

کاسہ گدائی

مرزا محمود احمد کی آمد کا ایک ذریعہ نذرانے بھی ہیں جو جماعت کے دوستوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً نہیں ملتے رہتے ہیں۔ جس حد تک ولی جذبہ سے کوئی نذر دینے کا سوال ہے۔ یہ چیز قطعاً قابل اعتراض نہیں۔ لیکن قابل اعتراض بات یہ ہے کہ خود خلیفہ بھی مختلف طریق سے اس کی تحریک کرتے رہتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس نذر و نیاز کی رقمیں پہنچتی رہیں۔ ”فقد موما بین یدی نجواکم صدقۃ (المجادلہ: ۱۲)“ کا پراپیگنڈا کہ حضور کو جب ملو کچھ نذر ضرور دو۔ جلسہ سالانہ پر ملاقات کے خاص انتظامات اور تحریک کہ: ”جلسہ کے موقعہ پر خلیفہ سے ملاقات بھی ضروری ہے۔“

(الفضل مورخہ ۸ جنوری ۱۹۳۳ء)

تختہ تحائف دینے والوں کا افضل اور خطبات میں ذکر ان چیزوں کو اخلاص کا معیار قرار دینا۔ ان ذرائع سے لوگوں کے بہت سے رکنے ہوئے کاموں کا انجام پذیر ہو جانا مرکز میں اس ذہنیت کا پیدا کر دیا جانا کہ وہ شادی اور بیاہ یا دوسری تقاریب جس میں حضور اور حضور کی مقدس ازواج شامل نہ ہوں، ہاروق، یا ہارکت نہیں ہو سکتی اور اس شمولیت کی بنیاد نذرانوں کا پیش کیا جانا اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

خلیفہ کس کس طرح کاسہ گدائی لے کر پھرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جماعت کو تلقین کی جاتی ہے کہ خلیفہ کے اوقات گرامی کو مالی ضروریات اور مشکلات سے مشغول کرنا ہماری حرارت دینی جائز نہیں سمجھتی۔

(الفضل دسمبر ۱۹۳۳ء)

لیکن اس کے ساتھ ہی خلیفہ اپنی بے زری کا گلہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ڈھنڈورہ پیٹتے رہتے ہیں: ”میں کالج میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا۔ میں خود باہر سے ڈاکٹر اپنے لئے یا اپنے خاندان کے لوگوں کے لئے نہیں بلایا کرتا..... میرے پاس روپیہ نہیں ہے۔“

(الفضل مورخہ یکم جون ۱۹۳۳ء)

پھر اس قسم کی روایتوں کو بھی شہرت دی جاتی ہے: ”ان کے (سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدراس) اخلاص کی یہ حالت تھی کہ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی وہ حضرت کو قرض لے کر روپیہ بھیج دیتے۔“

(الفضل ستمبر ۱۹۳۵ء)

کبھی فرماتے ہیں: ”میں بیمار ہوں۔ ڈاکٹر مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ گرمیاں پہاڑ پر گذاروں۔ لیکن مالی زیرباری کے خیال سے میں اس کی جرأت نہ کر سکا۔ کیونکہ پچھلے تجارت سے میں اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ مالی زیرباری اس فائدہ کو جو تہدیلی آب و ہوا سے ہوتا ہے، بالکل مٹا دیتی ہے۔“

(الفضل مورخہ ۲۷ جولائی ۱۹۲۶ء)

میں امیر آدمی نہیں۔ بسا اوقات مجھے بیماری میں دواؤں اور ضروری لباس اور ضروریات کے لئے سامان میسر نہیں آتا۔ ایک طرف جماعت کو یہ تلقین کروانی کہ حضور کے اوقات گرامی کو مالی ضروریات اور مشکلات سے مشوش کرنا حرارت دینی کے خلاف ہے اور بیماریوں پر دواؤں کے لئے حیح و پکار کرنا، ہزار ہزار روپیہ قربانیوں پر صرف کروادینا اور دوسری طرف یہ کہنا کہ میں غریب ہوں۔ بسا اوقات مجھے بیماری میں دواؤں کے لئے پیسے میسر نہیں ہوتے اور اس طرح اپنی حالت دنیا کے سامنے اس طرح پیش کرنی کہ مجھے علاج، سفر، لباس، بچوں کی تعلیم اور دیگر ضروریات کے لئے سامان میسر نہیں۔ یہ صریح رنگ سوال اور حسن طلب نہیں تو اور کیا ہے؟

اس حسن طلب کا نتیجہ یہ ہے کہ جماعت داسے، ور سے ان کی امداد کرتی ہے اور وقتاً فوقتاً روپیہ وغیرہ ان کی جھولی میں ڈالتی رہتی ہے۔ پرنسپل مآب مرزا ناصر احمد جن کی خلافت کا قیام خلیفہ کے گلے پڑا ہوا ہے۔ اسی حسن طلب کے نتیجہ میں ولایت گئے تھے۔ جس کا ڈھنڈورہ آج خلیفہ اس طرح پیٹ رہے ہیں کہ وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے۔ ان کی تعلیم کے تمام تر اخراجات چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب نے ادا کئے تھے اور اسی حسن طلب کا کرشمہ، کیا یہ جماعت سے ذاتی مفاد حاصل کرنے کی بدترین اور قابل صد نفرت حرکت نہیں؟

خلافت جو ملی فنڈ

جس کی تحریک بھی حضور ہی کے ایماء پر چوہدری صاحب موصوف نے کی اور مدتوں افضل میں پراپیگنڈہ کر کے اور چوہدری موصوف کی شانہ روز کو ششوں کے نتیجہ میں تین لاکھ کی رقم جناب خلیفہ کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ پہلے تو اس امداد کو چندہ قرار دیا گیا اور جماعت کو بتایا گیا کہ یہ چندہ قومی ضروریات اور سلسلہ کے مفاد ہی پر خرچ ہوگا۔ میاں بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں:

”بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خلافت جو ملی کا چندہ کہاں خرچ ہوگا۔ اس کا یہ جواب ہے کہ یہ رقم جمع کر کے حضرت امیر المؤمنین..... کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور حضور سے سلسلہ کے مفاد ہی میں جس طرح پسند فرمائیں گے خرچ فرمائیں گے۔“ (الفضل مورخہ ۱۴ جنوری ۱۹۳۹ء)

اور یہ وعدے دے کر اور اس طرح جوش دلا کر کہ خلافت جو ملی کی تقریب تاریخ اسلامی میں اپنی نوعیت کی پہلی اور نادر تقریب ہے۔ (الفضل مورخہ ۲۵ مارچ ۱۹۳۹ء)

اور وفد بھیج بھیج کر لوگوں سے ان کی ماہوار آمد سے ڈیڑھ گنا چندہ طلب کر لیا گیا۔

(الفضل مورخہ ۹ فروری ۱۹۳۵ء)

اور آخر میں اسے خلیفہ کی خدمت میں ان کی ذاتی ضروریات کے لئے نذرانہ قرار دے کر کیا ان کے تصرف میں یہ ساری رقم دے دی گئی۔ اول اول تو خلیفہ نے بھی اس رقم سے لاکھوں لاکھ ٹریکٹوں کی اشاعت وغیرہ کا ذکر کر کے حساب برابر کر دیا۔ لیکن اس کا انجام بڑی دلچسپ تاریخ ہے۔

خلیفہ کو نذرانہ دینے کے لئے جو ملی فنڈ کی تحریک مالی لحاظ سے کن نازک ایام میں ہوئی۔ اس کا اندازہ خلیفہ کے الفاظ سے کیجئے۔ مجلس مشاورت ۱۹۳۸ء کا افتتاح کرتے ہوئے خلیفہ نے فرمایا کہ مالی قربانیوں کے لحاظ سے جماعت کے لئے یہ نہایت نازک ایام ہیں۔ صدر انجمن کے قرضہ کی مقدار چار لاکھ تک کافی گئی ہے۔ (الفضل اپریل ۱۹۳۸ء)

سوال یہ ہے کہ جب جماعت کے لئے مالی لحاظ سے نہایت نازک ایام تھے اور انجمن چار لاکھ کی مقروض ہو چکی تھی۔ کارکنوں کو تین تین ماہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں تو ایسے نازک اور محروم ایام میں جو ملی فنڈ کی تحریک کیوں چلائی۔ کیا اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ قوم اپنے پیٹ کاٹ کر اور انجمن کا خزانہ اپنا روپیہ اگل کر تین لاکھ روپیہ خلیفہ کی جھولی میں ڈال دے۔ کیا خلیفہ کا فرض نہیں تھا کہ اپنی جیب میں تین لاکھ روپیہ ڈالوانے سے پہلے سلسلہ کا چار لاکھ روپیہ قرض اتروانے کا انتظام کرتے۔ پھر فی الحقیقت جو ملی کی تحریک خود خلیفہ نے کروائی۔ ۱۹۳۱ء میں ایک موقع پر فرمایا:

”ہم کو اس سال چالیس سالہ جو ملی منانی چاہئے۔“ (الفضل مورخہ ۱۲ جون ۱۹۳۱ء)

حدیث شریف میں آتا ہے: ”من لم یشکر للناس لم یشکر اللہ“

خلیفہ کی ناشکر گزار اور احسان فراموش طبیعت کا ان الفاظ سے اندازہ کیجئے۔ جو شخص مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے وہ مجھ پر احسان نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ اس ذریعہ سے اس پر احسان کرتا ہے۔ (الفضل مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

اب ذرا ان امدادی رقوم پر نظر ڈالئے جو خلیفہ علی الاعلان انجمن سے وصول کرتے ہیں۔ خلیفہ کے لئے ۱۹۰۸ء میں ساٹھ روپیہ کا ایک وظیفہ ان کی گذراوقات کے لئے مقرر کیا گیا۔ یہ چیز اب آپ کے دائمی استحقاق میں تبدیل ہو چکی ہے اور خلیفہ آج بھی یہ رقم بدستور وصول کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے غالباً ۱۹۲۳ء میں یہ ڈھونگ کھڑا کیا تھا کہ میرے لئے انجمن ماہوار کچھ رقم مقرر کر دے، میں لیا نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا مقرر کر دیا جانا بہر حال ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے خلیفہ کے لئے راستہ بند نہ ہو جائے اور اس کے لئے بیت المال سے کوئی رقم لینے میں روک نہ ہو۔ یہ ایسا لغو اور مستحکم خیر عذر تھا کہ حیرت آتی ہے کہ خلیفہ نے اس چیز کو اپنے کا سہ گدائی کے لئے پردہ کس طرح سمجھ لیا۔ بات صاف تھی خلیفہ انجمن سے باقاعدہ ایک رقم جتھلانا چاہتے تھے۔ نام لے دیا اگلے خلیفہ کا۔ اول تو اسوۂ حسنہ یہ خلیفہ کب ٹھہرے؟ محمد رسول اللہ ﷺ کا مقام انہیں کہاں سے حاصل ہو گیا؟ پھر اگر ابو بکرؓ عمرؓ کے بیت المال سے رقوم لے لینا کافی اسوۂ حسنہ نہیں تو خلیفہ کے رقم لینے میں وہ چیز اسوۂ حسنہ کیسے ہو جائے گی؟ کیا اگلے خلیفہ کے لئے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا اسوۂ کافیا نہیں ہے؟ پھر آپ نے تو کہا ہے کہ میں اس رقم کو لوں گا نہیں۔ محض برائے نام رکھی جائے گی تو اگلے تو گے خلیفہ پر اگر کسی نے اعتراض کرنا بھی ہے تو وہ کیا یہ نہیں کہے گا کہ پہلے خلیفہ نے گورنمنٹ بجٹ میں تو رکھوائی لیکن عملاً وصول نہیں کی اور یہ خلیفہ عملاً وصول کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ اگر محض نام نہاد طور پر ہی یہ رقم رکھی جاتی تھی اور محض خانہ پری ہی مقصود تھی اور محض ایک راستہ کھولنے کے لئے ظاہری شکل دینا منظور تھا تو یہ چھ ہزار روپیہ سالانہ کسی رقم کس مقصد سے رکھی گئی۔ محض ایک روپیہ بطور Token رکھ دینا کافی تھا۔ انجمن کو اپنے بجٹ کو متوازن رکھنے کے لئے جو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے اس میں بہت حد تک کمی آجاتی۔ لیکن چونکہ اصل مقصد مالی استحصال تھا۔ چھ ہزار کی رقم بجٹ میں رکھوائی گئی۔ اس سے بھی اگلی بات سنئے کہ اس وقت خلیفہ نے پردہ رکھنے کے لئے یہ کہہ تو دیا کہ میں اس رقم کو وصول نہیں کروں گا۔ لیکن آج تک اس رقم سے ایک جبہ بھی انجمن کے خزانہ کو واپس نہیں ملا اور خلیفہ باقاعدہ ابتداء سال میں چھ ہزار کی رقم وصول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی پردہ دردی پر آتا ہے تو بڑے بڑے محتاط اس کی زد میں آنے سے نہیں بچتے۔ یہی خلیفہ جو بڑی چابکدستی سے اپنے اس مالی استحصال کو چھپاتے چلے آئے ہیں۔ خود ان سے گذشتہ سال ایسا قدم اٹھوا لیا گیا ہے۔ جس سے سارا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ۱۹۵۷ء کو خلیفہ کی پردہ دردی سے خاص نسبت ہے۔ صدر انجمن احمدیہ کا بجٹ ۵۸۔۱۹۵۷ء ملاحظہ

کہتے۔ خلیفہ کے نذرانہ کی یہ رقم جو سا لہا سال سے چھ ہزار روپیہ اور نئے محض بطور **Token** بجٹ میں رکھا گیا تھا مرزا محمود احمد کی مالی امداد اس سے مقصود نہ تھی۔ صرف یہ مقصد تھا کہ آئندہ کسی آنے والے خلیفہ کے لئے بیت المال کے بجٹ میں رقم کار کھوانا مشکل نہ ہو جائے۔ اسے بڑھا کر یکدم بارہ ہزار روپیہ کر دیا گیا ہے۔

(بجٹ صدر انجمن احمدیہ میں ۱۹۵۸ء-۱۹۵۷ء)

بات بالکل صاف اور واضح ہے اگر نذرانہ خلافت کا مقصد خلیفہ کی مالی امداد نہیں اور اس کی تہہ میں خلیفہ کو مالی استحصال مد نظر نہیں تھا تو اس رقم کو چھ ہزار رکھوانے کی کیا ضرورت تھی اور اب اس وقت اسے بڑھا کر بارہ ہزار کس مقصد سے کرایا گیا ہے؟ جب کہ یہ سال سلسلہ کے چندوں کے لئے بڑا ہی مشکلات کا سال ہے۔ تحریک جدید کو ایک لاکھ کا خسارہ ہے۔ اس کے وکیل المال فرماتے ہیں: ”وکالت مال اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود آمد بجٹ کے مطابق پیدا نہیں کر سکی۔ اس وجہ سے بجٹ غیر متوازن ہو گیا ہے اور ایک لاکھ روپیہ کا خسارہ متوقع ہے۔“

(بجٹ تحریک جدید ۱۹۵۷ء-۱۹۵۸ء)

یہی حال صدر انجمن کا ہے۔ بہت سے ضروری اخراجات میں تخفیف کی گئی ہے۔ کئی ایک ضروری اخراجات ترک کر دیئے گئے ہیں۔ انجمن کے کارکنوں میں بیس فیصدی کی تخفیف کی جا رہی ہے۔ لیکن خلیفہ کا وظیفہ چھ ہزار سے بڑھا کر بارہ ہزار یعنی پورا دو گنا کر دیا گیا ہے۔ خلیفہ قوم پر اثر تو نبی ڈالنا چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے صدر انجمن پر کوئی ہار نہیں۔ میں خلافت کا کام مفت سرانجام دے رہا ہوں۔ لیکن عملی حالت یہ ہے کہ دو دو ہاتھوں سے سلسلہ کے اموال کولوٹ رہے ہیں۔

کسی شخص کی حقیقی ضروریات کھانا، کپڑا، مکان، ضروری سفر اور اولاد کی تعلیم کے اخراجات ہوا کرتے ہیں۔ خلیفہ کے کھانے، کپڑے کے لئے بارہ ہزار روپیہ بجٹ میں موجود ہے اور بجٹ کی پوری کی پوری رقم یہ وصول کر لیتے ہیں۔ مکانات انجمن نے بنا کر دے رکھے ہیں۔ پہلے فوری طور پر بیوہ کی رہائش کے لئے عارضی تعمیر کر کے دی۔ کچھ دن اس میں رہائش رکھی۔ پھر آدمی عارضی رہائش کے لئے دو بارہ مکانات بنا کر دیئے۔ اب تیسرے مرحلہ پر پختہ مکان موجود ہیں اور سب انجمن کے خرچ پر۔ آپ کی بیویاں ماشاء اللہ چار ہیں۔ لیکن مکان انجمن سے آپ نے پانچ لے رکھے ہیں اور ان کے ساتھ پائیس باغ بنوائے جانے کا ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ گرمائی مستقر کے لئے جابہ میں کوٹھی ہے۔ کراچی کی سیر کے لئے وہاں ایک وسیع کوٹھی بن چکی ہے۔ خلیفہ کی ضروریات کا یہ سارا بندوبست قوم کے روپیہ سے کیا گیا ہے۔ سفری ضروریات کے لئے بجٹ میں سفر خرچ کے مصارف کے لئے رقم موجود ہے۔

(بجٹ صدر انجمن احمدیہ میں ۱۹۵۸ء-۱۹۵۷ء)

اولاد کی تعلیم کے لئے اتالیق میسر ہیں اور اگر یورپ کی تعلیم کی ضرورت ہو تو اس کے لئے بھی قوم کے عمائدین کی جیبوں پر عجیب و غریب ڈھنگوں سے ڈاکہ ڈالا جاسکتا ہے۔ موثرین انجمن نے لے کر دے رکھی ہیں۔ نجی کاموں کے لئے نوکر موجود ہیں۔ پھرے دار حاضر ہیں۔ ڈیوڈھی برداردن رات مستعد کھڑے ہیں۔ یہ سارا بندوبست قوم ہی کے روپیہ سے تو کیا گیا۔ لیکن ابھی بچارے خلیفہ کا کسی رنگ میں بار قوم کے سر پر نہیں۔

ان حالات میں خلیفہ کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے: ”یہ مال دین کی خدمت میں صرف ہوتا ہے اور مجھ کو ذاتی طور پر کوئی نفع نہیں پہنچتا۔“
میں جانتا ہوں جو وہ کہیں گے جواب میں

خلیفہ جس جس طرح قومی مال کو خرد برد کرتے ہیں اس کے دفاع میں تین جواب ہماری نظر سے آج تک گذر چکے ہیں۔

پہلا جواب!! ان کے ماموں اور خسر جناب ڈاکٹر محمد اسماعیل کے قلم سے ہے، جو فرماتے ہیں کہ لوگ مالیات کے بارہ میں خلیفہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ: ”قرآن مجید میں خدا نے حضرت سلیمان کو مخاطب کر کے فرمایا: ”هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ ہماری بخشش ہے خواہ اسے دے خواہ روک لے۔ تجھ پر اس کے حساب کی ذمہ داری نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء سے حساب نہیں لیا جاسکتا۔ دوسرے یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ خلیفہ آج ثانی کو بھی مسج موعود کے الہامات میں سلیمان کہا گیا ہے۔ اس لئے حضور پر بھی اخراجات کے بارہ میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ”فامنن او امسک بغیر حساب“ کا حکم حضور پر بھی حاوی ہے۔“
(الفضل مورخہ ۱۸ جون ۱۹۲۶ء)

دوسرا جواب!! خلیفہ خود فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: ”تمہاری اور میری مثال تو اس شخص کی سی ہے جو کسی کے گھر میں اپنا مال رکھے جب لینے جائے تو گھر والا شور مچادے، چور ہے، چور ہے۔“
(الفضل مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۳۹ء)

تیسرا جواب!! ملاحظہ ہو: ”جب یہاں ہمارے عقیدہ کے مطابق خدا تعالیٰ خلیفہ قائم کرتا ہے۔ وہ اگر اموال تلف کرتا ہے یا تلف کرنے دیتا ہے تو وہ خود خدا کے حضور جواب دہ ہے۔ تم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔“

سبحان اللہ! اب معلوم ہوا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور میں بھی خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں۔ اس کی مار کہاں کہاں تک ہے۔

خلیفہ پر احتساب ممنوع ہے۔ حضرت ابو بکرؓ جسے خدا نے خلیفہ بنایا تھا وہ تو فرماتا ہے: ”اگر میں نیک کام کروں تو میری امداد کرنا اور اگر غلط راہ اختیار کروں تو مجھے فوراً ٹوک دینا۔ جب تک میں خدا اور رسول کے احکام پر چلتا رہوں تم میرا کہا مانو اور اگر ان کی اطاعت سے منہ پھیر لوں تو میری بات نہ مانو۔“ لیکن یہ خلیفہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ میری بے راہ رویوں پر مجھے مت روکو۔

افسوس خلیفہ مالی استحصال میں کس پست ذہنیت پر اتر آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک اجتماعی محاسب قوت کے فقدان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خلیفہ نے کمال چاہا بلکہ سستی سے اس روح کو بیدار ہونے سے اب تک روک رکھا ہے۔ لیکن ذہنوں میں جو حقائق پرورش پارہے ہیں اور جماعت کا بیدار طبقہ جس بیخ پر سوچنے لگ گیا ہے ان کی موجودگی میں مقاطعہ، اخراج، منافقت اور مندرجہ بالا پراپیگنڈے کے کمزور اور لالچنی سہارے اب زیادہ دیر تک کام نہیں آسکیں گے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ ساٹھ روپیہ کا یہ وظیفہ خوار جس کے پاس خلافت کے پہلے دن ایک اشتہار چھاپنے کے لئے بھی پیسہ نہ تھا اور جو خود اقراری ہے کہ بیسیوں مرتبہ میں نے اپنی آمد اور اخراجات کا حساب کیا ہے تو اخراجات ہمیشہ آمد سے دو گنا ہوتے ہیں۔

اور تقسیم ملک کے وقت جس کی یہ حالت تھی کہ وہ خود کہتا ہے: ”قادیان سے نکلنے کے وقت مجھ پر لاکھوں روپیہ قرض تھا۔ جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۴۷ء)

آج وہ پھر لاکھوں کا مالک کیسے بنا۔ ربوہ میں یہ دھڑا دھڑ درجنوں کوٹھیاں کہاں سے بن رہی ہیں۔ ڈھیروں ڈھیروں افراد خاندان کے ساتھ یورپ و انگلستان کے سفر کسرتے پر ہو رہے ہیں۔ یہ نئی سی نئی کمپنیوں میں حصے کہاں سے خریدے جا رہے ہیں؟ خلیفہ کا ارشاد ہے: ”تم میں سے کون ہے جو کہہ سکے کہ میں نے کبھی اس سے کچھ مانگا ہو..... کوئی ہے جو مجھ پر دنیایت کا الزام لگا سکے۔ کوئی ہے جو مجھ پر خیانت ثابت کر سکے۔ کوئی ہے جو میری طرف لالچ اور حرص کو منسوب کر سکے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے پردہ پر اس قسم کا موجود ہے تو میں اس کو قسم دیتا ہوں اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں اس کی جان ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے اور مجھے دنیا کی نظروں میں ذلیل کرے..... اگر میں احمدیت سے غداری کرنے والا ہوں۔ اگر میں لوگوں کے مال کھانے والا ہوں۔ اگر میں لالچ اور حرص کے مرض میں مبتلا ہوں تو میری مدد کرنے والا۔ میرے راز پر پردہ ڈالنے والا خدا کا اور اس کے دین کا دشمن ہے۔“

اب اگر ان کی دہانت، ان کی گدائی، خیانت، لالچ، حرص وغیرہ کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے اور دنیا کی نظروں میں ان کی ذلت کا سامان ہو رہا ہے اور اس شخص تنافس کی ذلت اور اہانت ہو رہی ہے تو انہیں ناراض نہیں ہونا چاہئے۔

دنیا سمجھنے لگ گئی ہے اور خوب سمجھنے لگ گئی ہے کہ خلیفہ کی ساری دولت، گھنٹاؤنی فتوحات ہیں۔ خلیفہ گذشتہ تینتالیس سال سے جماعت کے روپیہ میں ناجائز تصرفات کر رہے ہیں اور مختلف حیلوں بہانوں سے جماعت کی جیبوں سے روپیہ کھینچا جا رہا ہے۔ ہم نے تو یہاں پر چند اشارے کئے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیلات بڑی لمبی ہیں۔ اگر خلیفہ کو ان حقائق سے انکار ہے تو وہ غیر جانبدار آڈٹ کمیشن کی پیشکش کو قبول کر کے اخلاقی جرأت کا ثبوت دیں۔ حقائق خود بخود منظر عام پر آ جائیں گے۔ آڈٹ کے اخراجات ہم ادا کرنے کے لئے تیار ہیں۔

اور تو خرقتے میں سب چھپ جائے گا سے کی بوتل بھی چھپالی جائے گی؟

غرض لاکھوں روپے بطور خلافت الاؤنس وصول کر کے اور لاکھوں روپے بطور نذرانہ وصول کر کے اور لاکھوں روپے قرضہ جات کے ذریعہ حاصل کر کے اور لاکھوں روپے بذریعہ جوبلی فنڈ وصول کر کے اور لاکھوں روپے خرید و فروخت اراضی کی پراسرار راہیں اختیار کر کے اور لاکھوں روپے عبادت گاہوں فنڈ کو استعمال میں لا کر اور لاکھوں روپے قومی سرمایہ سے نت نئی کمپنیاں کھول کر اور ان میں اپنے بیٹوں اور دامادوں کو بطور ڈائریکٹر خطیر تنخواہیں دلو کر اور لاکھوں روپے غریب قوم کے اپنی ذاتی کوٹھیوں پر لگوا کر اور لاکھوں روپے بطور سفر الاؤنس وصول کر کے اور لاکھوں روپے زکوٰۃ قند کے وصول کر کے یہ قوم کا تنخواہ، خلیفہ پراسرار ساٹھ روپے ماہوار کا وظیفہ خوار عمر بھر دنیا میں محمد رسول اللہ ﷺ کا نام بلند کرنے اور اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے نعرے لگاتا رہا اور آج یہ ساٹھ روپے ماہوار کا وظیفہ خوار کروڑوں روپے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا مالک ہے۔ قوم بیچارہ چندہ دے دے کر تھک گئی۔ لیکن اس نام نہاد خلافت کی جملہ برکات خلیفہ خود سمیٹ کر آج اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی خیر خواہی کی ہے۔ واقعی ساٹھ روپے کے وظیفہ خوار کا اولاد کے لئے کروڑوں روپے کی جائیداد بنا ڈالنا بڑی بھاری خیر خواہی ہے۔

(سبط نور)

احمدیہ حقیقت پسند پارٹی مرکزیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَرْزَاغُلَامِ اَحْمَدِی

مرزا غلام احمد کی تحریر میں

مرزا محمود کی تصویر



مرکزی حقیقت پسند پارٹی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود“

احباب جماعت احمدیہ اور دیگر متلاشیان حق مرزا غلام احمد اور حکیم نور الدین کی مندرجہ ذیل تحریروں کو بغور پڑھیں اور پھر آوازِ خلق جو گذشتہ تیس سال سے بڑی شدت کے ساتھ بلند ہو رہی ہے، پر کان دھریں اور سوچیں کہ جماعت ۱۹۱۳ء سے لے کر اب تک کیوں مختلف پارٹیوں میں بٹی چلی جا رہی ہے اور نیکی و تقویٰ کا فقدان اور سیاست کی راہوں پر قدم مارنے کی کیا وجہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں: ”بسا اوقات تو ایسے آدمی کو پائے گا جو باوجود فسق و فجور میں مبتلا ہونے کے خوب مضبوط اور خوش و خرم پھرتا اور خوشی کے لباسوں میں منگ منگ کر چلتا ہے۔ خوشیوں کے نشانے سے اس کا تیر کبھی خطا نہیں جاتا ہے۔ اس کے لئے تازہ گوشت کے لذیذ کباب تیار ہوتے ہیں۔ چوزے اس کے لئے بھونے جاتے ہیں اور اعلیٰ قسم کے کھانے اس کے لئے تیار کئے جاتے ہیں اور وہ ہر لوں کی مانند خوشی سے اچھلتا پھرتا ہے۔ بیابانوں میں اسے خزانے مل جاتے ہیں اور وہ سراب مانند انسانوں کا شکار کرتا پھرتا ہے اور باوجود اس حالت کے اس پر کوئی تنگی اور تکلیف وار نہیں ہوتی اور نہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ نازک اندام اور گانے والی عورتوں سے اسے حظ وافر دیا جاتا ہے۔ اموال اور اولاد اور جائیدادیں اور زمینیں، ملازم اور خادم کثرت سے اسے عطاء کئے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بدکاریوں میں نہایت حیز رہتا ہے اور منوعات سے کبھی رجوع نہیں کرتا اور بدیوں کو نیکیوں کے ذریعہ دور کرنے میں کبھی سعی نہیں کرتا اور موت سے پہلے اپنی لغزشوں کی تلافی کرنے کی اسے کبھی فکر لاحق نہیں ہوتی بلکہ اس کے خلاف دلیری سے ان تمام باتوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، جن سے خدا تعالیٰ نے رد کا ہوا ہے اور حاصی آدمیوں کی مانند اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور پرہیز گاری کو اختیار نہیں کرتا ہے اور لوگوں اور اہل و یانت لوگوں کے قرب سے مجتنب رہتا ہے۔ بلکہ اس کا میلان طبیعت خوش آواز عورتوں کو دیکھنے کی طرف ہوتا ہے اور وہ نہ غیروں کی نصیحت پر اور نہ انہوں کی نصیحت پر کان دھرتا ہے۔ بلکہ چھوڑوں کی مانند نصیحت کرنے والوں کو ڈنگ مارتا ہے اور بجائے ان کی نصیحت کی طرف توجہ دینے کے، سانپوں کی مانند ان پر حملہ کرتا ہے۔ اس کا پراگندہ اعمال نامہ لپٹنے میں نہیں آتا۔ بلکہ وہ ہر روز کھلے کھلے گناہ میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ وہ طویل و عریض اور سبک رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اپنے ہر دشمنی رکھنے والے مد مقابل سے آگے نکل جاتا ہے اور بڑے سروالے اونٹ

کے مشابہ ہوتا ہے اور اپنی عمر کے ایام اس آدمی کی طرح گذارتا ہے جس کی شہوات کی رسی ڈھیلی چھوڑی گئی ہو اور جس کی غفلت کا زمانہ لمبا ہو گیا ہو اور وہ اہل اصلاح لوگوں کے گھروں سے اپنے گھروں کو دور رکھتا ہے اور اہل فسق اور بدکار لوگوں کا رفیق بنا رہتا ہے۔ وہ مسجد میں نہیں آتا۔ بلکہ سونے یعنی دنیا کے مال و متاع کا طالب رہتا ہے اور سرخ شراب سے بھرے ہوئے پیالوں کی طرف اس کا دل مائل رہتا ہے اور دوستوں کے حلقہ میں اور ساتھیوں کے مجمع میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے۔ دنیا کو اس نے اپنا بت بنایا ہوا ہے۔ جس کی طرف وہ ہر وقت راغب رہتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا ہر وقت دیوانہ بنا رہتا ہے اور حقیقی اور دین کے لئے وہ کوئی زاد راہ نہیں لیتا۔ اس کی عمر مال و متاع کے جمع کرنے میں خرچ ہوتی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ کی مانند دنیا کی آرزوئیں اس کے دل پر بھڑک رہی ہوتی ہے۔ ہر طرف لوگوں کے دل اس کی طرف جھک رہے ہوتے ہیں اور اس کا مطلوب اس کے لئے آسان رکھا جاتا ہے۔ اس کی دیکھیں کبھی بیکار نہیں رہتی ہیں اور اس کے دن اس سے پھرتے نہیں ہیں۔ نہ اس کے اقبال میں کمی آتی ہے۔ تکلیف دہ چیزیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں اور اس کے آب شیریں میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور دنیاوی نعمتوں میں محرومی کا دن اسے نہیں دکھایا جاتا ہے اور اس کے بخت کا ستارہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ باوجود اس کے کہ وہ اپنی عمر بدکاریوں میں صرف کرتا ہے۔ اس پر کوئی بجلی نہیں گرتی۔ اس کو کوئی سانپ نہیں ڈستا ہے۔ اس کا نام رونے زمین سے مٹایا نہیں جاتا ہے۔ بلکہ اس کی اولاد دن بدن زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اولاد کی اولاد بھی اس کے گرد جمع ہو جاتی ہے۔ وہ ہر بھری مجلس اور پر رونق محفل کا صدر ہوتا ہے۔ وہ محفلوں کے نئے ماہ کامل اور لوگوں کا سردار قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے خادم اس کے سر پر کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ قبہ کی مانند ہو جاتا ہے۔ وہ دودھ پیالے بھر کر پیتا ہے اور اسے بدبھٹی نہیں ہوتی۔ وہ ہر آرام دہ سواری پر سوار ہوتا ہے اور اس کا ناز و نعمت میں عمر بسر کرنا، اس طرح معلوم ہوتا ہے، گویا وہ چیز اسے بطور عطیہ کے ملی ہوئی ہے۔ جائیدادوں اور غلامان کی محبت اس کے دل میں سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ نہ وہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑتا ہے نہ وہ کسی بڑے گناہ سے مجتنب رہتا ہے۔ اس کا کوئی حلق اور سیرت قابل تعریف نہیں ہوتی۔ باوجود اس کے وہ خاص و عام لوگوں کا مرجع عام اور وہ کامل محبت کے ساتھ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی موت کے بعد اس کی قبر بھی زیارت گاہ بن جاتی ہے اور اس کے معتقدین کی جماعتیں صبح و شام اس کے مزار پر باقاعدگی کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔

اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ایسے شخص کو یہ اقبال کیوں نصیب ہوا ہے اور ایسی بڑی نعمت اسے کیوں ملی ہے۔ یہ راز کی باتیں ہیں جن کی اجہاء تک نظیریں نہیں پہنچ سکتی اور جن کی تک انکار کی رسائی نہیں۔“

(انجام آقلم ص ۱۰۳ تا ۱۰۹، خزائن ج ۱۱ ص ۱۱۵)

”حضرت یوسفؑ کی جہ سے بنی اسرائیل کو مصر میں بہت عزت حاصل ہو گئی تھی۔ مگر

کوئی قوم جب آسودہ حال ہوتی ہے اور ان میں کوئی ”بڑا ولی“ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کچھ مدت بعد اس نسل کے لوگوں میں کاہلی اور سستی آ جاتی ہے۔ اس ولی کے جو صاحبزادے

ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ مریدوں سے حضور، حضور سنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ان کو

بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ پھر ان کا اثر قوم پر پڑتا ہے اور آخر وہ قوم پانچوں عیب شرعی ہو

جاتی ہے۔ چنانچہ اسی قانون کے موافق بنی اسرائیل میں یہ عیب آ گئے اور پھر ان پر خدا کی طرف

سے ذلت و مسکنت لیس دی گئی۔ بیگاروں میں پلائے جاتے تو وہی ایشیوں پکوانے کے کام لئے

جاتے تو ان سے پھر ایک اور قانون الٹی ہے کہ جب اصل گناہوں والے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں

تو پھر اس بکت زدہ قوم میں ہی سے خدا کا کوئی پاک بندہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے ذریعہ وہ قوم

سنبھلتی ہے۔“

(درس القرآن نور الدین بحوالہ بدرقادیان مورخ ۸ مارچ ۱۹۰۹ء)

اے مسیح محمدی کے ماننے والو! انصاف پسند احمدی بھائیو! مذکورہ بالا عبارتوں کو ذہن

میں رکھ کر مندرجہ ذیل تین شہادتوں پر غور کر کے فیصلہ کرو اور راہ حق پاؤ۔

مولانا عبدالرحمن مصری کا عدالت میں بیان

”موجودہ وظیفہ سخت بد چلن ہے۔ یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کیلتا ہے۔ اس

کام کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ یہ

محصوم لڑکوں اور لڑکیوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور

عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔“ (ماخوذ از ٹریکٹ بعنوان ”میاں محمود احمد صاحب پر

ان کے مریدین کے الزامات اور بدعت کا ترالہ طریق“ تحریر کردہ مولانا محمد علی امیر جماعت احمدیہ لاہور مورخ

۹ نومبر ۱۹۳۸ء)

محمد یوسف ناز کا حلفیہ بیان

”بسم اللہ الرحمن الرحیم • نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم •

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله“

میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ خدا کے نبی اور خاتم النبیین ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے۔ میں احمدیت کو بھی برحق سمجھتا ہوں اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور مسیح موعود مانتا ہوں اور اس کے بعد میں مؤکد عذاب حلف اٹھاتا ہوں۔

میں اپنے علم مشاہدہ اور رویت عینی اور آنکھوں دیکھی بات کی بناء پر خدا کو حاضر ناظر جان کر اس پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ربوہ نے خود اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کر دیا۔ اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ اس بات پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ بالقابل حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔“ (دعویٰ محمد یوسف نامہ معرفت عہد اقدار تیرہ ستمبر ۱۹۰۷ء بلواری روڈ مقب شایار ہوٹل کراچی)

ایک احمدی خاتون کا بیان

”میں میاں صاحب کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اور لوگوں میں ظاہر کر دینا چاہتی ہوں کہ وہ کیسی روحانیت رکھتے ہیں۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں سے سنا کرتی تھی کہ وہ بڑے زانی شخص ہیں۔ مگر اعتبار نہیں آتا تھا۔ کیونکہ ان کی مومنانہ صورت اور نیچے شرمیلی آنکھیں ہرگز یہ اجازت نہ دیتی تھیں کہ ان پر ایسا بڑا الزام لگایا جاسکے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے والد صاحب نے جو ہر کام کے لئے حضور سے اجازت حاصل کیا کرتے ہیں اور بڑے مخلص احمدی ہیں ایک رقعہ حضرت صاحب کو پہنچانے کے لئے دیا۔ جس میں اپنے ایک کام کے لئے اجازت مانگی تھی۔ خیر میں رقعہ لے کر گئی۔ اس وقت میاں صاحب نئے مکان (قصر خلافت) میں مقیم تھے۔ میں نے اپنے ہمراہ ایک لڑکی لی جو وہاں تک میرے ساتھ گئی اور ساتھ ہی واپس آ گئی۔ چند دن بعد مجھے پھر ایک رقعہ لے کر جانا پڑا۔ اس وقت بھی وہی لڑکی میرے ہمراہ تھی، جو نبی ہم دونوں میاں صاحب کی نشست گاہ میں پہنچیں تو اس لڑکی کو کسی نے پیچھے سے آدا دی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے رقعہ پیش کیا اور جواب کے لئے عرض کیا۔ مگر انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو جواب دے دوں گا۔ گھبراؤ مت۔ باہر ایک دو آدمی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے مل آؤں۔ مجھے یہ کہہ کر اس کمرے کے باہر کی طرف چلے گئے اور چند منٹ بعد پیچھے کے تمام کمروں کو قفل لگا کر اندر داخل ہوئے اور اس کا بھی باہر والا دروازہ بند کر دیا اور چٹختیاں لگا دیں۔ جس کمرے میں میں تھی وہ اندر کا چوٹھا کمرہ تھا۔ میں یہ حالت دیکھ کر سخت گھبرائی اور طرح طرح کے خیال دل میں آنے لگے۔ آخر میاں صاحب نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور مجھ سے برا فصل کروانے کو کہا۔ میں نے انکار کیا۔ آخر زبردستی

انہوں نے مجھے پتنگ پر گرا کر میری عزت برباد کر دی اور ان کے منہ سے اس قدر یو آر ہی تھی کہ مجھ کو چکر آ گیا اور وہ گفتگو بھی ایسی کرتے تھے کہ بازاری آدمی بھی ایسی نہیں کرتے۔ ممکن ہے جسے لوگ شراب (میاں صاحب کے شراب پینے کے متعلق حکومت پاکستان کے کیمیکلز ایگزامینر مقیم کراچی کی شہادت بھی ہے جو بوقت ضرورت پیش کی جاسکتی ہے) کہتے ہیں۔ انہوں نے پی ہو۔ کیونکہ ان کے ہوش و حواس بھی درست نہیں تھے۔ مجھ کو دھمکایا کہ اگر کسی سے ذکر کیا تو تمہاری بدنامی ہوگی۔ مجھ پر کوئی شک بھی نہ کرے گا۔“

(مہلہ اخبار جون ۱۹۴۹ء دور حاضر کا نمبر ہی آرمس ۷۷، ۷۸)

مرزا محمود احمد جو ابھی کھیلتے ہیں

میاں صاحب کے زنا اور شراب کی شہادتیں تو آپ اوپر ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب سٹ جو خالصتا جو اب ہے کے کاروبار کا تحریری ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شیخ احسان الہی صاحب ہائیڈ مارکیٹ امرتسر کے رجسٹرڈ خط کا جواب ہے جو انہوں نے خلیفہ کو قادیان میں لکھا تھا کہ لوگ آپ کے سٹ کا کاروبار کرنے پر بڑے اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جواب ملاحظہ ہو۔

مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

آپ کا خط ملا بابت ”تجارت سٹ“ مورخہ ۹ ستمبر ۱۹۴۰ء آیا ہوا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اید اللہ بنصرہ العزیز نے فرمایا ہے کہ میں اس کے متعلق جواب لکھاؤں گا۔ اب قرآن مجید کے کام کی وجہ سے حضور بہت مصروف ہیں۔ امید ہے کہ جلسہ سالانہ کے بعد جواب دیا جاسکے۔ انشاء اللہ!

خاکسارا!

دستخط: ملک ملاح الدین پرائیویٹ سیکرٹری خلیفہ المسیح قادیان پنجاب

اس کے بعد شیخ احسان الہی صاحب نے پھر یاد دہانی کرائی اور دوحرفی جواب مانگا۔ چنانچہ جب دیکھا کہ خاموشی سے کام نہیں بننا تو حسب ذیل جواب لکھوایا۔

مکرمی احسان الہی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

آپ کا خط مورخہ ۹ نومبر ۱۹۴۰ء حضرت خلیفہ المسیح الثانی اید اللہ بنصرہ العزیز نے ملاحظہ فرما کر جواباً فرمایا ہے کہ آئندہ کہاں یا گندم فروخت کرنے کا کام (یعنی فارورڈ سودے) ضرور ہوا ہے۔ جب ہم نے سندھ میں زمین لی تو وہاں کے واقف کاروں نے بتایا کہ یہاں

زمیندار سب اس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بغیر قیمت پوری نہیں مل سکتی۔ کیونکہ روپیہ کی فصل نکلنے وقت اشد ضرورت ہوتی ہے اور فوراً گاہک سے فیصلہ کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ صورت بیچ سلم کی نظر آئی اور میں نے اس کی اجازت دے دی۔ اب تک بھی میں اسے بیچ سلم سمجھتا ہوں جو جائز ہے۔ مگر چونکہ آپ لوگوں کو اس کی زیادہ واقفیت ہے اس لئے اگر آپ اس کا وہ نقص بتا سکیں جس کی وجہ سے آپ کو یا آپ کے دوستوں کو شبہ ہوا ہے تو ممنون ہوں گا۔ اگر کوئی خلاف شریعت معلوم ہوا تو آئندہ اس سے روک دیا جائے گا۔ والسلام! خاکسار: ملک صلاح الدین!

نوٹ: بوقت ضرورت اصل خطوط یا عکس پیش کئے جاسکتے ہیں۔

شہ کا کاروبار خلاف شریعت ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق تو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا محمد شفیع دیوبندی، مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا عبدالجبار بدایونی اور مولانا ابوالحسن احمدی مرزا محمود احمد کی تسلی کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں ان علماء حضرات اور جماعت کے فہمیدہ طبقہ کی اطلاع کے لئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ میاں صاحب اور ان کا شعبہ تجارت جو اکایہ کاروبار اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس پر لائل پور کے جمیر اور کراچی کاشن مارکیٹ کا ریکارڈ شاہد ہے۔ پھر ہمیں یہ تحریر پڑھ کر حیرانی اس لئے بھی ہوئی ہے کہ جب میاں صاحب سٹ کے کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر اپنے ادنیٰ مرید سے جواز یا عدم جواز کا فتویٰ کیسے پوچھ رہے ہیں۔ اگر فتویٰ کی ضرورت تھی تو کاروبار کرنے سے پہلے ہی پوچھ لیا ہوتا اور پھر اس پر طرہ یہ کہ مرزا محمود احمد نے آج تک مانی کی ہے جو وہ ۱۹۳۰ء میں اپنے مرید سے طرز مشورہ طلب کر کے اس کی اور جماعت کی آنکھوں میں دھول جمونکے بیٹھ گئے۔ کیا انہی ہیرا پھیریوں اور دھوکہ بازیوں کا ربوی اصطلاح میں روحانیت نام ہے۔

مرزا محمود احمد ظرافت طبع کے لئے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں

..... ۱۹۱۳ء میں ”کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے“ کے ص ۹ پر لکھا ہے کہ: ”میں تمہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح کی زندگی میں اس پیش گوئی (مصلح موعود، ناقل!) کا مجھے کچھ علم نہ تھا۔ بلکہ بعد میں ہوا۔“

..... ۲ حالات کہ (۷ اکتوبر ۱۹۰۸ء کو خود ہی عقیدہ الاذہان ج ۳ ش ۱۱ کے ص ۳۲۰) پر لکھ چکے ہیں کہ: ”اس الہام میں دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر بھی تمہیں

دیا جائے گا۔ یہ وہی بشر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے۔ جس کی نسبت فرمایا وہ اولوالعزم ہوگا اور حسن و جمال میں حیرانگیر ہوگا۔“

کیا حوالہ نمبر ۱ سے ۶ سال قبل پیش گوئی کے علم اور پڑھنے کے بغیر ہی سب کچھ لکھا اور تبصرہ کیا جا رہا ہے؟

پھر اس پر ہی بس نہیں۔ آگے چلے حضور فرماتے ہیں:

.....۳ ۱۸ جون ۱۹۳۹ء میرے نزدیک جس حد تک میں نے اس پیش گوئی کا مطالعہ کیا ہے۔

.....۴ ۲۹ مارچ ۱۹۳۹ء کو ملک عبدالرحمن خادم کی ڈائری الغفل میں شائع ہوئی ہے۔ اس

میں لکھا ہے: ”حضور سے دریافت کیا کہ کیا حضور اپنے آپ کو مصلح موعود الی پیش گوئی کا مصداق

خیال فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں پھر میں نے عرض کیا کہ حضور کو اس بارہ میں کوئی شبہ تو

نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔“

.....۵ الغفل ۱۲ اگست ۱۹۳۹ء۔

”مصری صاحب نے مصلح موعود کی پیش گوئی کے حقائق ایک کتاب لکھی ہے.....

میرے نزدیک تو ان کے دلائل اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ محض ان کی بناوٹ اور لسانی

ہے..... اس پیش گوئی کے حقائق میرا نظریہ (بغیر پڑھے؟ ناقل ۱) یہ ہے کہ پیش گوئی کسی مامور کے

متعلق نہیں۔ بلکہ غیر مامور کے متعلق ہے (حالانکہ یہ پیش گوئی کسی غیر مامور کے لئے ہوئی نہیں

سکتی۔ ناقل ۱) اور جب یہ پیش گوئی مامور کے متعلق نہیں تو ایک غیر مامور کو بولنے اور دعویٰ کرنے

کی کیا ضرورت ہے۔ (پھر نہ جانے ۱۹۳۳ء میں غیر مامور ہوتے ہوئے مرزا محمود احمد صاحب مصلح

موعود کا دعویٰ کرنے پر کیوں مجبور ہوئے) مثلاً مصلح موعود کے حقائق اللہ تعالیٰ نے جو علامات بتائی

ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ (لیکن مرزا محمود نے تو یہی

پرستی کی زنجیروں میں مریدوں کو بہت بری طرح جکڑ رکھا ہے) زمین کے کناروں تک شہرت

پانے کا اور تو میں اس سے برکت پائیں گی۔ (میاں صاحب نے نیکی اور تقویٰ میں تو کیا شہرت

پائی ہے۔ بڑی کی وجہ سے خوب مشہور ہو رہے ہیں) اب اگر یہ علامات میرے متعلق نہیں تو کسی کو

کچھ لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔“ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ دروہنگو ما حافظہ ہاشما

یکم فروری ۱۹۴۳ء کے الغفل میں مذکورہ بالا حوالہ جات کے پانچ سال بعد مرزا محمود

صاحب کا سفید جھوٹ ملاحظہ ہو: ”لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیش گوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے۔ مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سمجیدگی سے ان پیش گوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیش گوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیش گوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں۔“ (یہ پہلی دفعہ کی بھی ایک ہی کپی)

اے سکاٹسٹری کے سچے عاشق اور میرے غلط احقری بھائیو! کیا میاں محمود احمد صاحب کے جھوٹا ہونے میں اب بھی کوئی شبہ ہے؟ آپ مذکورہ بالا حوالوں کو ایک بار پھر غور سے پڑھ لیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا ایسا طبع سا درخص مصلح موجود ہو گیا کوئی معمولی جسم کا شریف انسان کہلانے کا بھی مستحق ہو سکتا ہے؟

قول و فعل میں تضاد

”قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ جو تم خود نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو۔“ اس کے برخلاف مرزا محمود احمد اور اس کے حاشیہ برداروں نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ جو کو خود نہ کرو۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ افضل ۲ اگست ۱۹۳۹ء میں مرزا محمود احمد نے فرمایا: ”بہر حال کسی کتاب کے پڑھنے سے دوسرے کو روکنا اتنی بڑی نادانی ہے کہ اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پس اگر مصری صاحب نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ سچی ہیں تو ان کے پڑھنے سے لوگوں کو روکنا بہت بڑا گناہ ہے اور اگر ہم روکیں تو قیامت کے دن یقیناً ہم ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ ہمارا منہ کالا ہوگا۔ ہم خدا کے حضور لہجہ سنی قرار پائیں گے..... فیروں کا لٹریچر پڑھنا صیب کی بات نہیں۔ بلکہ میں ان لوگوں کو بہت بیوقوف سمجھتا ہوں جو ایسی کتابیں چھپ چھپ کر پڑھتے ہیں کیونکہ جو کسی دوسرے کو جنتی سے روکنا ہے وہ اپنے جھوٹا ہونے کا آپ اقرار کرتا ہے۔“

میاں صاحب کے ان زریں ارشادات کے بعد افضل مورخہ ۲۵ مارچ ۱۹۳۹ء کا ایک ضروری اعلان ملاحظہ ہو: ”احباب کی آگاہی کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ سے نام نہاد حقیقت پسند پارٹی لاہور کی طرف سے دل آزار لٹریچر احباب جماعت کو بذریعہ ڈاک V.P.P بھیجا جا رہا ہے۔ اس جسم کا لٹریچر کبھی مکتبہ احمدیہ ۲۳ مال روڈ لاہور کے نام سے اور کبھی مکتبہ انصار احمدیہ کے نام سے بھیجا جاتا ہے۔ احباب محتاط رہیں۔“ (یعنی یہ لٹریچر ہرگز نہ لیں اور نہ پڑھیں۔ ناقل!)

احباب کرام مذکورہ بالا حوالوں کو پڑھ کر خلیفہ صاحب اور ان کے حواریوں کے قول

وفصل کے تضاد کا خود اندازہ فرمائیں۔ حالانکہ خلیفہ صاحب تو بڑی فراخ دلی سے یہاں تک فرما چکے ہیں کہ میں اپنے لڑکوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ستیارتھ پرکاش کا چودھواں باب ضرور پڑھیں۔ قارئین کو یاد رہے کہ ستیارتھ پرکاش میں حضرت ختمی مآب حضور، سرور کائنات، فخر موجودات، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ علیہ السلام کو پنڈت دیانند سوامی آریہ سماجی نے طرح طرح کے غلیظ الزامات اور اعتراضات کا نشانہ بنایا ہے۔ اس لئے مرزا محمود کے نزدیک اسے پڑھ لینا ناپسندیدہ نہیں بلکہ ضروری ہے۔ کیونکہ نعوذ باللہ! شاہدہ میاں صاحب کے نزدیک دل آزار نہیں۔ لیکن مرزا محمود کے خلاف سچی باتوں کا پڑھنا بھی جماعت کے لئے روا نہیں۔ اسے کہتے ہیں وینداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

اب انصاف پسند طبیعتیں خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ وہ کون سا شرعی عیب ہے۔ جس میں مرزا محمود احمد صاحب ملوث نہیں ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کس برتے پر میاں صاحب کو "خلیۃ اللہ"، "مصلح موعود" اور "فضل عمر" مان لیں۔

جب کھل گئی صداقت پھر اس کو مان لینا

نیکیوں کی ہے یہ خصلت راہ ہدیٰ بھی ہے

خلافت ربوہ کے تفصیلی خدوخال اور حقیقت درون خانہ سے آگاہ ہونے کے لئے احمدیہ حقیقت پسند پارٹی کا شائع کردہ لٹریچر مثلاً بلائے دمشق اور خلافت اسلامیہ۔ "ربوئی راج کے محمودی منصوبے"، "احمدیت سے محمودیت تک" حضرت علامہ نور الدین، محمد یوسف ناز کا حلیفہ بیان۔ جماعت ربوہ کے فہمیدہ اصحاب سے۔ وغیرہ منگوا کر ضرور پڑھیں۔

حضرات ٹریکٹ ہذا کو پڑھ کر احمدیت کے متعلق وسوسوں میں گرفتار نہ ہوں۔ یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگا یا ہوا پودا ہے۔ اس کو مرزا محمود احمد کا خود ساختہ طاغوتی اور جالوتی نظام اور اس کا کردار ہرگز نہیں ہلا سکتا۔ آنے والا اپنے وقت پر آئے گا اور ان سب تاریکیوں کو پھوڑوے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود کے مندرجہ ذیل حوالہ کو بار بار پڑھیں اور پرامید رہیں کہ صدی کا آخر سر پر آن پہنچا ہے اور کسی دل پر الہامی بارش ہونے والی ہے۔ انشاء اللہ!

"جب تم دیکھو کہ مذہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمین پانی کو کچھ ابال آیا ہے تو اٹھو اور خبردار ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا مینہ برسا ہے اور کسی دل پر الہامی بارش ہو گئی ہے۔"

(اسلامی اصول کی لٹریچر میں ص ۷۷، خزائن ج ۱۰ ص ۴۳۰)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین!

خاکسار: سیکرٹری نشر و اشاعت مرکزی احمدیہ حقیقت پسند پارٹی!

مجموعہ کتب اسلامیہ
پبلسڈ بے آرڈر
بکس نمبر ۱۰۰
۱۰۰

ربوبی راج
کے
مجمودی منصوبے



مرکزی حقیقت پسند پارٹی

فہرست

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۴۷۱	احمدیہ سے محمودیت تک	۱
۴۷۴	دین کے پردے میں سیاست کاری	۲
۴۸۴	خلافتی حکومت کا تفصیلی خاکہ	۳
۴۹۰	ظلیفہ کا عسکری نظام	۴
۴۹۵	نظام بینکاری	۵
۴۹۷	آزادی رائے پر پہرے	۶
۴۹۹	ظلیفہ کی خروچی تدابیر	۷

پیش لفظ

احمدیت سے محمودیت تک

پھر پرش جراحات دل کو چلا ہے عشق سامان صد ہزار نمک دان کئے ہوئے
 تحریک احمدیت انیسویں صدی کے آخر میں احيائے ملت کے آغاز سے شروع ہوئی۔
 اب احيائے ملت پر غم ہو کر دم واپس کے سہارے زندہ ہے۔ عمل استقامت ۱۹۱۴ء میں شروع ہو چکا
 تھا۔ اس وقت جماعت کے عوام کا لانعام مظہیان مصلحت بین اور ابن الوقت اطلاق نے ایک
 جلیل القدر عالم اور بزرگ شخصیت کی جانشینی کے لئے ایک البرہ کئدہ تا ترش اور گونا گوں
 آلائشوں سے طوٹ بچیں سالہ جوان کو اپنا مذہبی امام اور مقتدا تسلیم کر لیا۔ اس کے پادروادعاوی
 کے مترتبے معنی کو فرق سے ناب کرنے کے بجائے اپنی دانش و پیش کو ان میں فرق کر دیا۔ پھر پرستی
 کے شرکانہ جذبے سے مطلوب ہو کر ایک تازہ وارد بساط ہوائے دل کو اکاسی سالہ نورالدین کا خلیفہ
 جنم کر اپنے دین کو بے نور اور..... اپنی تحریک کو تاریک کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے اس انتخاب سے
 ثابت کر دیا کہ ان کے دلوں میں دین کے لئے چشم سے کہیں زیادہ حیر زادے کے لئے تپیا کا
 جذبہ موجزن ہے۔ ارباب بصیرت اسی وقت سمجھ گئے۔ کہ جماعت کی یہ محمود حرکت اس کے لئے
 مہلک ثابت ہوگی۔ اس انتخاب کے پیچھے مرزا محمود احمد کی اپنی زیر زمین مساعی بھی تھیں۔ وہ اپنی
 سعی مشکور سے غمور ہو کر ایسے دعاوی کا اعلان کرنے لگ گیا تھا جو تمام تحریک پر طنز بن کر رہ گئے۔
 اس نے اجتماعی فکرت خوردگی سے قائمہ اٹھایا اور فضیلت اور افضلیت کے دعوے تراشنے شروع
 کر دیئے۔ ایک سالس میں حضرت فاروق اعظم سے جن کو مولانا شبلی نے نقیب چشم رسول کہہ کر
 پکارا تھا، اپنا درجہ بلند قرار دیا اور اپنے آپ کو ”فضل عمر“ منوانا شروع کر دیا۔ چونکہ جماعت اپنے
 انتخاب سے روحانی خود کشی کر چکی تھی۔ اس نے بلائیل و حجت اپنے ساختہ پرواخذہ خلیفے کو خلفاء
 راشدین سے افضل تسلیم کر لیا۔ اس نے یہ سوچنا بھی گوارا نہ کیا کہ خادم کا خلیفہ آقا کے خلیفہ سے
 کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ چونکہ دینی شعور کی جگہ تعصب نے لے لی تھی۔ اس واسطے سوچ بچار کا سوال
 کیسے پیدا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس جماعت نے اس خلیفہ کو ہزہولی نس His Holiness بھی
 تسلیم کیا۔ گویا اپنی محرمہ اسلام دوستی کو عیسائی شرک کے نذر کر دیا۔ کیونکہ اس کا کعبہ مقصود ”خلیفہ“
 کی ذات تھی۔

چونکہ مرزا محمود احمد طبعاً اور مزاجاً سیاسی تھے۔ اپنی کبریائی کا سکہ جما کر خواب اور رویا کے ذریعے جماعت کو سیاست کے میدان میں لے آئے۔ اس اعتراض کے جواز میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے دور خلافت میں احمدیوں کو حکومت مل جائے گی۔ یہ تدبیر جس کا خمیر ترویج سے اٹھایا گیا تھا بڑی سرلیج الاثر ثابت ہوئی۔ جماعت کا کثیر حصہ بیک بنی دود گوش ان کی شطیحات پر بھی رقص کرنے لگ گیا۔ مبادا ماضی کی یاد دلوں میں تازہ ہو کر جماعت کو پھر دین سے داہستہ کر دے۔ اس کے تذکرہ کے لئے مرزا محمود احمد نے ہانی سلسلہ کے نورتنوں کو خائن، غدار، نالائق، کذاب اور کہینے کہہ کر ان کے خلاف اور ان کے کارناموں کے خلاف جذبہ نفرت پیدا کر دیا۔ جماعت پہلے پہل غیر شعوری طور پر اور بعد میں شعوری طور پر سمجھنے لگ گئی کہ جو لوگ تحریک کے ۱۸۸۹ء سے لے کر ۱۹۰۸ء تک پاسباں بنے رہے۔ وہ کہینے اور کذاب تھے۔ لیکن کسی نے اس نفرت کا تجربہ نہ کیا کہ اس کی لپیٹ میں خود ہانی سلسلہ کی ذات بھی آ جاتی ہے۔ کیونکہ جن افراد کے خلاف نفرت اور تھکدت کی افزائش کی جا رہی تھی وہ تحریک کے ستون تھے۔ اگر وہ لوگ مرزا محمود کے خیال میں واقعی چھوٹے اور غدار تھے اور ان کی جماعت بھی ان کو اسی نگاہ سے دیکھتی ہے تو ان کو اپنی تحریک کے عمائد سمجھنے والا خود مرزا محمود احمد کے الزام و دشنام کی زد میں آ جاتا ہے۔ گویا وہ خود حسن و قبح میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ قادیانی جماعت نے جذبے سے مغلوب ہو کر اس پہلو پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کیونکہ غور کا مادہ ہی سلب ہو چکا تھا۔

مرزا محمود احمد نے بڑی عیاری سے مولوی نور الدین جوان کے خسر استاد اور مرشد تھے، پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ وہ خلافت پر قابض ہو کر رخش عناب تاب بن گئے تھے۔ اگر حضرت فاروق اعظم ان کے دعاوی کی زد سے نہ بچ سکے۔ ان کے پیشر و خلیفہ کیسے بچ سکتے تھے۔ انہوں نے جماعت میں ایک خبر چلا دی کہ جب انہوں نے انجمن کا نظام سنبھالا تو انجمن کے خزانے میں چند آنے تھے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ مولانا نور الدین یا نائل تھے یا خائن۔ نائل اور خائن منہ سے نہ کہا مگر بات وہ منوالی جس کا منطقی نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔

مرزا محمود احمد نے بلظائف اٹھل جماعت کے دینی مذاق اور میلان کو مجروح کرنا شروع کر دیا۔ وہ جماعت جو کبھی ہانی سلسلہ اور مولوی نور الدین کی تاب کاریوں سے تابناک ہونے کی مدھی تھی۔ وہ اپنے منہ بولے خلیفہ کی خواب کاریوں سے خواب ناک ہو کر رہ گئی۔ خلیفہ کے مقرر کردہ خاٹب اللیل راویوں نے ان کے فریب کو خوب فروغ دیا۔ تقویٰ و طہارت کی بجائے سیاسی تزک و احتشام کے نقشے جنسے لگے۔ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے ماتحت ہو رہا تھا۔ کیونکہ

خلیفہ کی خلوتی زندگی اجالوں سے خائف رہتی تھی۔ عفت ان کے لئے بے معنی لفظ تھا۔

ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ معنی نہ ہو

اگر جماعت کا مزاج بدستور رہی رہتا تو خلیفہ صاحب عصمتوں کے ساتھ وہ تلعب نہ کر سکتے جو ان کا شیوہ ہو چکا تھا۔ کیونکہ دینی مزاج خود ایک قسم کا احتساب ہوتا ہے۔ وہ ان طریقوں اور سلیقوں کو کبھی گوارا نہیں کرتا جو ہائی سلسلہ کے وقت میں دیکھے گئے اور نہ مولوی نور الدین کے دور میں نظر آئے۔ اس لئے خلیفہ کی عافیت اسی میں تھی کہ دینی مزاج کو کمزور کیا جائے۔ جماعت کو سرگشتہ خمار رسوم و قیود کے ایک جسد بے جان بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ تاکہ نہ خلیفہ کی نمازوں سے (خصوصاً نماز فجر سے) مسلسل غیر حاضری بار خاطر بنے نہ ان کا نماز مغرب کو قضا کر کے پڑھنا کسی کو دو بھر ہو جب منبر و محراب کے سیاق و سباق میں کھڑے ہو کر وہ اپنے روحانی مدارج کی بلندی کا ذکر کر رہے ہوں۔ تو دائیں ہاتھ کی گنج ران اور اس کے قرب و جوار میں پوریش کسی کو کبیدہ نہ کریں جب ان کے مقرب نو جوان دامن دریدہ اور چاک گریباں ہو کر قصر خلافت کے رنگین اور سنگین رومان سنائیں تو ان پر کوئی کان تک نہ دھرے۔ معصیت کاریاں کچھ تو خوارقِ عادت سمجھنی کے پردے میں مستور ہو جائیں اور کچھ جماعت کے سیاسی اور دنیاوی مزاج کے دامن میں چھپ کر آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں۔ چنانچہ اس کیفیت کے لئے ضروری تھا کہ جماعت کے مزاج میں انقلاب برپا کیا جائے۔ خلیفہ صاحب اس طالع آزمائی میں کامیاب ہو گئے۔ جماعت، احمدیت سے ہجرت کر کے محمودیت کے ویران آباد نما میں بس گئی۔ محمودیت کا پیر، بن احمدیت کا کفن بننا چلا گیا۔ اگرچہ دس دس سال کے وقفوں پر خلیفہ کے عصیان جنسی کو ہوا ملی۔ لیکن جماعت میں کوئی ایسا رد عمل نہ ہوا جو اس کی دین داری کی آئینہ داری کرتا۔ بعض گوشوں میں رد عمل ہوا تو والد مرحوم کی منظوم آرزوؤں کو پیش کر دیا گیا۔ حالانکہ نیک چلنی کا معاملہ آفتاب آمد دلیل آفتاب کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو لوگوں کو فریب میں مبتلا رکھنا مقصود تھا۔ حالانکہ ویسی ہی دعائیں اور امتکین دوسرے دو بیٹوں کے لئے بھی ہیں۔ لیکن وہ کسی کے حجت نہ بن سکیں۔ ان کی شخصیتیں اپنے اعمال کے ترازو میں تھتی رہیں۔ لیکن خلیفہ نے ایسی ہی دعاؤں کو اپنے لئے برہان قاطع بنا دیا۔ حالانکہ ان کے ذاتی اعمال کے دفتر میں پاکیزگی عتقا کا حکم رکھتی ہے۔ لیکن انہوں نے جماعت کی زیست اس طرح کی کہ وہ سمجھنے لگی۔ کہ خلیفہ صاحب کے لئے خوابوں اور خواہشوں کا کھمار کافی ہے۔ کیونکہ ان کی ضو سے شبستانِ خلافت روشن ہو جاتا ہے اور خلیفہ بڑے طمطراق سے کہہ دیا کرتے ہیں:

جان کس سے ہو غلط گسٹری مہری شہتاں کی

شب مند ہو جو رکھ دیکھ پند دیا ہوں کے روزن میں

ذاتی اعمال کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر خلیفہ سیاست میں الجھ گئے۔ اپنے سارے نظام کو بھی اس طرح ڈھال لیا۔ ان کے نظام کا ڈھانچہ جو کتابچے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ تبلیغ اسلام محض دھوکے کی ٹٹی تھی۔ ورنہ اس مقدس کام کے لئے اس آہنی نظام کی کیا ضرورت تھی۔ جس میں حکومت کے سارے اہلے ہوں اور سارا زور کا خاص بنکاری، عسکریت اور تادیب و تعزیر پر ہو۔ چونکہ چندہ اسلام کے نام پر ہی مل سکتا تھا۔ اس لئے اس کو بطور اشتہار کے رکھنا ضروری تھا۔ ورنہ نظام کی آمرانہ شدت، مقارنہ سیاست کی غمازی کر رہی ہے۔ چونکہ جماعت کا نوجوان طبقہ ان کی جنسی یلغاروں سے زیادہ زخمی ہوا۔ اس نے خلیفہ صاحب کے چال چلن کے خلاف جہاد کیا اور اپنا زور عورت خلافت کو بے نقاب کرنے میں لگا دیا ہے۔ اس سے ایک فائدہ ہوا کہ خلیفہ کی تقدیس کی فصیلیں مہار ہو گئیں اور معاشرہ ایک خطرے سے آگاہ ہو گیا۔ لیکن ملک اور قوم کو اصلی خطرہ، محمودی سیاست کا تھا جو عملاتی خصوصیتوں سے طوطی تھی۔ کیونکہ خلافت ربوی کے عظمت زار سے خلیفہ سیاست ہی جنم لے سکتی تھی۔ اسی سیاست کا صحیح و سالم نقشہ اس کتابچے میں پیش کیا گیا ہے اور یہ سارا نقشہ خلیفہ کے اپنے خطبات سے ماخوذ ہے۔ ان کی تقاریر کی تہذیب اور تزیین سے محمودی منصوبہ ایک عالمی پر بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اب تک ارباب اختیار خلیفہ کی غلطی زندگی کی بے احتیاجیوں کو مرکز توجہ بنانے سے گریز کرتے رہے۔ لیکن جب ان پر خلیفہ کے سیاسی عزائم کا انکشاف ہوا تو ان کے لئے مچلا بیٹھنا یقیناً ناممکن ہو جائے گا۔

اس کتابچے کو جیسی پسند پارٹی نے اجماعی کوشش سے مرتب کیا ہے۔ وہ اس کو شائع کر کے عوام اور حکام کو ایک زیر زمین چھپے ہوئے ڈاکٹریٹ سے آگاہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے مندرجات کی صحت کے حلقوں کا عرض کر دینا کافی ہے کہ خلیفہ اپنی تقاریر اور اعلانات کے اقتباسات پڑھ کر خود بہ اختیار کہا نہیں گئے۔

کھتا کسی پہ کیوں مرے دل کا سوا

شہروں کے انگب نے رھا کیا مجھے

پتھر ملائی سمندر مرکزی حقیقت پسند پارٹی لاہور..... ۱۲ ستمبر ۱۹۵۷ء

دین کے پردے میں سیاست کاری

کسی جماعت کے لئے اس سے زیادہ محبوب بات کوئی نہیں کہ وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ

کہ چرچہ روزانے سے سیاسی اقتدار، دنیوی ظہور، جماعتی تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
 کسی مذہبی تحریک یا اس سے پیدا شدہ مذہبی جماعت کو حکومت کی طرف سے جو حمایت حاصل ہوتی
 ہے وہ ہمیشہ اس حد تک ہوتی ہے جس حد تک وہ مذہبی جماعت اپنے آپ کو خالصتاً مذہبی مشن کے
 دائرہ کے اندر محدود رکھتی ہے اور سیاسی امور سے بچنے رہتی ہے۔ لیکن یہ ایک المناک حقیقت ہے
 کہ مرزا محمود احمد کی گندی سیاست کا سب سے گناہ نا پھل پور ہے کہ انہوں نے حکومت کے خواب
 دیکھنے شروع کر دیئے اور ایک روحانی اور مذہبی نظام کو جو شائستہ اسلام کے لئے قائم کیا گیا تھا اور
 جس کی غایت الطایفہ معاشرے میں پاکیزہ اخلاق پیدا کرنا تھی اس کو اپنے سیاسی عزائم کے تابع
 کر دیا اور وہ جماعت جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد کر چکی تھی محض تابع مہمل ہو کر رہ گئی۔ ظلیقہ کی
 یہ خواب کاری برطانوی تنظیموں کے سامنے میں خوب پروان چڑھی۔ کیونکہ سفید فام آقاؤں کا بھی
 فضا تھا کہ ظلیقہ پادر ہوا منصوبوں میں خود بھی مشغول رہے اور جماعت کے عقول دھوکے کو بھی اس
 میں الجھائے رکھے اور اس طرح اپنے اصلی اور صحیح مشن سے غافل ہو کر جماعت میں روحانی توانائی
 نہ پیدا کر سکے۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ لیکن قادیان میں شی رفته رفتہ ایسی صورت
 برپا ہوئی کہ برطانوی حکومت کو بھی احساس ہوا کہ اس کا قانون وہاں بالکل بے کار ہو چکا
 ہے۔ وہاں قتل ہوتے ہیں ان کا سراغ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن عدالت میں آ کر پولیس ناکام
 ہو جاتی ہے۔ اس سے انگریز کی حکومتی غیرت پر تازیانہ لگا اور اس نے اس متوازی حکومت کے
 خلاف اقدام شروع کر دیا۔ اس کا پہلا سراغ مسٹر جی ڈی کھوسلہ کے فیصلہ میں ملتا ہے۔ قاضی جج
 نے اپنے فیصلے میں مرزا محمود احمد کی ان جارحانہ کارروائیوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے مولوی
 عبدالکریم (مہلبہ) کے خلاف کیں۔ کس طرح ان کے خلیفے کے نتیجے میں مولوی صاحب مذکور پر
 قاتلانہ حملہ ہوا۔ لیکن ان کا ایک مددگار محمد حسین قتل ہو گیا۔ جب قادیانی قاضی عدالت کے فیصلے
 کے بعد پھانسی پا گیا تو اس کی لاش کو بڑے نزک و احتشام کے ساتھ قادیان کے بہشتی مقبرے میں
 دفن کیا گیا۔ اس فیصلے میں محمد امین کے قتل کا بھی ذکر ہے اور قاضی جج نے لکھا ہے کہ محمد امین
 مورد خطاب ہو کر کھانڈی کے دار سے قتل ہوا۔ اس کے قاتل فتح محمد نے اقرار کیا کہ اس نے قتل کیا
 ہے۔ لیکن پولیس کارروائی کرنے سے قاصر رہی۔ فیصلہ مذکور میں مرقوم ہے کہ: ”مرزائی طاقت
 اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی سامنے آ کر جج بولنے کے لئے تیار نہ تھا۔ ہمارے سامنے عبدالکریم کے مکان
 کا واقعہ بھی ہے۔ عبدالکریم کو قادیان سے نکالنے کے بعد اس کا مکان جلا دیا گیا۔ اسے قادیان کی
 سال ٹاؤن کمیٹی سے حکم حاصل کر کے نیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ

افسوسناک واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف الملوکی تھی جس میں آتش زنی اور قتل تک ہوتے تھے۔“

”ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجہ کے فوج کے حکار ہو چکے تھے اور دنیاوی اور دینی معاملات میں مرزا محمود احمد کے حکم کے خلاف کبھی آواز نہ اٹھائی گئی۔ مقامی افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایات کی گئیں۔ لیکن کوئی انسداد نہ ہوا۔ مسل پر ایک دو ایسی شکایات ہیں لیکن ان کے مضمون کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے اور اس مقدمہ کے لئے یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ قادیان میں ظلم و جور جاری ہونے کے متعلق غیر مشتبہ الزام عائد کئے گئے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلقاً توجہ نہ کی گئی۔“

پھر فیصلہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ: ”مرزا (یعنی مرزا محمود احمد) نے مسلمانوں کو کافر، سور اور ان کی عورتوں کو کتیبوں کا خطاب دے کر ان کے جذبات کو مشتعل کر دیا کرتا تھا۔“

(فیصلہ مسٹر جی ڈی کھوسلا سیشن جج گورداسپور)

یہ عدالتی فیصلہ محمودی سیاست کاریوں کی غمازی کرتا ہے۔ قادیان میں خلیفہ کے لئے قتل کرنا اور قتل کے عواقب سے بچ لگانا یک از کم خلیفہ کا محفوظ و مصون رہنا ایک ضرب المثل بن چکا تھا۔ قتل کے بعد معاملہ بقول شاعر یہ تھا۔

بے کس کا لہو مقتل کی زمین پر
نہ دامن پر نہ ان کی آستیں پر

یہی معاملہ بدرجہ اتم ربوہ میں رونما ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ خالص قادیانی ہستی ہے۔ یہاں قانون کی بے بسی ناقابل بیان ہے۔ اگر حکومت دورانہ پیشی سے کام لیتی اور مرزا محمود کو پاکستان کی پاک سرزمین کا ایک خطہ کوڑیوں کے مول نہ دیتی۔ بلکہ اس کو مجبور کرتی کہ وہ ادرااس کی جماعت کسی شہر میں متوطن ہوں یا حکومت کے تجویز کردہ مضافاتی قصبوں میں سکونت پذیر ہوں۔ تو خلیفہ کی سیاست کاریوں اور سازشوں پر قتل پڑ جاتے۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ چنانچہ ان کو ضلع جھنگ میں ایک وسیع رقبہ مہاجروں کو متوطن کرنے کے لئے ملا اور انہوں نے کمال چابک دستی سے اس کو پاکستان کی دوسری آبادیوں سے منقطع کر کے ایک یاہستان سا بنا دیا اور اس کا نام ”ربوہ“ رکھ دیا۔ اب اس قصبے میں باوجود دس ہزار کی آبادی کے کوئی تھانہ نہیں۔ اس میں خلیفہ کا سکہ رواں ہے۔ اس مطلق العنانی کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی منیر ٹریڈنگ رپورٹ میں مرقوم ہے۔

”۱۹۴۵ء سے لے کر ۱۹۴۷ء کے آغاز تک احمدیوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ

وہ برطانیہ کا چالشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ تو ایک ہندو دنیاوی حکومت یعنی ہندوستان کو اپنے لئے پسند کرتے تھے اور نہ پاکستان کو منتخب کر سکتے تھے۔“

(رپورٹ منیر انکوائری کمیٹی مئی ۱۹۶۶)

اب ہم خلیفہ کی سیاست کاری اور حکومت کا غلبہ حاصل کرنے کے بارہ میں خلیفہ کے اپنے ارشادات ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔

”غرض سیاست میں مداخلت کوئی غیر دینی فعل نہیں۔ بلکہ یہ ایک دینی مقاصد میں شامل ہے جس کی طرف توجہ کرنا وقتی ضروریات اور حالات کے مطابق لیڈران قوم کا فرض ہے..... پس قوم کے پیش آمدہ حالات کو مد نظر رکھنا اور اس کی تکالیف کو دور کرنے کی تدبیر کرنا اور ملکی سیاسیات میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس کے شامل حال ہوتی ہے اور اس زمانہ میں گزشتہ پندرہ سال کے تاریخی واقعات ہمارے اس بیان کی صداقت پر مہر لگا رہے ہیں۔“

(الفضل مورخہ ۲۵ دسمبر ۱۹۳۲ء)

”اسلام کی ترقی احمدی سلسلہ سے وابستہ ہے اور چونکہ یہ سلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں پھیل نہیں سکتا۔ اس لئے خدا نے چاہا ہے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے..... پس مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تمہاری ترقی کا راستہ کھول دیا ہے۔“

(الفضل مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۱۳ء)

”ہمیں نہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپرد کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیار ہو رہنا چاہئے کہ دنیا کو سنبھال سکیں۔“

(الفضل مورخہ ۳ جون ۱۹۳۰ء)

”انگریز اور فرانسیسی وہ دیواریں ہیں جن کے نیچے احمدیت کی حکومت کا خزانہ مدفون ہے اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ خزانہ کے مالک جوان نہیں ہو جاتے۔ ابھی احمدیت چونکہ بالغ نہیں ہوئی اور بالغ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خزانہ پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ اس لئے اگر اس وقت یہ دیوار گر جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ اس پر قبضہ جمالیں گے۔“

(الفضل مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۲۲ء)

”اصل تو یہ ہے کہ ہم نہ انگریز کی حکومت چاہتے ہیں نہ ہندوؤں کی ہم تو احمدیت کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۲۲ء)

”میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ انگریزی حکومت چھوڑ دینا میں سوائے احمدیوں کے اور کسی کی حکومت نہیں رہے گی۔ پس جبکہ میں اس بات کا قائل ہوں بلکہ اس بات کا خواہشمند ہوں

کہ دنیا کی ساری حکومتیں مٹ جائیں اور ان کی جگہ احمدی حکومتیں قائم ہو جائیں تو میرے حوصلے یہ خیال کرنا کہ میں اپنی جماعت کے لوگوں کو انگریزوں کی دائمی ظلمانی کی تعلیم دیتا ہوں۔ کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔“

”ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ تھوڑے عرصہ کے اندر ہی، خواہ ہم اس وقت زندہ رہیں یا نہ رہیں لیکن ہمہ حال وہ عرصہ غیر معمولی طور پر لمبا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تمام دنیا پر نہ صرف عملی برتری حاصل ہوگی بلکہ سیاسی اور مذہبی برتری بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ خیال ایک منٹ کے لئے کسی سچے احمدی کے دل میں ظلمانی کی روح پیدا نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے سامنے بعض حکام آتے ہیں تو ہم اس یقین اور روٹی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے ہیں کہ کل یہ نہایت عجز و اکسار کے ساتھ ہم سے استغناء کر رہے ہوں گے۔“

”اس وقت حکومت احمدیت کی ہوگی۔ آمدنی زیادہ ہوگی۔ مال و اموال کی کثرت ہوگی۔ جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگی اس وقت اس قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔“

”اس وقت تک کہ تمہاری بادشاہت قائم نہ ہو جائے۔ تمہارے راستے سے یہ کانٹے ہرگز دور نہیں ہو سکتے۔“

دیکھ لیجئے اعلیٰ صاحب مستقبل قریب میں حصول اقتدار کی امیدیں کس قدر روٹی کے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں اور حصول آزادی ہی نہیں بلکہ حصول حکومت کے لئے ان کی راہیں دوسرے اٹانے وطن اور دوسرے مسلمانوں سے کس قدر مختلف تھیں اور یہ اعلان بالوضاحت کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے حکومت ان کو نہیں بلکہ صرف اور صرف احمدیوں کو ہی ملے گی اور مسلمان جنہوں نے احمدیت سے اپنا تعلق نہیں جوڑا وہ گرتے ہی جائیں گے اور گرتے گرتے یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ”یہودی موسیٰ علیہ السلام کے تابع کا انکار کرنے کی وجہ سے ذلیل ہوئے تھے..... اور محمد رسول اللہ کی شان موسیٰ علیہ السلام کی شان سے بہت بلند ہے۔ اس لئے آپ کے تابع کا انکار کرنے والوں کی ذلت یہودیوں سے بڑھ کر ہوگی۔“

(الفضل مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۱۳ء)

ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے ان کے ہمدگرم اور دعوؤں کے مطابق حکومت ان کو نہیں مل سکی اور نہ ہی یہ حکومت برطانیہ کے جانشین بن سکے اور وہ دیوار بھی گر گئی۔ جس کے نیچے جوں ان کے احمدیت کا خزانہ مدفون تھا اور جس کے بل بوتے پر انہوں نے ہر نپٹنے والے سے چننا

قوات پاکستان کا استقلال اور اس کا قیام اور اس کی سالمیت انہیں کس طرح گوارا ہو سکتی تھی اور خصوصاً جب کہ حکومت ان مسلمانوں کو مل گئی جن کے حلقہ خلیفہ فرماتے ہیں: "ہمیں اسلام کی ترقی احمدی سلسلہ کے ساتھ وابستہ ہے اور چونکہ یہ سلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس لئے خدا نے چاہا ہے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے تاکہ اس سلسلہ خدا کے پیچھے کے لئے دروازے کھولے جائیں۔" (الفضل مورہ ۱۳ نومبر ۱۹۳۳ء)

چنانچہ ان کی اس نیت کو کہ وہ پاکستان بننے سے خوش نہیں ہوئے تھے۔ خلیفہ کا اپنا ایک ارشاد خوش خدمت ہے: "ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوتے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح بھر جھڑ ہو جائے۔"

(الفضل مورہ ۱۶ مئی ۱۹۴۷ء)

پھر فرمایا: "بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اگلی ہندوستان بنے اور ساری قومیں باہم شیر و شکر ہو کر رہیں۔"

(الفضل مورہ ۲۵ اگست ۱۹۴۷ء)

پس ان اقتباسات سے مرزا محمود احمدی کی حکومت کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ انہوں کو کالم ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ اقوال اس کی نیت کی فحاشی کر رہے ہیں۔ اگلی ہندوستان کی مجموعی پاکستان اور ہندوستان کی بااظہاریاں ختم کرنے کے اہامات مملکت و مملکت کا اپنی ثبوت ہیں۔ اس خلیفہ کی مخالفت اور سیاسی دجل کا بااظہار چھوڑا ہے میں پھوٹا ہے۔ اس کے اپنے دعوے یہ تھے کہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کو حکومت اور آزادی ملے گی اور یہ کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اور ان کے شانہ بشانہ حصول آزادی کی کوششیں نہیں کر رہے۔ بلکہ وہ ان سے الگ کوشش کر رہے ہیں۔ ان الفاظ نے خلیفہ ربوہ کی تمام جدوجہد سے پردہ اٹھا دیا ہے اور انہیں بالکل مرغاں کر کے رکھ دیا ہے۔ کس قدر خداری کے ساتھ اور کس قدر دجل کے ساتھ مسلمانوں کا تڑو ہو کر اور ان کا حصہ بن کر ان کے نام پر سیاسی حقوق لے کر سوچا یہ جا رہا تھا کہ آزادی حکومت مسلمانوں سے پہلے ان کی ہی سرکوبی کے لئے حاصل کی جائے گی۔ خلیفہ ربوہ کے سرکاری گزٹ الفضل نے لکھا تھا: "مجھ اپنے وقت سے ذرا پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔"

(الفضل مورہ ۱۸ نومبر ۱۹۳۹ء)

اب اپنی فتح کی امیدوں کو پاش پاش ہوتا دیکھ کر زخمی ساپ کی طرح بے تاب ہیں اور مسلمانوں میں ہتکار بھیلانے کے لئے سیاسی جڑ توڑ میں مشغول ہیں۔ ہم حکومت کو اس بات سے آگاہ کر دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ مرزا محمود کی سازشوں

اور حرکات کو اپنی نگاہ میں رکھے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ کسی دشمن کا مقابلہ اس کے طریق کار کو سمجھنے کے بعد ہی کامیابی سے کیا جاسکتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کی وسیسہ کاریوں اور رو باہی چالوں کو پہلے سے سمجھ لیا جائے۔ دنیا کا چارج سنبھالنا، حکومت پر قبضہ کرنا، اپنا اقتدار قائم کرنا۔ یہی وہ تصورات تھے جن کی بدولت خلیفہ ربوہ کے بعض سادہ لوح مریدوں کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور بنگال کی گورنری وغیرہ کے خواب دیکھنے لگ گئے۔ لیکن یہ محض تصورات و نظریات ہی نہ تھے۔ بلکہ خلیفہ ربوہ نے اپنی جماعت کو ان نظریات کی عملی تعبیر کے لئے جماعت کی باقاعدہ تربیت کی اور اپنی ”سحر سامری“ سے اپنے مریدوں کو حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے شعوری اور غیر شعوری طور پر ابھارتے رہے۔ اس ضمن میں خلیفہ ہذا کے اپنے ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔

”اس وقت اسلام کی ترقی خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ یاد رکھو کہ سیاسیات اور اقتصادیات اور تمدنی امور حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پس جب تک ہم اپنے نظام کو مضبوط نہ کریں اور تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے حکومتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اسلام کی ساری تعلیموں کو جاری نہیں کر سکتے۔“ (الفضل مورخہ ۵ جنوری ۱۹۳۷ء)

”یہ مت خیال کرو کہ ہمارے لئے حکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے لئے بھی حکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا ایسا ہی ضروری ہے۔“ (الفضل مورخہ ۸ جنوری ۱۹۳۷ء)

اسی طرح خلیفہ ربوہ کے ہاں جو بھی اندرونی نظام ہے۔ وہ حفاظت مرکز، خدام الاحمدیہ، احمدیہ کوریا وغیرہ کسی نام سے بھی قائم کیا جاتا ہے۔ خلیفہ خود ہی اس کا سالار اعظم اور قیائد مارشل ہوتا ہے اور جماعت کی ہر قسم کی فوجی تنظیموں کی سربراہی اور سرپرستی آپ کو حاصل ہے۔

خود خلیفہ فرماتے ہیں: ”مجلس شوریٰ ہو یا صدر انجمن احمدیہ، انتظامیہ ہو یا عدلیہ، فوج ہو یا غیر فوج، خلیفہ کا مقام بہر حال سرداری کا ہے۔“ (الفضل یکم ستمبر ۱۹۳۶ء)

”انتظامی لحاظ سے صدر انجمن کے لئے بھی راہ نما ہے اور آئین سازی و بحث کی تعین کے لحاظ سے بھی وہ مجلس مشاورت کے نمائندوں کے لئے صدر اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ جماعت کی فوج کے الگ دو حصے تسلیم کر لئے جائیں تو وہ اس کا بھی سردار ہے اور اس کا بھی کمانڈر ہے اور دونوں کے نقائص کا ذمہ دار ہے اور دونوں کی اصلاح اس کے ذمہ واجب ہے۔“

(الفضل ۲۷ اپریل ۱۹۳۸ء)

غرض جماعت احمدیہ میں خلافت ایک دنیاوی بادشاہت کی حیثیت رکھتی ہے۔ خلیفہ کا ہر حکم مذہبی یا سیاسی جماعت کے نمبروں کے نزدیک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خلیفہ کے ادنیٰ

اشارہ پر اپنی جان و مال قربان کر دیا جاتا ہے۔ احمدیوں کی کمائی کا اکثر حصہ خلیفہ کی جیب کی نذر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو مبلغ ہیں، وہ دراصل خلیفہ کے کار خاص اور سفارت خانے ہیں اور تمام بیرونی ممالک کی کرنسی جو چندہ کی صورت میں ان کو ملتی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور لاکھوں روپے گورنمنٹ کی کرنسی سے بھی حاصل کر کے بیرونی ممالک میں اپنی من مانی کارروائیوں کے لئے صرف کرتے ہیں۔ کبھی مبلغوں کی تحواہوں کے بہانہ اور کبھی مساجد کی تعمیر کے لئے ہزاروں روپے گورنمنٹ کی قیمتی فارن کرنسی سے لے لئے جاتے ہیں اور خرچ اپنی مرضی کے مطابق کر لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے لئے وہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں ان کا اپنا چندہ کہاں جاتا ہے؟ ۴۲ سال غیر ملکوں میں تبلیغ کرتے ہو گئے ہیں۔ کروڑوں روپیہ کا فارن ایکسچینج یہ لے چکے ہیں۔ اس کے بالقابل وہاں کتنے احمدی ہوئے ہیں؟ یہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خلیفہ کا نظام اس قدر خطرناک ہے کہ ایک بڑی سے بڑی حکومت کے نظام کا مقابلہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ دوسری حکومتوں میں اپنے حلیف پیدا کئے جاتے ہیں۔ خلیفہ کا کہنا ہے کہ حکومتیں، ملک اور قومیں مجھ سے ڈرتی ہیں۔ خلیفہ اپنی کار خاص کے ذریعہ مملکت کے راز معلوم کرتا ہے۔ اس کی اپنی عدلیہ، متفقہ، انتظامیہ، فوج اور بینک ہے۔ پس حکومت پاکستان کے جوارکان اسے نظر انداز کرتے ہیں ان کا یہ فعل ملک و ملت سے غداری کے مترادف ہے۔ مملکت محمودیہ ربوہ میں کسی احمدی کو قبل از وقت اجازت حاصل کئے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اس بارہ میں سرکاری گزٹ الفضل کا مندرجہ ذیل اعلان ملاحظہ فرمائیے۔

”مضافات قادیان، تنگل، باغباناں، ہانگر خورد و کلاں، نواں چنڈ، قادر آباد اور احمد آباد وغیرہ میں سکونت اختیار کرنے کے لئے باہر سے آنے والے احمدی دوستوں کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے نظارت ہذا سے اجازت حاصل کریں۔“
(الفضل مورخہ ۲۵ جنوری ۱۹۳۹ء)

پھر ربوہ میں آ کر ۱۹۳۸ء میں خلیفہ اعلان فرماتے ہیں: ”سب تحصیل لالیاں میں کوئی احمدی بلا اجازت انجمن زمین نہیں خرید سکتا۔“

پھر ربوہ میں داخل ہونے کے بارہ میں خلیفہ کا حکم اتنا ہی ملاحظہ ہو: ”ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے لوگوں کو جن کو یا تو ہم نے جماعت سے نکال دیا ہے یا جنہوں نے خود اعلان کر دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں۔ آئندہ انہیں ہماری مملوکہ زمینوں میں آ کر ہمارے جلسوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔“
(الفضل مورخہ ۳ فروری ۱۹۵۶ء)

چہ دلاور است دزدے کہ بر کف چراغ وارو

اب اس اعلان کی رو سے وہ لوگ جنہوں نے انجمن کی مملوکہ زمین میں سے زمین خرید کی ہوئی ہے۔ ان کو ربوہ میں جا کر اپنی زمین اور مکان کی حفاظت کی اجازت نہیں۔ کیونکہ اگر وہ وہاں جائیں گے تو ان پر پولیس کی امداد سے کوئی جھوٹا مقدمہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ گویا ان کی زمینیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ یہ بھی ریاست اندر ریاست کا ایک بین ثبوت ہے۔

مملکت محمودیہ میں کاروبار کرنے کے لئے ہر شخص کو ذیل کا معاہدہ کرنا پڑتا ہے: ”میں اقرار کرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور مدیر تجارت جو حکم کسی چیز کے بہم پہنچانے کا دیں گے۔ اس کی تعمیل کروں گا اور جو حکم ناظر امور عامہ دیں گے اس کی بلاچون و چرا تعمیل کروں گا۔ نیز جو ہدایات وقتاً فوقتاً جاری ہوں گی ان کی پابندی کروں گا اور اگر کسی حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جرمانہ تجویز ہوگا ادا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ جو میرا جھگڑا احمدیوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمدیہ کا فیصلہ میرے لئے حجت ہوگا اور ہر قسم کا سودا احمدیوں سے خرید کروں گا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمدیوں کی مخالف مجالس میں بھی شریک نہ ہوں گا۔“

یہ ہے وہ معاہدہ جو خلیفہ ربوہ کی ریاست میں ہر اس شخص سے لکھوایا جاتا ہے جو وہاں کا جزو بن کر رہنا چاہے۔ نظارت امور عامہ سے ایک اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا تھا اور غیر از جماعت لوگوں کو ایک معاہدہ تجارت پر دستخط کرنے کے بعد احمدیوں کے ساتھ لین دین کی اجازت ملتی تھی۔ بلکہ ہر شخص کی شخصی جائیداد پر بھی ان کا تصرف تھا۔ اس ضمن میں ذیل کا اعلان پڑھئے۔

اعلان

”قبل ازیں میاں فضل حق موچی سکندہ دار العلوم کے مکان کی نسبت اعلان کیا تھا کہ کوئی دوست نہ خریدیں۔ اب اس میں ترمیم کی جاتی ہے کہ اس کے مکان کا سودا رہن و بیع نظارت ہند کے توسط سے ہو سکتا ہے۔“

اب بھی ربوہ میں یہی صورتحال موجود ہے۔ جس شخص کا سوشل ہائیٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ لین دین کے تعلقات بھی منقطع کر دیئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بارہ میں خلیفہ کا توسط ناظر امور عامہ حکم سنئے: ”یعنی میاں فخر الدین ملتان، شیخ عبدالرحمن مصری اور حکیم عبدالعزیز ان کے ساتھ اگر کسی دوست کا لین دین ہو تو نظارت ہذا کی وساطت سے طے کریں۔ کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ممنوع ہیں۔“

(الفضل مورخہ ۱۸ جولائی ۱۹۳۷ء)

پس خلیفہ ربوہ کا یہ ہڈ رنگ پیش کرنا کہ لین دین منع نہیں۔ صرف تعلقات منقطع کرنے

سے مراد جزوی بائیکاٹ یعنی سلام کلام تک ہے۔ اس کی روشنی میں سراسر جھوٹ اور فریب ہے۔ سوشل بائیکاٹ میں صرف لین دین ہی منع نہیں بلکہ کسی سے کسی قسم کا تعلق رکھنا اس کے گھر جانا حتیٰ کہ رشتہ تک کرنا منع ہے۔ اس ضمن میں یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیں: ”میں چوہدری عبداللطیف کو اس شرط پر معاف کرنے کو تیار ہوں کہ آئندہ اس کے مکان واقع نسبت روڈ پر وہ افراد نہ آئیں جن کا نام اخبار میں چھپ چکا ہے..... چوہدری عبداللطیف نے یقین دلایا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ آئندہ اس جگہ پر نہیں آئیں گے اور میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جماعت لاہور اس کی گمرانی کرے گی اور اگر اس نے پھر ان لوگوں سے تعلق رکھایا اپنے مکان پر آنے دیا تو پھر اس کی معافی کو منسوخ کر دیا جائے گا۔“ (الفضل مورہ ۲۲ نومبر ۱۹۵۶ء)

اسی طرح خلیفہ نے اپنے ایک رشتہ دار ڈاکٹر علی اسلم کی بیگم امتہ السلام صاحبہ کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنی بہو کو جو امتہ السلام کی ہمیشہ ہے، یہ دھمکی دی تھی کہ: ”اب اگر تنویر بیگم جو میری بہو ہے۔ الفضل میں اعلان نہ کرے کہ میرا اپنی بہن سے کوئی تعلق نہیں تو میں اس کے تعلق الفضل میں اعلان کرنے پر مجبور ہوں گا کہ لجنہ (قاویانی عورتوں کی انجمن) اس کو کوئی کام سپرد نہ کرے اور میرے خاندان کے وہ افراد جو مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس سے تعلق نہ رکھیں۔“

(الفضل مورہ ۲۱ جون ۱۹۵۷ء)

چنانچہ خلیفہ کا اعلان شائع ہونے کی دیر تھی۔ فوراً تنویر الاسلام نے سوشل بائیکاٹ کے ڈر سے اپنی بہن کے خلاف یہ اعلان الفضل میں شائع کر دیا۔ ”ڈاکٹر سید علی اسلام (حال بساکن نیروبی) اور سیدہ امتہ السلام، (بیگم ڈاکٹر علی اسلم) نے جماعت کے نظام کو توڑنے کی وجہ سے میرے رشتہ کو بھی توڑ دیا ہے۔ لہذا آئندہ ان سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔“

(الفضل مورہ ۲۵ جون ۱۹۵۷ء)

یہ ہیں چند مثالیں سوشل بائیکاٹ وغیرہ کی جن کی طرف تمام ملکی اخبار اور جرائد نے ارباب بست و کشاد کی توجہ دلائی اور خصوصاً نوائے وقت نے بھی اس ریاست اندر ریاست کے کھیل کو ختم کرنے کا حکومت پر زور دیا۔ مگر یہ آواز بھی صدیوں کا صبح اجابت ہوئی۔ کیونکہ گورنمنٹ نے اس وقت تک اس ریاست کے بارہ میں کوئی واضح اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ یہاں ہم یہ بات واضح کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں کہ خلیفہ ربوہ ہر اس آدمی کو شدید نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے جو ان کے احکام کی تعمیل نہ کرے اور ان کی مخالفت کرے۔ چنانچہ انہی دنوں اسی سوشل بائیکاٹ پر عمل نہ کرنے کے سبب اور سوشل بائیکاٹ کئے گئے افراد کو اشیاء خورد و نوش مہیا کرنے کے

جرم کی پاداش میں اللہ یارب لوح پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ جس کا مقدمہ چل رہا ہے۔

خلیفہ کا دستور ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف اپنے مریدوں کو ابھارتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ان کی تقریر کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو: ”اگر تم میں رائی کے دانہ کے برابر بھی حیا ہے اور تمہارا راجح صحیح یہی عقیدہ ہے کہ دشمن کو مزادینی چاہئے تو پھر یا تم دنیا سے مٹ جاؤ گے یا گالیاں دینے والوں کو مٹا دو۔ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اس میں مارنے کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا اے بے شرم! تو آگے کیوں نہیں جاتا اور اس منہ کو کیوں نہیں توڑتا۔“ (افضل مورچہ ۵ جون ۱۹۳۷ء)

ان مذکورہ بالا امور کی طرف توجہ دلانے کے بعد ہم گورنمنٹ کی توجہ ان بنیادی اجزاء اور عناصر کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں جو ریاستوں اور حکومتوں میں پائے جاتے ہیں اور جو ربوہ ریاست میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ چنانچہ وہ یہ ہیں۔ سربراہ، متفقہ، عدلیہ، انتظامیہ، فوج، دارالحکومت اور بینک وغیرہ وغیرہ۔ اپنے انتظام کے بارہ میں خلیفہ کا اپنا دعویٰ یہ ہے: ”ان کی جماعت کا نظام ایک مضبوط سے مضبوط گورنمنٹ کے نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔“

(افضل مورچہ ۱۱ جولائی ۱۹۳۷ء)

اب ہم بالتفصیل ان مذکورہ بالا امور کے بارہ میں اگلے باب میں علیحدہ علیحدہ روشنی ڈالیں گے۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ قادیان میں چھوڑی ہوئی جائیداد کے بارہ میں ہے۔ مہاجرین جو قادیان میں جائیداد چھوڑ آئے۔ ان کو خلیفہ ربوہ نے کلیم داخل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کے کلیم احمدیوں نے داخل نہیں کئے اور گورنمنٹ پاکستان کو اس وجہ سے لاکھوں روپے کے کم کلیم آئے۔ کیا یہ گورنمنٹ کے حکم کی مرصحا خلاف ورزی نہیں۔

خلافتی حکومت کا تفصیلی خاکہ

اب ہم ذیل میں ربوی مملکت کے اجزائے ترکیبی کے ہر جزو پر خلیفہ کی زبان سے روشنی ڈالیں گے۔

سربراہ

”ریاست میں حکومت اس نیا حق فرد کا نام ہے جس کو لوگ اپنے مشترکہ حقوق کی نگرانی

(افضل مورچہ ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۶ء)

سپر د کرتے ہیں۔“

خلیفہ ربوہ کی اصطلاح میں اسے خلیفہ کہتے ہیں اور ایسا خلیفہ اگرچہ غلطی سے منزه نہیں

کہلا سکتا۔ لیکن احتساب سے بالاضرور ہوتا ہے۔ خلیفہ ربوہ کے اپنے ارشادات گرامی ملاحظہ فرمائیے: ”جس مقام پر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے ان پر اعتراض کرنے والے ٹھوکر سے بچ نہیں سکتے۔“

(الفضل موری ۸ جون ۱۹۳۶ء)

”مجھ پر سچا اعتراض کرنے والا خدا کی لعنت سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ اسے تباہ

(الفضل موری ۲۹ مئی ۱۹۳۸ء)

ویرباد کر دے گا۔“

مقتضیٰ (یعنی مجلس مشاورت)

مقتضیٰ کو خلیفہ ربوہ کے نظام میں مجلس شوریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دیگر محکمہ جات کی طرح کلیتہً خلیفہ کے ماتحت ہوتی ہے اور خلیفہ ربوہ کے نزدیک اس مجلس کی وہی پوزیشن ہے جو خلفائے راشدین میں قائم شدہ مجلس شوریٰ کو حاصل تھی۔ اس مجلس کا کام ہے کہ ان امور میں مشورہ دے جن میں خلیفہ مشورہ طلب کرے۔ اس کا کوئی مشورہ جب تک خلیفہ منظوری نہ دے اور جاری نہ فرمائے، صدر انجمن کے لئے واجب التعمیل نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر محکمہ کی نگرانی خلیفہ ربوہ خود فرماتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کا قول ملاحظہ ہو: ”تمام محکموں پر خلیفہ کی نگرانی ہے۔“

(الفضل موری ۱۵ نومبر ۱۹۳۰ء)

”اسے یہ حق ہے (یعنی خلیفہ کو) کہ جب چاہے جس امر میں چاہے مشورہ طلب

کرے۔ لیکن اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ مشورہ لے کر رو کر دے۔“

(الفضل موری ۲۷ اپریل ۱۹۳۷ء)

مقتضیٰ کے ممبروں کی تعداد مقرر نہیں۔ اس میں دو قسم کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جماعتوں کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن ان کی منظوری بھی خلیفہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جماعت کے چنے ہوئے نمائندے خلیفہ رد کر سکتا ہے اور ان کو مقتضیٰ میں شامل ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیفہ خود جتنے افراد کو چاہے اپنی طرف سے مقتضیٰ کا ممبر بنا سکتا ہے۔ مقتضیٰ کے اس اجلاس میں کوئی شخص بغیر اجازت خلیفہ ہاؤس کو خطاب نہیں کر سکتا اور نہ ہی بغیر منظوری خلیفہ اس مجلس سے باہر جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں خلیفہ کا ارشاد بغرض تصدیق پیش ہے: ”پارلیمینٹوں میں وزراء کو وہ جماعتیں پڑتی ہیں جن کی حد نہیں۔ یہاں تو میں روکنے والا ہوں۔ گالی گلوچ کو پتیکر روکتا ہے۔ سخت تنقید کو نہیں۔“

(الفضل موری ۲۷ اپریل ۱۹۳۸ء)

لیکن خلیفہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے بولنے کا موقع دے اور جسے چاہے اس حق سے بالکل محروم کر دے۔ یہ مجلس صرف ایک دفعہ سال میں منعقد ہوتی ہے اور اس میں بجٹ وغیرہ

کی منظوری کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مگر بجٹ کی منظوری کے متعلق بھی خلیفہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بعد میں اس پر غور کر کے میں خود ہی دے دوں گا۔ یعنی اس مسئلہ کو اصل میں کوئی اختیار نہیں۔
انتظامیہ

اس کے بعد ہم خلیفہ کی انتظامیہ کے بارے میں کچھ عرض خدمت کریں گے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ضمن میں خلیفہ کے ارشادات ہی نقل کر دیں جن میں اس انتظامیہ کی ضرورت اور ماہیت کا اجمالی نقشہ موجود ہے۔ خلیفہ فرماتے ہیں: ”تیسری بات عظیم کے لئے یہ ضروری ہوگی کہ اس کے مرکزی کام کو مختلف ڈیپارٹمنٹوں میں اس طرح تقسیم کیا جائے جس طرح گورنمنٹوں کے محکمے ہوتے ہیں۔ سیکرٹری شپ کا طریقہ نہ ہو۔ بلکہ وزراء کا طریقہ ہو اور ہر ایک صیغہ کا ایک انچارج ہو۔“
(الفضل مورخہ ۱۸ جولائی ۱۹۲۵ء)

خلیفہ کی اس انتظامیہ کو جسے صدر انجمن احمدیہ ربوہ کی اصطلاح میں ”نظارت“ کہا جاتا ہے ان کے ہاں ہر ایسے وزیر کو ناظر کہا جاتا ہے۔ ایسے ناظر ان کی ناحہ کی اخلاء ترقی یا تنزل خلیفہ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ملاحظہ ہوا ارشاد گرامی: ”ناظر ہمیشہ میں ناظر دیکرتا ہوں۔“

(الفضل مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۳۷ء)

یہ انتظامیہ اپنے سارے کام خلیفہ کی قائم مقامی میں ادا کرتی ہے۔ اس کے ہر فیصلہ کی اپیل خلیفہ سنتا ہے اور اس کے لئے خلیفہ کا حکم قطعی اور ناطق ہوتا ہے۔ یہ اپنے قواعد خلیفہ کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کر سکتی اور اس کے فیصلوں کی تمام تر ذمہ داری خلیفہ پر ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ انتظامیہ خلیفہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔ صدر انجمن جو کچھ کرتی ہے چونکہ وہ خلیفہ کے ماتحت ہے۔ اس لئے خلیفہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔
(الفضل مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۳۸ء)

لیکن اس انتظامیہ کو بھی خلیفہ کی برائے نام نمائندگی کا حق ہے۔ عملاً خلیفہ کی حیثیت ایک آمر مطلق کی ہے۔ خود خلیفہ فرماتے ہیں: ”ناظر یعنی (وزراء) بعض دفعہ جلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔“
(الفضل مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۳۸ء)

صدر انجمن احمدیہ

”ہر صوبہ میں ایک انجمن ہوتی ہے۔ یہ انجمن ضلعوں کی انجمنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر ضلع کی انجمن تحصیلوں کی انجمنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کی حد بندی صدر انجمن متعلقہ انجمنوں کے مشورہ کے بعد کرتی ہے۔“
(الفضل مورخہ ۲ مارچ ۱۹۲۹ء)

اغراض

اس انجمن کے اغراض میں وہ سب کام شامل ہیں جو خلفاء سلسلہ کی طرف سے سپرد کئے جاتے ہیں یا آئندہ کئے جائیں۔

اراکین

تمام صیغہ جات سلسلہ کے ناظر اور تمام اصحاب جنہیں خلیفہ وقت کی طرف سے صدر انجمن کا زائد ممبر مقرر کیا جائے۔ ناظر سے مراد سلسلہ کے ہر مرکزی صیغہ کا وہ افسر اعلیٰ ہے جسے خلیفہ وقت نے ناظر کے نام سے مقرر کیا ہے۔

تقریر، علیحدگی ممبران صدر انجمن

خلیفہ وقت کی ہدایت کے ماتحت ممبران صدر انجمن کا تقرر اور طہدگی عمل میں آتی ہے۔

اندرونی انتظام

صدر انجمن کے فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا صدران کو وٹو کر سکتا ہے۔ اس انجمن کے صدر اس وقت خلیفہ کے بڑے بیٹے مرزا ناصر احمد پرنسپل ٹی آئی کالج ریوہ ہیں۔ اس وقت ریوہ میں صدر انجمن احمدیہ کی جو نظارتیں (ڈارٹس) قائم ہیں ان کا ایک خاکہ درج ذیل ہے۔

ناظر اعلیٰ

۱..... ناظر اعلیٰ: سے مراد وہ ناظر ہے جس کے سپرد تمام محکمہ جات کے کاموں کی عمومی نگرانی ہوگی اور وہ خلیفہ اور صدر انجمن احمدیہ یعنی کابینہ کے درمیان واسطہ ہوگا۔

۲..... ناظر امور عامہ: وزیر داخلہ و صحت (نوجہاری مقدمات، سزاؤں کی عملیہ، نیز پولیس اور حکومت سے روابط قائم کرنا اس محکمہ کا کام ہے)

۳..... ناظر امور خارجہ: وزیر خارجہ (اپنی ریاست ریوہ سے باہر اندرون ملک و بیرون ملک کارروائیاں اور سیاسی گٹھ جوڑ)

۴..... ناظر اصلاح و ارشاد: وزیر پرائیویٹ سیکڑہ و مواصلات۔

۵..... ناظر بیت المال: وزیر مال۔

۶..... ناظر تعلیم: وزیر تعلیم۔

۷..... نظارت قانون: وزیر قانون۔

- ۸..... ناظر صنعت: وزیر صنعت۔
 ۹..... ناظر زراعت: وزیر زراعت۔
 ۱۰..... ناظر ضیافت: وزیر خوراک۔
 ۱۱..... ناظر تجارت: وزیر تجارت۔
 ۱۲..... ناظر حفاظت مرکز: وزیر دفاع (پولیس فوج کا کنٹرول اور ربوہ و قادیان اضحیا کی حفاظت کا بندوبست)

اختیارات و فرائض ناظران

ناظران کے اختیارات و فرائض وقتاً فوقتاً خلیفہ کی طرف سے تفویض ہوتے رہتے ہیں۔ ناظروں کی تعداد خلیفہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ صدر انجمن کے تمام فرائض وہی ہیں جو خلیفہ کی طرف سے تفویض ہیں۔ جنہیں وہ خلیفہ کی قائم مقامی کے طور پر ادا کرتی ہے۔ تمام ماتحت مجالس خواہ مرکزی ہو یا مقامی۔ قواعد کا نفاذ، خلیفہ کی منظوری کے بعد ہوتا ہے۔ بجٹ خلیفہ کی منظوری سے طے اور اس کی منظوری سے جاری ہوتا ہے۔ صدر انجمن کے ہر فیصلے کے خلاف بتوسط صدر انجمن خلیفہ کے پاس اپیل ہوتی ہے۔ ہر ایک معاملہ میں صدر انجمن کا اس کی ماتحت مجالس اکثر تمام مقامی انجمنوں کے لئے حکم قطعی اور ناطق ہوتا ہے۔ قواعد اساسی اور ان کے متعلق نوٹوں میں تغیر و تبدل صرف خلیفہ کی منظوری سے ہو سکتا ہے۔ اپنے قواعد و ضوابط میں جو خلیفہ نے تجویز کئے ہوں صدر انجمن تبدیلی نہیں کر سکتی۔ صدر انجمن کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کوئی ایسا قاعدہ یا حکم جاری کرے جو خلیفہ کے کسی حکم کے خلاف ہو یا جس سے خلیفہ کی مقرر کردہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آتی ہو۔ ناظروں اور مفتی کا سلسلہ تقرر و ترقی و تنزل و تبدیلی و برطرفی وغیرہ صرف خلیفہ کے اختیار میں ہے۔ صدر انجمن کو سلسلہ کی جائیداد غیر منقولہ کی فروخت، ہبہ، رہن و تبدیل کرنے کا بغیر منظوری خلیفہ ربوہ اختیار نہیں اور خلیفہ ربوہ ہی ناظر اعلیٰ کا قائم مقام مقرر کرتا ہے۔ ناظران اور افسران سینہ جات کے کام کی ہفتہ وار رپورٹ خلیفہ ربوہ کی خدمت میں پیش کرے۔ ناظر اعلیٰ کا یہ فرض ہے کہ خلیفہ کی تحریری و تقریری ہدایات کے علاوہ ان کے تمام خطبات و تقاریر وغیرہ میں جو احکام و ہدایات جماعت کے نظام کے متعلق ہوں ان کی تعمیل کروائے۔ اسی طرح قاعدہ ہے کہ جب کوئی ناظر بحیثیت ناظر کسی جگہ جائے تو جماعت کا فرض ہے کہ اس کا استقبال کرے اور اس کا مناسب اعزاز کرے۔ مذکورہ بالا تمام کوائف، قواعد صدر انجمن طبع شدہ سے لئے گئے ہیں۔

عدلیہ

انتظامیہ کے علاوہ خلیفہ کے ہاں ایک مربوط عدلیہ بھی ہے۔ خلیفہ خود آخری عدالت ہیں اور وہ خود ہی ناظم قضا یا رجسٹرار مقرر کرتے ہیں اور اس کا عزل اور ترقی بھی خود ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔

روہ سپریم کورٹ کے جج یا ایبل بورڈ کے ممبران کی نامزدگی بھی خلیفہ خود کرتے ہیں اور وہ جس مرحلہ پر چاہیں مقدمہ کی مسل اپنے ملاحظہ کے لئے طلب کر لیتے ہیں اور جس جج کو چاہیں مقدمہ سننے کا نال قرار دے دیتے ہیں۔ ایسے مقدمات میں جو دکیل پیش ہوتے ہیں، انہیں ناظم ہذا سے باقاعدہ اجازت نامہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر خلیفہ کی عدالتوں میں کسی دکیل کو حکومت کے اجازت نامہ کے باوجود پیش ہونے کا حق نہیں دیا۔ خلیفہ کا یہی ناظم قضا یا رجسٹرار مقدمہ مختلف قاضیوں کے سپرد کرتا ہے اور فیصلوں کی نقول مہیا کرنے پر جو آمدنی ہوتی ہے اس کو داخل خزانہ کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ سلسلہ احمدیہ کے فرائض دربارہ قضا اور فیصلہ تازعات کی ادائیگی کے لئے یہی حکمہ قضا ہے۔ اس میں ناظم قضا کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ احمدیوں کے تازعات کے فیصلوں کے لئے مناسب انتظام کرے۔ اس کو حسب ضرورت خلیفہ کے ایما سے قاضی اور قاضی القضاہ مقرر کرنے کا اختیار ہے۔ آخری ایبل خلیفہ کے پاس ہوتی ہے۔ (افضل مورخہ ۶ جنوری ۱۹۳۱ء)

قاضی سلسلہ سن جاری کرنے کا مجاز ہے۔ نوٹس بھی دیتا ہے ڈگریوں کا اجراء بھی کرایا جاتا ہے۔ ایک طرفہ اور ضابطہ کی کارروائیاں بھی یہاں ہوتی ہیں۔ مثال ملاحظہ ہو:

نوٹس: بنام شیخ منظور احمد۔

مدعی: مستری بدرالدین معمار ساکن قادیان۔

بنام: شیخ منظور احمد ولد شیخ محمد حسین مرحوم۔

دعویٰ: اجراء ڈگری مبلغ پینسٹھ روپے دو آنے۔

مقدمہ مندرجہ عنوان میں موکل قضا نے ۱۳ اگست ۱۹۳۳ء کو ایک طرفہ ڈگری پینسٹھ روپے دو آنے کی دی تھی۔ مدعی نے امور عامہ میں اجراء ڈگری کی درخواست ۱۳ اگست ۱۹۳۳ء کو دی۔ لہذا آپ کو بذریعہ اخبار نوٹس دیا جاتا ہے کہ مندرجہ بالا ۲۳ نومبر ۱۹۳۳ء تک دفتر امور عامہ میں جمع کرا دیں تو بہتر ورنہ آپ کے خلاف ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی جاوے گی۔

(افضل مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۳۳ء)

اب سن کے بارہ میں سنئے: ”ملک عبدالحمید صاحب ولد غلام حسین محلہ دارالرحمت قادیان کے خلاف چند مقدمات برائے ڈگری دائر ہیں۔ کئی دفعہ ان کے نام علیحدہ علیحدہ مقدمات میں سن جاری کئے گئے ہیں۔ مگر وہ قیصل سے پہلو تھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یکم دسمبر ۱۹۳۳ء کو ایک سن اگلے روز کی حاضری کے لئے جاری کیا گیا۔ اس پر ملک عبدالحمید نے عذر کیا، میں ۱۵ یوم کے لئے باہر جا رہا ہوں۔ لہذا مجبور ہوں۔ اس پر اسی وقت ان کو اطلاع بھیجی گئی کہ آپ کو اس سن کی اطلاع یابی کے بعد باہر جانے کی اجازت نہیں۔ بلکہ اس سن کی قیصل واجب ہے۔ اگر واقعی آپ کو کوئی اتنا شدید ضروری کام ہے جو رک نہیں سکتا تو آپ کو لازم ہے کہ درخواست پیش کر کے عدم حاضری کی اجازت حاصل کریں..... لہذا ان کو بذریعہ اخبار اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس اعلان کی تاریخ سے دس روز کے اندر اندر دفتر امور عامہ میں حاضر نہ ہوئے تو سخت نوٹس لیا جائے گا۔“ (ناظر امور عامہ) (الفضل مورہ ۹ دسمبر ۱۹۳۳ء)

خلیفہ کا عسکری نظام

اپنی ریاست ربوہ کی فوجی ضروریات کی تکمیل کا ابتدائی بندوبست تو خلیفہ نے یہ کیا کہ ایک رزویا کا سہارا لے کر جماعت کو تھمیں کی: ”نہری فوریل فوج میں بھرتی جماعت کے لئے نہایت ضروری اور مفید ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کام آئندہ جماعت کے لئے بابرکت ہوگا۔“ (الفضل مورہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

بارہا جماعت کے نوجوان طبقہ کو یہ بھی تحریک کی جاتی تھی: ”امری نوجوانوں کو چاہئے کہ ان میں سے جو بھی شہری نہری فوریل فوج میں شامل ہو سکتے ہیں، شامل ہو کر فوجی تربیت حاصل کریں۔“ (الفضل مورہ ۸ مارچ ۱۹۳۹ء)

اس کے بعد اپنی مستقل فوجی تنظیم ضروری قرار دی گئی: ”جیسا کہ پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے۔ یکم دسمبر ۱۹۳۳ء سے قادیان میں فوجی تربیت کے لئے ایک کلاس کھولی جائے گی جس میں ہر دو فوجی جماعتوں کے نوجوانوں کی شمولیت نہایت ضروری ہے۔ ہندوستان میں حالات جس سرعت کے ساتھ تغیر پذیر ہو رہے ہیں۔ ان کا تقاضا ہے کہ مسلمان جلد از جلد اپنی فوجی تنظیم کی طرف متوجہ ہوں اور خاص کر جماعت احمدیہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس میں توقف نہ کرے اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ ہر مقام کے نوجوان پہلے خود فوجی سکھائی کریں۔ پھر اپنے اپنے مقام پر

دوسرے نوجوانوں کو سکھائیں اور ان کی ایسی عظیم کریں کہ ضرورت کے وقت مفید ثابت ہو سکیں۔“

(الفضل مورخہ مارچ ۱۹۳۲ء)

”صدر انجمن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انجمن کے تمام کارکنان و اعلیٰ کور کے ممبر ہوں گے اور مہینہ میں کم سے کم ایک دن اپنے فرائض منصبی کور کی وردی میں ادا کریں گے۔ نیز بیرونی جماعتوں کے امراء و پریذیڈنٹ بحیثیت عہدہ مقامی کور کے افسر اعلیٰ ہوں گے۔ ہر مقام کی احمدی جماعتوں کو اپنے ہاں کور کی بھی بھرتی لازمی ہوگی۔ جہاں کور کے ایک سے تین دستے ہوں گے۔ جن میں سے ہر ایک سات آدمیوں پر مشتمل ہوگا۔ وہاں ہر دستہ کا ایک افسر دستہ مقرر ہوگا اور جہاں چار دستے ہوں گے وہاں ایک پلٹون بھی جائے گی جس پر ایک افسر دستہ کے علاوہ ایک افسر پلٹون بھی ہوگا اور ایک نائب افسر پلٹون مقرر کیا جائے گا۔ جہاں چار پلٹونیں ہوں گی وہاں پر پلٹون کے مذکورہ بالا افسروں کے علاوہ ایک افسر کھنی اور ایک نائب افسر کھنی بتا دیا جائے گا۔ حضرت امیر المؤمنین نے احمدیہ کور کو اپنی سرپرستی کے فخر سے بھی سرفراز کرنا بھی منظور فرمایا ہے۔“

(الفضل مورخہ مارچ ۱۹۳۲ء)

”حضور کا غشاوار شاہ اس تحریک کو نہایت باقاعدگی اور عمدگی کا ساتھ چلانے کا تھا۔“

(الفضل یکم ستمبر ۱۹۳۲ء)

”یکم ستمبر صبح سات بجے تعلیم الاسلام ہائی سکول کی گراؤنڈ میں احمدیہ کور ڈریٹنگ کلاس کا آغاز پیرگرائی حضرت صاحبزادہ کیپٹن مرزا شریف احمد صاحب ہوا۔“ (الفضل مورخہ یکم ستمبر ۱۹۳۲ء)

یہ فوج علاوہ دوسرے کاموں کے اپنے سربراہ کی سلامی بھی اتارا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ مرزا شریف احمد ناظم احمدیہ کور کو بذریعہ تاریخ موصول ہوئی کہ: ”خلیفہ کا یکم اکتوبر ۱۹۳۲ء صبح دس بجے یا تین بجے بعد دوپہر تشریف فرمائے دارالامان ہوں گے۔ احمدیہ کور کارکنان صدر انجمن احمدیہ اور بہت سے دیگر افراد حسب الحکم حضرت میاں شریف احمد کور کی وردی میں ملیں ہو کر ہائی سکول کے گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ جہاں سے مارچ کرا کر بٹالہ والی سڑک پر کھڑے کر دیئے گئے۔ خلیفہ صاحب تشریف لائے۔ فوج نے فوجی طریقہ پر سلامی اتاری۔ حضور نے ہاتھ کے اشارے سے فوجی سلام کا جواب دیا۔“

(الفضل مورخہ ستمبر ۱۹۳۲ء)

”اس فوج کا اپنا ایک خاص جھنڈا بھی تھا جو سبز رنگ کے کپڑے کا تھا اور اس پر منارۃ المسیح بنا کر ایک طرف اللہ اکبر اور دوسری طرف عباد اللہ لکھا ہوا تھا۔ جو اس فوج کا اصلی نام تھا۔ یہی

دو فوج تھی جو Camp وغیرہ کرنے دریائے بیاس کے کنارے بھی بھیجی گئی تھی۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۳۳ء)

یاد رہے دریائے بیاس کا ہی وہ رنگین اور پر بہار کنارہ تھا جہاں خلیفہ اپنی مستورات اور دیگر نامحرم لڑکیوں کو لے جا کر چاند ماری کی مشق کرایا کرتے تھے۔

جبری بھرتی

اس فوج کے لئے خلیفہ نے جبری بھرتی کا اصول اختیار فرمایا تھا: ”میں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں..... کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر پینتیس سال کی عمر تک کے تمام نوجوانوں کو اس میں جبری طور پر بھرتی کیا جائے۔“ (الفضل مورخہ ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

اس فوج کی باقیات الصالحات تھی۔ جس کے باوردی والٹھیر نے سر ڈگلس بیک جو اس وقت پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے کا استقبال کیا تھا۔ (الفضل مورخہ ۶ مارچ ۱۹۳۹ء)

اور لاہور جا کر پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی سلامی دی تھی۔

ابتداء میں ناظر امور عامہ نے اس فوج کی کمان سنبھالی تھی۔ لیکن جلد ہی خلیفہ کی بارگاہ سے اس بارہ میں سرزنش آ گئی: ”کمانڈر انچیف اور وزارت کا عہدہ کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوا۔“

(الفضل مورخہ ۵ مارچ ۱۹۳۳ء)

اس فوجی تنظیم کے بروقت قیام پر خلیفہ کو اتنا ناز تھا کہ سرکاری گزٹ الفضل نے ایک موقع پر لکھا کہ: ”حضور نے احمدیہ کور کی جو سکیم آج سے تقریباً پانچ سال پہلے تجویز فرمائی تھی اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عام اقوام تو اگ رہیں اس وقت بعض بڑی بڑی حکومتیں بھی اپنی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لئے بعض ایسے احکام نافذ کر رہی ہیں کہ جو اس تحریک کے اجزاء ہیں۔“ (الفضل مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۳۹ء)

اگر قادیانی خلافت کا مقصد محض روحانی اور اشاعت اسلام تھا تو اس مقدس مقصد کے لئے تصنیفی، تالیفی اور اشاعتی ادارے قائم ہوتے نہ کہ فوجی تربیت پر زور دیا جاتا اور اس کے لئے ایک باقاعدہ عسکری نظام قائم کیا جاتا۔ اصل میں خلیفہ کے لاشعور میں بادشاہ بننے کی آرزوئیں اگھڑائیاں لے رہی تھیں۔ اشاعت اسلام کا نعرہ محض دھوکے کی ٹٹی تھی۔ کیونکہ قادیانی عوام کا لانا عام سے روپیہ وصول کرنے کا اور کوئی طریق نہیں تھا۔ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہوا روپیہ ہوس اقتدار کی تسکین پر صرف ہو جاتا۔ یہ طرز عمل نہ صرف ان کی نیت اور ارادے کی غمازی کرتا ہے۔ بلکہ ان کے سیاسی منصوبوں کو بھی طشت از بام کرتا ہے۔ اپنے عسکری مقاصد کے حصول کے لئے خدام

الاحمدیہ قائم کی گئی۔ اس کا باقاعدہ ایک پرچم بنایا گیا۔ اس کے متعلق خلیفہ فرماتے ہیں: ”خدام الاحمدیہ میں داخل ہونا اور اس کے مقررہ قواعد کے ماتحت کام کرنا ایک اسلامی فوج تیار کرنا ہے۔“
(الفضل مورخہ ۷ اپریل ۱۹۳۹ء)

یہ تنظیم مع پرچم اب بھی موجود ہے۔ پھر خلیفہ فرماتے ہیں: ”میں نے ان ہی مقاصد کے لئے جو خدام الاحمدیہ کے ہیں نیشنل لیگ کو تیار کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھر جس قدر احمدی برادران کسی فوج میں ملازم ہیں۔ خواہ وہ کسی حیثیت میں ہوں ان کی فہرستیں تیار کروائی جائیں۔“
(الفضل مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۸ء)

اسی طرح جماعت کو یہ حکم دیا کہ: ”جو احباب بندوق کا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں وہ لائسنس حاصل کریں اور جہاں تلوار رکھنے کی اجازت ہے وہ تلوار رکھیں۔“ (الفضل مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۳۰ء)
امن پسندانہ اشاعت اسلام کی دعویٰ دار جماعت کی قادیان میں احمدیہ کو ایک خالص فوجی تنظیم تھی۔ بر عظیم کا ہر احمدی باشندہ عمر ۱۵ سال سے ۳۰ سال تک اس کا جبری ممبر بنایا گیا۔ ٹیرینوریل فورس میں انگریزی حکومت کی طرف سے فوجی تربیت سکھائے۔ پھر ۸/۱۵ پنجاب رجمنٹ میں احمدیہ کمپنیوں کا ہونا اور تمام احمدی جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے کا حکم کن مقاصد کے لئے تھا؟ سندھ میں خرتھر ایک احمدیہ کمپنیوں کے فوجیوں کے گولہ بارود سے ہی کیوں چکل دی گئی۔ تقسیم ملک کے بعد سیالکوٹ، جموں، سرحد پر ان ہی احمدیہ کمپنیوں کے ریلیز شدہ سپاہی منظم طور پر کیوں پہنچ گئے اور ان کو دھڑا دھڑا اسلحہ کہاں سے ملتا رہا؟ فرقان فورس احمدیوں کی فوج کشمیر میں کیوں کھڑی کی گئی اور خلیفہ نے اپنی جماعت کی فوجی تنظیم اور محاذ جنگ کا خود ملاحظہ کیوں کیا؟

اس فوج کو استعمال کرنے کے لئے خلیفہ فرماتے ہیں: ”انڈین یونین کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں۔ مگر انڈین یونین چاہے صلح سے ہمارا مرکز ہمیں دے، چاہے جنگ سے دے۔ ہم نے وہ مقام لینا ہے اور ضرور لینا ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے۔ تب بھی ضروری ہے کہ آج ہی سے ہر احمدی اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہے۔“

(الفضل مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۳۸ء)

اب اس اقتباس کو ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح خلیفہ ریوہ انڈین یونین جو ایک بہت بڑی حکومت ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے کس طرح تیار ہو رہے ہیں۔ نیز کسی حکومت کے بنیادی عناصر سے اس کے Base مرکز اور دارالخلافہ کا مسئلہ بھی ہے اور خلیفہ نے ۱۳ اگست ۱۹۴۸ء کو جب کہ پاکستان قائم ہوئے ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا اپنے عزائم حشریہ پر

ایک بھجان غیر خطبہ دیا اور فرمایا: ”یاد رکھو تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہماری Base مضبوط نہ ہو پہلے Base مضبوط ہو تو تبلیغ مضبوط ہو سکتی ہے..... بلوچستان کو احمدی بنایا جائے تاکہ ہم کم از کم ایک صوبہ کو تو اپنا کہہ سکیں..... میں جانتا ہوں کہ اب یہ صوبہ ہمارے ہاتھوں میں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ہی شکار ہوگا۔ دنیا کی ساری قومیں مل کر بھی ہم سے یہ علاقہ چھین نہیں سکتیں۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ اگست ۱۹۳۹ء)

یہ واقعہ اخبارات میں آچکا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ خلیفہ کا یہ عسکری پلان بہت پرانا ہے۔ تقسیم ملک سے پہلے آپ کی نظر ضلع گورداسپور پر تھی۔ یہ داستان خلیفہ کی زبان سے سنتے: ”گورداسپور کے متعلق میں نے غور کیا ہے اگر ہم پورے زور سے کام کریں تو ایک سال میں فتح کر سکتے ہیں..... اس وقت ڈائنامیٹ رکھا جا چکا ہے اور قریب ہے کہ مخالفت کا قلعہ اڑا دیا جائے۔ اب صرف دیا سلائی دکھانے کی دیر ہے۔ جب دیا سلائی دکھائی گئی۔ قلعہ کی دیوار پھٹ جائے گی اور ہم داخل ہو جائیں گے۔“ (الفضل مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۳۶ء)

پھر فرماتے ہیں: ”مردم شماری کے دنوں میں گورنمنٹ بھی جبرا لوگوں کو اس کام پر لگا سکتی ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ پس میں بھی ناظر دن کو حکم دیتا ہوں کہ جسے چاہیں مدد کے لئے پکڑ لیں۔ مگر کسی کو انکار کا حق نہ ہوگا اور اگر کوئی انکار کرے تو میرے پاس اس کی رپورٹ کریں۔“

(الفضل مورخہ ۱۲ جون ۱۹۳۲ء)

انہی مقاصد کے پیش نظر قادیان اور ماحول قادیان کا نقشہ بھی تیار کروایا گیا: ”ایک تو جماعت کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اور نہیں تو اس ضلع (گورداسپور) کو تو اپنا ہم خیال بنالیں۔ احمدیوں کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ ہی ہوں اور دوسروں کا کچھ اثر نہ ہو..... احمدیوں کے پاس ایک چھوٹے سے چھوٹا نگرہ بھی نہیں ہے۔ جہاں احمدی ہی احمدی ہوں۔ کم از کم ایک علاقہ کو مرکز بنا لو اور جب تک اپنا مرکز نہ ہو، جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ اس وقت تک تم مطلب کے مطابق امور جاری نہیں کر سکتے۔ ایسا علاقہ اس وقت تک ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ جو خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہو مگر اس میں غیر نہ ہوں۔ جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک ہمارا کام بہت مشکل ہے۔“

(الفضل مورخہ ۱۲ جون ۱۹۳۲ء)

یہ ہے وہ کام جو خلیفہ کے ذہن پر مسلط ہے۔ کیا خالص دینی مہمات کی سرانجام دہی کے لئے ان کو ایسے علاقے مطلوب ہیں۔ خواہ بڑے پیمانے پر خواہ چھوٹے پیمانے پر کچھ علاقے ہوں جو بلا شرکت غیر کلیتہً ان کی ملکیت ہوں۔ کیا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے لئے ایسے صدر

مقام کی تلاش کی تھی جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ جہاں سے وہ تبلیغ اسلام کے کام کو جاری رکھ سکیں۔ پس یہ کام جس کی تکمیل کے خلیفہ تھے کہ ان کو ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ ہی ہوں ان کا قانون وہاں چل سکے اور اپنی ریاست کا قیام عمل میں لایا جاسکے اور قادیان میں بھی اس لحاظ سے کامیابی کا حصول اپنے لئے مشکل سمجھتے تھے۔ مگر ربوہ میں ان کو یہ بات میسر آگئی ہے وہ یہ ریاست اپنی پوری شان سے قائم کر چکے ہیں۔ کیونکہ اس میں سوائے ان کے قادیانی مریدوں کے اور کوئی آباد نہیں۔ پاکستان میں صرف ایک حصہ ہے جس میں ایک ہی فرقے کے لوگ بستے ہیں اور وہ ایک اہمیت منظم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ملک کا قانون ان کے لئے حرفِ فلط سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ایسی آئین سو کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی پریس ایک عرصہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ یعنی اس میں دوسرے لوگ ایک عمرانی منصوبے کے ماتحت بسائے جائیں۔ تاکہ محمودی آمریت قانون کے رستے میں حائل نہ ہو سکے۔ لیکن ابھی تک یہ مطالبہ صداسمحر آجات ہے اور ہا ہے۔

نظام بینکاری

ربوہ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بالمقابل مرزا محمود کی زیر نگرانی ایک غیر منظور شدہ بینک بھی جاری ہے۔ جسے خلیفہ کی خود ساختہ اصطلاح میں امانت فنڈ کہا جاتا ہے۔ ربوہ کے اس جعلی بینک کی طرف سے باقاعدہ چیک بک اور پاس بک بھی جاری کی جاتی ہے۔ جن کا ڈیزائن عام مرہبہ بینکوں کی چیک بکوں اور پاس بکوں سے ملتا جلتا ہے۔ سطحی نظر سے کوئی شخص ان کے متعلق یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ چیک بک یا پاس بک کسی جعلی اور گورنمنٹ کے غیر منظور شدہ بینک کی ہے۔ اس بینک کے متعلق بعض اعلانات پڑھنے ”چالیس سال سے قائم شدہ صیغہ امانت صدر انجمن احمدیہ اس صیغہ کو حضرت امیر المؤمنین خلیفہ المسیح ایدہ اللہ کی بابرکت سرپرستی کے علاوہ بفضلہ تعالیٰ اس وقت مشہور انگلش بینک سے تربیت یافتہ ٹریڈر اور شخص جو جوانوں کی خدمات حاصل ہیں۔ آپ کا یہ قومی امانت فنڈ اس وقت خدا کے فضل و رحم سے ملکی بینکوں کے دوش بدوش اپنے حساب داران امانت کی خدمت پورے اخلاص اور محنت سے سرانجام دے رہا ہے۔ تقسیم ملک کے بعد اس صیغہ نے جو شاندار خدمات سرانجام دی ہیں۔ وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اس لئے اب آپ کو اپنا قانونی رویہ ہمیشہ صیغہ امانت صدر انجمن احمدیہ میں ہی جمع کروانا چاہئے۔“

(الفضل مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۵۷ء)

”کیا آپ کو علم ہے کہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے خزانہ میں احباب اپنی امانت ذاتی کا حساب کھول سکتے ہیں اور جو روپیہ اس طرح پر جمع ہو وہ حسب ضرورت جس وقت بھی حساب دار چاہے واپس لے سکتا ہے۔ جو روپیہ احباب کے پاس بیماہ، شادی، تعمیر، مکان، بچوں کی تعلیم یا کسی اور ایسی ہی غرض کے لئے جمع ہو اس کو بجائے ڈاکخانہ یا دوسرے بینکوں میں رکھنے کے خزانہ صدر انجمن احمدیہ میں جمع کرانا چاہئے۔“

(الفضل مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۳۸ء)

ملاحظہ ہو کسی طرح کھلم کھلا گورنمنٹ کے ڈاکخانوں میں روپیہ جمع کرنے سے لوگوں کو روکا گیا۔ ہمارے خیال میں کسی بڑے سے بڑے بینک نے بھی یہ جرأت نہیں کی ہوگی کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرے کہ ڈاکخانہ میں رقم جمع نہ کروائی جائیں۔

یہ بینک خلیفہ کی ریاست کو بوقت ضرورت روپیہ مہیا کرتا ہے۔ خود خلیفہ اور ان کے عزیزوں کو **Over Draft** کے ذریعہ متعدد پارٹنریس مہیا کر چکا ہے۔ اس وقت خلیفہ اور ان کا خاندان اسی بینک سے مبلغ سات لاکھ روپے کی رقم لے چکے ہیں۔ اسی بینک کی سیاسی افادیت کا حال بھی خلیفہ کی زبانی سنئے: ”اس کے علاوہ اس کے ذریعہ احراز کو خطرناک شکست ہوئی۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۷ء)

نیز فرمایا: ”اگر اس بارہ سال تک ہماری جماعت کے لوگ اپنے نفسوں پر زور ڈال کر اس میں روپیہ جمع کرتے رہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان..... اور اس کے گرد و لواح میں ہماری جماعت کی مخالفت ۹۵ فیصد کم ہو جائے۔“

(الفضل ۱۳ جنوری ۱۹۳۷ء)

پس کس طرح قادیان اور اس کے ماحول کو سنبھالنے کی اس بینک کے ذریعہ تجاویز مرتب کی گئیں اور پھر کس طرح احراز کو اسی بینک کی طاقت سے شکست دی گئی۔ کیا یہی بینک کل کسی اور کو شکست دینے کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ خلیفہ خود فرماتے ہیں: ”ہم اس روپیہ سے تمام وہ کام کر سکتے ہیں جو حکومتیں کیا کرتی ہیں۔“

(الفضل مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۳۸ء)

اور پھر بالفاظ خلیفہ صاحب: ”میں اس (امانت تحریک) کی تفصیلات کو بیان نہیں کر سکتا۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۷ء)

اگر گوئم زبان سوزد: ”اور یہ بھی یاد رکھئے کہ امانت فنڈ کی تحریک الہامی تحریک ہے۔“

(الفضل مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۳۷ء)

صیغہ امانت بینک ہے۔ لیکن بینک کی سی کوئی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسا بینک ہے جس کا نام امانت فنڈ ہے جو اگر ضائع ہو جائے تو ائین اس کا شرعاً ذمہ دار نہیں

ہوتا۔ صیغہ امانت میں گورنمنٹ کے افسروں کے کھاتے کھلے ہیں ہم ٹھکر انکم ٹیکس والوں کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس ڈولیدگی کی چھان بین کرے۔ انہیں بڑی مفید معلومات حاصل ہوں گی اور وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ ٹیکسوں سے بچنے کے لئے ٹیکوں کی بجائے یہاں روپیہ رکھتے ہیں۔ منظر عام پر آ جائیں گے اور گورنمنٹ ملازم جن کے لئے اپنی مالی پوزیشن کو صاف رکھنا ضروری ہے ان کے متعلق تمام کوائف طشت از باہم ہو جائیں گے۔ بینکاری کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اگر کوئی بینک بیٹھ جائے تو کتنے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ ہینڈل بینک جب دیوالیہ ہوا تھا تو کسی طرح ملک میں کھرام بچ گیا تھا۔ بینک تو بند ہو گیا مگر ان بچاؤں اور چیخوں کا رونا کسی طرح بند نہ ہوا۔ جن کا روپیہ اس میں امانت پڑا ہوا تھا۔ گورنمنٹ نے اس کا کیا امداد کیا ہے؟ اگر خلیفہ کی بے تدبیری اور بڑھتے ہوئے اخراجات کی اور آئے دن کی اوور ڈرافٹس Drafts اور صیغہ امانت سے قرض کے نام پر لکھوائی ہوئی بھاری رقم سے یہ بینک دیوالیہ ہو گا جس کا دیوالیہ ہو جانا ایک قیمتی امر ہے تو امانت والوں کا کیا بنے گا۔ پاکستان کے شہریوں کے اموال کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا ہے۔ حکومت کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہئے کہ ریوہ کا یہ بینک خلیفہ کی بے اعتدالیوں کے باعث شدید مالی بحران کا شکار ہے اور اس کے کل سرمایہ میں سے جو تقریباً ۲۳ لاکھ روپیہ ہے۔ ۱۸ لاکھ روپے کی گران قدر رقم عملاً خورد برد کی جا چکی ہے۔ اگر اس بینک کا کوئی ہاقاعدہ میزانیہ تیار کر دیا جائے تو حکومت کو خود علم ہو جائے گا کہ یہ عملاً دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس کے واجبات زیادہ اور اتنا اس کے بالمقابل برائے نام ہے۔

مخفی اخراجات

حکومت کو بعض اوقات مخفی طور پر بعض اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خلیفہ کے ریاستی بجٹ میں بھی یہ موجود ہے۔ خلیفہ خود فرماتے ہیں: ”صرف ایک مخصوص ایسا ہے جس کے اخراجات مخفی ہوتے ہیں مگر میں ان کے متعلق بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان مخفی اخراجات کی مد میں سے جو بعض دفعہ خبر رسائیوں اور ایسے ہی اور اخراجات پر جو ہر شخص کو بتائے نہیں جاسکتے، خرچ ہوئے ہیں۔“

(المصلح مورخہ ۲ جولائی ۱۹۳۷ء)

آزادی رائے پر پھر سے

آمرانہ حکومتوں میں آزادی رائے عقدا ہوتی ہے۔ ایسا ہونا آمریت کے مزاج کے مطابق ہے۔ بلکہ وہاں انکار پر سنگین پھرے ہوتے ہیں۔ نظر کے دور اقتدار میں کوئی جرمن باشندہ

آزادی سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے بڑے بڑے مفکر اور سائنس دان بھاگ کر جمہوری ملکوں میں آباد ہو گئے تھے۔ جاپان میں دوسری عالمگیر جنگ سے پہلے شاہ میکاڈو کی حکومت میں پولیس کا ایک حصہ تھا۔ جس کو **Thought Police** کہتے تھے۔ اس کا یہ فرض تھا کہ وہ ملک میں گفتار و کردار کے علاوہ افکار کا جائزہ لیتی رہے۔ یہی حال قادیانی میکاڈو کا ہے۔ یہ بھی اپنی مملکت میں کسی کو نہ سوچنے دیتا ہے نہ ہی کسی کو یہ اجازت ہے کہ وہ آزادانہ طور پر تصنیفی یا تالیفی کام کرے۔ ان کے ہاں اس **Thought Police** کو نظارت تالیف و اشاعت کہتے ہیں۔ بظاہر یہ کتنی معصوم اصطلاح ہے۔ حالانکہ اس کا اولین فرض ہے کہ تالیف اور اشاعت پر قفل لگا دے۔ اگر اس کو نظارت تعزیر و احتساب کہا جاتا تو زیادہ صحیح ہوتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ: ”تمام وہ لٹریچر جو احمدی احباب تصنیف فرماویں۔ اگر وہ کسی موضوع پر ہو تو محکمہ تالیف و اشاعت میں روانہ فرماویں اور محکمہ مذکورہ بعد ملاحظہ و تصحیح ضروریہ اسے اشاعت کے لئے منظور کرے اور کوئی کتاب یا رسالہ بغیر محکمہ مذکور کے پاس کرنے کے احمدیہ لٹریچر میں شائع نہیں ہو سکتا۔“ (الفضل مورخہ ۱۸ مئی ۱۹۲۲ء)

”اسی طرح مجلس معتدین صدر امجن احمدیہ نے بمظوری حضرت خلیفہ بذریعہ ریزولوشن نمبر ایک ۱۹۲۸ء یہ فیصلہ کیا تھا کہ سلسلہ کی طرف سے کوئی کتاب ٹریکٹ وغیرہ بغیر منظوری نظارت تالیف و اشاعت چھپنے اور شائع ہونے نہ پائے۔ اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کتاب کی اشاعت بند کر دی جائے گی۔“ (الفضل مورخہ ۲۹ جنوری ۱۹۳۳ء)

چنانچہ ان تجاویز پر عمل شروع کر دیا گیا۔ ”الہمشر“ نام سے قادیان سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کے ایڈیٹر ایک مشہور قادیانی صحافی تھے۔ لیکن ریاست محمودیہ کے نزدیک: ”بعض نقائص ایسے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے الہمشر کو مرکز سلسلہ سے شائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی۔“ (الفضل مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۳۷ء)

”اسی طرح اعلان کیا گیا کہ کتاب بہان الہمجد (جو مولوی غلام احمد سابق پروفیسر جامعہ احمدیہ تعلیم الاسلام کالج) نے شائع کی ہے۔ کوئی صاحب اس وقت تک نہ خریدیں جب تک نظارت دعوت و تبلیغ کی طرف سے اس کی خریداری کا اعلان نہ ہو۔“ (الفضل مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۳۳ء)

”ایک ٹریکٹ کے متعلق اعلان کیا گیا کہ اس ٹریکٹ کو ضبط کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جس صاحب کے پاس یہ ٹریکٹ موجود ہو۔ درنہ اسے فوراً تلف کر دیں اور شائع کرنے والے صاحب سے جواب طلب کیا گیا ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ جس قدر کامیاں اس

ٹریکٹ کی ان کے پاس ہوں وہ سب تلف کر دی جائیں۔“ (افضل مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۳۳ء)

”جب نظارت تالیف و تصنیف کو اس ٹریکٹ کی اشاعت کا علم ہوا تو اس نے اس کی

اشاعت ممنوع قرار دے دی اور اسے بحق جماعت ضبط کر کے تلف کر دینے کا حکم دے دیا۔ نیز ٹریکٹ شائع کرنے والے سے جواب طلب کیا۔“ (افضل مورخہ ۳ دسمبر ۱۹۳۳ء)

غور فرمائیے کہ اب ریاست کے مکمل ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے۔ خلیفہ فرماتے ہیں: ”اب تک تین رسالوں کو میں اس جرم میں ضبط کر چکا ہوں۔“

(افضل مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۶ء)

اس سلسلہ میں خلیفہ کی ریاست کی سیاست کا سب سے گندا پہلو یہ ہے کہ جن کتب اور اخبارات کو ضبط نہیں کر سکتے یا کر سکتے۔ ان کے متعلق اپنی رعایا یا مریدوں کو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اسے پڑھیں نہیں۔ کیا ایک مذہبی، دینی اور تبلیغی جماعت جنہوں نے دوسروں تک اپنی بات پہنچائی ہوتی ہے۔ ان کی طرف سے تعزیری اقدام ان کے لئے باعث فخر ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ روزنامہ نوائے پاکستان جو وقتاً فوقتاً خلیفہ کے متعلق بعض اہم حقائق کو منظر عام پر لاتا رہتا ہے۔ خلیفہ نے اپنے ہوم سیکرٹری (ناظر امور عامہ) کے ذریعہ اس اخبار کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے جلسہ سالانہ ۱۹۵۶ء کے موقع پر اعلان ہو چکا ہے کہ: ”حقیقت پسند پارٹی کا شائع کردہ لٹریچر کوئی احمدی نہ پڑھے۔ بلکہ پھاڑ کر پھینک دے یا خلیفہ کے ہوم سیکرٹری یا محکمہ حفاظت مرکز کے پاس بحفاظت پہنچادیں۔“ (افضل مورخہ ۷ مارچ ۱۹۵۷ء)

خلیفہ اپنے دار الخلافہ میں جس طرح لوگوں کو اپنی ریاست کا مطیع اور فرمانبردار بنا رکھتے ہیں۔ باشندگان ربوہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے حاکم اعلیٰ ان کے خلیفہ ہیں۔ حکومت بھی ان کو خلیفہ کے چنگل سے نہیں بچا سکتی۔ ان کے سامنے قادیان سے لے کر ربوہ تک کی مثالیں موجود ہیں کہ حکومتی نظام سنگین واردات کی کھوج لگانے میں ناکام رہا۔ اگر کھوج لگے گا تو عدالت میں جا کر مقدمات قلم ہو گئے۔ ان حالات میں خلیفہ کو راعی اور اپنے آپ کو رعایانہ سمجھیں تو کیا کریں۔

خلیفہ کی خروجی تدابیر

سیاست کاری اور سیاست بازی خلیفہ کا اڑھنا بچھوتا ہے۔ مذہب یا تو محض زیب داستان کے لئے ہے یا اس کا معرّف سیاست کی پردہ داری ہے۔ اگر بغور مطالعہ کیا جائے اور ان

کے اعلانات کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ محراب و منبر کے سیاق و سباق میں پناہ گزین ہو کر وہ سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ سیاست کی سر بلند یوں سے سرفراز تو ہونا چاہتے ہیں۔ مگر اس کی اجلاء انگیز یوں کے حریف نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے ان کا نظریہ خرد پهلوار ہاتوں میں لٹوف ہو کر ان کے مریدوں کے سامنے آتا ہے۔ مثلاً وہ اکثر کہا کرتے ہیں۔ ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی روح کو کچل دیں گے۔ ایسے ہی مقاصد کے لئے یہ دفتر امور عام ایسے احمدی افسران جو گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ بورڈوں یا فوج یا پولیس، سول، بجلی، جنگلات، تعلیم وغیرہ کے محکموں میں کام کرتے ہیں۔ ان کے کھل چنے مہیا رکھتا ہے۔

(المفضل مورخ ۱۸ نومبر ۱۹۳۶ء)

کبھی ان پر سیاست کا ایسا جنون مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ حزم و احتیاط کے سارے پردے چاک کر کے بر ملا کہہ دیتے ہیں۔ ”ہمیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست نہیں وہ نادان ہیں۔ وہ سیاست کو سمجھتے ہی نہیں۔ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ غلطی کی بھی سیاست ہے وہ بیعت ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں۔ دراصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ ہے۔ پس اس مسئلہ کو اگر میں نے بار بار بیان نہیں کیا تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے اس سے جان بوجھ کر اجتناب کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہئے کہ خلافت کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہے اور جو شخص یہ نہیں مانتا وہ جھوٹی بیعت کرتا ہے۔“

(المفضل مورخ ۳ مارچ ۱۹۲۶ء)

اسی ضمن میں خردی عزائم کو یوں بے نقاب کر جاتے ہیں: ”میرا یہ خیال ہے کہ ہم حکومت سے صحیح تعاون کر کے جس قدر جلد حکومت پر قابض ہو سکتے ہیں، ہم تعاون سے نہیں اگر ہم کالجوں اور سکولوں کے طلباء کے اندر یہ روح پیدا کر دیں تو جوانوں میں سے ملازمت کو ترجیح دیں وہ اس غرض سے ملازمت کریں کہ اپنی قوم اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں گے تو یہ لوگ چند ماہ میں ہی حکومت کو اپنی آزاد رائے اور بے حزمک مشورے سے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہندوستانی نقطہ نگاہ کی طرف مائل ہو بے شک ایسے لوگوں کی ملازمت خطرہ میں ہوگی۔ مگر جب یہ لوگ ملازم ہی اس خطرہ کو مد نظر رکھ کر ہوتے ہوں گے ان کے دل اس بات سے ڈریں گے نہیں۔ دوسرے کوئی گورنمنٹ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں ملازموں کو اس جرم میں الگ نہیں کر سکتی کہ تم کیوں چھائی سے اصل واقعات پیش کرتے ہو۔ اگر پولیس کے محکمہ پر ہی ایسے حسب الوطنی سے سرشار لوگ قبضہ کر لیں تو حکومت ہند میں بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔“

(المفضل مورخ ۱۸ جولائی ۱۹۳۵ء)

جب اس شاطر سیاست کے خفیہ اڈوں پر حکومت چھاپہ مارتی ہے تو یہ اسلحہ اور کاغذات کمال ہوشیاری سے زیر زمین دفن کر دیتا ہے۔ قادیان کی سر زمین میں فسادات کے موقع پر احمدی نوجوانوں اور سابق فوجیوں کے ہاتھوں جو ماڈرن اسلحہ سمیا کیا اور ان کی فوجی گاڑیاں حرکت میں آئیں تو اس پر حکومت کی طرف سے یکدم چھاپہ پڑا۔ جس کی اطلاع قبل از وقت خلیفہ کو نہ ہو سکی۔ کیونکہ وہاں احمدی سی آئی ڈی ناکام رہی۔ لیکن خلیفہ کی اپنی اہرنشی فراست ان کے کام آئی۔ کیونکہ جب پولیس سر پر آگئی تو اس مقدس، پاکہا، ملہم، مصلح دوراں نے اپنی مستورات کی چھاتیوں پر خفیہ دستاویزات باندھ کر کوشی دارالسلام (قادیان) بھجوادیں اور قادیانی فوجیوں نے فوراً اسلحہ زیر زمین کر دیا۔ ۱۹۵۳ء کے فسادات اور پھر مارشل لاء کے اختتام پر جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ریوہ کے فوجی اور ریوی پولیس کے وقار اور قصر خلافت پر چھاپہ مارا جائے تو یہ خبر دو دن قبل ریوہ پہنچی گئی۔ خفیہ اور ضروری کاغذات جن پر خلیفہ کے دستخط تھے۔ ان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ تلف کر دیا گیا اور دوسرا حصہ چناب ایکسپریس پر سندھ روانہ کر دیا گیا۔ جب پولیس دفتر کی تلاشی لے رہی تھی۔ خفیہ کاغذات قادیانی اسٹیبلوں میں چھپائے جا رہے تھے۔ خلیفہ ہر اس فرد کو بغاوت کا حق دیتے ہیں۔ جس نے دل سے اور عمل سے حکومت وقت کی اطاعت نہ کی ہو۔ ایک دفعہ کسی شخص نے خلافت مآب سے پوچھا کہ جس ملک کے لوگوں نے کسی حکومت کی اطاعت نہ کی ہو کیا انہیں حق ہے کہ وہ اس حکومت کا مقابلہ کرتے رہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ: ”اگر کسی قوم کا ایک فرد بھی ایسا ہوتی رہتا ہے جس نے اطاعت نہیں کی نہ عمل سے نہ زبان سے تو وہ آزاد ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے مقابلہ کر سکتا ہے۔“ (الفضل مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۳۳ء)

پھر فرماتے ہیں: ”اگر تبلیغ کے لئے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو ہم یا تو اس ملک سے نکل جائیں گے۔ یا پھر اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو پھر ایسی حکومت سے لڑیں گے۔“

(الفضل مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۳۵ء)

یعنی ایک حکومت میں رہ کر اس کے معلق اعلان جنگ کے مواقع اور ان پر غور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بغاوت کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک اور ارشاد بھی سنئے۔ فرماتے ہیں: ”شاہد کابل کے لئے کسی وقت جہاد کرنا پڑ جائے۔“

(الفضل مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۴۴ء)

خلیفہ نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ: ”جماعت ایک ایسے مقام پر پہنچی تھی کہ بعض حکومتیں بھی اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھنے لگی ہیں اور تو میں بھی اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھنے لگی ہیں۔“

(الفضل مورخہ ۲۹ مارچ ۱۹۳۸ء)

ان اقتباسات سے بالکل عیاں ہے کہ خلیفہ اپنی جماعت کے ذہنوں میں اسی جنون کی پرورش کر رہے ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں سمایا ہوا ہے۔ انہوں نے ربوہ کو اپنی کین گاہ بنا رکھا ہے اور اسی تاک میں بیٹھے ہیں کہ ب وطن عزیز میں انتشار ہو اور وہ اس سے قائدہ اٹھا کر اقتدار کی نشستوں پر قابض ہو کر ملک کے حکمران بن جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ: ”قبولیت کی رو چلانے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔“ (افضل مورخ ۱۱ جولائی ۱۹۳۶ء)

ان کا اپنا قول ہے کہ: ”پنجاب جنگی صوبہ کہلاتا ہے۔ شاید اس کے اتنے یہ معنی نہیں کہ ہمارے صوبہ کے لوگ فوج میں زیادہ داخل ہوتے ہیں جتنے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہمارے صوبہ کے لوگ دلیل کے محتاج نہیں بلکہ سونے کے محتاج ہیں۔“ (افضل مورخ ۲۷ جولائی ۱۹۳۶ء)

گو یا خلیفہ مغرب کی **Big Stick** پالیٹکس کے قائل ہیں۔ لیکن کیا کریں۔

توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے
آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ ہوا تھا

چنانچہ محکومی کی حالت میں بھی خارجی حکومتوں سے ساز باز کے متمنی ہیں اور اس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں: ”کہ کوئی قوم دنیا میں بغیر دوستوں کے زعمہ نہیں رہ سکتی۔ اس لئے زیادہ مجرم اور کوئی قوم نہیں ہو سکتی جو اپنے لئے دشمن تو بناتی ہے مگر دوست نہیں۔ کیونکہ یہ سیاسی خودکشی ہے۔“ (افضل مورخ ۱۸ جون ۱۹۳۶ء)

اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے دشمنوں کے حلیف بننے کی کوشش کیوں نہیں کریں گے۔ چاہے اس کی کوئی سی بھی صورت ہو۔ مثلاً وہ راز افشاء کر کے پاکستان کے دشمنوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ انہوں نے فوج کے ایک کرنل کی طرف یہ منسوب کیا کہ اس نے دوران گفتگو میں ان سے یہ کہا کہ: ”حالات پھر خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ فوج آپ کی مدد نہیں کرے گی۔“ (افضل مورخ ۸ مارچ ۱۹۵۷ء)

”جب پہلی دفعہ خلیفہ کی یہ تقریر افضل میں چھپی تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ کرنل نے کہا کہ: ”فوج آپ کی مدد نہیں کرے گی۔ کیونکہ وہ بدنام ہو چکی ہے۔“

جب اخبارات میں اس قابل اعتراض بات پر تبصرے ہوئے تو خلیفہ کے ایماء سے ان کی وہی تقریر دوبارہ شائع ہوئی اور ان میں سے وہ فقرہ حذف کر دیا گیا جس میں فوج کی بدنامی کی طرف اشارہ تھا۔ تردید کرنے کی اخلاقی جرأت نہ تھی۔ ہاں! قانون سے بچنے کا حیلہ نکال لیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَنْ آتَىٰ مَرْءًا مِّنْهُنَّ فَتَمَسَّهَا فَمَا لَمْ يَرْوِهَا فَمَا لَمْ يَرْوِهَا فَمَا لَمْ يَرْوِهَا

ربوہ کا مذہبی امر



جناب راحت ملک سابق قادیانی

انتساب!

سیدی مولائی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ﷺ کی اس معصومیت کے نام، جسے میاں محمود احمد خلیفہ ربوہ معصوم نہیں سمجھتے۔
راحت ملک ا

زمین و آسمان اپنی جائے قیام بدل سکتے ہیں۔ فرشتے زمین پر اور انسان آسمان پر منتقل ہو سکتے ہیں لیکن خدائے برتر ایسے انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جس کی مدد ہی قیادت نے ہزاروں عصمتوں پر ڈاکے ڈالے، جو رہبری کے بھیس میں دنیا کے سامنے آیا، لوگ اسے رہنما سمجھ کر پیچھے ہوئے۔ لیکن وہ رہزن لکھا، دنیا نے اسے انسان سمجھا۔ لیکن وہ بھیڑ یا ثابت ہوا۔ اس نے اپنے چاروں طرف ظلمتیں پھیلا دیں تاکہ اس کی بے راہ روی پر پردے پڑے رہیں۔

مجھے قادیانی نبوت سے سب سے بڑا اختلاف یہی ہے کہ جب خود مردِ اِطْلَام احمد اور ان کی ساری جماعت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں اور عرب کے ریحلے میدانوں میں جنم لینے والا محمد ﷺ ہی افضل الانیاء ہے تو پھر قادیانی نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس نبوت کا مقصد مردہ روحانیت کو زندہ کرنا، اور مسلمانوں کے اخلاقی اقدار کو بلند کرنا تھا تو پھر مجھے بتایا جائے کہ مردہ روحانیت کہاں زندہ ہوئی؟ پاکستان اور بھارت کے کس کنارے پر اخلاقی اقدار کا عروج معرض

فہرست

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۵۰۶	حرف آغاز	۱
۵۰۸	دیباچہ	۲
۵۱۳	آمریت کا مفہوم	۳
۵۱۵	اسلام اور آمریت	۴
۵۲۳	پس منظر	۵
۵۲۷	سازشوں کے دور کا آغاز	۶
۵۳۲	مذہبی یا سیاسی؟	۷
۵۳۸	بادشاہت یا خلافت؟	۸
۵۴۰	محمدیت سے پہلا اختلاف	۹
۵۴۵	قادیانی خاتون کا بیان	۱۰
۵۴۷	شیخ عبدالرحمن مصری	۱۱
۵۵۲	فخر الدین گیلانی کا مکمل	۱۲
۵۵۴	تاریخی انقلاب	۱۳
۵۶۳	گواہ اور ان کی شہادتیں	۱۴
۵۶۶	آزادیِ ضمیر	۱۵
۵۷۳	سوشل ہائیٹاکٹ	۱۶
۵۷۷	زبان اور اخلاق	۱۷
۵۸۵	پی اور استاد کا احترام	۱۸
۵۸۸	اپنے منہ میاں مٹھو	۱۹
۵۹۰	مسئلہ حقیر	۲۰
۵۹۳	حضرت عمر فاروق سے ممانعت	۲۱
۵۹۸	رویا دکھنوف کا دوا	۲۲
۶۰۴	لوہڑی کون ہے؟	۲۳
۶۱۱	استقامت میں فرق آگیا	۲۴
۶۱۵	باپ کا کیا بیٹا؟	۲۵
۶۱۶	خلافتِ مآب کے منافی	۲۶
۶۱۸	آمرانہ خصوصیات	۲۷
۶۲۹	فرزانی سے دیوانگی تک	۲۸

حرف آغاز

خدائے برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کتاب کی اشاعت ثانی کی توفیق بخشی۔ پہلے ایڈیشن میں بے شمار خامیاں رہ گئی تھیں۔ کتابت اور طباعت بھی معیار کے مطابق نہیں تھی۔ لیکن ان تمام نقائص کے باوجود عوام نے اسے بے حد پسند کیا ہے جس کے لئے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دوسرے ایڈیشن میں بعض غیر ضروری حصے حذف کر دیئے گئے ہیں اور ان کی جگہ چند اور پہلو شامل کئے گئے ہیں۔ قارئین میں سے بیشتر نے حوصلہ افزا خطوط لکھے ہیں۔ ان کی اس حوصلہ افزائی کے لئے تبول سے ممنون ہوں، ان میں سے بعض نے اپنی قیمتی ہدایات سے بھی نوازا ہے۔ سوان کی ان نوازشات کے پیش نظر تراجم کر دی گئی ہیں۔ بہت سے کرم فرماؤں نے گالیاں بھی لکھ بھیجی ہیں۔ میں ان کی گالیوں سے بہت لطف اندوز ہوا۔ مجھے رہ رہ کر خیال آیا کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ابو جہل اور ابولہب نے کیا کم گالیاں دی تھیں۔ جب دشمنان اسلام محبوب خد ﷺ کو گالیاں دینے سے باز نہیں آئے تو میری حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو اس آئمہ کے لال کی خاک پا کے برابر بھی نہیں۔ میرے آقا کا نمونہ یہ تھا کہ آپ ﷺ نے مخالفین کی گالیاں سنیں لیکن جواب نہیں دیا۔ اظہار برہمی بھی نہیں کیا۔ چشم غضب ناک سے بھی نہیں دیکھا۔ بددعا نہیں کی اور نہ ہی اپنے لیوں تک شکوہ، گلہ آنے دیا ہے بلکہ دشنام طرازی کی اجتناء کرنے والوں کے لئے درود سے دعائیں کی ہیں۔ ان کا ہمیشہ ہملا چاہا ہے..... مگر..... میں اپنے ان کرم فرماؤں سے کیا کہوں۔ خود انہی کے مرزا غلام احمد کا ایک مصرع رقم کئے دیتا ہوں۔ جو انہوں نے اپنے اور اپنے مریدان ہامغا کے لئے موزوں کیا تھا۔

گالیاں سن کے دعا دو پا کے دکھ آرام دو

(درشمن اردو ص ۸۴)

اے کاش مجھے ”مرتد“ بے دین اور کافر“ کا خطاب دینے سے قبل میرے محترم بزرگ اپنے گریبان میں جھانک لیتے کہ جس بات کا گلہ وہ کسی سے کر رہے ہیں۔ اس پر ان کا اپنا عمل بھی ہے یا نہیں؟ ان کرم فرماؤں سے مجھے صرف اس قدر استفسار کرنا ہے کہ میری اس کتاب کے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے انہیں جس نبوت کے برہاد اور تباہ ہونے کا خوف دامنگیر ہو گیا ہے اور انہوں نے اس نبوت سے وابستگی مظلوم کا اظہار کر کے مجھے جو بے لطف سنائی ہیں تو کیا انہوں نے اس معجزہ خیر پہلو پر غور نہیں کیا کہ ان کو خود اس نبوت کے متعین کئے ہوئے اصولوں میں کتنا دخل

ہے؟ ایک طرف مجھے احاطہ نبوت سے نکلنے کے جرم میں سزا کے طور پر مردہ، کافر، ملعون اور نہ جانے کیا کیا القاب نواز دیئے ہیں اور دوسری طرف خود اس نبوت کے فرمودات سے قطعی بیگانگی، خدا معلوم کن جذبات کی آئینہ دار ہے۔ گالیاں دینا تو آسان ہے۔ لیکن گالیاں سن کر ماتھے پہ ہنسن لائے بغیر دعا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جس کا دعویٰ زبان سے تو ممکن ہے لیکن اس پر عمل کرنا ایک پر خار راگنڈ پر چلنے کے مترادف ہے۔ مجھے قادیانی نبوت سے بڑا اختلاف یہی ہے کہ جب خود مرزا غلام احمد اور ان کی ساری جماعت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں اور عرب کے رختے میدانوں میں جنم لینے والا محمد ﷺ افضل الانبیاء ہے تو پھر قادیانی نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس نبوت کا مقصد مردہ روحانیت کو زندہ کرنا اور مسلمانوں کی اخلاقی اقدار کو بلند کرنا تھا تو پھر مجھے بتایا جائے کہ مردہ روحانیت کہاں زندہ ہوئی اور پاکستان و بھارت کے کس کنارے پر اخلاقی اقدار کا عروج معرض وجود میں آیا؟ قادیانی نبوت کو گلہ تھا کہ اس کے مخالفین گالیاں دیتے ہیں اور اس نے اپنے مریدوں کو گالیاں سن کر دعا دینے کی جو تلقین کی تھی میرے قادیانی دوستوں میں سے بعض نے اپنے نبی کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اس طرح میرے پاس سینکڑوں بلکہ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قادیانی نبوت کی تخلیق کے لئے جن ضرورتوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ ضرورتیں اس نبوت کے بعد آج تک پوری نہیں ہوئیں۔ مجھے میرے محسن دوستوں نے گالیاں دے کر میرے اعتراض کو تقویت بخشی ہے اور اپنے آپ کو دشمنان دین محمد ﷺ سے اور مجھے شمع رسالت کے پروانوں سے مماثلت دی ہے۔ جس کے لئے میں ان کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا انہیں صراط مستقیم دکھائے اور انہیں توفیق بخشے کہ وہ اس دام دلنواز کے اندرونی خدو خال کا جائزہ لے کر اپنے لئے جہنم کی آگ سلگانے کی بجائے جنت کے انعامات سے مستفید ہونے کی سعی و جہد کر سکیں۔ آمین!

قارئین سے التماس ہے کہ اگر انہیں اس کتاب میں کوئی خوبی نظر آئے تو وہ میرے لئے دعا کریں کہ خدائے برتر مجھے استقامت بخشے۔ میں جس مقصد کو لے کر اٹھا ہوں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے خلوص، محبت، عقیدت اور گرجوشی سے اسلام کی خدمت کی توفیق بخشے اور میرے وہ قریبی رشتہ دار جو ہنوز اس دوزخ کو جنت سمجھ رہے ہیں، صراط مستقیم دکھائے اور وہ اس آگ کی طرف دوڑنے سے بچ جائیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ قرار دیا ہے۔

راحت ملک

آمین، ثم آمین!

دیباچہ

وہ شاخ نور جسے ظلمتوں نے سینچا ہے اگر پہلی تو شراروں کے پھول لائے گی
نہ پھل سکی تو نئی فصل گل کے آنے تک خیر ارض میں اک زہر چھوڑ جائے گی

قادیانی تحریک کی عمر اس وقت تقریباً ستر برس ہو چکی ہے۔ اس کا پہلا دور جس میں اس کی داغ بیل پڑی۔ پچیس سال بعد ۱۹۱۳ء کو ختم ہوا۔ دوسرا دور محمودی استبداد کا ہے۔ اس پر پینتالیس سال بیت چکے ہیں۔ قادیانیوں کے اپنے عقیدہ کے مطابق پہلے دور کو دوسرے دور سے وہی تعلق ہے جو شجر کو شمر سے ہوتا ہے۔ گویا انہوں نے اپنی تحریک کے پرکھنے کی کسوٹی خود ہی تجویز کر دی ہے۔ وہ کسوٹی ”خلیفہ“ کی وہ ن ترانیاں ہیں جو انفضل کی پیشانی پر ہر روز جلوہ گر ہوتی ہیں۔ وہ ن ترانیاں قیادت کے مزاج اور جماعت کی ذہنیت کی نماز ہیں۔ ابتداء میں ہی مرزا محمود احمد پریڈری کا بھوت سوار تھا۔ انہوں نے جماعت کے ہر پرستانہ جذبے سے فائدہ اٹھا کر اذہان کا عمل حکیم نور الدین کے دور خلافت میں ہی شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے چالیس آدمیوں کے دستخوں سے صدر انجمن کے خلاف ایک بیان جاری کیا تھا اور اپنے لئے زمین ہموار کرنی شروع کر دی۔ اب اپنے دور میں معمولی اختلاف کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ اپنے پیشرو کی وفات تک انہوں نے اپنی عیقت سازش کی سرگتلیں دور دور تک جماعت میں بچھادی تھیں۔ ان کے حریف اگرچہ بے خبر نہ تھے۔ لیکن بے ہنر ضرور ثابت ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے نہ کوئی تذکرہ کیا اور نہ ہی تاب مقاومت کا مظاہرہ کیا۔ جونہی حکیم نور الدین کی وفات ہوئی۔ محمودی سازشوں کا ایسا بھول نمودار ہوا اور اس وقت کے ارباب اختیار جو مرزا غلام احمد کے نورق تھے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا فرار مرزا محمود احمد کے لئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا۔ خلافت کا تاج پہن کر اس نے برطانوی حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات استوار کئے اور اس کی پشت پناہی حاصل کی۔

چونکہ مرزا محمود احمد پچیس سال کی عمر میں ہی خلافت پر قابض ہو گئے تھے۔ اس لئے ڈکٹیڈوں کی طرح نظرت کی فصلیں استوار کر کے ہی زعمہ روہ سکتے اور جماعت کو اپنے ساتھ دابستہ رکھ سکتے تھے اور اس میں کلام نہیں کہ یہ کارنامہ انہوں نے اسی طرح سرانجام دیا جس کی ان کو آرزو تھی۔ انہوں نے مسئلہ کلغیر کو خوب اچھالا اور مسلمانوں سے عمرانی متعلقہ کر کے جماعت کو تدریجاً اپنے سامنے صیدزیوں بنا کر چھوڑ دیا۔ اس کے لئے قادیان (اور اب ریوہ) کی فضا بڑی سازگار ثابت ہوئی۔ قادیان سے باہر مرید اپنے ہر کی تعلیمات کی پیروی میں مسلمانوں کے سوا دے عظیم

سے کٹ گئے تھے۔ ان کا جلد داؤنی قادیان (اب ربوہ) بن گیا تھا۔ اس پر قدرت کی ستم ظریفی کہ خلیفہ کو اپنی جماعت کی تربیت کے لئے اس وقت تک تینتالیس سال ملے اور اس طویل مدت میں قادیانیوں کی کئی نسلیں خلافتی استبداد سے بگڑ گئیں۔ خلیفہ کے سارے پروردگاروں کا مفاد اپنی آمریت کو قائم کرنا اور جماعت میں سنعنسا و اطعننا کی ذہنیت پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے جماعت میں عملاً وہی مرتبہ پیدا کیا جو مذہب میں نبی اور سیاست میں ڈکٹیو کو ہوتا ہے۔ اس تخریبی تربیت کے لئے انہوں نے خواب اور رویا کا سہارا لیا۔ کیونکہ ان کے سامنے دلیل اور حجت کی گنجائش نہیں رہتی اور پھر اپنے خوابوں کے قائلے کو اس ہنرمندی اور چابکدستی سے چلایا کہ مریدان کو الہام اور وحی محسوس کر کے اپنی عقل کو معطل کر دیتے رہے۔ جماعت کے اندرونی اصطلاحات کو رائج کیا تاکہ کسی مرید کی نظر ان کے ذاتی اعمال پر نہ پڑے۔ اگر کوئی بیباک نظر پڑ بھی جائے تو دوسروں کی اندھی ارادت اس کو بے اثر کر دے۔ اگر یہ بھی کارگر نہ ہو تو مرکز میں خلافت مآب کا معاشی فکھہ تنقید کی قوتوں کو مفلوج کرنے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ مرکز میں ہی الشائے راز کا خطرہ ہے اور مرکز میں ہی خلافت مآب کی گرفت ہمیشہ آہنی رہی ہے۔ الفضل کے صفحات سوشل بائیکاٹ کے اعلانات سے معمور ہیں۔ جس کا بائیکاٹ ہوتا ہے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عزیز ترین رشتہ دار مرض اور موت کے وقت بھی اس کے لئے رسم کے جذبات سے مطلوب ہو کر کوئی معمولی ہمدردی کا کام کر بیٹھتا ہے یا اس کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس انحراف کی پاداش میں اسی روح فرسا مقلعہ کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر مقلعہ پر بڑی بے ہاکی سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھی مخرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھتے تھے۔ (توبہ نعوذ باللہ)

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اپنی آمرانہ ہنرمندی سے خلیفہ اپنے مریدوں سے اسی قسم کی غیر مسئول اطاعت چاہتے ہیں جو صحابہ کرام کو حضرت رسول اکرم ﷺ سے تھی۔ رحمت اللعالمین ﷺ پر یہ ابلیسانہ بہتان کسی قادیانی کو ناگوار نہ گزرا۔ اگر کسی میں اسی پر انتہا پسند پیدا ہوتا بھی ہے تو خلافتی استبداد سے ڈر کر اس کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ اس جماعت کا حال ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا دھوٹی کرتی ہے اور سارے مسلمانوں کو کافر کہہ کر ان پر غالب آنے کی آرزو رکھتی ہے۔ عملاً مصل معمولی اختلاف کے خلیفہ شہ پر اس بائیکاٹ کو روا رکھتی ہے جو ابوجہل کی قیادت میں لگا دیکہ مسلمانوں کے خلاف نافذ کیا کرتے تھے۔

دھوٹے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا اپنے انکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

اس خوف و ہراس کی کیفیت کو عقیدت کہا جاتا ہے۔ کتنے پاک لفظ کا کتنا ناپاک استعمال ہے۔ مرشد سے صحیح عقیدت کر گس کو بھی شاہین بنا دیتی ہے۔ لیکن جس عقیدت سے شاہین کر گس بن جائیں وہ ذہنی غلامی کا بدترین نمونہ ہے۔ کبھی اس دینیاتی استبداد کو نظام کہا جاتا ہے اور اس نظام کے آئینی ہونے پر فخر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس نظام کا مزاج افادمی ہو اس کو آہنی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی نظام کو آہنی ہونے کی ضرورت ہے جو انسان کی جہتوں کو مردہ کر کے زندہ رہ سکتا ہے۔

اس قادیانی نظام میں عقل و خرد کو اس واسطے ذبح کیا جاتا ہے کہ ان کے فروغ سے دینی آمریت کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ خلافت مآب کے نظام میں اخلاقی جرائم کی سزا رکھی اور عارضی ہوتی ہے۔ ربوہ میں شاید ہی کوئی ایسا ناظر یا عالم ہوگا جس پر کسی اخلاقی لغزش کی پاداش میں خلیفہ نے فرد جرم نہ لگایا ہو۔ لیکن وہ مجرم کبھی اپنے عہدے سے برطرف نہیں۔ اگر برطرف ہوا بھی تو بحال ہو گیا۔ چیدہ علاء کو ”طاعونی چوہے اور جمعراتی ملاؤں“ کے القاب عطا ہوئے۔ مگر وہ بدستور فائز المرام رہے۔ ان کے ایک برادر نسبتی ناظر امور عامہ تھے۔ ان کے متعلق شارع عام میں بورڈ پر یہ اعلان ہوا کہ وہ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگ ان سے متنبہ رہیں۔ لیکن وہ اس وقت اپنے منصب سے الگ نہ کئے گئے۔ اس کے برعکس کسی کے متعلق خلافت مآب کو یہ شبہ ہو کہ وہ ان کی کسی رائے سے اختلاف رکھتا ہے یا اس نے کوئی نکتہ چینی کی ہے تو اس پر تعزیرات سے عرصہ حیات تک کر دیا جاتا ہے۔ گویا قادیانی نظام میں خدائی نافرمانی قابل عفو ہے۔ مگر خلیفہ کی نافرمانی کا محض ٹک بھی ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسی واسطے ایمان بالخلافت پر ان دنوں بڑا زور ہے۔

جماعت کے افراد کا بے بس ہو جانا خلافت مآب پر ایک سنگین طنز ہے۔ اگر یہ عقیدت بھی سمجھی جائے تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں۔ کیونکہ دوسرے پیر خانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مرید اپنے مرشد کی ہر لغزش کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ایسی کیفیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی بے بسی ہے جو سر کی تربیت سے ہر چیز اپنے پیروؤں میں پیدا کر دیتا ہے۔ سرکس کارنگ ماسٹر Ring Master درندوں کو سدھا کر ان سے وہ کام لیتا ہے جو ان کی فطرت کے منافی ہوتے ہیں۔ سرکس کا شیر اپنے رنگ ماسٹر کے چابک کی آواز پر بنا چتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ درندے کی فطرت کو سبک کرنا اس پر احسان ہے۔ ایک عام مدارسی چڑیا کی ایسی تربیت کر دیتا ہے کہ وہ عام مجھے میں تماشاخیوں کے ہاتھوں سے تانبے، چاندی کے سکے چوچ میں لا کر مدارسی کی گود میں ڈال دیتی ہے اور اس کام کے لئے اس کو تماشاخیوں کے جھوم سے ڈرنہیں

گلتا۔ لیکن اگر کوئی اپنی ہتھیلی میں دانے رکھ کر اس کو دکھانے کی کوشش کرے تو نہ وہ دانے دیکھے گی اور نہ وہ اڑ کر آئے گی۔ اپنی خوراک مداری کے ہاتھوں سے ہی لے گی۔ خلیفہ نے پینتالیس سالہ تربیت سے اپنے مریدوں میں سرکس کے شیر اور مداری کی چڑیا والی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ جس طرح شیر سرکس سے الگ ہو کر جنگل میں نہیں جاسکتا اور چڑیا بچرے سے اڑ کر دوسری چڑیوں میں نہیں مل سکتی۔ کیونکہ وہ دونوں اپنی فطری داعیات سے عاری ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اس مغائرت پر بخوان میں اور ان کے ہم جنسوں میں پیدا ہو چکی ہے، غالب نہیں آسکتے۔ یہی حال قادیانیوں کا ہے۔ وہ خلافت مآب کی غلطیوں کا مشاہدہ کرتے اور تعویروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ لیکن وہ اس عذاب حیات سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں، جائیں تو جائیں کہاں؟ خلافتی سرکس نے نظام اور عظیم کو اپنے اور اپنے خاندان کے لئے رحمت اور جماعت کے لئے لعنت بنا دیا ہے۔ قادیانی جماعت میں نظام کی وہی کیفیت ہے جو شریعت کی یہودیوں میں ہو گئی ہے۔ نظام اس وقت تک رحمت ہے جب تک وہ جماعتی بہبود کے لئے ہو۔ لیکن جب جماعت کے مفادات نظام کی قربان گاہ پر سمیٹ چڑھے لگیں تو یہ آمریت کا گلجہ بن جاتا ہے اور جو لوگ نفسیاتی تربیت اور اضطرابات مشروط کی تدبیروں سے اس گلجے میں مقید ہو جاتے ہیں۔ ان کی بصارت اور بصیرت ڈکٹیٹر کی مرضی کے تابع ہوتی اور ان کو کہنا سننا بیکار ہوتا ہے۔

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر
مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر
پہلی جنگ عظیم کے بعد جب شہزادہ ویلز ہندوستان کی سیاحت کے لئے لاہور میں وارد ہوئے تو خلیفہ کو رُف بجالانے کے لئے قادیان سے آئے۔ اس وقت ان کے موٹر کے پھریرے پر **His Holiness** لکھا تھا۔ حالانکہ عیسائیوں میں پوپ **His Holiness** کہلاتا ہے۔ وہ بھی بادشاہوں اور شہزادوں کے پاس نہیں جاتا۔ اس ایک غلامانہ فعل سے خلیفہ کے فضل عمر ہونے کی بھی قلمی کمال گئی۔ حضرت فاروق اعظمؓ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی بادشاہ کے دربار میں جانا اپنی خلافت کی توہین سمجھتے تھے۔ لیکن کہاں قادیانی نالک کا بہرہ دیا اور کہاں نقیب چشم رسول ﷺ! لیکن اس خلیفہ کا بیک وقت **His Holiness** اور حضرت عمرؓ سے افضل بننا کسی قادیانی کی عقل و دانش پر گراں نہیں گزرتا۔ چونکہ قیادت کی صحت اور صلاحیت کے ہٹا کے لئے جماعت کا غیور ہونا ضروری ہے اور جو نبی جماعت میں غیرت ختم ہوتی ہے جماعت کا امام کہاں میں چلا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں اس کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہی حال ”خلافت مآب“ کا ہوا۔ انہوں نے جنون زدوج سے مغلوب ہو کر وہ حرکات کی ہیں کہ ان کے بیان کے

لئے زبان کے سانچے نہیں بنے۔ اگر ان کو ایمان کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو ادب کی پیشانی پر کلکتیں پڑ جائیں۔ قصر خلافت، حفت اور عصمت کی لاشوں کا قبرستان ہے۔ کیونکہ وہ افعال دیکھنے پر بھی مانے نہیں جاسکتے۔ سننے پر کیسے حلیم ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے:

زندگی جبر کے سانچوں میں ڈھلے کی کب تک؟ ان نضاؤں میں ابھی موت پلے کی کب تک؟

جب خلافت مآب کی سنگین خلوتوں کے رنگین راز باہر نفا میں تلمہ دل اور دو چراغ

مخمل بن کر پھیلے تو اپنی صفائی میں حضرت ذوق سے افضل بننے والے نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک

واقعہ کے چار گواہ لاد۔ کبریائی کا دعویٰ اور صفائی کا یہ معیار؟ اس طریق سے تو قبر خانے کے لوگ بھی

زنا کے الزام کی تردید کر سکتے ہیں۔ خدا کے بندے اپنی صفائی کے لئے دنیاوی عدالتوں کے وضع

کردہ جیلوں کا سہارا نہیں لیتے۔ وہ اپنی حفاظت کے لئے خدا کا فیصلہ جو ہر وقت یہ کہتا ہے ”خدا کی

انگلی مل رہی ہے خدا میری طرف ہوا گا آ رہا ہے۔“ اپنی صفائی کے لئے آسمان پر دستک دینے سے

خائف ہے۔ تیس سال سے اس کو مہلبہ کا چھینچ دیا جا رہا ہے۔ مشر یوسف نازکی مؤکد بالعبادہ حم

نے اس کو کہیں کا نہیں رکھا۔ خلیفہ کے ماموں نے جوڑا کڑتے ۱۹۳۷ء میں انہی الزامات کے جواب

میں کہا تھا کہ جماعت کو ان پر کان نہیں ہرنے چاہئیں۔ اگر ان میں حقیقت ہے تو وہ خلیفہ کا دائمی

صحت کے زوال میں جلوہ گر ہو کر رہے گی۔ چنانچہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اب خلیفہ کے دل و دماغ

پر لسیان و ہزیان کا ظہر ہے۔ ان کی گفتگو غیر واضح، ان کی نماز اور خطبات بے ربط ہو چکے ہیں۔

کیونکہ جس سرعت اور جلد سے وہ حمد سے کرتے ہیں۔ وہ ایک مجنون کی سیمائی حرکات معلوم ہوتی

ہیں۔ اب لوگوں نے بھی چھینے میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ خلیفہ کے پیچھے نماز کا مقصد فوت ہو جاتا

ہے۔ لیکن ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ خدا کے گھر میں گا دیانیوں کی نمازیں ان کی خود ساختہ خلافت

کے ہاتھوں رسوا ہو رہی ہیں اور یہ بول نہیں سکتے۔ ان کے خلیفے بھی شعبہ زد دونوں کی ذمہ داری پر

شائع ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ کچھ کہتے ہیں اور ترمیم و تخیل کے بعد کچھ اور شائع ہوتے ہیں۔ علماء کا

مفتاز پر ہونا تعجب کا مقام ہے۔ کیونکہ عبادت کی تھیک پر بھی ان کی رنگ حسیت نہیں بچھرتی۔

چونکہ ساری گا دیانی ملت اپنے خلیفہ کے جرائم میں شریک رہی ہے۔ اس واسطے خدا کی

بطش شدید سے بچ نہیں سکتی۔ اگر محض خلیفہ کی ذات کا معاملہ ہوتا تو رسی اور روزا ہو جاتی مگر ساری

ملت اپنے کردار کے عواقب سے بچ نہیں سکتی۔

فطرت افراد سے اٹھا تو کر لیتی ہے۔ پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف

عطاء الرحمن، گجرات، مورخہ ۵ جولائی ۱۹۵۸ء

آمریت کا مفہوم

آمریت (ڈکٹیٹر شپ) اس نظام حکومت کا نام ہے جس کی زمام فرد واحد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے کو آمر (ڈکٹیٹر) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آمر زمام حکومت وراثت میں حاصل نہیں کرتا۔ بلکہ اس کا تخت اقتدار پر فائز ہونا سازشوں، سیاسی جوڑ توڑ اور قوت بازو کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ ملک کے سیاہ سفید کا مالک تصور کیا جاتا ہے۔ اسے تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور ملک کا آئین اس کے اقوال کا تابع ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے افکار ہی قانون سمجھے جاتے ہیں۔ وہ تمام معاملات میں خود مختار ہوتا ہے اور کسی شخص کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ اس کے فرمان کی اطاعت قرآن پاک کی آیات کی طرح فرض تصور ہوتی ہے اور وہ بزور شمشیر اپنے احکام منواتا اور حکومت کرتا ہے۔ اس کے عہد حکومت میں تنقید و تبصرہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ ملک کے کونے کونے میں جاسوسوں کا جال پھیلا دیا جاتا ہے۔ پولیس اس کے احاطہ قدرت میں رہتا ہے۔ جسے صرف اسی کے پروپیگنڈہ کے لئے مختص کر دیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف کسی دوسری جماعت کا قیام ناممکن ہوتا ہے اور اس کی پولیس سے ایک ذرہ بھر بھی اختلاف کرنے والوں کو جو رو استبداد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ ناقدین کو تختہ دار کے ذریعہ یا دوسرے ہتھکنڈوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ شہری آزادی مفقود ہوتی ہے اور ایک فرد کی حیثیت تنکے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ آمریت کا وجود زمانہ قدیم میں بھی رہا ہے۔ روم، یونان، فرانس، جرمنی، روس، جاپان، اطالیہ اور مصر میں آمری حکمرانوں کا ایک وسیع سلسلہ جاری رہا ہے۔ قدیم اور جدید آمدوں کے انداز حکومت اور اقوال و افکار میں یک رنگی کے باوجود ان میں امتیاز بھی موجود ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف آمر منظر عام پر آئے اور اپنے اپنے ماحول اور فضا کے رنگ میں رنگین ہو کر حکومت کرتے رہے۔ روم کا آمرانہ نظام وقت کی ضرورت کے پیش نظر معرض وجود میں آتا رہا اور جب بھی ملک میں بحرانی کیفیات اجاگر ہو جائیں ایک آمر مطلق عتانی کے فرائض سرانجام دینے لگتا اور ایک محدود مدت معینہ کے بعد خود بخود مستعفی ہو جاتا۔ اس کے عہد حکومت میں ایک مجلس بھی ہوتی۔ جسے ایوان اعلیٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا۔ لیکن اس کے اختیارات محدود اور اس کا حلقہ قدرت مفقود ہوتا تھا۔ ایوان اعلیٰ کا مقصد آمر مطلق کے عہد حکومت کی تمام روئیدالینا اور اس کے استعفیٰ پر فرور کرنا تھا۔ یہ روئیدالوہ اس وقت پیش کیا کرتا جب اپنے دور اقتدار کی میعاد ختم کر چکا اور اپنا استعفیٰ ایوان اعلیٰ کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔

یونان کی آمریت، آمریت روما سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ روما کے آمریت کے تقاضوں کے باعث منظر عام پر آئے۔ لیکن یونانی آمریت ہاز اور جود اور استبداد کی محدود تیز ہواؤں کے شانوں پر بیٹھ کر مخالف کے ایوانوں کو مہار کرتے ہوئے مطلق العنانی کی زمام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اول سے آخر تک ظلم و ستم کا ایک وسیع باب واکنے رکھتے۔ ان آمروں کو آمری بجائے جاہر کہا جاتا تھا اور ان کے لئے وقت کی قید نہیں تھی۔

وقت کا تیز و حار بہتا رہا اور دنیا کی نفسا کی رنگت میں تبدیلی پیدا ہوتی رہی۔ انسان کا ذہن بدل رہا اور رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آ گیا جب اذہان میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی اور اس دور کے آمروں نے وقت کی روشنی اور اذہان کی بلندی کے پیش نظر آمریت کے اصولوں اور آمرانہ خصوصیات میں بھی قابل ذکر تبدیلی پیدا کر لی اور آمریت جمہوری اقدار کے قریب ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور بعض حکمرانوں نے آمریت اور جمہوریت کے باہمی احتیاج سے حکومت کرنا چاہی۔ لیکن ان کی راہ میں ان کے ذاتی عزائم حائل ہو کر رہ گئے اور لوگوں نے انہیں ان کے ذاتی عزائم کی وجہ سے شکست فاش دی اور خالص جمہوریت کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیئے۔ لیکن آج جمہوریت کے اس دور میں بھی بعض شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی کامیابی کے لئے نئی نئی راہیں نکالی ہیں اور آمریت کو جمہوریت کا چھفہ پہنا دیا ہے اور جمہوریت کا نعرہ بلند کر کے اپنی آمرانہ خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور پریس کے ذریعہ دیگر ذرائع کے توسط سے وہ دنیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا اظہار پختے چلے جاتے ہیں۔

یہ دور یعنی عروج کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ انسان ہر لمحہ کسی نہ کسی رنگ میں جدت طرازی میں مصروف ہے۔ چنانچہ اس عہد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے مذہبی لہادہ اوڑھ کر جمہوریت کا علم لہرایا اور آمریت کی بنیادیں استوار کرنا شروع کر دیں اور الہام و کشف کے ذریعہ فطرت انسانی کی خوف کھالے والی حس سے فائدہ اٹھانے کی تک دود میں مصروف ہو گئے۔ لہذا آمریت کی یہ قسم اپنی جگہ پر بالکل جدید اور اسے منظر عام پر لانے والی شخصیت جو مرزا محمود کے نام سے مشہور ہے، کی اپنی جدت ہے اور اس پر انہیں مبارک باد نہ دینا انسانی ہوگا۔

الغرض اس وقت میرے پیش نظر ریوہ حاضر کا وہ مذہبی آمر ہے جس کی آمریت آملی پردوں کے پیچھے جنم لیتی ہے اور اسے جمہوریت کا چھفہ پہنا کر بھولے بھالے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور وہ اسے جمہوری اقدار کی سر بلندی تصور کرتے ہوئے امیر المؤمنین زندہ باد کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس آمریت کو محمودیت کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔ جس کا

عروج آج کل ربوہ میں دم توڑ رہا ہے۔ لہذا خلیفہ ربوہ کی آمریت کا تفصیلی جائزہ پیش کرنے سے پیشتر آمریت کو اسلامی نظریات کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے۔

اسلام اور آمریت

اسلامی نظریات کے مطابق آمریت ایسے گناہ دانے نظام کا نام ہے جو نہ صرف انسانوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے۔ چنانچہ جب سرور کائنات ﷺ دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت دنیا مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی اور ہر قبیلے کا سردار ہی حکمران مطلق سمجھا جاتا تھا۔ ہر قبیلہ آمریت و حیوانیت کا اچھا خاصہ اکھاڑہ تھا اور بربریت و جور استبداد کی گھنٹا ٹوپ گھنٹائیں چاروں طرف چھائی ہوئی تھیں کہ ایسے میں سیدی و مولائی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے دنیا کو جو سب سے پہلا سبق دیا وہ یہ تھا کہ کسی شخص کے احکام و فرمان کی پابندی سراسر ناجائز ہے۔ بلکہ تیرگیوں اور ظلمتوں میں ٹانگ ٹوئیاں مارنے والے لوگوں کو ساری دنیا میں اگر کسی کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ اگر سارے عالم میں کسی کے فرمان کی اطاعت لازم ہے تو وہ صرف اور صرف وہی رحمن و رحیم خدا ہے جو سارے جہاں کی ربوبیت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اور آفر جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ چنانچہ فرمایا: ”الحمد لله رب العالمین“ کہ اے مومنو! حمد و ثنا کے لئے صرف اور صرف وہی ہستی مختص ہے جو ساری دنیا کی ربوبیت کے فرائض سرانجام دیتی ہے۔ جس کے احکام کا ماننا ضروری اور جس کے فرمان کی اطاعت فرض ہے۔ پس ”الحمد لله رب العالمین“ کی تعلیم دے کر ہمارے آقا سیدی و مولائی ”ختم المرسلین ﷺ“ نے ساری دنیا پر واضح کر دیا کہ احکام و ہدایات کا جاری کرنا خدا کا کام ہے اور کوئی انسان بھی جو اپنے دماغ پر بھروسہ کر کے دنیا سے اپنے فرمان منواتا ہے اور اس سے اسے اپنی بڑائی ثابت کرنا مقصود ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل احترام نہیں ہے۔ بلکہ جو شخص بھی دنیا میں اپنی حکومت قائم کرتا ہے وہ خائن ہے اور خدا تعالیٰ کے احکام کا بدترین دشمن ہے۔ پس یہ امر مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کو بھی دنیا پر اپنے ذہنی نظریات منوانے کی اجازت نہیں دی۔ جس کے لئے اس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور نیزہ جہور سے مشورہ لینا اشد ضروری قرار دیا ہے۔ سرور کائنات ﷺ کی زندگی سے ہمیں بیشتر واقعات اس بات کے ثبوت میں ملتے ہیں کہ حضور ﷺ نے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور پھر اس مشورے کی روشنی میں فیصلہ صادر کیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سرور کائنات ﷺ صرف ان امور میں جہور مسلمانوں سے مشورہ لیتے تھے کہ جن کے متعلق انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت

جاری نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں خلیفہ ربوہ کا سرکاری اخبار الفضل بھی متفق ہے۔ لکھتا ہے: ”رسول اکرم ﷺ شاعر نبی تھے۔ اس لئے ان امور میں جن کے متعلق آپ کو وحی الہی سے رہنمائی حاصل ہو جاتی، صحابہ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ بلکہ جمیع امت اس وحی الہی کی اتباع کی پابند تھی۔ لیکن جن امور کے متعلق آپ کو وحی الہی نہ ہوتی تھی۔ ان میں آپ صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے۔“

(الفضل مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

لیکن وہ امور جن کے لئے وحی کے ذریعہ آپ کو رہنمائی نہیں ہوتی تھی آپ جمہور سے مشورہ لیتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ایک طرف صرف ۳۱۳ سب سے مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں دشمن کے ایک ہزار مسلح جنگجو تھے تو اس وقت حضور ﷺ کو یقین تھا کہ جمہور ان کے حکم کی پابندی کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے صحابہ سے مشورہ لینا ضروری خیال کیا۔ چنانچہ جب تمام صحابہ نے حضور ﷺ کو جنگ کرنے کا مشورہ دیا تو آپ ﷺ نے انصار سے بھی مشورہ لینا ضروری سمجھا تا کہ شہر کے رہنے والے اور مہاجرین کو نہادینے والے صحابہ کو بھی اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع مل سکے۔ جب آپ ﷺ کے ایک ایک ساتھی نے پوری ہم آہنگی کے ساتھ یہ مشورہ دیا کہ خدا کا نام لے کر آپ ہمیں جدھر چاہیں لے چلیں۔ حضور ﷺ نے کوچ کرنے کا حکم دیا۔

(سیرۃ ابن ہشام، جنگ بدر)

آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کا عہد آیا۔ آپ کے عہد خلافت میں بھی آپ کا یہی دستور رہا کہ جب کوئی کام کرتے تو صحابہ انصار و مہاجرین سے مشورہ کر لیتے۔ اس کے بعد قدم اٹھاتے۔ حضرت عمر فاروقؓ کا زمانہ جمہوریت کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ نے مشوروں کے لئے مجلس شوریٰ قائم کی ہوئی تھی۔ جس کے ارکان حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، ابو سعید بن جراحؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، معاذ بن جبلؓ، ابی بن کعبؓ اور زید بن ثابتؓ وغیرہ تھے۔ لیکن اس کے لئے علاوہ ایک عام مجلس شوریٰ تھی۔ اس کے انعقاد کا طریق یہ تھا کہ جب بھی کسی مشورے کی ضرورت پیش آتی۔ شہر بھر میں منادی کرا دی جاتی۔ لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروقؓ صبر پر چڑھ کر زیر بحث معاملہ پیش کرتے اور لوگ اپنی اپنی آراء دے دیتے۔ غرض اسلامی تاریخ ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین کے نزدیک آمریت قابل نفرت تھی۔ اسلام میں جب بھی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا اور آمریت نے اپنا سر نکالا تو اسلامی حکومتوں پر زوال آنا شروع ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں بعض لوگ اپنے کسی رہنما کی آمریت کو چھپانے اور عوام الناس کو

فریب دینے کی غرض سے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ! آنحضرت ﷺ بھی بعض اوقات من مانی کارروائیاں کر لیتے تھے۔ چنانچہ امام جماعت ربوہ میاں محمود احمد کا ایک مرید (وعظیفہ خوار) افضل مورخہ ۶ اکتوبر ۱۹۵۶ء میں رقمطراز ہے: ”ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ آپ (آنحضرت ﷺ) نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ لیکن آپ ﷺ کے نزدیک امت کی بہبودی اور بھلائی صحابہ کے مشورہ کے خلاف کسی دوسری صورت میں تھی تو آپ ﷺ نے اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے کا حکم صادر فرمایا اور صحابہ نے بلا چون و چرا اس حکم پر عمل کیا۔“

یہ دلیل پیش کر کے خلیفہ ربوہ کا مرید ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ من مانی کارروائیاں بعض حالات میں جائز ہوتی ہیں۔ لہذا اس کے ”امیر المؤمنین“ جو من گھڑت اقدام کرتے ہیں وہ جائز ہیں۔ چنانچہ آگے چل کر صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایڈیٹر افضل رقمطراز ہے۔

”صلح حدیبیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذریعہ بنا کر حج بیت اللہ کے لئے چودہ صد ہمارا ہیوں کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ مکہ میں نہیں پہنچے کہ قریش مکہ آپ کو راستہ ہی میں روک لیتے ہیں۔ بڑی لیت و لعل کے بعد قریش مکہ اور آنحضرت ﷺ کے درمیان ایک صلح نامہ تجویز ہوتا ہے۔“

حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی نے حضرت ابوبکرؓ سے اس موقع پر جو بات چیت کی طبری نے وہ گفتگو ان الفاظ میں نقل کی ہے: اس معاہدہ کے بعد حضرت عمرؓ جلدی سے حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے اور کہا۔ اے ابوبکرؓ! کیا آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکرؓ نے جواب میں فرمایا: کیوں نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے دوسرا سوال یہ کیا۔ کیا ہم مسلمان نہیں؟ آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں۔ حضرت عمرؓ نے تیسرا سوال یہ کیا کہ کیا قریش مشرک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر ذلت آمیز شرائط پر صلح کیوں کی گئی ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا اے عمرؓ! تم آنحضرت ﷺ کی فرمانبرداری اور اطاعت پر قائم رہو۔ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمرؓ نے جواب میں کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس گفتگو کے باوجود حضرت عمرؓ کی تسلی نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ خود آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی تمام سوالات کئے جو حضرت ابوبکرؓ سے کئے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے جواب میں فرمایا: ”میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں

اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔“
اس جواب کے بعد حضرت عمرؓ کی تسلی ہو گئی۔“

الفضل نے اس سارے واقعہ کے بیان سے یہ ثابت کرنے کی سعی ناکام کی ہے کہ گویا
نعوذ باللہ سرور کائنات ﷺ نے صحابہ کے مشوروں کے خلاف اپنے دل کی بات منوائی اور ایسا فیصلہ
کیا جسے صحابہ نعوذ باللہ ایک غلط فیصلہ سمجھتے تھے۔ لہذا اگر خلیفہ ربوہ کوئی من مانی کارروائی کر لیں تو
اعتراض کرنے والوں کے لئے معجزات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سرکار ربوہ کے وظیفہ خوار کی سمجھ
میں آنحضرت ﷺ کا وہ جواب نہیں آیا جو انہوں نے حضرت عمرؓ کو دیا تھا اور جس سے اس نے غلط
مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے۔ سرور کائنات ﷺ کے الفاظ حسب ذیل ہیں: ”میں اللہ کا بندہ ہوں
اور اس کا رسول ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بھی
مجھے ضائع نہیں کرے گا۔“

ان سطور میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور
دوسرا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں
کرے گا۔ جہاں تک الفضل کے استدلال کا تعلق ہے۔ اگر اس مثال سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے
کہ اس کے امیر المؤمنین کا من مانی کارروائیاں کرنا اس لئے جائز ہے کہ رسول کریم ﷺ نے من
مانی کارروائی کی تھی۔ (نعوذ باللہ) تو پہلے اسے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ میں محمود احمد خدا کا بندہ
اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات جو سرور کائنات ﷺ کے جواب میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ
میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی
سرور کائنات فخر موجود ﷺ نے حضرت عمرؓ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ کر بات بالکل صاف کر
دی کہ میں خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ
آنحضرت ﷺ نے صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ کے مشوروں کے خلاف جو عمل کیا وہ ان کے ذہن کی
پیداوار نہ تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہو چکی تھی اور حضور ﷺ نے خدا تعالیٰ کے حکم
کے مطابق فیصلہ کیا۔ پس اگر آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کر کے صحابہ کے مشورہ
کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ ان کا اپنا نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ کیونکہ ”میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی
خلاف ورزی نہیں کرتا“ کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ان شرائط پر صلح
کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس لئے صلح حدیبیہ کے واقعہ سے کسی رنگ میں بھی یہ بات ثابت نہیں
ہوتی کہ نعوذ باللہ سرور کائنات ﷺ بعض حالات میں آمرانہ طریق کار اختیار کرتے تھے۔

صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد انفضل نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا جنگ موتہ کا واقعہ قلمبند کیا ہے: ”آنحضرت ﷺ نے اپنی وفات سے کچھ دیر قبل رومیوں سے جنگ موتہ کا انتقام لینے کے لئے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ جو کہ اس ہم کے سردار تھے۔ شہید ہو گئے تھے۔ اس کا انتقام لینے کے لئے آپ نے جس لشکر کی تیاری کا ارشاد فرمایا۔ ابھی یہ لشکر روانہ ہوا تھا..... کہ آنحضرت ﷺ بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد عربوں میں ارتداد کی وبا پھیل گئی۔ وہ نو مسلم قبیلے جن کے ایمان ابھی پختہ نہ ہوئے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے مرتد ہونے لگے۔ چونکہ یہ وقت مسلمان کے لئے بڑا نازک تھا۔ اس لئے بعض کہار صحابہ نے حضرت ابو بکرؓ کو مشورہ دیا کہ کچھ عرصہ کے لئے اسامہ کے لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے اور پہلے مرتدین کی سرکوبی کی جائے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ نے اس مشورہ کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں اس جھنڈے کو کھول نہیں سکتا۔ جسے آنحضرت ﷺ نے خود اپنے ہاتھوں سے باندھا ہے۔“

(انفضل مورخ ۱۶ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

اس واقعہ کے بیان سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش ناکام کی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ دو دیگر خلفائے راشدین صحابہ کے مشوروں کو مسترد کر دیا کرتے تھے۔ لہذا اس کا رویہ بیت کرنے والا خلیفہ ربوہ اگر اپنی بات منواتا ہے تو وہ ناجائز نہیں بلکہ اسی طرح جائز ہے۔ جس طرح سردر کائنات ﷺ اور خلفائے راشدین کے لئے جائز تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر حضرت ابو بکر صدیقؓ کا جو واقعہ قلمبند کیا ہے۔ اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت ابو بکرؓ نے صحابہ کے مشورہ کو مسترد کر کے اپنے دل کی بات منوائی۔ بلکہ حضرت ابو بکرؓ کی طرف سے جو جواب خود انفضل نے رقم کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ”میں اس جھنڈے کو کھول نہیں سکتا۔ جسے رسول اکرم ﷺ نے خود اپنے ہاتھوں سے باندھا ہے۔“ یعنی جس بات کا فیصلہ خود سردر کائنات ﷺ اپنی زندگی میں فرما چکے ہیں۔ اس فیصلہ کو بدلنے یا اس میں ترمیم کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پس ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اول تو اپنے پاس سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ دوسرے انہوں نے صحابہ سے اس سلسلہ میں مشورہ نہیں مانگا اور سوم یہ کہ انہوں نے اپنے کسی فیصلہ سے صحابہ کے مشورہ کو مسترد نہیں کیا۔ بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہی کے فیصلہ پر قائم رہنے کے عزم کا اظہار فرمایا ہے۔ پس ان واقعات کو اپنی ذاتی غرض کے لئے پیش کرنا ایک ایسی بدیافتی ہے جسے کوئی صحیح عقل شخص ایک لحظہ کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ صرف یہ کہ کذب بیانی

ہے۔ بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کے خلفاء کی توہین ہے اور ان کے بلند اور بے نظیر اخلاق پر بدناما دیہہ لگانے کی ایک ایسی بیہودہ کوشش ہے کہ جس سے جس قدر بھی اظہار نظرین کیا جائے کم ہے۔ یہ بات کتنی تعجب انگیز اور کیسی بھیا تک ہے کہ اپنی آمرانہ خصوصیات کو جائز ثابت کرنے کی غرض سے سرور کائنات ﷺ اور خلفائے راشدینؓ کو آمر اور پست اخلاق ثابت کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادارہ الفضل کو معلوم ہونا چاہئے کہ بد اعمال لوگ یہ کہہ کر کسی صورت میں بھی بلند اخلاق نہیں ہو سکتے کہ خلفائے راشدینؓ یا سرور کائنات ﷺ بھی نحوذہا اللہ اسی تماش کے تھے۔ سچائی بہر حال سچائی ہے اور اسے بھونڈے اور بے جان استدلال سے جھوٹ ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہ اپنے امام میاں محمود کا حق نمک ادا کرنے کی غرض سے ان کی ہر ناجائز بات کو جائز ثابت کرنے کے کام پر مامور ہے۔ تو کم از کم اسے اس خدا کا تو کچھ خوف ہونا چاہئے جو مالک حقیقی ہے اور جو اس کے ربوبیت کرنے والے کا بھی ربوبیت کرنے والا اور اس کی رسی کو دراز کرنے والا ہے۔

پس اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے جمہوریت کا صحیح مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا اور مساوات کی تعلیم سے دنیا کی بے نور آغوش کو منور کر دیا۔ آمریت اسلام میں کسی وقت بھی جائز نہ تھی اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ انہوں نے اپنے اسوۂ حسنہ سے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ جمہوریت انسانیت کی بقا اور ملت اسلامیہ کی روح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: ”وامرہم شورى بینہم (شوری)“ یعنی کسی کام کے شروع کرنے سے قبل ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ تعلیم اس لئے دی تاکہ کہیں وہ اپنے اذہان پر اعتماد کر کے غلط راستے پر نہ چل نکلیں۔ آج روس، امریکہ و دیگر ممالک جمہوریت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور نظام جمہوریت پر نازاں ہیں۔ لیکن جمہوریت کے نظریہ کی تخلیق اسلام نے کی اور آج سے ساڑھے تیرہ سو سال قبل عرب کی بے آب و گیاہ وادی میں خدائے برتر نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان سے دنیا میں جمہوریت کا نعرہ بلند کیا۔ جس پر آج دنیا کا رہنما بننے پر فخر محسوس کر رہی ہے اور یہی وہ عظیم نظریہ حیات ہے۔ جس سے دور درہرہ انسانیت کا پودا امر جہا جاتا اور آمریت کے دیوسر نکال لیتے ہیں۔ آمریت انسان کو خدا سے دور اور حیوانیت کے قریب لے جانے کا راستہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ بلکہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں بھی یہ نکتہ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر و نخوت کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ جو لوگ کاروبار میں یا دوسرے مشاغل میں کسی کام کی ابتداء سے

پہلے اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اذہان و قلوب نے جو طریق کار وضع کیا ہے وہی درست ہے۔ وہ غلطی پر ہیں۔ بلکہ کسی کام کی ابتداء سے پہلے بھی خدا ہی پر بھروسہ رکھنے اور اسی کے نام سے کام اور اپنے مشاغل کی ابتداء کرنے کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اے مومنو! کسی کام کی ابتداء سے قبل اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسری چیز تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتی اور پھر یاد رکھو صرف کسی شخص کی دنیاوی جاہ و حشمت کو دیکھ کر شخصیت پرستی کا زہر نہ کھا لینا۔ بلکہ ایسا شخص احمق ہے جو کسی انسان کی عظمت کی طرف دھیان کرتا اور اس سے اپنی توقعات وابستہ کرتا ہے۔ کیونکہ ”الرحمن الرحیم“ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ سو اس کے سوا کسی خاکی جسم کے ساتھ توقعات وابستہ کر لینا اور اس پر بھروسہ رکھنا گمراہ کن ہے۔ جس سے ہر لمحہ بچنے کی سعی و جہد کرتے رہا کرو۔ تاکہ وہ خدا جو بن مانگے عطاء کرنے والا ہے تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے اور تم اس کی رحمت کے نور سے فیض یاب ہو سکو۔

پس ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ”نظریہ آمریت سے بچاؤ“ کی تلقین کی ہے اور اس میں یہ پہلو موجود ہے کہ کسی شخص کو بھی چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہوں اختیار دینا ناجائز اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ لیکن ادارہ الفضل ر قطر از ہے: ”احباب بحیثیت جماعت طریق انتخاب کو استعمال کرنے کی بجائے اسی امر میں سعادت و ارین یقین کرتے ہیں کہ تمام اختیارات کو خلافت کی خاطر قربان کر دیں۔ کیونکہ ترقیات ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو سب اختیارات قیادت و سعادت دینے ہی میں مضمر ہیں۔“

(الفضل مور ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۷ء)

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مشاورت کی ہدایت کرتا ہے اور جمہوری اقدار کو مسلمانوں کی بقاء کے لئے لازمی قرار دیتا ہے۔ لیکن الفضل جو خلیفہ ربوہ کا ذاتی گزٹ ہے۔ و عقیفہ خواری کے زعم میں خدا اور اس کے رسول کے پیغامات و تعلیمات کے بالکل برعکس لوگوں کو خلیفہ کی خاطر اپنے تمام اختیارات سے دست بردار ہو جانے کی تلقین کرتا ہے اور ایک شخص پر اعتماد کر کے اپنے جملہ حقوق اور اختیارات قربان کرنے کو کامیابی قرار دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان کے لئے اپنے اختیارات چھوڑنا اور اس کے سوا کسی شخص پر اعتماد کرنا ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہور سے تمام اختیارات چھین لینے سے مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر خلیفہ یا امام یا مذہبی رہنمایا امیر قوم کو لے کر قلعہ راہ پر گامزن ہو پڑے تو قوم اس کا محاسبہ کرنے کی مجاز نہیں رہتی اور تنقید کا اتھار جسے اسلام نے قوی اصلاح کے لئے ضروری قرار دیا ہے، سلب ہو کر رہ جاتا ہے۔

حالانکہ احادیث میں بھی بعض واقعات ایسے موجود ہیں جن میں تنہید کو قومی زندگی کے لئے اسی طرح اشد ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح جسم خاکی کے لئے متحرک دل کا ہونا لازمی ہے۔ مثلاً سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ لڑایا کرتے تھے: ”مجھے سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جو میرے محبوب مجھ پر ظاہر کرتا ہے۔“ حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول جمہوریت کے حق میں ایک زعماء جاوید ثبوت ہے جسے کوئی شخص بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ امام جماعت ربوہ کا ذاتی گزٹ پھر ایک دوسری جگہ پر قسطاً ہے: ”گوڈ کیلٹرشپ خلافت سے مشابہت رکھتی ہے۔ لیکن دراصل خلافت کی شان ڈیکلٹرشپ سے بہت بڑھ کر ہے جو موازنہ ذیل سے ظاہر ہے۔“ تبیین خلافت خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ گو یا وہ خلیفہ وقت کے پاس بھی کچھ سچ کر اس سے نجات اخروی کا سودا کرتے ہیں۔ اس بیعت کے بعد کوئی چیز بھی ان کی نہیں رہتی۔“

(المفضل مورخ ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۷ء)

مندرجہ بالا عبارت میں بتایا گیا ہے کہ ڈیکلٹرشپ یعنی آمریت خلافت سے مشابہت رکھتی ہے۔ الفاظ و دیگر خلافت آمریت کا دوسرا نام ہے اور یہیں تک نہیں بلکہ خلافت کی شان آمریت سے بھی زیادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلافت آمریت کا دوسرا نام ہے تو اسلام نے جمہوریت کو قوم کی روح کیوں قرار دیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خلافت کا مقام آمریت سے بھی زیادہ ہے، سے کیا مراد ہے؟

اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خلافت آمریت کا دوسرا نام ہے تو پھر خلافت کا مقام آمریت سے بھی زیادہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے اختیارات آمر مطلق سے زیادہ تسلیم کئے جائیں۔ یعنی المفضل نے ان سطور میں کارکنوں کے ذہن کو یقین سے بات کروانا چاہی ہے کہ خلیفہ آمر مطلق ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے اختیارات آمر سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اس استدلال کی تصدیق اس کی حسب ذیل طور سے ہو جاتی ہے: ”تبیین خلافت خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ گو یا وہ خلیفہ وقت کے پاس بھی کچھ سچ کر اس سے نجات اخروی کا سودا کرتے ہیں۔ اس بیعت کے بعد کوئی چیز بھی ان کی نہیں رہتی۔“

یعنی آمر کی حیثیت اور خلیفہ کی حیثیت میں یہ امتیاز ہے کہ آمر صرف اپنی قوم کے جسم سے کھینچنے کے اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن خلیفہ انسانی جسم کے علاوہ روح سے بھی اپنی من مانی منوانے کے اختیارات رکھتا ہے اور خلیفہ اور مرید میں یہ ایک ایسا سودا ہوتا ہے کہ مرید کے حقوق کسی چیز پر بھی نہیں رہتے۔ ”اننا لله وانا الیہ راجعون“ لیکن اس کے ساتھ ہی المفضل اس بات کا

بھی مدعی ہے کہ خلیفہ ربوہ جمہوریت کے سب سے بڑے طبردار ہیں۔ ممکن ہے جس طرح آمریت اس کے نزدیک خلافت کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح اس کے نزدیک جمہوریت بھی آمریت ہی کی کوئی قسم ہو۔

اے شیخ بات کر کوئی عقل و شعور کی

پس منظر

ربوہ کی فسطائیت کو سمجھنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں اس جماعت کی ابتداء سے لے کر اب تک کی تاریخ کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کروں اور اسے پیش کرتے وقت اپنی طرف سے کسی قسم کی قطع و برید نہ کروں تاکہ دور حاضر کی اس فسطائی ریاست کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

مرزا غلام احمد

مرزا غلام احمد، مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۹۱ء میں مہدی یا کج موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔ چونکہ ان میں علمی صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس لئے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ ان کے پیرو بن گئے۔ مرزا قادیانی نے مسئلہ جہاد کو مسترد فرار دیا۔ حیات کج علیہ السلام کے مسئلہ کی مخالفت کی اور وفات کج علیہ السلام کا عقیدہ پیش کیا۔ وحی و الہام پر متعدد کتب رقم کیں اور دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔

تعلیمات

مرزا غلام احمد نے مختلف مقامات پر حسب ذیل تعلیمات پیش کیں: ”تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور ہا ہی ناراضی جانے دو اور سچے ہو کر جموں کی طرح تامل اختیار کرو۔ تاکہ تم بخشے جاؤ۔“

(کشتی نوح ص ۱۲، خزائن ج ۱۶ ص ۱۱۲)

”بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا..... اور ہر ایک جو اس کے نام کے لئے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پرکتوں پر چوبنیوں یا گدوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یا فائدہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک ناپاک آکھ اس سے دور ہے۔ ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے۔“

(کشتی نوح ص ۱۳، خزائن ج ۱۶ ص ۱۱۳)

”نوع انسان کے لئے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کے لئے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ ﷺ۔ تم کوشش کرو کہ جی جنت اس جاہ

وجلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تاکہ آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔“ (کشتی نوح ص ۱۳، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳)

”جو شخص جھوٹ اور فریب کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص پورے طور پر ہر ایک بدی سے اور ہر ایک بد عمل سے یعنی شراب سے قمار بازی سے، بد نظری سے اور خیانت سے، رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔“ (کشتی نوح ص ۱۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸، ۱۹)

”جس شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک مرد جو بیوی سے، بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔“ (کشتی نوح ص ۱۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۹)

”ہر ایک زانی، فاسق، شرابی، خونی، چور، قمار باز، خائن، مرتشی، عاصب، ظالم، دروغ گو، جلسا ز اور ان کا منہ نہیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر ہتھتیں لگانے والا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔“

(کشتی نوح ص ۱۸، خزائن ج ۱۹ ص ۱۹)

شرائط بیعت

یکم دسمبر ۱۸۸۸ء (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۸۹-۱۹۰) کو مرزا غلام احمد نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیعت یعنی شروع کر دی جس کی شرائط حسب ذیل تھیں:

۱..... بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے۔ شرک سے مجتنب رہے گا۔

۲..... یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا۔ اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آئے۔

۳..... یہ کہ بلا تاخیر و بیخ وقت نماز موافق حکم خدا اور رسول ﷺ ادا کرتا رہے گا اور دلی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو ہر روز اپنا اور دینا لے گا۔

۴..... یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔ نذربان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے۔

۵..... یہ کہ ہر حال رنج و راحت اور عسر اور سیر اور نعت اور بلا میں اللہ تعالیٰ کی وقاداری کرے گا اور بہر حال راضی بقضاء ہوگا اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا۔ بلکہ قدم آگے بڑھائے گا۔

۶..... یہ کہ تکبر اور نخوت کو بھکی چھوڑ دے گا اور فروتنی و عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔

۷..... یہ کہ وین اور وین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے عزیز سے عزیز تر سمجھے گا۔

۸..... یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض اللہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا و اطاعتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

۹..... یہ کہ اتباع رسم اور متابعت ہو اور ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بھکی اپنے پر قبول کرے گا اور ”قال اللہ وقال الرسول“ کو اپنی ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔

۱۰..... اس عاجز سے عقد اخوت محض اللہ باقرار اطاعت اور معروف باندہ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔

مولوی نور الدین

حکیم نور الدین اس جماعت کے خلیفہ اول تھے اور بھیرہ کے رہنے والے تھے۔ وہ مرزا غلام احمد بانی سلسلہ احمدیہ کے پاس بیعت کے لئے اس وقت گئے جب ابھی مرزا قادیانی نے مسیحیت کے منصب پر فائز ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور جب وہ براہین احمدیہ کی تعریف میں معروف تھے۔ ابھی مرزا قادیانی نے بیعت لینی شروع نہیں کی تھی کہ حکیم مولوی نور الدین نے انہیں بیعت کے لئے کہا۔ جس کے جواب میں مرزا قادیانی نے کہا کہ ابھی میں بیعت نہیں لے رہا۔ چنانچہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے بیعت لینی شروع کی تو سب سے پہلے حکیم مولوی نور الدین ہی کی بیعت لی گئی۔ وہ متقی اور پابند صوم و صلوة تھے اور اپنے پیر مرزا غلام احمد کی ہر بات میں اطاعت کرتے تھے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے ان کے متعلق حسب ذیل سطور لکھی ہیں: ”اور میرے دوست سب متقی ہیں۔ لیکن ان سب سے قوی بصیرت اور کثیر العلم اور زیادہ تر نرم اور حلیم اور

اکمل الایمان اور سخت محبت اور معرفت خشیت اور یقین اور اثبات والا ایک مبارک شخص، بزرگ، متقی، عالم، صالح، فقیہ اور جلیل القدر محدث اور عظیم الشان حاذق حکیم، حاجی الحرمین، حافظ قرآن، قوم کا قریشی، نسب کا قاروقی ہے۔ جس کا نام نامی مع لقب گرامی مولوی حکیم نورالدین بھیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا میں بڑا اجر دے اور صدق و وفا اور اخلاص و محبت اور وفاداری میں میرے سب مریدوں سے وہ اول نمبر پر ہے۔“

(حیات البشری ص ۶، خزائن ج ۷ ص ۱۸۰)

مرزا قادیانی (ہانی سلسلہ احمدیہ) کی مندرجہ بالا سطور اس لئے رقم کی ہیں تاکہ قارئین کے ذہن میں یہ بات جاگزیں ہو جائے کہ مرزا قادیانی نے حکیم مولوی نورالدین کے متعلق تعریفی کلمات میں کیا کچھ کہا تاکہ آئندہ آنے والے مضامین کو پڑھتے وقت تمام امور کے سمجھنے میں آسانی رہے اور یہ بات واضح ہو سکے کہ مولوی نورالدین کے ساتھ کیا تھی۔

انہوں نے اپنے عہد خلافت میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنی ساری زندگی تصنیفات کی تخلیق میں گزار دی۔ حیات بھر شان و شوکت اور جاہ و حشمت سے گریزاں رہے اور جب موت کے فرشتے آئے تو اس وقت اپنی اولاد کے لئے جائیداد نہیں چھوڑی۔ بیت المال سے اسراف نہیں کیا اور نہ ہی ان پر کسی نے ایسا کوئی الزام تراشا۔ ان کی زندگی زنا جیسے الزامات سے بھی ہمزا رہی اور آخر کار ان کی روح نفسِ حضری سے پرواز کر گئی۔

حکیم مولوی نورالدین کے حالات زندگی رقم کرنے سے دو ہاتھیں مقصود ہیں۔ اول یہ کہ خلافت مآب مرزا محمود احمد علی کی جماعت میں اسی مسند خلافت پر کہ جہاں اب وہ تشریف فرما ہیں۔ حکیم مولوی نورالدین بھی مستحکم رہے۔ لیکن ان پر کسی نے بھی خیانت کا یا نجی بے راہ روی کا الزام عائد نہیں کیا۔ لیکن اس کے برعکس کیا جب ہے کہ اسی مسند پر بیٹھ کر جب وہ اپنے مریدوں پر حکومت کرتے ہیں تو ان پر ان ہی کے مرید بے شمار الزامات عائد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی اور شخص کی مثال دی جائے جہاں کی جماعت کا نہ ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غیروں کی مثال دینے سے مطلب؟ اس لئے میں نے انہی کی جماعت میں سے اس مسند پر بیٹھنے والے ایک شخص کی مثال دی ہے تاکہ ان کے فرار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔

میں نے اس سے پیشتر مرزا غلام احمد کی تعلیمات اور شرائط بیعت بھی اس لئے درج کی ہیں۔ تاکہ ہر شخص دیکھ سکے کہ خلافت مآب اپنے مسیح کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں اور شرائط بیعت کے بھی پابند ہیں یا نہیں۔ لیکن اگر بھری مریدی کے نظریہ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اس صورت میں بھی مرزا قادیانی ان کے باپ ہیں اور وہ اپنے باپ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑ کر کل

جاتے ہیں۔ پھر ان ہی کی جماعت میں ان کے باپ پر یا مولوی نور الدین پر کسی نے خیانت کا الزام نہیں لگایا۔ بلکہ مولوی نور الدین جب فوت ہوئے تو ایک پائی کی جائیداد انہیں چھوڑی۔ دوسری طرف خلافت مآب کی ذاتی جائیداد اور سرمایہ دارانہ لٹا لٹا ہوا اثاثہ معنی فخر ہے۔

سازشوں کے دور کا آغاز

جیسا کہ میں بتا چکا ہوں مولوی نور الدین (خلیفہ اول) ہی کی زندگی میں آئندہ خلافت کے لئے سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ جب وہ زندہ تھے اس وقت ان کی جانشینی کے لئے اگر کسی شخص پر جماعت کی نظر پڑی تھی تو وہ مولوی محمد علی تھے جو عمر اور علم کے اعتبار سے منصب خلافت ثانیہ کے امیدوار تھے۔ جماعت میں ان کی مقبولیت اظہار من الغمض تھی۔ وہ عالم باعمل تھے اور پرہیزگار تھے اور سیاست کی صلاحیتیں رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ کرنے میں مرض کی ادائیگی سمجھتے تھے۔ چنانچہ میاں محمود احمد نے حالات کا جائزہ لے کر مولوی محمد علی کو بدنام کرنے اور جماعت میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی غرض سے حکیم مولوی نور الدین کے خلاف گناہ پمفلٹ شائع کئے اور انہیں منسوب مولوی محمد علی کے نام کیا تاکہ مولوی صاحب جماعت میں بدنام ہو جائیں اور ان پمفلٹوں کے جوابات لکھ کر اپنے نام سے شائع کئے اور اس طرح اپنی خلافت کے لئے زمین ہموار کر لی۔ جس دن حکیم مولوی نور الدین فوت ہوئے اور ان کی لاش کو دفنانے کا سوال پیدا ہوا تو میاں محمود احمد نے مرحوم کی لاش دفنانے میں روکاوٹ ڈال دی اور کہنا شروع کیا کہ اس وقت تک میں جنازہ اٹھانے نہیں دوں گا۔ جب تک خلافت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ جماعت کے بعض لوگوں نے درخواست کی کہ میاں صاحب مرحوم کی لاش کو دفنانے میں دیر نہیں ہونی چاہئے۔ یہ مسئلہ تو بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے۔ چونکہ مرحوم کی لاش کو پڑے کافی دیر ہو چکی ہے۔ لہذا مزید دیر کرنا کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ جانشینی کا مسئلہ تو پھر بھی طے ہو سکتا ہے۔ لیکن میاں محمود اسی بات پر مصر دے کہ لاش اس وقت تک دفنائی نہیں جائے گی۔ جب تک جانشینی کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ میاں صاحب کے چند خوشامدیوں نے بھی جو ان کے حق میں پروپیگنڈا کرنے کے کام پر مامور تھے۔ اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ جانشینی کا فیصلہ ہو ہی جانا چاہئے۔ آخر ٹھگ آ کر میاں صاحب کے ہاتھوں میں زمام خلافت دے دی گئی اور اس طرح اس شاطر سیاست نے کمال ہوشیاری سے دونوں کے گلے جوڑے۔ خلافت جانشینی کا علم لہرا دیا اور دونوں دو ٹیکر ذرائع سے حاصل کی ہوئی خلافت کو الٹی خلافت کہنا شروع کر دیا اور سیدھے سادھے کم فہم لوگوں کو بے وقوف بنانے کی غرض سے یہاں تک کہہ دیا کہ میری زبان سے خدا بول رہا ہے اور نعرہ یہ کہ اگر میں مٹ گیا تو

مرزا قادیانی (مسح موعود) مٹ جائیں گے اور مسیح موعود مٹ گئے تو محمد رسول اللہ ﷺ مٹ جائیں گے۔ محمد رسول اللہ ﷺ مٹ گئے تو خدا مٹ جائے گا۔ یعنی اگر میں مٹ گیا تو خدا مٹ جائے گا۔ (لاحول ولا قوة الا باللہ)

اس طرح انہوں نے اندھی عقیدت رکھنے والے سیدھے سادھے انسانوں کے قلوب پر اپنی عظمت کے نشان منقش کرنے شروع کر دیئے اور اندرون جماعت سازشوں کا ایک وسیع جال پھیلا دیا۔ دور حاضر کے اس عظیم الشان شاطر سیاست نے نہ صرف اپنی جماعت میں اپنی فطری شاطرانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا بلکہ اس نے اپنے جاسوس حکومت کے تمام محکموں میں چھوڑ دیئے۔ نیلی پوش، مجلس احرار و دیگر مخالف جماعتوں میں جاسوسوں کا دام پھیلا کر ان جماعتوں کا ستیاناس کر کے رکھ دیا۔ مسجد شہید گنج اور تحریک آزادی کشمیر کا ایسا عبرتناک حشر کیا کہ آنے والا مورخ اس شاطر بے مثل کی قومی خدمات کو سنہرے حروف سے قلمبند کرے گا۔ زمام خلافت ہاتھ میں لیتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ جماعت میں جاسوسی کا ایک وسیع دام پھیلا دیا اور تنقید و تبصرہ پر سختی سے پابندی عائد کر دی۔ ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کیا۔ جن کا علم محدود تھا۔ ان کی ذریت کی حس مردہ ہو چکی تھی اور یا ایسے لوگوں کو اپنی قربت میں رہنے کا موقعہ دیا جو اقتصادی اعتبار سے بہت کمزور تھے اور ہر لمحہ ان کی مدد کے محتاج رہتے تھے۔ اپنے ماحول کو بھی اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ قربت دار اور دوسرا حصہ قریب تر۔ قربت دار کی فہرست میں صرف ان لوگوں کو شامل کیا جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے۔ مثلاً بھائی، بہنوئی اور بیٹے وغیرہ۔ قریب تر میں وہ لوگ شامل کئے گئے جنہیں اس کی قربت میں رہنے کا موقع دیا گیا۔ لیکن اسے بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک تو قریب تر وہ لوگ قرار دیئے گئے جن میں ذہنی اور علمی صلاحیتیں منفقہ تھیں اور وہ اس کی آمریت اور ذاتی لغزشوں کی باریکیوں کو سمجھنے سے عاری تھے اور دوسرے قریب تر وہ لوگ قرار دیئے جاتے جن سے غیرت روٹھ چکی ہوتی یا بدعنوانیوں اور بڑی سے بڑی لغزشوں کو گناہ نہ سمجھتے یا سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر روٹی کے چند کلڑوں کی خاطر پردہ پوشی کے فن میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ اپنے ذاتی نقائص اور بدعنوانیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے مندرجہ بالا تدابیر اختیار کرنے کے علاوہ اپنے اور عوام الناس کے درمیان قصر خلافت کی دیوار حائل کر دی تاکہ عوام الناس اور ان کے درمیان ایک طویل فاصلہ قائم رہے۔ عوام الناس کو چند لچھوں کی ملاقات کی خاطر گھنٹوں کی مسافت طے کرنی پڑے اور ایک طویل انتظار کے بعد چند لچھوں کی ملاقات میں ملاقاتی اس کا تفصیلی جائزہ لینے کی بجائے تشنہ کام لوٹ جائے۔ بلکہ اس کے قلب و ذہن پر تقدس کا نقش اور بھی ابجر

آئے۔ اپنے سرکاری اخبار میں ایڈیٹر ایسے شخص کو رکھا جو پیدائشی طور پر صحافی صلاحیتیں نہ رکھتا تھا۔ ایڈیٹر کے لئے قابلیت کا معیار یہ رکھا کہ آمر مطلق کی ہدایات و اشارات پر اپنے نوک قلم کو رقص فرمائی کی دعوت دینے کے فن میں بے مثل ہو۔

ان کی محفل میں وہی شخص ہے محبوب نظر

دیکھ کر ان کو جو سراہنا جھکا دیتا ہے

چنانچہ اخبار کو اپنے ذاتی پروپیگنڈا کے لئے وقف کر دیا گیا۔ ناقدین کو سخت سزائیں دینی شروع کر دیں اور ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ و دیگر اوجھے ہتھیاروں کے استعمال کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ گورداسپور کے سیشن جج مسٹر جی ڈی کھوسلہ نے مقدمہ بخاری کے سلسلہ میں جو فیصلہ دیا اس میں لکھا: ”مقابلتاً محفوظ ہونے کے اس حالت نے فرور پیدا کر دیا جس نے قادیانیوں میں تقریباً تمبر کی شکل اختیار کر لی۔ اپنے دلائل کو منوانے اور فرقے کو ترقی دینے کے لئے انہوں نے ان ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا جن کو عام طور پر نہایت ناپسندیدہ کہا جائے گا۔ انہوں نے ان اشخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا نہ صرف بائیکاٹ، اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے دہشت انگیزی پیدا کی۔ بلکہ اکثر انہوں نے ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا کر اپنے تبلیغی سلسلہ کو مضبوط کیا۔ قادیان میں ایک والٹیر کور مرتب کی گئی جس کا مشاء غالباً اپنے احکام کو منوانے کے لئے قوت پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے عدالتی اختیارات کا استعمال بھی اپنے ذمہ لیا۔ دیوانی مقدمات میں ڈگریاں صادر کی گئیں اور اجزاء بھی کرایا گیا۔ فوجداری مقدمات میں سزائے گئے اور سزائیں بھی دی گئیں۔ لوگوں کو فی الحقیقت قادیان سے نکال دیا۔ قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ قادیانیوں پر صریح الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مکالوں کو تباہ کیا اور جلاہا اور قتل تک بھی کئے۔ اس خیال سے کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ مذکورہ بالا واقعات محض احرار کے تحیل کی اختراع ہیں۔ لازمی ہے کہ میں چند واقعی مثالیں بیان کر دوں جو اس مقدمہ کی مثل پر لائی گئی ہیں۔ کم از کم دو اشخاص کو اپنے وطن قادیان سے باہر نکالا گیا۔ کیونکہ ان کے خیالات مرزا کے خیالات سے متفق نہ تھے۔ وہ اشخاص حبیب الرحمن نمبر ۲۸ اور اسماعیل ہیں۔ مثل پر ایک ایک چشمی ڈی زیڈ نمبر ۳۳ موجود ہے۔ جس کا کاتب خود موجودہ مرزا اور جس میں حکم دیا گیا ہے..... کہ حبیب الرحمن گواہ صفائی نمبر ۲۸ کو قادیان میں آنے کی اجازت نہیں۔ اس چشمی کو مرزا بشیر الدین محمود گواہ صفائی نمبر ۳۷ نے تسلیم کیا ہے۔ گواہ نمبر ۲۰ (خان صاحب فرزند علی) نے تسلیم کیا ہے کہ اسماعیل کو جماعت سے خارج کیا گیا اور قادیان میں داخل نہ ہونے کا حکم دیا گیا۔

بہت سے دیگر گواہوں نے تشدد اور ظلم کی داستانیں بیان کی ہیں۔ بھگت سنگھ کو وہ صفائی نمبر ۳۹ بیان کرتا ہے کہ مرزا ایموں نے اس پر حملہ کیا ایک شخص فریب شاہ کو قادیانوں نے مارا اور جب اس نے مقدمہ کرنا چاہا تو کوئی شخص اس کی شہادت دینے کے لئے آگے نہ آیا۔ قادیانی ججوں کے فیصلہ کو وہ مقدمات کی جھٹلیں پیش کی گئیں اور ججس پر موجود ہیں۔ مرزا (یعنی محمود احمد) نے تسلیم کیا ہے کہ عدالتی اختیارات قادیان میں استعمال کئے جاتے ہیں اور ان معاملات میں وہ خود آخری عدالت اپنی ہے۔ عدالت کی ڈگریوں کے اجراء کئے جاتے ہیں اور ایک مثال بھی موجود ہے۔ جہاں ڈگری کے اجراء میں ایک مکان کو نیلام کیا گیا (مرزا قادیانی) کو جو عرضیاں دی جاتی ہیں ان کے لئے قادیانی ساخت کا اسٹامپ کاغذ اور فیس کورٹ (گھر میں) اختیار کر کے فروخت اور استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن پوشیدہ ہے۔ قادیان میں ایک والٹیر کوڑی موجودگی کی شہادت کو وہ صفائی نمبر ۴۰ (مرزا شریف احمد) نے دی ہے۔ علاوہ ان میں سب سے سنگین معاملہ عبدالکریم کا ہے جس کی داستان حقیقتاً ایک داستان درد ہے۔ اس شخص نے مرزائی مذہب قبول کیا اور قادیان چلا گیا۔ مگر وہاں اس کے دل میں مذہبی شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور اس نے مرزائیت سے توبہ کر لی۔ تب اس پر ستم آرائی کی ابتداء ہوئی۔ اس نے ایک اخبار مہبلہ نامی جاری کیا۔ جس کا مقصد مرزائی جماعت کے مقدمات پر تنقید کرنا تھا۔ مرزا (محمود احمد) نے ایک تقریر میں جو دستاویز ڈی زیڈ نمبر ۳۹ (الفضل مورخہ یکم مارچ ۱۹۳۰ء) میں شائع ہوئی ہے۔ اخبار مہبلہ والوں کی موت کی پیشین گوئی کی۔ اس تقریر میں ان لوگوں کی طرف اشارہ بھی کیا جواس نے مذہب کی خاطر قتل کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ اس تقریب کے جلد بعد عبدالکریم پر کاغذانہ حملہ بھی ہوا۔ لیکن وہ بچ گیا۔ ایک شخص محمد حسین نامی، عبدالکریم کی امداد کرتا تھا اور ایک فوجداری مقدمہ میں جو عبدالکریم پر چل رہا تھا۔ اس میں گواہ تھا اس پر حملہ ہوا وہ قتل ہو گیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ پھانسی کے حکم کی تعمیل ہوئی اور پھانسی پانے کے بعد لاش قادیان میں لائی گئی اور بڑی دھوم دھام سے اسے اس جگہ دفن کیا گیا۔ جس کا بہشتی مقبرہ نام رکھتے ہیں۔ الفضل اخبار میں جو مرزائی جماعت کا اخبار ہے قتل کی تعریف اور قاتل کی مدح سرائی کی گئی۔ یہ لکھا گیا ہے کہ مجرم نہیں تھا اور امر واقعہ سے قتل ہی جان دے کر پھانسی کی بدنام کنندہ سزا سے بچ گیا۔ خدا نے اپنے عدل و انصاف میں یہ مناسب سمجھا کہ پھانسی کی ذلت سے پہلے ہی اس کی روح قبض کرے۔ جب عدالت میں مرزا (محمود احمد) کا ایک معاملہ کے متعلق بیان لیا گیا تو اس نے بالکل مختلف کہانی بیان کی اور کہا کہ محمد حسین کے قاتل کو باعزت طریق پر اس لئے دفن کیا گیا تھا کہ اس نے اپنے جرم پر اظہارِ عتاب کیا تھا اور اس طرح گناہ سے بری ہو چکا تھا۔

دستاویز ڈی زیڈ نمبر ۴۰ اس کی تردید کرتی ہے اور مرزا کی نیت اور اس کی ولی کیفیت کا اظہار خیال سے بالکل عیاں ہے جو اس نے ڈی زیڈ نمبر ۱۳۰ میں کیا۔ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ اس دستاویز کا مضمون لاہور ہائیکورٹ کی لائین بھی ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جو محمد امین کے قتل سے تعلق رکھتا ہے۔ محمد امین بھی مرزائی تھا اور یہ امر واقعہ ہے کہ وہ اس فرقہ کا ایک مبلغ تھا۔ اس کو بخلاہر بھیجا گیا تھا کہ وہ اس مذہب کی تبلیغ کرے۔ لیکن کسی وجہ سے اس کو ملازمت سے سبکدوش کیا گیا۔ اس کی موت کلبھاری کی ایک ضرب سے ہوئی جو چوہدری فتح محمد کوہ صغلیٰ نمبر ۲۱ نے لگائی۔ عدالت ماتحت نے اس معاملہ کو سرسری نظر سے دیکھا ہے۔ لیکن اس پر نظر غائر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ محمد امین اگرچہ مرزائی تھا لیکن وہ مرزا کا موروثی ہو چکا تھا۔ اس لئے ہستی بزرگ نہیں رہا تھا۔ اس کی موت کے واقعات خواہ کچھ ہی ہوں یہ امر ناقابل انکار ہے کہ محمد امین تشدد کی موت مر اور کلبھاری کے وار سے قتل کیا گیا۔ پولیس کو قتلہ کی اطلاع دی گئی۔ لیکن بالکل کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ یہ بحث کرنا فضول ہے کہ قاتل حفاظت خودی کی گئی۔ لیکن بالکل کوئی کارروائی تو اس عدالت کا کام ہے جو مقدمہ کی سماعت کرے یہ اختیار ہی کر رہا تھا کہ یہ مقدمہ فتح محمد نے عدالت میں باقرار صالح بیان دیا ہے کہ اس لئے محمد امین کو قتل کیا تھا مگر پولیس اس معاملہ میں کچھ کارروائی نہ کر سکی اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مرزائی ملاقات اتنی بڑھ گئی تھی کہ کوئی سامنے آ کر جی بولنے کے لئے تیار نہ تھا۔ ہلائے سامنے عبدالکریم کے مکان کا واقعہ بھی ہے۔ عبدالکریم کو قادیان سے نکلنے کے بعد اس کا مکان جلادیا گیا۔ اسے قادیان کی سبیل ملاکان کنٹی سے حکم حاصل کر کے نیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ افسوس ناک واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف اہلو کی تھی جس میں آتش بازی اور قتل تک ہوتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجہ کے قلعہ کے حکام ہو چکے تھے اور دنیاوی اور دینی معاملات میں مرزا (محمود احمد) کے حکم کے خلاف کبھی آواز نہ اٹھائی گئی۔ مقامی افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایات کی گئیں۔ لیکن کوئی انداد نہ ہوا۔ جس پر ایک وہاں کی شکایات ہیں۔ لیکن ان کے مضمون کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے اور اس مقدمہ کے اعتراف کے لئے یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ قادیان میں ظلم و جور چل رہی ہونے کے متعلق غیر مستبہ الحکامات مانگے گئے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلقاً توجہ نہ کی گئی۔“

پھر فیصلہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ: ”مرزا (یعنی محمود احمد) نے مسلمانوں کو کافر، سورا اور ان

کی عورتوں کو کتھنوں کا خطاب دے کر ان کے جذبات کو مشتعل کر دیا تھا۔“

(فیصلہ ڈی کوہ صغلیٰ نمبر ۲۱ ج ۱ ص ۱۰۰)

مسٹر جی ڈی کھوسلا سیشن جج گورداسپور کے اس مشہور فیصلہ دو دیگر واقعات و حقائق کی روشنی میں یہاں شبہ کی گنجائش نہیں کہ اس جماعت کی بنیاد رکھنے وقت جس کا مقصد مذہبی اور نیکی اور تقویٰ اور محبت ایزدی بتایا گیا تھا۔ ۱۹۱۳ء میں مسند خلافت پر متمکن ہونے والے شخص نے اسے سازشوں کی آماجگاہ اور خالص سیاسی جماعت ثابت کر دیا اور اقوال و افعال سے اپنی فسطائیت کے لئے ایسے نقوش چھوڑ دیئے کہ اب ان کو مٹانا آمریت کے بد نما وجہوں کی بجائے جمہوری عظمت کے نورانی نشان دنیا کے سامنے پیش کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور اب اس عظیم شاطر سیاست کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ اپنی آمریت کو جائز قرار دینے کے لئے سرور کائنات ﷺ اور خلفائے راشدین کو فسطائیت کے علمبردار ثابت کیا جائے۔ چنانچہ اخبار الفضل کے اوراق شاہد ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی زندگی واقعات سے فسطائیت ثابت کرنے اور اپنی آمریت کو جائز قرار دینے کی سعی ناکام کی گئی۔

مذہبی یا سیاسی؟

اگرچہ اس جماعت کا دعویٰ ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور وہ ایک خالص مذہبی جماعت ہے اور نیز یہ کہ اس کے بانی مرزا غلام احمد نے اس کی بنیاد خالصتاً مذہبی اقدار پر قائم کی تھی۔ لیکن پاکستان کے تحفظ، بقاء اور سلطنت کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں اس جماعت کا تجزیہ اس انداز سے بھی کروں کہ یہ جماعت مذہبی ہے یا اس کا مطمح نظر خالصتاً سیاسی ہے۔ چونکہ اس وقت زیر نظر بحث ربوہ کے فسطائیت مآب کے کارہائے نمایاں قلمبند کرنا اور اس کی آمریت ثابت کرنا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کا تمام پہلوؤں سے محاسبہ کیا جائے۔ اگر یہ جماعت مذہبی ہے اور اس کی رہنمائی کرنے والا اسے مذہبی اقدار ہی پر چلاتا ہے اور اس کا ملک کی سیاست سے دخل نہیں تو پھر ہمیں اس کی فسطائی خصوصیات و عادات پر دوسرے انداز سے بحث کرنا ہوگی۔ لیکن اس جماعت کو جو مذہبی تعلیمات کو رواج دینے کی غرض سے قائم کی گئی تھی اور جو آج بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا منشور خالصتاً مذہبی ہے۔ اگر سیاسی پگڈنڈیوں پر جاہد بیانی کی مشق دی جا رہی ہے اور اس کا نام مذہب رکھا جا رہا ہے تو پھر ہمیں اس جماعت کے رہنما کی آمریت کے دلائل پیش کرتے وقت کوئی دوسرا انداز تحریر اختیار کرنا پڑے گا۔

۱۹۱۳ء سے پہلے کے زمانہ سے قطع نظر اس جماعت کا سارا لٹریچر اس بات کا شاہد ہے کہ اس کی رہنمائی کرنے والا مذہبیت کے پردہ میں سیاست کا علم لہرا رہا ہے۔ یہ حالت سخت خطرناک اور نتائج کے اعتبار سے شدید بھیانک ہے۔ اگر انسانیت کے لباس میں انسان جلوہ گر ہو

تو اس سے کسی قسم کے خطرہ کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ لیکن اگر انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر کوئی ناگ چل پھر رہا ہو تو اس سے کسی قسم کے نقصان کی توقع نہ کرنا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح وہ شخص جو پولیس کی دس نمبر کی فہرست میں ہو اس قدر انسانیت سوز حرکات نہیں کر سکتا۔ جس قدر کہ وہ شخص جو شرافت اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اس قسم کی حرکات کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ پولیس کی دس نمبر کی فہرست میں آنے والا شخص اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا علم ساری دنیا کو ہوتا ہے اور پولیس فوراً اس کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ لیکن شرافت اور مذہبیت کا لبادہ اوڑھ کر بد عنوانیوں کا ارتکاب کرنے والا شخص شدید سے شدید بھیانک اور ذلیل ترین حرکات کا مرتکب ہونے کے باوجود شریف کا شریف اور فرشتہ سیرت کا فرشتہ سیرت ہی رہتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قسم کا شخص اپنے تقدس کو پروے میں درجنوں آرزوں، سینکڑوں امگلوں اور ہزاروں حسرتوں کا خون کرتا چلا جاتا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ جماعت جس کا نصب العین سیاسی ہو اس کے متعلق ہر شخص جانتا ہے کہ فلاں جماعت سیاسی ہے۔ لہذا اس پر اسی انداز سے غور کیا جاتا ہے اور اگر وہ جماعت ملک و قوم کے لئے کوئی خطرناک اقدام کرے تو اس کے خلاف چارہ جوئی کے لئے کسی تردید کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ آسانی سے اس کا احتساب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جماعت جس کا منشور مذہبی ہو جس کا نصب العین دنیا کے مذہب میں جینا دار مرتا ہو جس کا دعویٰ یہ ہو کہ اس کا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور پھر وہ اندرونی طور پر ملکی سیاسیات سے گہرا تعلق بھی رکھے اس جماعت کے متعلق غور و فکر ہر زندہ ملک مضبوط حکومت اور بیدار عوام کے لئے لازمی ہے۔ جہاں تک اس جماعت کی گذشتہ بیالیس سالہ تاریخ کا تعلق ہے ہر شخص جانتا ہے کہ اس جماعت نے عملاً ہمیشہ خاموشی سے سیاسیات میں حصہ لیا اور تولاً سیاست سے لاتعلقی کا اعلان کیا اور اس جماعت کا یہی اقدام ملک و قوم کے لئے سخت بھیانک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت کا رہنما سیاست دان ہے اور اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ چور دروازے سے زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی جائے اور دنیا کو خبر اسی وقت ہو جب چڑیاں کھیت چک جائیں۔ ۱۹۳۷ء سے قبل جب ہندوستان میں انگریز حکمران تھے تو انگریزی حکومت کی خوشامد اور اس کی حمد و ثناء میں قصیدے گا کر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے۔ چونکہ حکومت انگریزوں کی تھی اور ملک میں مختلف سیاسی پارٹیاں قائم تھیں۔ اس لئے اس وقت شاطر سیاست نے کانگریس سے کٹھ جوڑ قائم رکھا۔ اس پارٹی کے ساتھ روابط کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لیگ ملک میں غیر مقبول تھی اور کانگریس زبان زد خلاق تھی۔ اس لئے مسلم لیگ سے تعاون کی بجائے کانگریس

سے گہرے تعلقات قائم کئے گئے۔ چنانچہ اس جماعت کا سرکاری اخبار قطر از ہے۔

”اس میں شک نہیں کہ (حضرت امیر المؤمنین) امیر جماعت احمدیہ ہندو مسلم اتحاد کے بے حد خواہاں ہیں اور اس کے لئے ہر موقع پر کوشش بھی کرتے رہے ہیں۔ نیز آپ کی نگاہ میں کانگریس کی ان قربانوں کی بھی بڑی قدر ہے جو اس نے ملک کی خاطر کیں اور ان کا کئی بار تعریفی رنگ میں ذکر بھی کر چکے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ آپ کے نزدیک ہندو مسلم اتحاد اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اکثریت عملی طور پر اقلیت کو اپنی خیر خواہی کا قائل نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کئی بار کانگریس کو اس طرف توجہ دلا چکے ہیں اور حال ہی میں پھر توجہ دلائی ہے۔ اگر کانگریس یہ منظور کر لے اور نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر اس میں مصروف ہو جائے تو یقیناً مسلمانوں میں اسے بہت بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی ہمدرد اور خیر خواہ وطن اپنی خدمات اس کے سامنے پیش کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن مصیبت یہی ہے کہ کانگریس اس طرف متوجہ نہیں ہوتی اور ہندوستان کے سناٹ صوبوں میں کانگریس وزارتیں قائم کر لینے کی وجہ سے اسے جو موقع ملا ہے اس سے نہ صرف ہندو مسلم اتحاد کے قیام کے لئے فائدہ نہیں اٹھا رہی بلکہ اسے نقصان رساں بنا رہی ہے۔“

(الفضل مورچہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۷ء)

مندرجہ بالا سطور سے صاف ظاہر ہے کہ اگر بڑی حکومت کے دوران کانگریس کا نہایت زور تھا اور مسلم لیگ ابھی مقبول خاص و عام نہیں ہوئی تھی۔ مہاتما گاندھی جو ہندوؤں میں بہت مقبول تھے ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے علمبردار تھے اور اس کے لئے بیشتر اعلانات کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے اس سیاسی شاطر اعظم نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر ان دنوں کانگریس کی خوشامد ہی میں اپنی خیریت سمجھی اور اس میں اپنا سیاسی مفاد تصور کیا۔ چنانچہ مہاتما گاندھی کی حمایت میں ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ بلند کرنے سے ایک طرف تو مہاتما گاندھی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا مقصود تھا اور دوسری طرف اس قسم کی نعرہ بازی کا مقصد مہاتما گاندھی کو خصوصاً اور کانگریس کو عموماً خوش کرنا تھا۔ سوا اخبار الفضل کی مندرجہ بالا سطور کے مطابق آپ (یعنی میاں محمود احمد) کی نگاہ میں کانگریس کی قربانوں کی بڑی قدر تھی۔ چنانچہ قدر شناسی کے اس جذبہ کے اظہار کے بعد نفسیاتی طور پر کانگریس کو اپنی طرف سے اس جذبہ ظلمت و محبت کا جواب خیر خواہی کے جذبہ سے دینا چاہئے تھا۔ لیکن کانگریس نے جب قدر شناسی کے اس جذبہ کو کوئی اہمیت نہ دی تو الفضل نے اپنی تمام تر سختی یہ کہہ کر دور کرنے کی کوشش کی کہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ آپ (یعنی میاں محمود احمد) کے نزدیک ہندو مسلم اتحاد اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اکثریت عملی طور

پر اقلیت کو اپنی خیر خواہی کا قائل نہ کر دے۔ ان سطور میں ایڈیٹر افضل نے اپنی ہر دو خواہشات کا ذکر کیا ہے اور اس ناہیسی کا بھی اظہار کیا ہے جس کو چھپانے کی سعی کے باوجود بھی وہ چھپائیں سکا۔ کچلی خواہش جو ان سطور سے ظاہر ہوتی ہے یہ تھی کہ کانگریس اگر عملی طور پر ہمیں یقین دلا دے کہ وہ ہماری خیر خواہ رہے گی اور ہر حالت میں ہمارا ساتھ دے گی تو ہم ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ بلند کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کو ہر لمحہ تیار ہیں اور دوسرے اگر وہ کوئی اہمیت نہ دے تو ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاہدہ نہ کرے تو اس صورت میں ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ چھٹی ہم مخالفت کریں گے۔ گویا ایڈیٹر افضل نے اس وقت کانگریس کو بلیک میل کرنے کی غرض سے اپنی اہمیت خوب بڑھا چڑھا کر بیان کی تاکہ کانگریس یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ مسلمانوں کو قابو میں لانے کی غرض سے میاں محمود احمد کی پر غلوں خدمات کا حاصل کرنا ضروری ہے اور ہمارا گاندھی جو ہندو مسلم اتحاد کے طبردار تھے خود چل کر میاں محمود احمد کے قدموں میں آگریں۔ چنانچہ میاں محمود احمد نے اس سلسلہ میں ہمارا گاندھی سے ملاقات بھی کی۔ لیکن انہوں نے کہا صاحب کی حسرت پوری نہ ہوئی اور ہمارا گاندھی نے ملاقات کے دوران ان کو زور دیا کہ ہمیں گاندھی اور ایڈیٹر افضل کے نوک کلم کو ناکامی کا اظہار ان الفاظ میں کرنا پڑا۔ ”لیکن مصیبت یہی ہے کہ کانگریس اس طرف متوجہ نہیں ہوئی۔“ اگر یہ جماعت خالفتا مذہبی ہے اور اس کا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو کانگریس کے ساتھ جو اس وقت برسرِ اقتدار تھی کٹھ جوڑ کرنے کی سعی و جہد کا مقصد خدا معلوم کیا تھا۔ ایڈیٹر افضل ایک دوسری جگہ رقمطراز ہے: ”کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سے تحریری طور پر پوچھا جائے کہ کیا وہ احمدیوں کو اپنے ساتھ سیاسی معاملات میں شریک کرنے کو تیار ہیں۔ ان کی طرف سے جواب آنے پر مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔“ (افضل مورچہ ۹ نومبر ۱۹۳۷ء)

ان سطور سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جماعت مذہبی ہونے کا دعویٰ کس خاص صحت کے تحت کرتی ہے۔ اس کا مقصد سیاست بازی ہے۔ ورنہ سیاسی معاملات میں شراکت کرنے کا مطلب یہ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مذہبی جماعت ہیں۔ لہذا ہمیں سیاسی معاملات میں اپنے ساتھ شامل کر لو۔ جب کہ اس جماعت کا دعویٰ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہم خالفتا مذہبی جماعت ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۹۳۷ء سے قبل اس جماعت کا تمام تر غلوں کا گریس اور اگریز سے وابستہ تھا۔ چنانچہ

اس وقت اس جماعت کے امام کا نظریہ مسلم لیگ کے متعلق یہ تھا۔ ”اس وقت مسلمانوں کی کوئی قائل ذکر جماعت مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ سب کی سب کانگریس میں شریک ہیں یا

ہونے والی ہیں۔“
 لیکن ۱۹۳۸ء میں ان کا نظریہ حسب ذیل ہے: ”مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لئے بے شمار قربانیاں کی ہیں۔ اسی اعتبار سے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی۔“

اس متضاد نظریہ سے قطع نظر اس جماعت کو سیاسی ثابت کرنے کی غرض سے مزید اقتباسات افضل سے نقل کئے جا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں چوہدری فتح محمد سیال قادیان سے انتخاب لڑ رہے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے: ”بعض لوگ اس معاملہ میں مذہبی سوال اٹھا کر عوام کو بھڑکانا چاہتے ہیں۔ مگر یہ ان کی سراسر غلطی بلکہ بددیانتی ہے۔ کیونکہ کونسلوں کا معاملہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک خالص سیاسی سوال ہے۔“

”آپ اپنے علاقہ میں ظاہر آیا خفیہ جس طرح آپ مناسب سمجھیں یہ پروپیگنڈہ کریں کہ یہ کوئی مذہبی سوال نہیں ہے بلکہ محض سیاسی سوال ہے اور چونکہ اس لحاظ سے (یعنی سیاسی لحاظ سے) چوہدری فتح محمد سیال سب سے بہتر امیدوار ہیں۔ اس لئے انہیں ووٹ دینی چاہئے۔“
 ”آپ اپنے علاقہ کے ووٹروں کو سمجھائیں کہ ووٹ ایک نہایت قیمتی امانت ہے اور آئندہ اسمبلی میں اہم سیاسی سوالات پیش ہونے والے ہیں۔ پس وہ کسی غیر اہل (یعنی غیر سیاسی) شخص کو ووٹ دے کر اپنی امانت کو ضائع نہ کریں۔“
 (افضل مورخہ، جنوری ۱۹۳۷ء)

”یہ حالات بتاتے ہیں کہ ملکی اور سیاسی لیڈروں کو ہندوستان کے لئے مکمل آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کے ساتھ ہی اہل ملک کی تربیت کی طرف پوری توجہ دینی چاہئے۔ ورنہ ممکن ہی نہیں کہ ملک کو سیاسی لحاظ سے آگے بڑھانے کا موقع مل سکے۔“ (افضل ۳۱ جنوری ۱۹۳۷ء)
 اس اقتباس میں ملک کو سیاسی اعتبار سے ارتقاء کی طرف لے جانے کے لئے اہل ملک کی تربیت کو ضروری قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت تک مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ جب تک اہل ملک کی تربیت نہیں ہو جاتی اور چونکہ ملکی اور سیاسی لیڈروں سے اہل ملک کی تربیت و اصلاح ناممکن ہے۔ لہذا ہندوستان کی مکمل آزادی کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہندوستان کی مکمل آزادی کے لئے اہل ملک کی تربیت لازمی ہے اور تربیت ”جماعت احمدیہ“ کے سوا دوسری کوئی جماعت یا انسان نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر ہندوستان کے سیاسی لیڈر ہندوستان کی آزادی کے خواہاں ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائیں۔ بالفاظ دیگر جماعت احمدیہ ہی اس وقت وہ سیاسی جماعت ہے جو ہندوستان کو مکمل آزادی دلا سکتی ہے۔ پس اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ خالصتاً سیاسی جماعت ہے

جونہایت خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ مندر حکومت پر قابض ہونا چاہتی ہے اور اس کے امام کے دل میں حکومت کرنے کی آرزو انگریزیاں لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ افضل کے حسب ذیل اقتباسات اس کی تائید کرتے ہیں۔ ”میرا کہا مانو تو ایک صلاح دیتا ہوں۔ ساری دنیا میں ایک ہی خلیفہ ہو اور ساری دنیا کی انجمنیں صدر انجمن کے ماتحت ہوں۔“ (افضل مورچہ ۳۴ اپریل ۱۹۱۳ء)

”اب تو احمدی پانچ چھ لاکھ ہیں۔ اگر سارے مسلمان احمدی ہو جائیں تو وہ چالیس کروڑ ہو جاتے ہیں اور اگر چالیس کروڑ اخرجت للناس بن جائیں تو سوال ہی باقی نہیں رہتا کہ ہم غریب ہیں۔ ہم امریکہ اور یورپ کو یوں دبوچ لیں جیسے باز چڑیاں کو دبوچ لیتا ہے۔“

(افضل مورچہ ۲۸ نومبر ۱۹۵۶ء)

”پس جو بادشاہ بھی احمدی ہو گا وہ اپنے آپ کو خلیفہ وقت کے ماتحت اور اس کا نائب

(افضل مورچہ ۲۷ اگست ۱۹۳۷ء)

سمجھے گا۔“

مندرجہ بالا اقتباسات اس جماعت کو سیاسی سمجھنے کے لئے کافی ہیں اور نیز یہ کہ اس جماعت کے عزائم مندر حکومت حاصل کرنا ہیں جو شخص ساری دنیا پر حکومت کرنے کا خواہاں ہو اور جو امریکہ اور یورپ کو اس طرح دبوچ لینے کا خواب دیکھ رہا ہو جیسے باز چڑیا کو دبوچ لیتا ہے تو پاکستان کے متعلق اس شخص کے عزائم کا اندازہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

۱۹۳۷ء کے بعد جب مسلم لیگ برسر اقتدار آئی تو خلیفہ ربوہ نے مسلم لیگ کی خوشامد

شروع کر دی اور اسی میں اپنی سیاست اور مفاد سمجھا۔ قائد ملت خان لیاقت علی خان جب پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے تو شاطر سیاست نے ان کے ساتھ اپنا تمام تر خلوص وابستہ کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین برسر اقتدار آئے تو ان کی خوشامد کی مٹی۔ مسٹر محمد علی کے زمانہ میں ان سے وفاداری کے عہد کئے گئے۔ چوہدری محمد علی کی وزارت میں ان کے قصیدے گائے گئے۔ حسین شہید سہروردی وزیر اعظم تھے تو ان کی وفاداری کے گیت گائے گئے۔ سابق پنجاب میں جب مسلم لیگ برسر اقتدار تھی تو شاطر سیاست اس کی مدح سرائی کے لئے وقف تھی اور وحدت مغربی پاکستان کے بعدری بلکہ پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس کی مدح سرائی کے لئے وقف ہو گئے۔

یہ تمام حقائق اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس جماعت کا سربراہ سیاسی شخص ہے اور اس کا مذہب اور روحانیت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ وہ خالص سیاسی نظریات کی روشنی میں اپنی جماعت کو منزل مقصود کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا نام اس نے مذہبیت رکھا ہوا ہے۔

بادشاہت یا خلافت

ایک سیاسی جماعت پر حکمرانی کرنے والے کا نام بادشاہ ہو یا خلیفہ۔ نام اس کا خواہ کچھ دیا جائے مفہوم کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ ابتدا سے آفریقہ سے خلیفہ اور بادشاہ کے دو طبعہ طبعہ مفہوم رہے ہیں۔ خلیفہ مذہبی اور بادشاہ سیاسی یا ملکی رجحان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بادشاہت کو مذہبیت کا لبادہ پہنا کر اس کا نام خلافت رکھے لے تو ہمیں اسے بادشاہ ہی سمجھنا پڑے گا۔ میں اس سے نقل ثابت کر چکا ہوں کہ یہ جماعت سیاسی ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس کا حکمران بادشاہ ہے یا خلیفہ؟ کیونکہ جب ایک جماعت سیاسی ہے تو اس کا حکمران چاہے اپنے آپ کو خلیفہ کہے، بادشاہ ہی تصور ہوگا۔ لیکن اس سیدھے سادے استدلال کے باوجود حسب ذیل امور غور طلب ہیں۔

انہی سجد نے مسلمانان سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے مسلمانان سے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ حضرت مسلمانان نے جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں سے ایک درہم بھی وصول کر کے بے جا خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں۔ ورنہ آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اس سے نصیحت لکرائی۔

مذہبہ بالا حدیث میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ حضرت عمرؓ حکم و نجات کی بجائے جمہوری طریق کار کو پسند کرتے تھے اور دوسرے یہ کہ بادشاہت اور خلافت کی تفریق حضرت عمرؓ کے نزدیک کیا تھی۔ حضرت عمرؓ کا یہ سوال کرتا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ اچھی جگہ پر خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خلیفہ تھے۔ کیونکہ کوئی بادشاہ بھی اپنی ذات سے متعلق کسی دوسرے شخص سے کسی قسم کا مشورہ لینا یا عزت نہیں سمجھتا۔ بلکہ اللہ ہی کی جمہوریت پر غور ہی الٰہی سے ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنے متعلق دوسروں سے اقتدار کیا اور تقویر و تبصرہ کو اپنی ذات کے لئے بہت پسند فرمایا۔ حضرت مسلمانان سے بادشاہت اور خلافت کی جو تفریق کی اس میں بادشاہت کے لئے یہ تھا المال سے سبباً صرف کو ضروری قرار دینا اور خلیفہ کے لئے یہ تھا المال کے سبب کو کیا صحت اور دنیا اندازی سے فریق کرنا۔ خلافت کی بنیاد تقرباً۔ حضرت مسلمانان نے جب خلافت اور بادشاہت کی یہ تفریق کی تو حضرت عمرؓ نے اسے سبباً ضروری قرار دیا اور ان پر مزید عمل پیرا ہونے کی سعی و جدد کی۔ اس طرح شیوانی الٰہی امر باری سے مراد ہے کہ حضرت عمرؓ کی خطاب نے ایک روز فرمایا کہ اللہ میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ۔ اگر میں بادشاہ ہوں تو بہت بلاؤں سے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے جواب دیا امیر المؤمنین! خلیفہ اور بادشاہ میں بہت فرق ہے۔ آپ نے فرمایا

وہ کیا۔ اس نے کہا خلیفہ وہ ہے جو نہ کسی سے بے جا وصول کرے اور نہ بے جا کسی کو دے اور الحمد للہ! آپ ایسے ہی ہیں اور بادشاہ وہ ہے جو ظلم سے وصول کرے جس سے چاہے لے اور تحسے چاہے دے۔

حضرت سفیان بن یحییٰ العرجانی کی یہ روایت حضرت سلمانؓ کی تائید کرتی ہے اور اس حدیث میں بھی بادشاہت اور خلافت کے مابین وہی حد قائل قائم کی گئی ہے جو حضرت سلمانؓ کی حدیث میں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال کے روپیہ کے دیانت دارانہ مصرف کو خلافت کی کسوٹی ٹھہرایا گیا ہے۔ آئیے! دیکھیں کہ انام جماعت ریلوہ میاں محمود احمد اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں یا نہیں؟

حضرت عمر فاروقؓ کے ماننے والے ان کی دیانتداری اور ان کے صحیح مصرف کے قائل تھے اور ان کے ماننے والوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جسے حضرت عمرؓ کی دیانت پر اعتراض ہو اور وہ اس اعتراض کے باعث ملت اسلامیہ سے منحرف ہوا ہو۔ لیکن اس کے برعکس میاں محمود احمد (جو عمر فاروقؓ ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں) متعدد مزیدوں نے ان کی دیانت پر اعتراض کے باعث ان کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت عمر فاروقؓ اور میاں محمود احمد کے اس عظیم امتیاز سے قطع نظر وہ جماعت کے بیت المال سے اسراف کے حامل ہیں۔ چنانچہ وہ خود اپنے سرکاری اخبار الفضل میں اپنے خسرو سالہ زمین العابدین سید ولی اللہ شاہ صاحب سے حقائق رقمطراز ہیں: ”جس کے خاندان کے سفر پر صدر انجمن احمدیہ اور تحریک جدید نے تیرہ ہزار روپیہ خرچ کیا ہے۔ اس کو اس لئے دمشق بھیج دیا گیا کہ کہیں خلیفہ نہ بن جائے۔“ (الفضل، ۱۳ جنوری ۱۹۵۶ء)

یعنی انہوں نے انجمن کے روپیہ میں سے بیسٹھ تیرہ ہزار روپیہ اپنے خسرو سالہ کو اس کے ذاتی اخراجات کی غرض سے دیا۔ (جس کا اقرار وہ خود اپنے سرکاری اخبار میں بھی کر چکے ہیں) جو اسراف ہے۔

اسی طرح انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیوی کے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو انگلستان تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انجمن کے روپیہ سے بھیجا۔ ظاہر ہے کہ جماعت میں روپیہ کے ایسے اسراف کو کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پھر عینہ لمانت فنڈ سے آپ نے خود ”اوروز رافٹ“ کیا ہے اور اپنے اعزاء کو روپیہ دیا ہوا ہے اور قرعہ کی مدد کا حساب نہیں اور نہ ہی کسی کو احتساب کرنے کا اختیار ہے۔ حفاظت مرکز کے روپیہ کا نہ ہی کوئی حساب ہے اور نہ ہی اس کا حساب لینے کا کوئی مطالبہ کر سکتا ہے۔ تحریک جدید کا روپیہ سندھ میں اپنی ذاتی جائیداد بنانے میں

استعمال کیا گیا ہے اور جماعت کو بتایا جاتا ہے کہ تحریک جدید خسارہ اٹھاری ہے۔ بیت المال کا روپیہ کارخانوں اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں میں لگایا اور بیرونی ممالک میں بھیج دیا گیا تاکہ جب کبھی بھی پاکستان سے بھاگ کر دوسرے ممالک میں جانا پڑے تو وہ روپیہ کام آسکے۔ ان تمام حالات کی روشنی میں اس بات کا اقرار کرنا ہی پڑے گا کہ میاں صاحب نے بیت المال کے روپیہ کا بے جا مصرف کیا اور اس طرح انہوں نے حضرت سلمان کی تشریح کے مطابق اپنے آپ کو بادشاہ ثابت کر دیا۔ پس حضرت عمر فاروق اس لئے خلیفہ تھے کہ وہ بیت المال کے روپیہ کو ذاتی تصرف میں نہیں لاتے تھے اور میاں محمود احمد اس لئے بادشاہ ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور اس طرح اسراف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا انہیں خلافت کا درجہ دینا یا ان کی بادشاہت کا نام خلافت رکھنا قابل صد نفرت ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو انہیں خلیفہ کا لقب دے رہے ہیں وہ اسلام سے صریحاً دشمنی کا ثبوت بہم پہنچا رہے ہیں اور بادشاہت کو خلافت کا نام دے کر غلیظ اور گندی شے کو پاکیزہ اور ارفع چیز سے تعبیر کر رہے ہیں اور یہ حرکت سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور خلفائے راشدین کی عزت و ناموس پر ڈاکو ڈالنے کے مترادف ہے۔

بادشاہت کو خلافت کہا دین احمد سے عداوت ہی تو ہے روز روشن کی طرح ان واضح دلائل و حقائق کی موجودگی میں جو شخص بھی میاں محمود احمد کو خلیفہ کا درجہ دیتا ہے وہ دشمن اسلام ہے اور میرے نزدیک ایسا شخص اپنے لئے دوزخ کے دروازے کھول رہا ہے۔ لہذا انہیں خلافت کا منصب بخشا معصیت کی ایسی ہیبت ناک صورت ہے کہ جس کا مرتکب قہر خداوندی کو خود دعوت دیتا ہے۔ بادشاہت اور خلافت کا تجزیہ کرنے کے بعد آئیے اب دور محمودیت کے واقعات و حالات کا بھی جائزہ لیں اور اس جماعت کو اول سے آخر تک پرکھیں تاکہ شاطر سیاست کی آمریت ثابت کرنے میں آسانی ہو۔

محمودیت سے پہلا اختلاف

حکیم مولوی نور الدین کی وفات سے قبل ہی ان کی زندگی میں میاں محمود احمد نے خلافت کے حصول کی خاطر جدوجہد شروع کر دی تھی۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے مولوی محمد علی (جن کا جماعت میں اثر و رسوخ تھا) کی سادگی اور شرافت سے فائدہ اٹھا کر دوٹوں کے گٹھ جوڑ سے مسند خلافت پر قبضہ کر لیا۔ مولوی محمد علی (لاہوری مرزائی) اور ان کے رفقاء نے کار نے جو میاں صاحب کے اخلاق و عادات سے بخوبی واقف تھے ان کے مسند خلافت پر متمسکن

ہونے پر شدید احتجاج کیا اور واضح کاف الفاظ میں میاں محمود کے اخلاق کو منصب خلافت کے برعکس بتایا اور کہا کہ جس شخص کا اخلاق پست ہو اور جو شخص پاکیزگی سے تہی دست ہو وہ خلافت پر کسی صورت میں بھی بیٹھنے کا حق دار نہیں ہے۔ مولوی محمد علی کے ان الزامات اور اس مخالفت کے جواب میں دور حاضر کے اس بہت بڑے شاطر سیاست نے اپنے چند غنڈہ قسم کے خوشامدیوں کی مدد سے یہ اقدام کیا کہ مولوی محمد علی کے لئے بڑے خطرناک حالات پیدا کر دیئے۔ چنانچہ انہیں مجبوراً قادیان چھوڑ کر لاہور ہجرت کرنا پڑی۔

مولوی محمد علی امیر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے اختلاف کے دس پندرہ برس بعد چند اور مریدوں نے شاطر سیاست سے علیحدگی اختیار کی اور اس علیحدگی اور اختلاف کی وجہ شاطر سیاست کی اخلاقی پستی بیان کی۔ چنانچہ مکرئی عبدالکریم اور ان کے رفقاء نے انہیں مباہلے کی دعوت دی اور قادیان ہی سے ایک اخبار شائع کیا جس کا نام بھی ”مباہلہ“ رکھا اور اس میں مباہلہ کے چیلنج کو بار بار دہرایا اور بتایا کہ دور حاضر کی عظیم سیاسی شخصیت تقدس کے پردے میں نہایت مبہم نام اقدام کرتی ہے۔ چنانچہ اخبار مباہلہ یکم دسمبر میں لکھا ہے: ”خلیفہ قادیان کے چال چلن پر الزامات کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ بلکہ جب سے جناب نے مسند خلافت پر قبضہ جمایا ہے اس وقت سے ہی وقتاً فوقتاً ان الزامات کا سلسلہ شروع رہا ہے۔ گویا اعتراض قادیان سے کسی قدر باہر بھی تھے۔ لیکن زیادہ تر زور قادیان دارالاسن تک ہی محدود رہا۔ خلیفہ صاحب ان الزامات کو کوئی طریق سے دبا دیتے رہے۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نہ تو ہر وقت یکساں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی راز کو چھپانے کے لئے حکمت عملی یا ہوشیاری ہی ہمیشہ کام آیا کرتی ہے۔ اس لئے کسی نہ کسی وقت ان سوالات کا اٹھنا ایک لازمی امر تھا۔ بلکہ دباؤ سے الزامات کو روکنے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ کسی وقت بزور انہیں چنانچہ یہی ہوا کہ اس مرتبہ منافقت کے فتوے اور مختلف قسم کی دھمکیاں زور و کوب اور بائیکاٹ غرضیکہ تمام حربے ناکام ثابت ہوئے۔ بلکہ خلیفہ کا دلائل کو چھوڑ کر اپنی طاقت کو استعمال میں لانا اس امر کا اور بھی واضح ثبوت تھا کہ یہ اعتراض بالکل سچے ہیں۔ کیونکہ ان اعتراضات کا حل نہایت آسان تھا اور ہے کہ اگر خلیفہ کے نزدیک معترضین کا ذب تھے تو وہ طریق مباہلہ اختیار کرتے جو حق و باطل میں فیصلہ کر دیتا۔“

اس عبارت سے حسب ذیل امور کا علم ہوتا ہے۔

۱..... خلیفہ قادیان سے مکرئی عبدالکریم اور ان کے رفقاء کے کار کا اختلاف ان کا ذاتی اخلاق و کردار تھا۔ جس کو معترضین پست تصور کرتے تھے۔

۲..... مگر می عبدالکریم اور ان کے رفقاء کا سے قبل بھی بیشتر لوگوں نے شاطریا سے کراہت پر اعتراض کیا تھا۔

۳..... شاطریا سے معتزین کے اعتراضات کو اپنی طاقت سے دبا دیا کرتے تھے۔

۴..... اس وقت بھی منافقت کے فتوے دیئے گئے تھے۔ سوشل بائیکاٹ اور دیگر ہتھیاروں کے علاوہ بعض لوگ زد و کوب بھی کئے گئے تھے۔

۵..... معتزین نے میاں صاحب کو چیلنج دیا تھا کہ اگر وہ پاک ہیں تو مہبلہ کر لیں۔

چنانچہ معتزین نے اخبار مہبلہ میں اپنی طرف سے مہبلہ کی دعوت کو بار بار شائع کیا اور کہا کہ ہمارے نزدیک میاں صاحب کا اخلاق پست ہے اور وہ زنا جیسے فحش فعل کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر معتزین اس دعویٰ میں جموٹے ہیں اور شاطریا سے اپنے آپ کو بے عیب سمجھتے ہیں تو وہ دعوت مہبلہ قبول کریں تاکہ حق و باطل میں فیصلہ ہو سکے۔ معتزین کی طرف سے مہبلہ کے لئے بار بار اصرار پر مجبور اس عظیم سیاسی شطرنج باز کو جواب دینا پڑا۔ چنانچہ انہوں نے لکھا کہ: ”مجھے یہ یقین کامل ہے اور ایک اور ایک دو کی طرح یقین ہے کہ ایسے امور کے متعلق مہبلہ کا مطالبہ کرنا یا ایسے مہبلہ کو منظور کرنا ہرگز درست نہیں بلکہ شریعت کی جنگ ہے۔“

(مکتوب خلیفہ کاویان ص ۲)

میاں محمود احمد کے دعوت مہبلہ سے صریحاً فرار اختیار کرنے پر معتزین نے اخبار میں اپنے اعلان مہبلہ کو پھر دہرایا اور اس دعوت مہبلہ کے جواز میں مرزا غلام احمد کا حسب ذیل فتویٰ شائع کیا سو واضح رہے کہ مہبلہ صرف دو صورت میں جائز ہے۔

۱..... اول اس کافر کے ساتھ جو یہ دعویٰ رکھتا ہو کہ مجھے یقیناً معلوم ہے کہ اسلام حق پر نہیں اور جو کچھ غیر اللہ کی نسبت خدا کی صفات میں ملتا ہے وہ یقینی اس ہے۔ یہ تمام خبریں تحقیقات طلب ہیں۔

۲..... دوم اس ظالم کے ساتھ جو بے جا تہمت کسی پر لگا کر اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً ایک مستورہ عورت کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے۔ کیونکہ میں نے چشم خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے یا مثلاً ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ چشم خود شراب پیتے دیکھا ہے۔ سو اس حالت میں بھی مہبلہ جائز ہے۔ کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں بلکہ ایک شخص اپنے یقین اور روایت پر ہمارے کہ ایک مؤمن بھائی کو دولت کا پھانسا چاہتا ہے۔ جیسے مولوی اسما جیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے ایک دوست کی چشم دید بات ہے کہ مرزا غلام احمد یقینی یہ عاجز پوشیدہ طور پر آلات نجوم اپنے پاس رکھتا ہے اور انہی کے ذریعہ کچھ

کچھ خیریں معلوم کر کے لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ الہام ہوا۔ سو مولوی اسماعیل نے کوئی احتجاجی مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس عاجز کی دیانت اور صدق پر ایک تہمت لگائی ہے۔ جس کی اپنے ایک دوست کی مدد سے پرستار کی تھی۔ لیکن ستارہ اگر صرف احتجاج پر ہو اور احتجاجی طور پر اگر کوئی کسی شخص کو کافر کہے یا طعن نام رکھے تو یہ کوئی تہمت نہیں بلکہ جہاں تک اس کی سمجھ اور علم تھا اس نے فتویٰ دیا ہے۔ غرض مہلبہ صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بہادر رہ کر دوسرے کو مضرتی اور زانی قرار دیتے ہیں۔“ (الحکم نمبر ۱۱ ج ۱ ص ۷، ۸ مورخہ ۱۳۳۳ھ بمطابق ۱۹۱۴ء)

جب معترضین نے مرزا غلام احمد کا دیوانی کا مہلبہ سے متعلق یہ واضح فتویٰ شائع کیا اور اس پر غیابہ اور پے در پے دعوت مہلبہ کے اعلانات شائع کئے تو تک آ کر چودھویں صدی کے اس عظیم شاعر اور رویا و کشف کے بہت بڑے طب بردار کو حسب ذیل الفاظ میں مہلبہ سے گریز کی راہ ڈھونڈنا پڑی: ”میں اس امر پر مہلبہ کرنے کو تیار ہوں کہ میں خلیفہ برحق ہوں اور جس شخص کو میری خلافت پر شک ہو وہ مجھ سے مہلبہ کرے۔“ (الفضل مورخہ ۱۳ دسمبر ۱۹۱۷ء)

معترضین نے خلافت مآب کو اس بات پر مہلبہ کی دعوت دی تھی کہ آپ زنا جیسے فسق فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گرتیں کرتے تو آئیے مہلبہ سے حق و باطل کا فیصلہ کر لیں۔ ہر دو فریق میں سے جو بھی جھوٹا ہو گا وہ فنا ہو جائے گا اور دنیا پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ خلافت مآب نے مہلبہ کی اس دعوت پر کہ لہن کی زبانی بے صیغہ ہے۔ مہلبہ کرنے کی بجائے جواب یہ دیا۔ اگر کسی کو میرے اعتقاد پر شبہ ہے تو ہوا کرے میں مہلبہ کے لئے تیار نہیں۔ ہاں! جس شخص کو میری خلافت پر شبہ ہو وہ میرے ساتھ مہلبہ کرے۔ حالانکہ معترضین نے ان پر زنا کا الزام لگایا تھا اور مہلبہ کی دعوت بھی اسی الزام پر دی تھی۔ لیکن شاعر سیاست نے اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ایک دوسری دعوت دے کر جہاں مہلبہ کے جواز کا اقرار کر لیا وہاں یہ بھی ثابت کر دیا کہ معترضین کے الزامات سچ تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے معترضین کی دعوت مہلبہ کو قبول کرنے کی بجائے اپنی خلافت سے متعلق مہلبہ کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تو معترضین نے اسے بھی قبول کر لیا۔ اب شاعر سیاست بہت گھبرائے اور اپنے مریدوں کو یہ قوف بنانے اور ان کی توجہ کو دوسری طرف مبذول کرنے کی غرض سے رویا و کشف بیان کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ (الفضل مورخہ ۱۹۱۷ء) میں رقم ہے: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص خلافت پر اعتراض کر رہا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں اگر تم سچے اعتراض تلاش کر کے بھی میری ذات پر کرو گے تو خدا کی تم پر لعنت ہوگی اور تم جہنم ہو جاؤ گے۔“

اور پھر ایک دوسرے موقعہ پر فرماتے ہیں: ”دنیا میں ہر قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ کے انبیاء تو پاک ہوتے ہیں۔ لیکن خلفاء پاک نہیں ہوتے۔ دیکھنے والی جو چیز ہے وہ صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے۔“

(قول خلیفہ الفضل سورہ ۴ نومبر ۱۹۷۷ء)

یعنی معترضین جو اعتراضات مجھ پر کر رہے ہیں یہ بے معنی ہیں۔ کیونکہ زنا کے اہرام کی اس لئے کوئی اہمیت نہیں کہ یہ غلطی صرف مجھ ہی سے سرزد نہیں ہوئی۔ بعض غلطیاں انبیاء سے بھی ہو جاتی رہی ہیں اور بعض غلطیاں انبیاء نہیں کرتے بلکہ خلفاء سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس لئے زنا یا اس قسم کی دوسری غلطیاں اگر مجھ میں موجود بھی ہیں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اصل چیز جو خلافت کے لئے ضروری ہے وہ تو صرف صلاحیت اور قابلیت ہے اور وہ دیکھ لو مجھ میں موجود ہے۔ لہذا میں خلیفہ برحق ہوں۔

شاطر سیاست کی اس حیرت انگیز تشریح اور عجیب و غریب منطق نے معترضین کو غور و فکر کے ایک اتمام سمندر میں غوطہ زن کر دیا۔ جو لوگ تقدس کے پردے میں عبرتاک حرکات کا ارتکاب دیکھ کر پہلے ہی سخت پریشان تھے اور جن کی دنیا میں پاکیزگی کے وعویداروں کے اعمال دیکھ کر ایک زلزلہ پھا تھا اور وہ بڑے حیران ہو کر اور یہ سمجھ کر کہ زنا حرام ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے۔ بڑے جوش و خروش سے دعوت مہبلہ دے رہے تھے۔ ان لوگوں کے کانوں تک شاطر سیاست کے مندرجہ بالا الفاظ پڑے اور انہیں معلوم ہوا کہ زنا حرام ہی نہیں اور نیز یہ کہ خلافت کے لئے پاک ہونا لازمی نہیں بلکہ صرف صلاحیت و قابلیت کا ہونا ضروری ہے تو ان کی امیدوں کے ایوان دھڑام سے گر پڑے۔ ان کا دعوت مہبلہ فضا میں معلق ہو گیا۔ وہ زنا کے حرام اور حلال ہونے کے مسئلہ پر غور کرتے رہ گئے اور دور حاضر کا یہ عظیم سیاسی شاطر اپنے لکیر کے فقیر مریدوں کی توجہ کو یہ کہہ کر دوسری طرف لے گیا کہ ایسی غلطیاں تو (نعوذ باللہ) نبی بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر میں بھی کوئی ایسی غلطی کروں تو کوئی بات نہیں۔ تم صرف میری صلاحیت و قابلیت دیکھو گناہ نہیں ہے جو چھپ کر کہیں کیا جائے۔ لکیر کے فقیر مریدوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر! حضرت امیر المومنین زندہ باد کے نعرے بلند کئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ معترضین کچھ روز تو سکتہ کی سی حالت میں رہے۔ اس سانحہ پر غور کرتے رہے کہ زنا بھی جائز ہے اور پھر خلفاء یہ فعل قبیح کرتے رہے ہیں (نعوذ باللہ) لیکن کئی روز کے بعد آخر انہیں سمجھ آئی گئی اور انہوں نے سوچا کہ زنا جائز نہیں بلکہ اس عظیم شاطر سیاست نے انہیں یہ کہہ کر کہ یہ فعل قبیح جائز ہے۔ دعوت مہبلہ سے بچنے کا ایک راستہ تلاش کیا ہے۔ چنانچہ

بھی ایسی نہیں کرتے۔ ممکن ہے جسے لوگ شراب کہتے ہیں۔ انہوں نے پی ہو کیونکہ ان کے ہوش و حواس بھی درست نہیں تھے۔ مجھ کو دھماکایا کہ اگر کسی سے ذکر کیا تو تمہاری بدنامی ہوگی مجھ پر کوئی شک بھی نہ کرے گا۔“ (مہبلہ جون ۱۹۲۹ء)

اس خط کا شائع ہونا تھا کہ قصر خلافت قادیان میں ایک زلزلہ آ گیا جب حقائق و براہین اور صداقت کی تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں تو جموٹ خزاں رسیدہ درختوں کے سوکھے ہوئے چوں کی طرح چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا گرتا ہے۔ بحرِ خار کے پھلے ہوئے طوفان کی زد میں آیا ہوا انسان اپنے آپ کو پانی کے سہارے چھوڑ دیتا ہے اور نکلوں کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ عدل و انصاف کے کٹھنوں میں جموٹا اور کذاب شخص ریت کی چٹانوں پر اپنے آپ کو محفوظ نہ دیکھ کر جموٹی قسموں اور جموٹے دعادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عینہ ربوہ کے اس آمریت مآب نے جب یہ دیکھا کہ پانی سر سے گزر گیا ہے تو اس نے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا اور اپنے انگریز دیوتاؤں سے رحم کی بھیک مانگی۔ کئی دفودار ہاب بست و کشاد کے پاس بیٹھے اور انہیں نازک صورت حال سے آگاہ کیا۔ انگریز نے اپنے اس دیرینہ خدمت گار اور مخلص مدح سرا کی ناؤ ڈوبتی ہوئی دیکھی تو اس کا جی بھرا آیا اور اس نے معترضین کے اخبار پر دفعہ ۱۳۲۲ نافذ کر دی۔ آخر کار اس اخبار کو بند کر دیا۔ معترضین کی زبان بندی کے لئے متعدد اہم اقتیار کی گئیں۔ انہیں قید و بند کی صعوبتیں پہنچانے کی دھمکی دی گئی اور وہ مظلوم اور بے بس لوگ دانتوں میں زبانیں داب کر خاموش ہو رہے۔ اس طرح ”حق و صداقت“ کا یہ سب سے بڑا علمبردار اپنی لغزشوں پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا اور مہبلہ کا وہ چیلنج جسے معترضین بار بار دہرا رہے تھے اور جو بلائے ناگہانی کی طرح سر پر منڈلا رہا تھا ٹل گیا اور چھوٹی صدی کا یہ رنگیلا قصر خلافت سوسائٹی کے رنگارنگ پروگراموں میں پھر کھو گیا۔ رسوائی اسی خاتون کی ہوئی جس نے اپنی حالت زار بیان کی اور کسی نے بھی قصر خلافت سوسائٹی کے ڈرامہ کے اس ولن سے باز پرس نہ کی اور نہ ہی اس کے اخلاق کو شک کی نظروں سے دیکھا اور اس نے اپنی وہ بات سچ کر دکھائی جو اس نے اس خاتون کو کبھی تھی کہ: ”تمہاری بدنامی ہوگی۔ مجھ پر کوئی شک بھی نہ کرے گا۔“ اور دوسری طرف وہ مظلوم خاتون اور اس کا سارا خاندان اپنی مظلومیت پر آنسو بہاتا خاموش ہو گیا۔ لیکن ان کے دل آج بھی دھیمی سروں میں ظلم و تعدی کے خلاف آواز بلند کرنے میں مصروف ہیں۔

یہاں خلوص کے پردے میں سانپ پلتے ہیں

عجیب رنگ زمانہ ہے کیا کیا جائے

شیخ عبدالرحمن مصری

مہبلہ والوں کے الزامات اور دعوت مہبلہ کے نقوش ابھی تازہ ہی تھے کہ ۱۹۳۷ء میں کچھ اور لوگ منظر عام پر آئے اور انہوں نے بھی شاطریاست پر یہی اعتراض کیا کہ آپ کی زندگی آلودہ ہے۔ شیخ عبدالرحمن مصری جماعت احمدیہ قادیان کے بہت بڑے عالم تھے اور ایک بزرگ کی حیثیت سے بھی جماعت میں ان کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ صوم و صلوة کے پابند، چھبگزار اور متقی ہیں اور ہر لمحہ خدمت دین میں مصروف رہتے ہیں۔ ان دنوں تعلیم الاسلام ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور ان پر شاطریاست کی خاص الخاص عنایات ہوتی رہتی تھیں۔ شیخ صاحب شاطریاست کو نجات کا باعث سمجھتے ہر ایک کام میں مشورہ لینا دعا کے لئے درخواستیں کرتے رہنا اور شاطریاست سے اندھی عقیدت رکھنا جزو ایمان تصور کرتے تھے۔ لیکن ان کے دل و دماغ پر اچانک ایک زلزلہ آیا اور عقیدت کے پہاڑ گر پڑے۔ اپنی ناموس سے زیادہ عزیز شے شاید دنیا میں کوئی نہ ہو اور یہی ایک غیرت ہی تو ہے جو انسان کو عروج پر لے جاتی ہے۔ دنیا میں آئے دن اپنی عزت و ناموس پر سینکڑوں لوگ جانیں دے دیتے ہیں۔ شیخ عبدالرحمن مصری بھی انہی غیر انسانوں میں سے ایک ہیں جو اپنی ناموس کے لئے جان کی پروا نہیں کرتے۔ چنانچہ جب انہیں علم ہوا کہ امیر المؤمنین کھلانے والا خدا کا محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے والا اور اپنے آپ کو عورتوں اور مردوں کا روحانی باپ کہنے والا تقدس کے پردے میں بھولی بھالی لڑکیوں کا شکار کھیلتا ہے تو انہیں مہبلہ والوں کے الزامات یاد آ گئے۔ جب مہبلہ والوں نے شاطریاست پر یہی الزام عائد کئے تھے تو شیخ عبدالرحمن صاحب مصری اسے مہبلہ والوں کے ذاتی عناد کی وجہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ شیخ صاحب نے اس وقت اندھی عقیدت کے جوش میں مہبلہ والوں کے الزامات کی تردید اور شاطریاست کے حق میں مضامین بھی لکھے اور معترضین کے الزامات کو ان کی ذاتی رنجش قرار دیا۔ شیخ صاحب کو علم نہ تھا کہ معترضین حق پر ہیں اور ایک وقت آنے والا ہے۔ جب خدا شیخ صاحب پر بھی ان کی سچائی ظاہر کرے گا اور شیخ صاحب کو خود بھی اپنے روحانی باپ پر وہی الزامات عائد کرنا پڑیں گے۔ سو شیخ صاحب نے مہبلہ والوں کے الزامات پر متعدد مضامین شائع کئے اور انہیں جھوٹ اور کذب بیانی سے تعبیر کیا۔ لیکن چند ہی سال بعد جب انہوں نے اپنی عزت پر ڈاکہ پڑتے دیکھا تو ان کا سر چکرا گیا۔ ان کی دنیا بدل گئی۔ ان پر سکتہ کا سا عالم طاری ہو گیا اور ایمان پر ایسا زلزلہ آیا کہ مہبلہ والوں کے الزامات پر یقین ہو گیا۔ اب شیخ صاحب کو احساس ہوا کہ تقدس کا یہ بہت بڑا طہر دار کیا گل کھلاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آقا شاطریاست کو چند خطوط لکھے اور دریافت کیا کہ زنا جائز ہے؟

مصری صاحب کا یہ سوال کرنا ہی تھا کہ شاطریاست نے مصری صاحب کی نیت بھانپ لی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ شخص ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور مریدوں کے ایمانوں کے حزنزل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا مشترک اس سے کہ وہ کوئی الزام مجھ پر جماعت کے سامنے عائد کرے۔ خیر اسی میں ہے کہ الزام عائد ہونے سے پہلے ہی اسے جماعت میں بدنام کر دیا جائے۔ چنانچہ شاطریاست نے اپنے سرکاری اخبار میں ایک مضمون شائع کیا۔ جس میں لکھا مصری صاحب مجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دیتے تھے۔ چونکہ میں نے رشتہ نہیں لیا۔ لہذا اب مصری صاحب جماعت میں میرے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ احباب جماعت ہوشیار رہیں۔ حالانکہ ابھی مصری صاحب نے جماعت کے کسی شخص سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔

چنانچہ الفضل مورخہ ۳ جولائی ۱۹۳۷ء میں لکھا ہے کہ: ”چونکہ ان کی (مصری صاحب) لڑکی کا رشتہ خاندان نبوت میں نہ ہو سکتا لہذا وہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔“

اس قسم کے متعدد مضامین شائع کئے گئے اور اپنا ایک خاص آدی بھیج کر تمام جماعتوں میں یہ زہر پھیلا دیا کہ مصری صاحب اپنی لڑکی کا رشتہ خاندان نبوت میں کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ ہو نہیں سکا۔ اس لئے اب مصری صاحب جماعت سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اتنی معمولی سی بات پر کوئی صحیح اہل فہم اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتا اور ایمان کی ٹھوکرا کا باعث اتنی ہی بات کبھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ شاطریاست نے الفضل میں اس قسم کے مضامین شائع کرنے کے علاوہ تمام اصطلاحی جماعتوں سے مصری صاحب کے خلاف قراردادیں منگوانی شروع کر دیں اور ان قراردادوں میں حقارت و نفرت کا اظہار کروایا گیا۔ ایک طرف تو الفضل کے صفحات پر قراردادوں کی نفرت انگیزی بکھیر دی اور دوسری طرف اپنے وظیفہ خواروں سے مصری صاحب کے خلاف اور اپنی خلافت کے حق میں مضامین لکھوانے شروع کر دیئے۔ وظیفہ خواروں نے حق نمک ادا کرتے ہوئے اپنے فن شعبہ بازی کا پورا ثبوت دیا اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے وہ جوہر دکھائے کہ خود حیرت بھی محو حیرت ہو جاتی ہے۔ حقیقت کو چھپا کر جموت کو حقیقت ثابت کرنا بھی ایک ایسا فن ہے کہ جو صرف شاطریاست کے وظیفہ خواروں ہی کا حصہ ہے۔ چنانچہ اصل واقعات کو غلط غلط کرنے کا حسب ذیل انداز ملاحظہ فرمائیے۔ ایک وظیفہ خوار رقمطراز ہے: ”احباب جماعت کو معلوم ہے کہ سیدنا حضرت امیر المؤمنین اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے عبدالرحمن صاحب مصری کے ناپاک خیالات اور دھمکی آمیز اور گندے خطوط کی بناء پر انہیں جماعت سے خارج فرما دیا ہے۔“

(الفضل ۳ جولائی ۱۹۳۷ء)

سبحان اللہ! کس چابکدستی سے حقیقت کو چھپانے اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کوئی کہے کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے

پھر لکھا ہے کہ: ”شیخ صاحب (عبدالرحمن مصری) ایک طرف تو میاں محمود احمد صاحب کو حضرت امیر المؤمنین لکھتے ہیں اور دوسری طرف حضور کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کی طرف نقائص منسوب کرتے ہیں۔“

ان سطور سے یہ ثابت کرنے کی سعی و جہد کی گئی ہے کہ مصری صاحب ایک طرف شاطر سیاست کو امیر المؤمنین کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کی طرف نقائص منسوب کرتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ مصری صاحب نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ وظیفہ خوار نے یہ استدلال پیش کر کے ہوش و خرد سے تہی و امنی کا مکمل ثبوت دیا ہے اور اپنی کم علمی کا بزبان خود اقرار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصری صاحب کا امیر المؤمنین کہہ کر شاطر سیاست سے یہ استفسار کرنا کہ تمہارے زنا جائز ہے؟ نیز یہ کہ آپ ر جس سے پاک ہیں؟ مصری صاحب کا جھوٹا ہونا ثابت نہیں کرتا۔ بلکہ شاطر سیاست کے وظیفہ خوار کی یہ سطور تو خود اس کے ربوبیت کرنے والے (شاطر سیاست) کے خلاف جاتی ہیں اور اس کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ساری عمر شاطر سیاست کو امیر المؤمنین سمجھتا رہا ہے اور اس کا ایمان رہا کہ وہ ظلیفہ برحق ہیں۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تقدس کے پردے میں بڑے گھناؤنے اقدام معرض وجود میں آتے ہیں تو اس کا ایمان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور وہ عجیب و غریب خیالات میں کھوجاتا ہے اور اس صورت میں اگر وہ امیر المؤمنین کے الفاظ لکھتا ہے تو اس سے اسے طرہ مقصود ہوتی ہے جسے وظیفہ خوار بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لیکن اندھی عقیدت رکھنے والے لکیر کے فقیر مریدوں کو بے وقوف بنانے کی غرض سے اتنا بھولا بن جاتا ہے کہ جیسے ان الفاظ کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اندھی عقیدت رکھنے والے مریدوں کو بے وقوف بنانے اور اپنی بدعنوانیوں پر پردہ ڈالنے کی غرض سے چند دوسرے ہتھیار بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ مثلاً جس شخص سے متعلق علم ہو جائے کہ اسے بدعنوانیوں کا علم ہو گیا ہے اور اب وہ بغاوت کے لئے پرتول بہانے تو اس پر لاہوری جماعت یعنی پیغامیوں یا مجلس احرار کے ساتھی ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رہے شاطر سیاست انجمن احمدیہ اشاعت اسلام لاہور اور مجلس احرار سے متعلق اپنے مریدوں میں ہر لمحہ زہر پھینکتے رہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مریدوں کے اذہان میں یہ بات منتقل کر دی ہے کہ مجلس احرار اور انجمن

احمدیہ اشاعت اسلام لاہور ہر دو جماعتیں گھنٹیا قسم کے لوگوں پر مشتمل ہیں جو ان سے ذاتی عناد اور بغض محمود کی وجہ سے ہر لمحہ مخالفت کرتی رہتی ہیں۔ اب ان مریدوں کو جن کے اذہان ان ہر دو جماعتوں سے متعلق نفرت و حقارت کے جذبات سے بھرے پڑے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جماعت کا فلاں شخص لاہوری احمدیوں یا مجلس احرار سے مل کر مخالفت کر رہا ہے تو سیدھے سادھے مرید بغیر سوچے سمجھے اس شخص سے متعلق غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب شیخ عبدالرحمن مصری اور فخر الدین صاحب ملتانی اور ان کے ساتھیوں نے شاطر سیاست سے علیحدگی اختیار کی تو جہاں لکیر کے فقیر مریدوں نے بے وقوف بنانے کی غرض سے دوسرے پھٹکنڈے استعمال کئے گئے وہاں یہ طریق بھی اپنایا گیا کہ شیخ صاحب اور ان کے ساتھی پیغامیوں اور احرار یوں سے مل کر خلیفہ صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لہذا جماعت ہوشیار رہے۔ اس کے ثبوت میں میں حسب ذیل اقتباس نقل کرتا ہوں: ”وہ شوق سے اہل پیغام (انجمن احمدیہ اشاعت اسلام لاہور) کو سہارا بنائیں۔ ان کے ہاتھوں سلسلہ کے نظام کو برہاد کرنے کی کوشش کریں۔ احرار کے ہموابن جائیں۔ دیگر دشمنان احمدیت کی امداد حاصل کریں۔ مگر وہ سب کے سب مل کر بھی سلسلہ احمدیہ کی روک نہیں بن سکتے۔“

(الفضل مورخہ ۳ جولائی ۱۹۳۷ء)

مصری صاحب کے الزامات کیا تھے؟ اور ان الزامات کا اثر زائل کرنے کی غرض سے کس قدر کمزوریام سے کام لیا گیا اور کس ہوشیاری سے اندھی عقیدت رکھنے والوں کی توجہ دوسری طرف مبذول کرادی گئی اور شریف المنین مصری صاحب کا درو بھرا دل بڑھان خاموش چلایا۔

صاحب کمزوریا ہے ہمیں معلوم نہ تھا ایک انسان خدا ہے ہمیں معلوم نہ تھا

مصری صاحب نے شاطر سیاست کو جو خطوط ارقام کئے تھے ان میں لکھا تھا کہ جماعت کے سینکڑوں اشخاص سیاسی شاطر اعظم کی ذاتی بد عنوانیوں کو دیکھ کر دہریت کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ اس کے جواب میں شاطر سیاست کا ایک وظیفہ خوار رقمطراز ہے: ”ہم شیخ صاحب کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ لاکھوں کی جماعت میں سے ایسے سو اشخاص کا نام پتہ بتائیں جو بقول ان کے جماعت کے بگاڑ کو دیکھ کر دہریہ بن چکے ہیں۔ نیز ایسے احمدیوں کا پتہ بتائیں جو اندریہ اندر دہریہ بن چکے ہوں۔“

(الفضل مورخہ ۳ جولائی ۱۹۳۷ء)

پھر اس مضمون میں دوبارہ لکھا ہے کہ: ”ہم پھر اپنے چیلنج کو دہراتے ہیں اور شیخ صاحب سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ سچے ہیں تو کم از کم سو ایسے دہریوں کا پتہ دیں جو بقول ان کے جماعت کے بگاڑ کو دیکھ کر دہریہ بن گئے ہیں اور سو ایسے اشخاص کا نام بتائیں جو ابھی دہریت

کی منازل طے کر رہے ہیں۔“

نہ جانے سادہ لوح مصری صاحب نے وظیفہ خوار کا یہ چیلنج کیوں قبول نہ کیا۔ شاید اس کی وجہ مصری صاحب کی سادہ لوحی تھی۔ درنہ شاطر سیاست کی بدعنوانیوں اور دھاندلیوں اور ظلمت کی شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر جو لوگ اسی وقت دہریہ ہو چکے تھے ان میں سرفہرست تو خود شاطر سیاست ہی کا نام لکھا جاسکتا تھا اور اس کے بعد وظیفہ خواروں اور پھر بعض دھواں دھار تقریریں کرنے والوں کے اسمائے گرامی لکھے جاسکتے تھے اور دہریت کی طرف مائل ہونے والوں میں ان لوگوں کے نام رقم کئے جاسکتے تھے جن کو ۱۹۵۶ء میں فتنہ منافقین کے سلسلہ میں خارج از جماعت کیا گیا جو خلافت مآب کے قریب رہ کر دہریت کی طرف مائل تھے۔ لیکن علیحدہ ہو کر پھر خدا کی ہستی کے قائل ہو گئے اور ان پر یہ بات کھل گئی کہ شاطر سیاست کے بداعمال ہونے سے خدا کے انکار کا کیا تعلق ہے؟ پس مصری صاحب کی یہ بات درست تھی اور پھر ان ایک ہزار منافقوں کی فہرست بھی لکھی جاسکتی تھی جو اب شاطر سیاست نے تیار کی ہے اور جسے مستہتر کرنے کی جسارت اس لئے نہیں کی گئی کہ کہیں اتنی بڑی تعداد میں منافقین ایک جگہ جمع ہو کر خلافت مآب کی شاطرانہ صلاحیتوں کا قلع قمع نہ کر دیں۔

اگر کوئی شخص دنیا کو دھوکا دینے کے لئے صرف زبان سے کہتا ہے کہ میں خدا کا قائل ہوں اور اس کا عمل اس کے بالکل منافی ہو تو ایسے شخص کو دہریہ ہی سمجھا جائے گا اور پھر وہ لوگ جن کی بنیاد ہی دھوکہ دہی اور کفر و فریب پر ہو اور جو سیاسی مطمح نظر رکھتے ہوئے بھی مذہبی ہونے کے دعویدار ہوں ان سے اس درجہ کی بھی توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ دنیا کو ہیوقوف بنانے کی غرض سے خدا پر یقین نہ رکھتے ہوئے بھی زبان سے خدا خدا کے الفاظ پکارتے چلے جائیں۔ درنہ کیا شاطر سیاست کو دہریہ ثابت کرنے کی غرض سے ان کے اپنے یہ الفاظ ناکافی ہیں جو انہوں نے زنا کے ایک الزام میں مہابلہ کی دعوت کے جواب میں کہے:

”دنیا میں ہر قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ کے انبیاء تو پاک ہوتے ہیں لیکن خلفاء پاک نہیں ہوتے۔“ (افضل موروثی رومبر ۱۹۴۷ء)

اور پھر اسی اخبار میں لکھا ہے کہ: ”خدا کا رسول غلطی کر سکتا ہے۔“

اور پھر جو شخص صاف الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ بھی معصوم نہیں تھے۔ (نعوذ باللہ) اس شخص کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا پر یقین رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرتا ہے۔ دروغ گوئی کی انتہاء نہیں تو اور کیا ہے۔

جس کی آغوش میں ہر شب ہے نئی ماہ لقا
 اس کے سینے میں خدا ہے ہمیں معلوم نہ تھا
 ”موجودہ خلیفہ سخت بد چلن ہے۔ یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔ اس کام کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ یہ معصوم لڑکوں اور لڑکیوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے۔ جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔“ (الفضل) بیان عدالت مولوی عبدالرحمن صاحب مصری ہیڈ ماسٹر احمدیہ و سابق امیر جماعت احمدیہ مقامی قادیان۔

فخر الدین ملتانی کا قتل

ابھی مصری صاحب کا سلسلہ جاری ہی تھا اور افضل ان پر کچھ اچھالنے میں مصروف تھا کہ فخر الدین ملتانی نے جو شاطر سیاست کے بڑے عظمیٰ مرید تھے اور جنہوں نے ذاتی مشاہدات کی بناء پر جماعت احمدیہ سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ ایک پمفلٹ بعنوان ”فحش مرکز“ لکھا۔ جس میں خلافت مآب موصوف کی پرائیویٹ زندگی پر تنقید کی اور اسے فحش قرار دیا۔ جس پر قادیانی گزٹ نے چند مضامین لکھے اور بڑے درد مندانہ انداز میں اپنی مظلومیت کا رونا رویا اور ساتھ ہی اپنے مریدوں کو پر امن رہنے اور اشتعال میں نہ آنے کی تلقین کی اور اس قسم کی تلقین بار بار کی جس کا مقصد اس اقدام کا حفظ و اتمام تھا جس کا انہوں نے پروگرام مرتب کر لیا تھا۔ چنانچہ چند ہی روز بعد فخر الدین ملتانی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ جس کے نتیجہ میں وہ ہسپتال میں فوت ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلافت مآب نے چند غنڈوں کو روپیہ دے کر انہیں قتل کروایا تھا۔ چنانچہ جس غنڈے نے انہیں قتل کیا تھا جب عدالت نے اسے سزائے موت دی اور وہ محنت و وار پر لٹا گیا تو خود میاں محمود احمد نے اس کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے لکھوایا اور اسے بڑی شان و شوکت سے دفن کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس دن فخر الدین ملتانی فوت ہوئے اس سے چند ہی روز بعد افضل میں ایک مضمون شائع کیا گیا جس میں مقتول کے گناہ گننے گئے اور سے مجرم گردانا گیا۔ جس کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ کہ فخر الدین ملتانی کے قتل میں شاطر سیاست کا ہاتھ تھا۔ ان دنوں ہندوستان پر سفید فام انجمنی حکمران تھا اور میاں صاحب اس کے پرانے خدمت گار تھے۔ لہذا اخبارات نے شور مچایا لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہ رہی۔ فخر الدین ملتانی وفات پا گئے اور دنیا میاں محمود احمد کے ان الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں مصروف رہی کہ احباب پر امن رہیں اور اشتعال میں نہ آئیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کا مفہوم سمجھ بھی گیا۔ لیکن اگر یہ حکمرانوں نے انہیں سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہ سمجھنے دیا اور شاطر سیاست کا کارواں چلا رہا۔ قصر خلافت کے خلوت

کدے جھگکاتے رہے اور شیطان انسانوں کی غفلت شعاری، اندھی عقیدت اور شخصیت پرستی پر مسکراتا رہا۔ افضل کے صلوات فخر الدین ملتانی کو عالم اور مجرم گرداننے اور اپنی مظلومیت اور خلافت مآب کی مصومیت کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہے اور اس مظلوم شخص کی روح کسی کا یہ شعر لاپتی ہوئی سوئے گردوں پر داز کرتی گئی۔

ہے معترف یہ جہاں جن کی پاز سائی کا وہ ٹیکدے میں کئی بار مجھ سے کھرائے اور شاطر سیاست کے اندھے عقیدت مند بغیر سوچے کچھ اپنی دمن میں بھی کہتے رہے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے بھی خلافت مآب کو ”روسیا“ دیکھ لیں تو ہم اسے اپنی آنکھوں ہی کا دھوکہ تصور کریں گے۔

ریاست اندر ریاست

فرض قادیان میں یہی صورت تھی کہ جب کبھی بھی کسی نے خلافت مآب کی لغزشوں کے خلاف آواز اٹھائی اسے سنگین سزائیں دی گئیں۔ سرکاری عدالتوں کے علاوہ خلافت مآب کی اپنی عدالتیں کارفرما تھیں اور خلافت مآب خود ان عدالتوں کے چیف جج کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ سابق فوجیوں کی ایک علیحدہ فوجی تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جس سے جو رو استبداد اور ظلم و ستم کا کام لیا جاتا رہا۔ ۱۹۳۷ء کے بعد جب مجبوراً قادیان چھوڑنا پڑا تو ریوہ کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا اور اس میں اپنی استماریت اور آمرانہ نظام کی بنیاد ڈالی۔ جس طرح قادیان میں کسی شخص کو بھی خلافت مآب پر انگشت نمائی کی جرأت نہ تھی۔ عینہ آج بھی ریوہ میں کسی شخص کو گریہ و زاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قادیان میں نہ صرف فخر الدین ملتانی کے خون سے ہوئی کھیلی گئی بلکہ متعدد وارداتیں ایسی بھی منصفہ شہود پر آئیں جن کا ذکر قصر خلافت کی دیواروں سے باہر نہ نکل سکا۔ سفید قام اجنبی حکمرانوں کے عہد اقتدار میں خلافت مآب کو ٹیکس و بے بس انسانوں کے خون سے ہاتھ رکھنے کی اس لئے اجازت تھی کہ خلافت مآب انگریز کا خود ساختہ پودا تھے۔ ریاست اندر ریاست کی حقانیت اسی سے ظاہر ہے کہ قادیان میں جن لوگوں کو زمین، مکان تعمیر کرنے کی عرض سے دی جاتی تھی تو رجسٹری کئے بغیر ہی ایک چٹ پرائیٹس لڑخا دیا جاتا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو شخص بھی اسلام کا سن کر قادیان میں ظلمتوں کی بناء پر آباد ہوتا تھا جب اس پر حقیقت حال واضح ہوتی تھی تو اس کے لئے اپنا سب کچھ اجاڑ کر کسی دوسری جگہ جاتا مشکل ہو جاتا تھا اور اگر کوئی شخص اپنا مکان جج کر قادیان سے واپس آنا چاہتا تھا تو اس کے لئے مشکل یہ تھی کہ زمین اس کے نام رجسٹری نہ ہوتی اور خلافت مآب برہمنی کے موڈ میں اسے اپنا ملبہ اٹھالینے کا حکم صادر فرما دیتے۔

تاریخی انقلاب

فخر الدین ملتانی اور شیخ عبدالرحمن مصری کی شاطر سیاست سے علیحدگی کے تقریباً بیس سال بعد جولائی ۱۹۵۶ء میں کچھ لوگوں نے خلافت مآب کی وعاہدہ لیوں اور ان کے خلوت کدے کی زندگی پر کڑی تنقید کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاطر سیاست نے انہیں منافق قرار دے کر جماعت سے خارج کر دیا۔ ان تمام حالات پر مفصل بحث کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پس منظر بیان کر دیا جائے۔ تاکہ قارئین کو سمجھنے میں آسانی ہو اور تلاش حق میں سرگرداں رہنے والوں کے لئے باعث عبرت ہو۔

شیخ عبدالرحمن مصری کی علیحدگی سے دس سال بعد ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان معرض وجود میں آیا تو شاطر سیاست اس وقت قادیان میں تھے۔ اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ چاہے دشمن احمدیوں کی لاشوں پر سے گزرتا ہوا مجھ تک پہنچ جائے۔ میں قادیان سے نہیں جاؤں گا۔ اپنے اس فیصلہ کے حق میں انہوں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا اور کہا کہ جب مرزا غلام احمد (مسح موعود) فوت ہوئے تھے۔ میں نے (یعنی میاں محمود احمد نے) ان کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ عہد کیا تھا کہ اے مسح موعود اگر قادیان سے سارے احمدی بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تا وقتیکہ موت نہ آجائے۔ چنانچہ اپنے اس عہد کو پورا کرنے کی غرض سے ۱۹۴۷ء میں خلافت مآب نے قادیان میں اعلان کیا کہ میں قادیان سے نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس اعلان کے چند ہی روز بعد جب حالات مزید خردوش ہوئے تو سادھو کا بھیس بدل کر لاہور آ پہنچے اور یہاں آخر یہ کہا کہ میں چند روز کے لئے آیا ہوں۔ پھر واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن آج تک واپس جانا نصیب نہیں ہوا۔

چند لوگوں نے علاوہ اس اعتراض کے جو اخلاق پر تھا یہ اعتراض بھی کیا کہ جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں قادیان کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا تو آپ بھیس بدل کر بزدلوں کی طرح کیوں بھاگ آئے؟ نیز جب آپ عمر ثانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ نے عمر کا نمونہ پیش کیوں نہ کیا اور کیوں اس جگہ پر نہ ڈٹے رہے؟ جہاں خطرہ جان تھا اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو وہ مسلمانوں کو لے کر ان مقامات پر چلے جاتے جہاں سو فی صدی آبادی کفار کی ہوتی اور اس بات کا شدید خطرہ ہوتا کہ کفار مل کر حملہ ہی نہ کر دیں۔ ایسے حالات میں وہ مسلمانوں کے ہمراہ وہاں چلے جاتے اور وہاں بلند آواز سے اذان دے کر نماز باجماعت پڑھتے۔ لیکن جہاں ایک طرف حضرت عمر فاروقؓ کا نمونہ ہمارے سامنے ہے وہاں

دوسری طرف میاں صاحب کا بزدلانہ نمونہ ہے جسے دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ میاں صاحب عمر ثانی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بے بنیاد اور بے سرد پا ہے۔

اب آئیے یہ دیکھیں کہ خلیفہ صاحب کا ”فتنہ منافقین“ معرض وجود میں کس طرح آیا اور اس کا عمر کون ہے؟ ۱۹۳۸ء میں جب دستور ”مجلس خدام الاحمدیہ“ کی صدارت کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ انتخاب کا طریق کار حسب ذیل تھا۔

ہر شہر و قصبہ کی جماعت سے مجلس خدام الاحمدیہ (جو مرزائی نوجوانوں کی تنظیم ہے) کا ایک نمائندہ منتخب کر کے اسے مجلس کی طرف سے یہ ہدایت کر دی جاتی کہ وہ فلاں شخص کو ووٹ دے۔ مجلس کا جنرل سیکرٹری ایک خط مرکز (ربوہ) میں لکھ دیتا کہ انتخاب کے لئے ہماری طرف سے فلاں شخص نمائندہ منتخب ہوا ہے اور مجلس نے اسے فلاں امیدوار کو ووٹ دینے کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ تمام مجالس خدام الاحمدیہ نے اپنے اپنے نمائندے منتخب کئے اور انہیں ہدایت دے کر مرکز (ربوہ) میں ایک ایک خط بھیج دیا۔ جس میں لکھا کہ ہمارا فلاں شخص نمائندہ ہے اور وہ فلاں شخص کو ووٹ دے گا۔ مجالس کی یہ رپورٹ جو بذریعہ خطوط ربوہ پہنچی۔ وہ انتخاب سے قبل افضل میں شائع کر دی گئی جو رپورٹ افضل میں شائع ہوئی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بذریعہ خطوط اتنی مجالس نے اپنے نمائندوں کو صاحبزادہ مرزانا صاحبہ کے حق میں ووٹ دینے کی ہدایت کی ہے اور اتنی مجالس نے مولوی عبدالمنان عمر کے حق میں۔ اس رپورٹ کے مطابق صاحبزادہ مرزانا صاحبہ کی اکثریت تھی۔ اس اشاعت کے چند ہی روز بعد نمائندے مقررہ جگہ پر پہنچے۔ وسمبر کا مہینہ تھا اور رات کی تاریکیوں میں چناب کے کنارے سردی سے ٹھہرے ہوئے نمائندے مقررہ جگہ پر جمع ہوئے۔ صاحب صدر نے کرسی صدارت سنبھالی اور کارروائی کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا۔

ابھی کارروائی شروع ہی ہوئی تھی کہ گجرات کے نمائندے نے صاحب صدر سے اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دی تو اس نمائندے نے کہا کہ کیا ہم سب نمائندوں کو اپنی مجالس کی ہدایات کو بدل کر ووٹ دینے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ اس پر صاحب صدر نے جواب دینا چاہا، لیکن صاحبزادہ مرزانا صاحبہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نمائندوں کو اپنی مجالس کی ہدایات کے بدلنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس پر گجرات کا وہی نوجوان تھا اور اس نے کہا کہ اگر نمائندوں کو اپنی مجالس کی ہدایات کے بدلنے کا حق حاصل نہیں ہے تو پھر یہ انتخاب محض ایک ڈھونگ ہے۔ کیونکہ مجالس کی ہدایات کے مطابق انتخاب کا نتیجہ تو افضل میں شائع ہو چکا ہے اور اس میں بتایا جا چکا ہے کہ مجالس کی اکثریت صاحبزادہ مرزانا صاحبہ کے حق میں ہے۔ اس کے بعد

اگر تو نمائندوں کو مجالس کی ہدایت کے بدلے کا حق ہو تو پھر اس انتخاب کا کوئی مقصد بنتا ہے۔ لیکن اگر نمائندے اپنی مجالس کی ہدایات کو بدلنے کے مجاز نہیں اور انہوں نے بھی اسی نمائندے کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ جس کے متعلق مجالس نے ہدایات دی ہیں تو پھر مجالس کی ہدایات کا نتیجہ تو اخبار میں شائع ہو چکا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ تھا کہ جو اطلاع بذریعہ خطوط پہنچ گئی تھی اور جو اخبار میں شائع بھی ہو چکی ہے اسی پر انتخاب کے نتیجہ کا اعلان کر دیا جاتا۔ لیکن یہ کیا دھاندلی ہے کہ مجالس کی ہدایات کے مطابق آپ نتیجہ اخبار میں شائع کر چکے ہیں اور اب ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم آؤ اور وہی فیصلہ کر جاؤ جو ششہر ہو چکا ہے۔ گجرات کے اس نوجوان کا یہ کہنا تھا کہ مختلف اطراف سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی اور چند خوشامدیوں اور وظیفہ خوار نوجوانوں کے سوا سب نے گجرات کے اس نوجوان کی حمایت کی۔ اب صدر کے لئے بڑی مشکل تھی۔ چنانچہ صاحبزادہ مرزا ناصر احمد پھرانے اور کہا کہ اس کا فیصلہ حضور یعنی میاں شاطر سیاست کریں گے۔ چنانچہ ایک شخص کو میاں صاحب کے پاس بھیجا گیا جو تقریباً نصف گھنٹہ کے بعد واپس آیا اور ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا کہ نمائندوں کو اپنی مجالس کی ہدایات بدلنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ انتخاب ہوا اور صاحبزادہ مرزا ناصر احمد ٹیلی آکسٹریٹ سے کامیاب ہو گئے۔ اس انتخاب میں جن لوگوں نے حق بات کہی تھی اور اٹھ کر تقریریں کی تھیں۔ ان کی ایک فہرست بنائی گئی اور انہیں بلیک لسٹ یعنی منافقین کی فہرست کا نام دیا گیا۔

انتخاب کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ شاطر سیاست نے ایک خطبہ پڑھا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ مجلس خدام الاحمدیہ کا صدر میں خود ہوں گا اور اس کا انتخاب نہیں ہوا کرے گا۔ لہذا کام کو چلانے اور اپنی مددگی غرض سے صاحبزادہ مرزا ناصر احمد کو نائب صدر نامزد کرتا ہوں۔ اس اعلان پر بہت سے لوگ چکرا گئے۔ لیکن بہت تھوڑے تھے جنہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ شاطر سیاست نے نوجوانوں کی اس مجلس کی صدارت کے فرائض حسب ذیل امور کی بناء پر خود سرانجام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

۱..... انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مجلس میں ان کے صاحبزادے کی مخالفت شروع ہو چکی ہے۔

۲..... وہ خوب سمجھتے تھے کہ اگر بروقت قدم نہ اٹھایا گیا تو ان کا صاحبزادہ آئندہ سال کے انتخاب میں ناکام ہو جائے گا اور اس طرح اس کی بنی بنائی ساکھ ختم ہو جائے گی۔

۳..... انہیں معلوم تھا کہ ان کا صاحبزادہ ایک بار بھی انتخاب میں شکست کھا گیا تو آئندہ جانشینی کے لئے اس کے تمام مواقع ختم ہو جائیں گے۔

۳..... ان کو علم تھا کہ میرے صاحبزادے میں ایسی کوئی اہلیت نہیں جس کے ذریعہ وہ مجلس میں اور اسی طرح جماعت میں مقبول خاص رہے۔ لہذا ان کے نزدیک یہ انتخاب نتائج کے اعتبار سے دور رس تھا۔ چنانچہ ضروری تھا کہ اس بنیاد کو ہی ختم کر دیا جاتا جو ان کے صاحبزادے کے لئے خطرناک تھی۔ نہ رہے ہانس اور نہ بچے ہانسری۔ چنانچہ یہی ہوا کہ انتخاب کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب صاحبزادہ ناصر احمد کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہو گئی اور وہ مجلس خدام الاحمدیہ کا رکن نہیں رہ سکتا تھا تو میاں صاحب نے شفقت پوری اور ذاتی مصلحت کے پیش نظر اپنے بیٹے کو مجلس انصار اللہ کا صدر بنا دیا اور مولوی عبدالمنان عمر کو بھی جو ابھی حرز انا ناصر احمد سے عمر میں چھوٹے ہی تھے زبردستی مجلس انصار اللہ میں شامل کر دیا تاکہ انہیں مجلس خدام الاحمدیہ کا نائب صدر نہ بنانا پڑے۔ کسی نے میاں محمود احمد سے عرض کیا۔ ”حضور“ مولوی عبدالمنان عمر ابھی چالیس سال کے نہیں ہوئے۔ لہذا مجلس انصار اللہ میں وہ کیسے ہو گئے؟ تو میاں صاحب نے بڑے غصے میں آ کر جواب دیا۔ ”منان کی عمر کتنی ہے یہ میں بہتر سمجھتا ہوں یا تم۔“ میاں صاحب کا یہ بدل جواب سن کر استفسار کرنے والا نوجوان خاموش ہو گیا اور شاطر سیاست نے اپنے دوسرے بیٹے کو مجلس خدام الاحمدیہ کا نائب صدر بنا کر رکھ دیا۔

کئی سال بیت گئے اور آخر نو سال کے بعد شاطر سیاست پر فالج کا حملہ ہوا اور انہیں اپنی شیخ حیات گل ہوتی دکھائی دی۔ موت کا فرشتہ مسکراتا ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تو بہت گھبرائے۔ گھبراہٹ کے عالم میں انہیں اپنے اہل و عیال کا خیال آیا گیا۔ اتنا بڑا خاندان، سات بیویوں کی اولاد، چار بیویاں زندہ۔ آخر کا کیا بنے گا۔ اگر خلافت کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی تو یہ بنانا یا کھیل بگڑ جائے گا۔ سکول ہیں، کالج ہے، ہسپتال ہیں، لائبریریاں ہیں، انجمن ہے۔ آخر یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کوئی غیر اس کے اٹھا رکھائے گا۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں صدر انجمن احمدیہ ہی کی ہیں۔ لیکن انجمن والے کون ہیں۔ اجارہ داری تو اپنی ہی ہے۔ ہر چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم جیسے چاہتے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں آنکھیں بند کرتے ہی اگر کسی غیر کے ہاتھوں میں چلی گئیں تو بہت برا ہوا گا۔ لہذا میرا جانشین میرے بیٹے ہی کو ہونا چاہئے اور پھر میں نے ساری زندگی جماعت میں اس کا ایک مقام پیدا کرنے کی سعی و جہد کی ہے۔ وہ تقریر نہیں کر سکتا۔ جماعت میں سینکڑوں اشخاص اس سے بہتر تھے۔ لیکن میں نے ہمیشہ اسے جلسہ سالانہ پر تقریر کے لئے وقت دیا۔ جماعت کے اچھے اچھے عہدوں پر اس کو فائز کیا اور صدر انجمن کا پہلے کوئی صدر نہ تھا۔ صرف اس کو اس کا صدر بنانے کے لئے میں نے صدارت کا عہدہ بھی

جاری کیا اور اس کا پہلا صدر اسی کو بنایا۔ تعلیم الاسلام کالج کا پرنسپل بھی اسی کو بنایا تاکہ وہ نوجوانوں پر مسلط رہے اور نوجوانوں میں اس کا اثر و رسوخ پیدا ہو۔ حالانکہ جماعت میں اس سے زیادہ قابلیت رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ میں نے آج تک اس کے لئے جس قدر تنگ و دوکی ہے اور جس غرض کے لئے کی ہے اگر میری زندگی کے بعد وہ خلیفہ نہ بن سکا تو میری زندگی بھر کی آرزو پوری نہ ہو سکے گی اور یہ ساری جائیداد کسی دوسرے کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اور اہل و عیال کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی۔ یہ خیال آتے ہی اپنے صاحبزادے کو بلایا اور حال دل سنایا۔ صاحبزادے نے بتایا کہ اہا حضور صرف چند لوگ جماعت میں میرے مخالف ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے بعد کسی کی طرف سے مخالفت کا خدشہ ہے تو انہی چند اشخاص سے ہے۔ اگر اس وقت انہیں جماعت سے نکال دیں تو میرا سارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ شاطر سیاست نے کہا وہ کون ہیں۔ مجھے بتاؤ میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ فہرست منگوائی گئی جو ۱۹۳۸ء میں مجلس خدام الاحمدیہ کے انتخاب کے وقت انتخاب کی دھاندلی کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کی مرتب کی گئی تھی اور ایک سو چھی سبھی سکیم کے تحت فتنہ منافقین کا ٹیگل بجا دیا گیا اور اس کا آغاز اس طرح کیا۔

شاطر سیاست نے اپنے اخبار الفضل میں لکھا کہ: ”ایک شخص اللہ رکھا ہے جو میری جماعت میں فتنہ پھا کر رہا ہے۔ وہ پیغامیوں یعنی لاہوری احمدیوں سے ملا ہوا ہے اور ان کے ایماء پر جماعت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔“ اس کے برعکس خلافت مناب نے اللہ رکھا سے متعلق خود یہ تسلیم کیا ہے اور ان کے گواہوں نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ وہ شخص درویش صفت ہے۔ چنانچہ الفضل مورخہ ۲۹ اگست ۱۹۵۶ء میں ایک گواہ لکھتا ہے: ”مجھے اس کی شکل کی طرف دیکھتے ہی کچھ نفرت ہی ہو گئی۔“

پھر شاطر سیاست خود فرماتے ہیں: ”اللہ رکھا جیسا ڈیٹیل آدی جس کے سپرد کوئی اہم کام نہیں سوائے اس کے کہ بعض گھرانوں میں چڑا اسی کا کام کرتا ہے۔“

(افضل مورخہ ۳ جولائی ۱۹۵۶ء)

ایک ایسا شخص جس کی شکل ہی کو دیکھ کر نفرت ہو جائے جو بقول میاں صاحب گھنیا ہو اور جس کے سپرد کوئی اہم کام کیا ہی نہیں جاسکتا۔ اس شخص کا نام لے کر ”فتنہ منافقین“ کا اعلان کیا گیا اور اس قدر دوا دیا گیا کہ ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی۔ ”مجھے اللہ رکھا قتل کرنا چاہتا ہے وہ میری جماعت میں فتنہ پیدا کر رہا ہے۔“

اس بات سے تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ رکھا درویش سے اس قسم کے

انتخاب کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی۔ جس کا خود شہر سیاست نے بھی اقرار کیا ہے۔ اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میاں صاحب نے سارے ہنگامے کو اللہ رکھا کے نام کیوں منسوب کیا تو اس کے جواب میں میاں صاحب کا دوسرا قدم ملاحظہ ہو۔

جب افضل میں اللہ رکھا سے متعلق شور مچا کر دیا گیا اور احباب جماعت کو ہوشیار رہنے کی تلقین ہو چکی تھی تو پھر چوہدری غلام رسول ایم۔ اے سٹوڈنٹ کا نام لیا اور اس کے ساتھ گجرات کے ایک مخلص احمدی خاندان کے تین نوجوانوں کا ذکر شروع کر دیا۔ (یاد رہے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ۱۹۳۸ء میں مجلس خدام الاحمدیہ کی صدارت کے انتخاب کے وقت انتخابی قواعد میں دھاندلی کے خلاف آواز بلند کی تھی اور ان کی ایک فہرست مرتب کر لی گئی تھی) اور پھر آہستہ آہستہ اس فہرست میں سے ہر شخص کا نام لے کر سب کو منافی قرار دے دیا اور ان پر الزام یہ عائد کیا کہ انہوں نے اللہ رکھا کو روپے دے کر میرے (یعنی میاں محمود احمد صاحب) قتل کے لئے کوہ مری بھیجا تھا۔ (لعنت اللہ علی الکاذبین)

چنانچہ لکھا کہ: ”گجرات کے امیر جماعت احمدیہ عبدالرحمان خادم کو یقیناً اس کا علم ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ اس شخص کو کوہاٹ کرایہ دے کر بھوانے والوں میں دو ان کے اپنے بھائی شامل تھے اور تیسرا ان کا بہنوئی راجہ علی محمد صاحب کالڑکا تھا۔“ (افضل مورچہ ۲۹ جولائی ۱۹۵۶ء)

چونکہ شہر سیاست کے اس الزام کی حقیقت میں (یعنی مصنف) خود بھی جانتا ہوں اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق وضاحت کر دی جائے۔ جہاں تک میاں صاحب کے اس الزام کا تعلق ہے۔ یہ الزام اتنا غلط، اتنا بیہودہ اور اتنا خلاف واقعہ ہے کہ تھوڑی سی انسانیت، انصاف اور خوف خدا رکھنے والا شخص ایسی کذب بیانی نہیں کر سکتا۔ میرے چار بھائی ہیں۔ سب سے بڑا بقول میاں صاحب ان کا قلمس مرید ہے۔ باقی تین بھائیوں میں سے دو پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ رکھا کو روپیہ دے کر کوہاٹ بھیجا۔ اب میاں صاحب نے یہاں نام نہیں لئے اس لئے علیحدہ تینوں سے متعلق وضاحت کر دینا ضروری ہے اور اسی سے میاں صاحب کی صداقت کی قلمی کھل جائے گی۔ میں اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں۔ ریوہ میں ۱۹۳۸ء کے انتخابات میں گجرات کے جس نوجوان نے اٹھ کر سوال کیا تھا وہ میں ہی تھا۔ اس انتخاب میں میاں صاحب کی دھاندلی سے متفرق دل، مزید متعزز ہوا اور پھر اس کے بعد اس جماعت سے مکمل علیحدگی اختیار کر لی اور پورے آٹھ سال سے اس جماعت میں نہ چندہ دیا اور نہ ہی ان کی کسی کارروائی میں حصہ لیا۔ بلکہ مکمل طور پر چپ سادھی۔ لیکن میاں صاحب نے جب آٹھ سال

کے بعد اپنی منافقت کا ہنگ بجا یا تو اسی فہرست کے مطابق میرا نام بھی اخبار میں شائع کر دیا۔ حالانکہ میں نے ادب میرے حتم کردہ ہالہا نہیںوں نے اللہ پر کھما کی صورت بھی نہ دیکھی تھی۔ بلکہ کبھی اس کا نام بھی نہ سنا تھا۔ لیکن ہمارے نام محض اس لئے شائع کئے گئے کہ ۱۹۳۸ء کی فہرست میں ہمارے نام تھے اور ہمیں مہماں صاحب اور ابن کا صاحبزادہ جانشینی کے مسئلہ میں راستے کا خار تصور کرتے تھے۔ ”میں نام خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور جو مالک یوم الدین ہے اور جسے چاہے موت اور جس کو چاہے زندگی بخشا ہے اور جس کی رضا کے خلاف ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا اور جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں اور جنہیوں کا کام ہے کہ میں نے اللہ پر کھما کر کو نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کا نام سنا تھا اور نہ ہی اس کے کہنا سبب میں میرا ہاتھ تھا اور نہ ہی کسی سازش کا مجھے وہم و گمان بھی تھا اور مجھ پر یہ افترا مایہ کی کذب بیانی ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور یہ کذب بیانی حضور ہی کا حصہ ہے۔“

یہی حال میرے دوسرے بھائیوں اور ساتھیوں کا ہے۔ اب اس حتم کردہ ہالہا حلف کے بعد بھی اگر شاطر سیاست یا ان کا کوئی دیکھنے خوار یہی دعویٰ کرے کہ ہم میں سے کسی کا اللہ پر کھما یا اس قبضہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا تو ہم سب اس سلسلہ میں ان کے ساتھ مہملہ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ اپنے اخلاق پر مہملہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی خلافت کی صداقت پر مہملہ کرنے سے گریز ال ہیں تو چلئے مہملہ اسی بات پر ہو جائے کہ جو الزامات انہوں نے موجودہ سازش میں (جو ان کی اپنی پیدا کردہ ہے) ہم پر عائد کئے ہیں۔ وہ درست ہیں تو پھر دنیا خود دیکھ لے گی کہ ان کے دعاوی اور شاطرانہ چالیں کیا ہیں۔

اگر وہ اس بات پر بھی مہملہ کرنے سے گریز کریں تو پھر میں ان پر یہ الزام عائد کرتا ہوں کہ موجودہ ”فتنہ منافقین“ خود ہی کا پیدا کردہ ہے۔ اب ان کا فرض ہے کہ وہ اس الزام کے جواب میں باصوبہ طور پر مجھے دھت مہملہ دیں۔ لیکن اگر وہ حسب معمول چپ سادہ لیس تو میں ہی انہیں اس موضوع پر بھی مہملہ کی دعوت دیتا ہوں۔ لیکن جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ فتنہ خود کھڑا کیا اور محض اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانے کی غرض سے یہ سازش کی ہے۔ ورنہ عظیم مولوی نور الدین (خلیفہ اول) کی اولاد کو خارج کرنا اس بات کا تین ثبوت ہے کہ انہوں نے ہر اس شخص کو جماعت سے نکالنے کی کوشش کی جو ان کے نزدیک صاحبزادہ مرزا ناصر احمد کی خلافت کی راہ میں دیوار تھا۔ یا جس کے متعلق انہیں شبہ تھا کہ وہ جانشینی کے مسئلہ پر ان کے صاحبزادے کی مخالفت کرے گا۔ چنانچہ انہی لوگوں کو جماعت سے خارج کرنے کا اعلان کیا گیا۔ جنہوں نے

۱۹۳۸ء میں مجلس خدام الاحمدیہ کے انتخاب کے وقت انتخابی و حائد ملی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ میں نے ۱۹۳۸ء ہی میں اس جماعت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور عملاً اس جماعت سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد آج تک نہ چندہ دیا اور نہ ہی اس جماعت کی کسی کارروائی میں حصہ لیا۔ بلکہ علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لیکن آٹھ سال کے بعد جب شاطری سیاست پر فالج کا حملہ ہوا اور پرانی فہرست نکالی گئی تو چونکہ اس میں میرا نام بھی تھا۔ لہذا بغیر سوچے سمجھے اسے بھی شائع کر دیا اور یہ نہ سوچا کہ اس شخص کا جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔

پس اس حقیقت کے ثبوت میں کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں کہ شاطری سیاست نے اپنے خاص مقصد کے حصول کی غرض سے یہ سازش کی اور اس کو دوسروں کے گلے کا ہار بنا کر جماعت کے اندھی عقیدت رکھنے والوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ ربوہ کا یہ سازش مآب ردیاد کشف کا علم لہرا کر ہر لمحہ نئی بد عنوانیوں کو جنم دیتا ہے اور بھولے بھالے شریف لوگ اسے پھر بھی تقدس مآب ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ اے کاش انہیں کوئی بتادے کہ۔

یزداں یزداں ورد زباں مقصد لیکن راہ زنی
ماتھے پر نقش محراب دل میں جتوں کی جلوہ گری

الزامات

دور حاضر کے اس عظیم سیاسی خطرے کو ہانے جب سے مسند خلافت سنبھالی ہے اس پر اعتراضات و الزامات کی بارش اسی نسبت سے ہوتی رہتی ہے جس نسبت سے اس پر ردیاد کشف نازل ہوتے رہتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے دل کی باتیں ان کے منہ پر کہہ دیں اور جنہیں منافق کا خطاب دے کر جماعت سے خارج کر دیا گیا۔ لیکن اس جماعت میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو شاطری سیاست پر اعتراضات اپنی فحی مجالس میں کرتے ہیں۔ لیکن اعتراضات کرنے والوں میں سے جن کا علم ہو گیا وہ تو منافق قرار پائے۔ باقی لوگ معترض تو ہیں لیکن ابھی میاں صاحب کی چشم عتاب سے محفوظ ہیں جو لوگ منافق قرار دیئے گئے ان کے اعتراضات اور جو ابھی منافق قرار نہیں پائے ان کے اعتراضات و الزامات چونکہ مختلف نہیں بلکہ نوعیت کے اعتبار سے قدر مشترک ہیں۔ اس لئے انہیں درج کیا جاتا ہے۔

..... میاں محمود حلف اٹھائیں کہ انہوں نے کم از کم خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ہی زنا جیسے قبیح فعل کا ارتکاب نہیں کیا؟

- ۲..... وہ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تھے تو ان کی جائیداد صرف تھی۔ لیکن یہ سندھ کے مرہٹے جو ان کی ذاتی ملکیت ہیں کہاں سے نازل ہوئے ہیں؟
- ۳..... بیت المال جو لوگوں کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی میں سے چندے لے کر جمع کیا جاتا ہے۔ اس میں سے میاں صاحب ذاتی اغراض کے لئے جو روپیہ لیتے ہیں اس کا حساب کیا ہے؟ اور وہ روپیہ کی صورت میں لیا جاتا ہے؟
- ۴..... وہ جو روپیہ اپنے اعزاء پر صرف کرتے ہیں وہ بیت المال کے روپے سے کیوں دیا جاتا ہے اور کیا بیت المال سے روپیہ لے کر اپنے رشتہ داروں کو کارخانے یا ٹرانسپورٹ چلانے کی غرض سے دے دینا جائز ہے؟
- ۵..... انجمن کے اداروں کے تمام بڑے عہدے اپنے بیٹوں اور اپنے رشتہ داروں کو کیوں دیئے جاتے ہیں اور اس کے لئے اہلیت و قابلیت کا معیار پیش نظر کیوں نہیں رکھا جاتا؟
- ۶..... جلسہ سالانہ پر کیا جماعت میں کوئی بہترین مقرر نہیں۔ گرہیں تو پھر اپنے صاحبزادے مرزا ناصر احمد کو ہر سال تقریر کے لئے وقت کیوں کیا جاتا ہے۔ جب کہ تقریر کرنے میں ابھی وہ طفل کتب ہی ہے؟
- ۷..... تعلیم الاسلام کالج کے پرنسپل کے عہدہ کے لئے کیا جماعت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو چار فقرے انگریزی میں بول سکتا ہو اور جو اس عہدہ کے لئے موزوں ہو اور کیا میاں محمود کے نزدیک جماعت میں ان کے صاحبزادے کے سوا کوئی دوسرا شخص اس غرض کو پورا کرنے کو نہیں ہے؟
- ۸..... کیا ان کے نزدیک تنقید ناجائز ہے؟ اگر جواب نفی میں ہو تو پھر وہ تنقید برواشت کیوں نہیں کرتے؟
- ۹..... سرور کائنات ﷺ اور خلفائے راشدین کی عزت و احترام اور اس کی حفاظت کرنا ہر شخص کا فرض ہے۔ لیکن وہ دورانِ خطابت ان کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتے اور جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔
- ۱۰..... اپنا جو مقام وہ بیان کرتے ہیں یہ مقام تو انبیاء کا بھی نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء سے بھی ارفع اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ (نحوذ باللہ)
- ۱۱..... میاں صاحب کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ حالانکہ یہ بات واقعات کے خلاف ہے۔ کیونکہ خلیفہ انسانوں کے دونوں سے مسند خلافت سے اتر بھی سکتا ہے۔ لیکن شاطر سیاست کہتے ہیں مجھے کوئی معزول نہیں کر سکتا۔

۱۲..... اپنے رویا و کشف کو جو مقام وہ دے رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ رویا و کشف کو وحی نبوت کا درجہ دینا اور اپنے ہر کشف سے اپنی صداقت ثابت کرنا قطعاً ناجائز اور خود مرزا غلام احمد کی ان تعلیمات کے منافی ہے جو رویا و کشف اور وحی کا الہام سے متعلق انہوں نے حقیقت الوحی میں درج کی ہیں۔

۱۳..... ان الزامات و اعتراضات کا جواب دینا خلافت مآب کے لئے اشد ضروری بلکہ فرض ہے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ جو شخص بھی ان کی ذات پر اعتراضات کرتا ہے وہ اسے منافق کہنے لگتے ہیں اور جواب دینے کی بجائے اسے جماعت سے خارج کر دیتے ہیں۔

یہ وہ اعتراضات ہیں جو شاطر سیاست پر ہر لمحہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی طرف سے عتاب کے سوا کوئی جواب نہیں ملتا۔ چنانچہ مولودہ فقہہ منافقین میں بھی ان کا مسلک بھی ہے اور انہوں نے جب اس سازش کا آغاز کیا تو اپنے خوشامدیوں سے اپنے مطلب کی شہادتیں لکھوانی شروع کر دیں اور خوشامدیوں نے بھی شہادت دینے میں کمال کر دیا اور اس قدر دروغ گوئی سے کام لیا کہ دروغ گوئی کے گذشتہ ریکارڈ بھی مات کر دیئے اور اپنے پیر کو بھی آئینہ دکھا دیا۔ آئیے اب ذرا۔

قیس کو دیکھ کے لعلی کا تصور کر لیں

گواہ اور ان کی شہادتیں

خلافت مآب نے جب بھی کبھی کوئی فقہہ پیا کیا خود ہی کیا اور اسے منسوب، دوسروں کے نام کر دیا اور اس کے لئے جو گواہ پیش کئے ان میں اکثریت خوشامدی مریدوں پر مشتمل ہے اور یا وہ ہیں جن پر ہادو ڈال کر بیانات لئے گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے محض شاطر سیاست کو خوش کرنے کی غرض سے بیان گھڑے اور لگانے میں ڈال کر ارسال کر دیئے۔ ذیل میں چند ایک گواہوں اور ان کی شہادتوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے جن سے ظاہر ہے کہ یہ سازش شاطر سیاست کی خود ساختہ ہے اور گواہوں کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو یا تو شاطر سیاست کے خلاف اپنی فحی مجلسوں میں خود بھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یا وہ لوگ ہیں جو اخلاقی اعتبار سے کوئی بلند مقام نہیں رکھتے یا ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں محض خوشامد مقصود تھی یا وہ بیان دینے کے لئے مجبور تھے۔

افضل مورخ ۱۸ اگست ۱۹۵۶ء میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک شخص کا بیان شائع ہوا ہے۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی معروف شخصیت نہیں ہے اور اس نے جو بیان دیا ہے اس میں سے دروغ گوئی کی بو آتی ہے۔ لکھا ہے: ”مجھے اللہ رکھا کو دیکھتے ہی نفرت ہو گئی اور اس کے

بیان پر کہ مجھے حضور نے معاف فرمادیا ہے اور بھی نفرت ہوگئی۔“ (افضل مورچہ ۱۸ اگست ۱۹۵۶ء)

اس بیان میں گواہ نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسے اللہ رکھا کو دیکھتے ہی نفرت

ہوگئی اور دوسری اس کے بیان پر کہ حضور نے مجھے معاف فرمادیا ہے اور بھی نفرت ہوگئی۔ جہاں تک

بیان کے پہلے حصے کا تعلق ہے۔ گواہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ رکھا کو دیکھتے ہی نفرت ہوگئی۔ نفسیاتی تجزیہ

کیا جائے تو اس فقرے کے رقم کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ یہ فقرہ محض خلافت

مآب کو خوش کرنے کی غرض سے لکھا گیا ہے اور دوم یہ کہ چونکہ نفرت کرنے کا تعلق انسان کے جذبہ

محموسات سے ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ اسے ایک نامعلوم شخص کو دیکھتے ہی نفرت ہوگئی۔ بیان کا

یہ حصہ قابل غور ہے۔ کیونکہ جب اللہ رکھانے یہ کہا تھا کہ مجھے حضور نے (شاطر سیاست) معاف

کر دیا ہے تو نفسیاتی طور پر گواہ کے دل میں جذبہ عقیدت پیدا ہونا چاہئے تھا نہ کہ جذبہ نفرت؟

لیکن اس بات کی دلیل ہے کہ گواہ خوشامدی ہے وار اس لئے شاطر سیاست کو خوش کرنے کی غرض

سے یہ سطور لکھی ہیں۔ ورنہ اس کے دل میں نہ ہی نفرت پیدا ہوئی تھی اور نہ ہی اس کا اظہار کیا تھا۔

۲..... افضل مورچہ ۲۶ اگست ۱۹۵۶ء میں ایک اور گواہ رقمطراز ہے: ”پھر اس نے

(اللہ رکھانے) بہت سی باتیں کیں کہ کس طرح وہ مسجد میں رہے۔ لیکن میں نے اسے مسجد میں

رہنے نہ دیا اور وہ نماز سے پہلے اپنا بستر اٹھا کر چلا گیا۔ پھر میں نے دوستوں کو ہدایت کر دی کہ مسجد

میں اس کو آنے نہ دیا جائے۔“

اس گواہ کے بیان میں بھی قصص ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رکھانے مسجد میں رہنا چاہا۔

لیکن اس نے (گواہ نے) اسے مسجد میں رہنے نہ دیا اور دوسری یہ کہ دوستوں کو بھی یہ ہدایت کر دی

کہ وہ بھی اسے مسجد میں نہ آنے دیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کسی کو مسجد میں رہنے سے

روکنا بد اخلاقی ہے اور جو شخص اتنی بڑی بد اخلاقی کر سکتا ہے اس سے جھوٹی شہادت یا جھوٹا بیان

دینے کی معمولی بد اخلاقی کی توقع بھی کی جاسکتی ہے۔ باقی رہائیان کا دوسرا حصہ تو جب اللہ رکھا مسجد

سے چلا ہی گیا تھا تو دوسرے دوستوں کو یہ تلقین کرنے کی ضرورت کیسے پڑی کہ اسے مسجد میں نہ

آنے دیں۔ کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ شہادت دینے والا خوشامد کے موڈ میں ہے۔

۳..... افضل ۲۸ اگست ۱۹۵۶ء میں ایک شخص کا بیان شائع ہوا ہے۔ جس میں اس نے لکھا

ہے کہ ”جب اللہ رکھا میرے سامنے ہی آیا تو مجھے اس سے شدید نفرت ہوگئی۔ یہ الفاظ لکھ کر گواہ نے

پھر لکھا ہے کہ اللہ رکھانے میرے ساتھ فلاں بات بھی کی اور فلاں بھی۔“ یہ عجیب منطقی ہے کہ جس

شخص کو دیکھتے ہی دل میں نفرت پیدا ہوگئی تھی۔ پھر اس کی تمام باتیں کیسے سن لیں اور جس سے

نفرت پیدا ہوئی اس نے کیسے سنا دیں اور پھر شہادت دینے والے کو جب شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی تو اس نے اللہ رکھا کی تمام باتیں کیوں نہیں؟ اس بیان سے تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں ذرہ بھر صداقت بھی موجود نہیں۔

۳..... ۲۹ اگست ۱۹۵۶ء کے الفضل میں چند اشخاص کا حسب ذیل مشترکہ بیان شائع ہوا ہے: ”ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اللہ رکھا کا نام نہیں سنا تھا۔ محض ایک احمدی سمجھ کر اس کو دورات رہنے دیا۔“

شاطر اعظم کے ان چند گواہوں کی یہ شہادت اہل خرد کے لئے عبرت ناک ہے اور اس میں ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ پہلا جھوٹ یہ کہ وہ دورات ان کے پاس رہا اور اس کے باوجود ان کے کالوں نے اس کا نام نہ سنا اور نہ ہی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ اس جملے میں آج تک کے الفاظ قابل غور ہیں۔ ان گواہوں کی یہ شہادت ۲۹ اگست کے الفضل میں شائع ہوئی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انیس یا بیس اگست کو یہ تحریر لکھی ہوگی۔ لیکن الفضل میں شاطر سیاست نے اللہ رکھا کا نام ۲۵ جولائی سے لیتا شروع کر دیا تھا اور جماعت کے بچے بچے کی زبان پر اللہ رکھا کا نام تھا۔ مقام حیرت ہے کہ ان شہادتوں کے کالوں میں ایک ماہ تک اللہ رکھا کا نام نہیں پڑا۔ کیا کوئی ذی فہم شخص اسے تسلیم کر سکتا ہے؟

پس یہ اور اسی قسم کے دوسرے گواہوں کے بیانات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خلافت مآب نے جن گواہوں کی شہادتوں پر نکیہ کیا ہے وہ شہادتیں بڑی کمزور ہیں اور ان کے ہر لفظ سے قلعہ اور کذب بیانی کی بو آتی ہے۔ درحقیقت شاطر سیاست نے ایک غلط بات کا سہارا لیا تھا اور اپنی اس سازش کو حقیقت ثابت کرنے کے لئے اپنے خوشامدیوں سے شہادتیں حاصل کی تھیں۔ پس جو شہادتیں جھوٹ کو بیخ ثابت کرنے کی غرض سے حاصل کی گئی تھیں۔ ان کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔

ان شہادتوں کا اصل مقصد تو مریدوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا اور معتزمین کو جماعت سے خارج کرنے کے لئے کسی بہانہ کی ضرورت تھی۔ بہانہ یہ بنایا کہ ان لوگوں نے میرے نقل کا منصوبہ بنایا ہے اور اس بہانے کی تقویت کے لئے شہادتیں شائع کی گئیں۔ تاکہ کسی شخص کو بھی یہ احساس نہ ہونے پائے کہ اس سازش سے انہیں کیا مقصود ہے۔ چنانچہ اندھی عقیدت رکھنے والوں کی توجہ کو دوسری طرف مبذول کرا کے اپنے بیٹے کے لئے راہ ہموار کر لی اور خود اپنے مریدوں کی موٹی عقل پر مسکرائے۔

مذہب فریب بن چکا ہے بے بس جہاں کا خدا ہے
 غرض گواہوں نے آمریت مآب کی خوشی کے لئے دروغ گوئی اور کذب بیانی سے
 دریغ نہ کیا اور جو جی میں آیا کہہ دیا اور بعض باتوں میں تو اخلاقی اقدار کی وہ مٹی پلید کی کہ انہیں رقم
 کرتے ہوئے صفحہ قرطاس پر قلم رک رک جاتا ہے۔ لیکن شاطر بے مثل اس قسم کی بد اخلاقی پر داد
 تحسین دیتے ہیں اور شاہپاش کے ڈوگرے برستے ہوئے خوشامدی گواہوں کی پیٹھ ٹھونکتے اور اس
 بد اخلاقی کو مؤمنانہ فراسٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو ایک گواہ کا بیان اور اس پر شاطر
 سیاست کا تبصرہ۔ گواہ رقم قراڑ ہے: ”اللہ رکھا ایک احمدی سلطان احمد بسرا کے پاس سرگودھا گیا اور
 اسے کہا کہ ملازمت دلوادو۔ جس پر اس احمدی نے اللہ رکھا سے کہا قادیان میں تم جو کچھ کر چکے ہو وہ
 ابھی ہمیں بھولا نہیں۔ اس پر اللہ رکھانے جواب دیا۔ مجھے معافی مل چکی ہے۔ اس پر وہ احمدی پھر
 بولا لاکھ معافی ملے تمہاری کارکردگی بھلائی جانے والی نہیں۔“ (الفضل ۱۸ اگست ۱۹۵۶ء)

گواہ کے مندرجہ بالا بیان کے مطابق اللہ رکھا مجرور اکساری سے کہتا ہے کہ مجھے میری
 خطا کی معافی مل چکی ہے۔ لیکن وہ احمدی اس کا جواب دیتا ہے کہ تمہیں لاکھ معافی ملے تمہارا قصور
 بھلا یا نہیں جا سکتا۔

اس احمدی کا یہ جواب غیر مؤمنانہ ہے۔ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان سے
 کوئی غلطی سرزد ہو جائے۔ وہ معافی مانگ لے تو میں بھی اسے معاف کر دیتا اور اس کے گناہ کو نظر
 انداز کر دیتا ہوں۔ لیکن گواہ خدا سے بھی سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ شاطر سیاست کو اس بیان پر
 لکھنا چاہئے تھا کہ اس نے غیر مؤمنانہ حرکت کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن شاطر سیاست کا
 جواب ملاحظہ ہو۔ ”مؤمنانہ فراسٹ اسی کو کہتے ہیں۔ تعجب ہے کہ افضل کے بار بار اعلان کے
 باوجود یہی لوگ اس کے دھوکے میں آگئے۔ اگر اسی طرح مؤمنانہ فراسٹ سب لوگ استعمال
 کرتے تو یہ لوگ کسی کو دھوکا نہ دے سکتے۔“ (الفضل مورخہ ۱۸ اگست ۱۹۵۶ء)

گویا کسی کے گناہ کو یا غلطی کو معاف نہ کرنا شاطر سیاست کے نزدیک مؤمنانہ فراسٹ
 ہے اور غالباً اسی مؤمنانہ فراسٹ کا نام اخلاق ہے۔ جس کی نشر و اشاعت کے لئے آمریت مآب
 روز و شب مصروف ہیں۔

آزادی ضمیر

اسلام میں آزادی ضمیر کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے جتنی اہمیت دی جائے کم ہے۔
 اسلام نے اظہار رائے کی آزادی ہی پر اپنے تمام اعتقادات کی بنیاد رکھی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید

میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”لا اکراه فی الدین (بقدرہ: ۲۰۶)“ کہ دین میں جبر کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اسلامی نظریات و اعتقادات کی تمام تر بنیاد آزادی ضمیر پر ہی رکھی ہے اور نہ صرف زبان سے بلکہ انہوں نے اپنے اسوۂ حسنہ سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اسلام ایک زعمہ مذہب ہے اور اس کے زعمہ ہونے کی دلیل یہ نہیں کہ صرف زبان سے ہی اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے زعمہ ہونے کا ثبوت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اے مسلمانو! کسی بات کو جبر و تشدد کے ذریعہ منوانے کی بجائے محبت، اخوت اور نرمی سے منوانے کے طریق کار پر عمل کرو۔ کیونکہ اب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو جائے گی کہ جس میں عامۃ الناس ڈنڈے کی ضرب سے کوئی بات ماننے کی بجائے محبت و خلوص سے مانیں گے اور پھر خود سرور کائنات ﷺ کا زمانہ بھی ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا تھا کہ جس میں خلوص و محبت سے دنیا کو صراطِ مستقیم دکھانے کی ضرورت تھی۔ ظلم و تعدی، جور و استبداد اور قتل و غارت سے سعید رو میں گھیرائی ہوئی تھیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو حال اور مستقبل کے تمام حالات سے واقف ہے۔ عرب کے زمانہ حال اور دنیا کے زمانہ مستقبل کے تمام حالات کے پیش نظر دین میں اکراہ کو ناجائز قرار دیا اور مسلمانوں کو اخوت، محبت اور خلوص کے طریق کار سے دین محمد ﷺ کو پھیلانے اور توحید کو دنیا میں قائم کرنے کی تلقین کی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ محبت کے اظہار اور خلوص کے برتاؤ کا حکم دیا۔ وہاں اسی حکم میں اہل دین حقہ کو بھی اپنی تنظیم کے اندر اسی طریق کار پر عمل پیرا ہونے کا سبق دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے زمانہ میں مسلمانوں میں سے بعض کی سنگین خطاؤں کے باوجود ان کے قتل کے منصوبے نہیں بنائے گئے۔ ان کے والدین کو کہہ کر ملک بدر یا شہر بدر نہیں کروایا۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں سیکڑوں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ بعض مسلمانوں نے برسہا برس حضرت عمرؓ پر تنقید کی اور حضرت عمرؓ نے برا نہیں مانا۔ بلکہ ان کے الزامات کا جواب محبت اور خلوص سے دیا۔

لیکن اسلام کے اس واضح اصول کی موجودگی میں شاطر سیاست کے نظریات جدا خیالات الگ اور اعتقادات مختلف ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کو دھوکا دینا ہی اسلام اور اپنے مریدوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہی رضائے الہی ہے۔ چنانچہ جہاں وہ ایک سیاسی مطمح نظر رکھتے ہوئے مذہبی رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہاں وہ مذہب میں جبر کو جائز سمجھتے ہوئے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب میں جبر روا نہیں ہے۔ سمجھتے ہی طرح کہ جب وہ اپنی جماعت کو کسی کے خلاف اشتعال دینا چاہتے ہوں تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ احباب جماعت پر امن رہیں اور

اشتعال میں نہ آئیں۔ جس طرح ان کے اس حکم کا مطلب اشتعال میں آجانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب میں جبر روانہ نہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مذہب میں جبر روا ہے۔ میں اپنے اس استدلال کے جواز میں چند دلائل پیش کر کے ثابت کروں گا کہ سازش مآب اشارات و اعلانات میں جو باتیں کرتے ہیں۔ ان سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ مثلاً ان کے اخبار الفضل میں لکھا ہے: ”باقی رہی آزادی ضمیر تو مذہبی جماعتوں میں صرف جماعت احمدیہ ہی واحد جماعت ہے جو آزادی ضمیر کے اصول کو کلی طور پر تسلیم کرتی ہے اور عقیدہ کے طور پر مانتی ہے کہ اسلام کا اصول ”لا اکراہ فی الدین“ استناد سے ہے کہ مغربی جمہوری اصول اس کے پاسنگ بھی نہیں۔“

(الفضل مورہ ۶ ستمبر ۱۹۵۶ء)

مندرجہ بالا سطور میں جس بات کو اپنا عقیدہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر شاطر سیاست کا عملی طور پر بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہمیں ان کے عقیدے کی صداقت پر یقین کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر سیاست مآب کا عمل اس عقیدہ کے منافی ثابت ہو جائے تو مندرجہ بالا سطور کی قلعی کھل جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ شاطر اعظم اس عقیدہ پر صرف زبان ہی سے ایمان رکھتے ہیں۔ ورنہ ان کے دل میں اس عقیدہ کی عزت و احترام نہیں ہے۔

شاطر روڈیا و کسوف نے جب سے مسند خلافت پر قبضہ کیا ہے ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے ان پر کوئی اعتراض کیا ہو اور وہ منافق نہ گردانا گیا ہو۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جس کسی نے جب بھی خلافت مآب کے کارہائے نمایاں پر تنقید کا نشتر چلایا۔ انہوں نے یا تو اسے منافق قرار دے کر جماعت سے خارج کر دیا اور یا اسے اپنی خلافت کے لئے خارج سمجھ کر قتل کر ڈالا اور وہ ناقدین جنہوں نے جرأت سے کام لے کر حضور سے واہگاف الفاظ میں استفسارات کئے۔ انہیں طرح طرح سے اذیتیں پہنچائیں اور ان کی تطہیر اور رسوائی کے لئے تمام تدابیر اختیار کیں۔ ان کے رشتہ داروں کو ان سے تعلقات رکھنے سے روک دیا اور اگر بس چلا تو ان کے بیوی بچے چھین لئے اور اس طرح ان کی زندگیاں اجرن بنا دیں۔

خلافت مآب کے زیر خلافت دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور دوسرے وہ جو احمدی باپ کے گھر پیدا ہوئے۔ جہاں تک پہلی قسم کے مریدوں کا تعلق ہے۔ چونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس جماعت سے وابستہ کیا تھا۔ اس لئے ان پر تو عقیدہ کے اعتبار سے جبر نہیں ہوتا بلکہ ان پر جبر کا انداز دوسرا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پیدائشی طور پر خلافت مآب سے وابستہ ہیں۔ ان پر جبر کا یہ عالم ہے کہ انہیں بڑی مجبوری اور بے بسی کے

عالم میں شاطریا سے وابستہ رہتا پڑتا ہے۔ حضور کے اسی فی صد نو جوان مریدوں کے اعتقادات حضور پر نور سے محض اس لئے وابستہ ہیں کہ ان کے باپ حضور کے مرید ہیں۔ ورنہ اگر ان کے والدین آج انہیں آزادی ضمیر دے دیں تو اسی فی صد نو جوان حضور سے عدم وابستگی کا اعلان کر دیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں آئی ہے کہ اگر کسی نو جوان کو حضور سے ذرا سا اختلاف بھی پیدا ہوا ہے تو حضور نے باپ کو حکم دے کر اسے جائیداد سے محروم کر دیا اور یا اسے جائیداد سے محروم کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی نو جوان طالب علم ہو اور وہ حضور سے عدم وابستگی کا اعلان کرنا چاہے تو اس کے لئے مشکل یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے اور سکول یا کالج کا خرچ بند کر دیا جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے مجبوراً حضور کے قدموں میں نجات سمجھنے کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اس حقیقت کے جواز میں سینکڑوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن دور جانے کی ضرورت نہیں۔ میں خود اس مصیبت سے دو چار ہوں اور اس کا زندہ ثبوت ہوں۔ لہذا میں قارئین کی معلومات کے لئے تھوڑی سی حقیقت حال صفحہ قرطاس کی نذر کئے دیتا ہوں۔

”لا اکراہ فی الدین“ کے علمبرداروں سے متعلق ایک واقعہ بیان کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حلف اٹھایا جائے تاکہ ہم پر حضور کی طرف سے کذب بیانی کے الزام کی گنجائش نہ رہے۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم . اشہد ان لا الہ الا واشہد ان محمدا عبداہ ورسولہ“ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو واقعہ میں ابھی رقم کروں گا اس میں ایک ذرہ بھر بھی جھوٹ نہیں ہوگا اور میں واقعہ کو من و عن تحریر کروں گا۔“

والد احمدی تھے اور ساری عمر انہوں نے اسی جماعت میں گزار دی۔ طالب علمی کے زمانہ میں ہی مجھے حضور پر نور اور ان کے چند خوشامدیوں اور چند ذمہ دار عہدہ داروں سے ان کی بدعنوانیوں کی بناء پر شدید نفرت ہو گئی تھی اور میں اس بات پر اعلانیہ اعتراض کر دیتا تھا جسے غلط سمجھتا تھا۔ میرے بڑے بھائی کو جو حضور کا مخلص مرید تھا۔ جب ان خیالات کا علم ہوا تو اس نے بعض ذاتی رنجشوں کا بدلا چکانے کی غرض سے والد کو میرے خلاف بھڑکایا۔ چنانچہ جب انہیں بلا واسطہ ان خیالات کا علم ہوا تو بڑے بھائی کی سکیم کے مطابق اس عاجز سے وقتاً فوقتاً متحد تحریریں لکھوائی گئیں۔ جن میں یہ بھی لکھوایا کہ میں احمدی ہوں اور حضور پر نور کے قدموں میں نجات سمجھتا ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔ والد بزرگوار صاف الفاظ میں کہتے تھے کہ اگر تم یہ نہیں لکھو گے تو نہ کالج کا خرچ دیا جائے گا اور نہ ہی تمہیں گھر میں رہنے دیں گے۔ چنانچہ طالب علمی کے اس زمانہ میں مصلحت اسی

میں تھی کہ میں خلافت مآب کے مرید ہونے کا اقرار کر لیتا۔ سو جاہلیت کے اس زمانے میں مجھے ہر طرح سے جبراً حضور کی اطاعت گزاری کے لئے مجبور کیا جاتا رہا۔

اس واقعہ کے علاوہ بعض واقعات بڑے سنگین اور لرزہ خیز ہیں جن کے اظہار کے لئے دل بیتاب ہے اور قلم مضطرب اور وہ واقعات ایسے ہیں کہ جنہیں اگر میں بیان کروں تو ہر سننے والا دانتوں میں انگلیاں داب لے اور اس کی آنکھیں سادوں کی گھٹا کر طرح برسیں۔ لیکن ابھی ان واقعات کو منظر عام پر لانے کا وقت نہیں۔ اگر حالات نے اجازت دی تو قارئین سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان واقعات سے ضرور نقاب کشائی کروں گا۔ اپنے بیان کے علاوہ چند اور واقعات ملاحظہ فرمائیے۔

راجہ بشیر احمد رازی میرے بہنوئی ہیں۔ جب انہوں نے خلافت مآب سے عدم وابستگی کا اعلان کیا تو حضور نے ایک شخص کو ربوہ سے گھرات بھیجا اور رازی صاحب کے والد صاحب سے ایک تحریر ان کے خلاف لکھوائی اور اس طرح ان کی تلخیر کی گئی۔ علاوہ ازیں محمد یونس ملتانی نے جب خلافت مآب سے علیحدگی کا اعلان کیا تو ان کے باپ سے حکماً ایک تحریر اپنے بیٹے کے خلاف لکھوا کر افضل میں شائع کر دی۔ جس میں لکھا کہ میرے بیٹے کا آئندہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ تادم تحریر سب مخزین سے ہمارے رشتہ داروں نے بولہ چال بند کر رکھی ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن خلافت مآب سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں جماعت سے خارج کر کے بے عزت نہ کر دیں۔ بعض رشتہ دار ملتے ہیں۔ لیکن چھپ کر اور جب بھی ملتے ہیں اپنی مجبوریوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی علیحدہ مجبوری بیان کرتا ہے۔ لیکن جو مجبوری بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد حضور کا خوف ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ آزادی تعمیر جس کا دعویٰ خلافت مآب کرتے ہیں اور یہ ہے ”لا اکراہ فی الدین“ کا وہ عملی تفسیر جو شاطر سیاست نے نہیں کی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

تھا یقین آیت اکراہ پہ اپنا لیکن دین میں جبر روا ہے ہمیں معلوم نہ تھا
ان تمام دلائل و حقائق کے باوجود بھی اگر خلافت مآب یا ان کے کسی خوشامدی یا کسی
وعیفہ خوار کی تسلی نہ ہو اور وہ دین میں جبر کو ناجائز ثابت کرنے اور خلافت مآب کے طریق کار کو ”لا
اکراہ فی الدین“ کی آیت کے مطابق ثابت کرنے کی سعی و جد فرمائے تو اسے اندھی عقیدت
رکھنے والوں کو بے وقوف بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے
وہ حلفیہ کیا ہے اور میں اس سلسلہ میں پہنچ کر رہا ہوں کہ اگر خلافت مآب دین میں جبر سے متعلق

قرآن مجید کے اس واضح حکم کی عملی طور پر اتباع کرنے کا اب بھی دعویٰ کرتے ہیں تو میری طرف سے مباہلے کا چیلنج قبول کریں اور عمل سے دنیا پر اپنی حقانیت ثابت کریں۔ ورنہ ان کے وظیفہ خواروں یا خوشامدیوں کا الفضل کے صفحات پر سیاہی بکھیرنے سے اہل خرد کے سامنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ناممکن ہے۔

اپنے مریدوں پر جبر شاطرا سیاست کے نزدیک جماعت کا اندرونی مسئلہ ہے اور وہ جو چاہیں کریں۔ لیکن بیرونی دنیا کے ساتھ ان کا جو مسلک ہے وہ ملاحظہ فرمائیے: ”خدا تعالیٰ نے آپ (مرزا غلام احمد قادیانی) کا نام عیسیٰ رکھا تا کہ عیسیٰ کو تو یہودیوں نے سولی پر لٹکا یا تھا۔ مگر آپ اس زمانے کے یہودی صفت لوگوں (یعنی مسلمانوں) کو سولی پر لٹکائیں۔“ (تقدیر الہی ص ۱۲۹)

یعنی مرزا غلام احمد کی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے آمریت مآب فرماتے ہیں کہ ان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان جو یہودی صفت میں (نعوذ باللہ) ان کو سولی پر چڑھائیں۔ سبحان اللہ! کتنی معرفت کی بات ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی آمد کا مقصد تجدید دین اور اشاعت اسلام ہے اور دوسری طرف ان کی آمد کا مقصد یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بعثت کی غرض وقایع شمع رسالت ﷺ کے پروانوں کو سولی پر چڑھانا ہے۔ کیا کسی گروہ کو سولی پر چڑھانا اکراہ نہیں؟ اگر کسی گروہ پر ظلم و ستم کرنا جبر ہے تو پھر میاں صاحب یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ وہ دین میں جبر کو قطعاً ناروا اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ صداقت پر مبنی ہے تو جب تک وہ قادیان رہے۔ انہوں نے وہاں اپنے مخالفین پر جور و استبداد کا وسیع باب کیوں وا کئے رکھا اور پھر اب جب کہ ربوہ ان کا مرکز ہے تو کیا وجہ ہے کہ ربوہ میں دوسری کوئی جماعت نہ دفتر کھول سکتی ہے اور نہ ہی وہاں جلسہ کر سکتی ہے۔ درحاضر کا یہ عظیم سیاسی شطرنج باز ایک طرف تو آہ و بکا اور نالہ و شہیوں سے کہرام مچا دیتا ہے کہ دیکھو روس میں مذہبی نشر و اشاعت کی آزادی نہیں ہے اور دوسری طرف اس کا اپنا عمل اس کے اپنے قول و افکار کی صریحاً نفی ہے۔ چنانچہ شاطرا عظیم کے ایک مرید نے عدالت میں جو بیان دیا وہ ملاحظہ ہو۔ ”مذہبی عقیدہ ہے کہ قادیان میں کوئی غیر احمدی (مسلمان) نہیں رہ سکتا۔“ (بیان باسٹرن غلام محمد بی اے بعدالذات جناب لالہ اقبال رائے محضریٹ درجہ اول)

اب اگر روس کے رہا ب بست و کشاد کسی دوسرے ملک یا کسی دوسری جماعت کو اپنے ملک میں مذہبی نشر و اشاعت کی اجازت نہیں دیتے تو اس پر امام جماعت ربوہ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر ان کے اپنے گھر میں مذہبی آزادی ہو اور وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر سکتے ہوں کہ ان کے ہاں مذہبی آزادی ہے تو پھر وہ روس پر اعتراض کرتے۔ بھلے معلوم ہوں گے۔ لیکن ان کا اپنا عمل جس

بات کے سو فیصد متافی ہے اس کا کسی دوسرے کو طعنہ دینا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شرابی کسی دوسرے شرابی کو شراب پینے کا طعنہ دے۔ باقی رہا یہ سوال کہ ربوہ کی زمین ان کی ذاتی ملکیت ہے۔ لہذا وہ کسی دوسری جماعت کو وہاں دفتر کھولنے یا تبلیغ کرنے کی اجازت کیوں دیں؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ روس کی ساری زمین قومی ملکیت ہے۔ یعنی روس میں اراضی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ بلکہ وہاں کی حکومت ہی اس کی مالک ہے۔ پس اگر اہل ربوہ کا استدلال درست ہے کہ چونکہ ربوہ کی زمین ان کی اپنی ملکیت ہے۔ لہذا وہ کسی دوسری جماعت کو وہاں نشر و اشاعت کی اجازت کیوں دیں؟ تو پھر روس کی زمین میں جو روس کی قومی ملکیت ہے اگر شاطر سیاست کا مبلغ نشر و اشاعت نہیں کر سکتا اور حکومت روس اس کی اجازت نہیں دیتی تو اس میں اعتراض کرنے اور آہ و بکا کرنے کی کون سی بات ہے؟ لیکن یہ عجیب منطقی ہے کہ ایک طرف تو وہ روس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں مذہبی آزادی نہیں ہے اور دوسری طرف خود اپنے مرکز ربوہ میں مذہبی آزادی کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی زمین ہے۔ لہذا ہم کسی کو اس میں تبلیغ کی اجازت کیوں دیں۔

پس اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور کوئی شخص بھی اس صداقت پر تصنع اور بناوٹ کی حاشیہ آرائی سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ خلاف مآب کا عمل قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق ہے۔ جس میں جبر کو اسلامی نظریات کے صریحاً خلاف گردانا گیا ہے۔ بلکہ ان کا عمل روس کے عمل سے اور قول قرآن پاک کے فرمان سے مطابقت رکھتا ہے۔ ان کا یہ اقدام بھی ویسا ہی ہے جیسے وہ عمل کے اعتبار سے بادشاہ ہیں اور قول کے اعتبار سے خلیفہ ہیں۔ جس طرح انہوں نے دنیا کو بے وقوف بنانے کے لئے بادشاہت کو خلافت، آمریت کو جمہوریت اور سیاست کو مذہبیت کا لبادہ پہنا دیا ہے۔ بعینہ انہوں نے بھولے بھالے انسانوں کی آنکھوں میں دھول جمونے کی غرض سے جبر کا نام مذہبی آزادی رکھا ہوا ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
ہماری یہ بات حاشیہ آرائی نہیں۔ تصنع اور بناوٹ نہیں۔ عداوت و رنج محن نہیں اور نہ ہی
اس کی غرض دنیا کو بے وقوف بنانا ہے۔ بلکہ یہ تجزیہ میرے ان مشاہدات و تجربات پر مبنی ہے جو میں
نے قریب تر رہ کر بلکہ گھر کا بھیدی بن کر کیا ہے۔

ہماری تبلیغ کوئی نہیں متاع جنوں بہت قریب سے دیکھی ہے زندگی ہم نے

سوشل بائیکاٹ

مسئلہ خلافت کے حصول کے لئے خلافت مآب نے بیحد کوشش کی اور جب زمام خلافت ہاتھوں میں آگئی تو یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح اب خلافت کی بنیادیں مضبوط کی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حسب ذیل تین حدود متعین کیں اور اپنے مریدوں کو ان دائروں کے اندر رہنے کی سختی سے تلقین کی۔ (۱) مسئلہ تکفیر۔ (۲) نماز جنازہ۔ (۳) سوشل بائیکاٹ۔

مسئلہ تکفیر

وہ مسلمان جنہوں نے مرزا غلام احمد کو نہیں مانا۔ انہیں کافر قرار دیا۔ اس مسئلہ کے اجراء سے شاطر سیاست کو یہ مقصود تھا کہ وہ لوگ جو مرزا قادیانی کے مرید ہیں اور جنہوں نے ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی ہے مسلمانوں سے کٹ جائیں اور اس طرح ہر وقت ان کی نگاہیں خلافت مآب ہی کی طرف لگی رہیں۔

نماز جنازہ

اسی طرح وہ مسلمان جنہوں نے شاطر سیاست کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی اپنے مریدوں کو ان کی نماز جنازہ ادا کرنے سے روک دیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں خلافت مآب کے مریدوں کے لئے جذبہ نفرت بھر جائے اور مریدوں کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے کہ وہ ہر لمحہ خلافت مآب ہی کے احکام کی اطاعت میں اپنی خیر سمجھنے لگیں اور اس طرح ان کے دلوں میں خلافت مآب کی عظمت کے نشان منقش ہو جائیں۔

سوشل بائیکاٹ

اپنے مریدوں سے دو طرح کے سوشل بائیکاٹ کروائے اور اس سے بھی انہیں یہی مقصود رہا کہ ان کے مرید دوسری دنیا سے جدا ہو جائیں کہ ان کے لئے خلافت مآب کے بغیر جینا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ ایک طرف اپنے مریدوں کو غیر مرزائیوں سے مذہبی تعلقات اور لین دین سے منع کیا اور دوسری طرف اپنی جماعت کے ان لوگوں سے معاشرتی تعلقات منقطع کر لئے گئے۔ جنہوں نے خلافت مآب سے کسی مسئلہ میں اختلاف کیا۔ اندرونی و بیرونی طور پر معاشرتی انقطاع تعلقات کا مقصد صرف اپنی خلافت کی بنیادیں استوار کرنا ہے۔ چنانچہ بیرونی انقطاع تعلقات کے لئے مسلمانوں کے ساتھ شادی اور نماز جنازہ کی ادائیگی کو ممنوع قرار دے دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ جماعتی نظام کے پیش نظر فیروز جماعت دکا عماروں (یعنی

غیر احمدیوں) سے ضروریات زندگی کی اشیاء نہ خریدی جائیں اور صرف احمدی دکانداروں ہی سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء حاصل کی جائیں۔ چنانچہ قادیان میں احمدی دکانداروں سے ناظر امور عامہ اور شعبہ ترقی تجارت کی طرف سے ایک عہد نامہ پر دستخط کرائے جاتے تھے جو حسب ذیل تھا۔

”میں اقرار کرتا ہوں کہ ہر قسم کی اشیاء کی خریداری صرف اپنے بھائیوں (مرزائیوں) ہی سے کروں گا۔ اگر میں اس عہد کی خلاف ورزی کروں یا میری بیوی یا میرا بچہ یا میرا لاکھیر سے زیر انتظام رہنے والا میرا رشتہ دار اس کی خلاف ورزی کرے تو میں جو جرمانہ خلیفۃ المسیح تجویز کریں ادا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں نہ مخفی طور پر نہ علانیہ طور پر کوئی چیز غیر احمدیوں سے خریدوں گا۔ جماعت نے جو معاہدہ ترقی تجارت تجویز کیا ہے مجھے منظور ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور ہر تجارت جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کروں گا اور جو حکم ناظر امور عامہ دیں گے اس کی بھی بلاچون و چرا تعمیل کروں گا اور نیز جو اور ہدایات وقتاً فوقتاً جاری ہوں گی ان کی پابندی کروں گا۔ اگر میں کسی حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جرمانہ بھی تجویز ہوگا ادا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میرا جو بھٹو کسی احمدی سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمدیہ کا فیصلہ میرے لئے حجت ہوگا۔ ہر قسم کا سود احمدیوں سے خریدوں گا۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں میں میں سے سو روپیہ تک جرمانہ ادا کروں گا اور میں روپے پینتالیس جمع کراؤں گا۔ اگر میرا جمع شدہ روپیہ ضبط ہو جائے تو مجھے اس کی واپسی کا حق نہ ہوگا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمدیوں کی مخالف مجالس میں بھی شریک نہ ہوگا۔“ (ماخوذ)

اس معاہدہ سے صاف طور پر عیاں ہے کہ شاطر سیاست نے اپنے مریدوں کو مسلمانوں سے تعلقات منقطع کرنے پر مجبور کیا اور کوشش کی کہ ہر اعتبار سے ان کے مرید جمہور سے کٹ جائیں اور ان کے لئے خلافت مآب کا سہارا تلاش کرنے کے سوا دوسرا کوئی راستہ ہی باقی نہ رہے۔

یہ روئی القطاع تعلقات کے علاوہ شاطر سیاست نے اندرونی طور پر تعلقات کے منقطع کرنے کے رواج کی بناء ڈالی اور اپنے مفاد کے لئے اس پر سختی سے عمل کروایا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ذاتی کارہائے نمایاں دیکھے اور جماعت سے علیحدہ ہوئے ان کے ساتھ بھی اپنے مریدوں کو عموماً اور علیحدگی اختیار کرنے والوں کو خصوصاً تعلقات منقطع کرنے پر مجبور کیا۔ اس روش سے جہاں شاطر سیاست کو یہ مقصود تھا کہ ان کے مرید دوسروں سے لاتعلقی ہو جائیں وہاں ان کا مقصد اپنی بدعنوانیوں پر پردہ پوشی بھی تھا۔ چنانچہ جو شخص بھی خلافت مآب کی ذاتی بدعنوانیوں کو

دیکھ کر طبع کی اختیار کرے۔ اس شخص سے مریدوں کو عموماً اور اس کے رشتہ داروں کو خصوصاً احتیاط تعلقات کے لئے اس لئے مجبور کیا جاتا ہے کہ کہیں وہ لوگ بھی اس شخص کی باتوں سے متاثر ہو کر خلافت مآب سے متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ شاطریا سیاست سوشل ہائیکاٹ کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو سوشل ہائیکاٹ کی سزا نہیں دی۔ فرماتے ہیں: ”یہ افتراء ہے کہ کسی کو سوشل ہائیکاٹ کی سزا دی گئی ہے۔ یہ افتراء ہے کہ ان کے رشتہ داروں یا عزیزوں کو قطع تعلق کے لئے مجبور کیا گیا ہے۔“ (الفضل مورخہ ۶ ستمبر ۱۹۵۶ء)

مندرجہ بالا سطور میں شاطریا سیاست نے اس بات سے صاف انکار کیا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو سوشل ہائیکاٹ کی سزا دی ہے۔ لیکن الفضل ۲۱ اکتوبر ۱۹۵۶ء میں فرماتے ہیں: ”وہ (یعنی ملک فیض الرحمن فیضی) الفضل میں ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں جو مخالفت کر رہے ہیں اور آئندہ ان کو فلاں فلاں رشتہ دار سے ملنے کی اجازت ہوگی۔“

مندرجہ بالا سطور میں شاطریا سیاست ایک شخص کے معافی نامہ پر اسے مشروط معافی دیتے ہیں اور شرط یہ رکھتے ہیں کہ وہ شخص میرے (خلافت مآب) فلاں فلاں مخالف سے بیزاری کا اعلان کرے۔ نیز اسے اس شرط پر معافی دی جاتی ہے کہ وہ فلاں رشتہ دار کے سوا اپنے دوسرے رشتہ داروں سے جو میرے (خلافت مآب) مخالف ہیں تعلقات نہیں رکھے گا۔ اب یہ سوشل ہائیکاٹ نہیں تو پھر سوشل ہائیکاٹ اور کسے کہتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ شاطریا سیاست نے حسب عادت سوشل ہائیکاٹ کا نام اظہار بیزاری رکھا ہوا ہے۔ لیکن سوشل ہائیکاٹ کا نام بدلنے سے اس کی نوعیت میں تو تبدیلی نہیں ہوتی۔ سوشل ہائیکاٹ کا نام چاہے اظہار بیزاری رکھ دیا جائے یا کچھ اور۔ نام کے بدلنے سے مفہوم اور نوعیت اپنی ہی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ میرے اس استدلال پر اگر شاطریا سیاست یہ کہیں کہ یہ میری اختراع ہے۔ کوئی ایسی دلیل ہونی چاہئے جس میں سوشل ہائیکاٹ کی ہدایت جاری کی گئی ہو تو اس کے لئے میں الفضل سے حسب ذیل اقتباس پیش کرتا ہوں۔

”احباب جماعت کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو جماعت سے خارج کیا گیا ہے یعنی میاں فخر الدین ملتانی، شیخ عبدالرحمن مصری اور حکیم عبدالعزیز ان کے ساتھ اگر کسی دوست کا لین دین ہو تو وہ نظارت ہذا کی وساطت سے طے کریں۔ کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ممنوع ہیں۔“ (الفضل مورخہ ۷ جولائی ۱۹۳۷ء)

اگر شاطریا سیاست ان کے کسی دلیقہ خوار کی مندرجہ بالا اقتباس سے بھی تسلی نہ ہو اور وہ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کی ناپاک خواہش کو اس اقتباس پر بھی ترک نہ کرنا چاہے تو ایک خط پیش

کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل میرے پاس موجود ہے۔ وہ خط امیر جماعت احمدیہ لاہور کی طرف سے ایک احمدی کو لکھا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

”مکرمی محمد اسلم صاحب سینٹ بلڈنگ، لاہور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ احسان الہی ولد منگو کھمار نے اپنی شادی کرانے کے لئے احمدیت سے توبہ کی اور اس شرط پر اس کی شادی ہو گئی اور ۲۶ نومبر ۱۹۵۶ء کو دعوت ولیمہ ہوئی۔ جس میں آپ نے اور آپ کے اہل و عیال نے شمولیت اختیار کی۔ مکرم جناب امیر صاحب کی اطلاع کے لئے بواپسی مطلع کریں کہ آپ نے ایسی شادی میں کیوں شرکت اختیار کی۔“ (نقل مطابق اصل)

والسلام خاکسار

وخط: عبدالحی، نائب امیر جماعت احمدیہ لاہور

اس خط میں شادی میں شرکت کرنے پر اظہار برہمی کیا گیا ہے۔ لیکن شاطر سیاست کہتے ہیں: ”یہ افتراء ہے کہ کسی کو قطع تعلق کی سزا دی گئی ہے۔“

یعنی شاطر سیاست کے نزدیک اس قسم کے انقطاع تعلق کا نام سوشل بائیکاٹ نہیں بلکہ ان کے نزدیک سوشل بائیکاٹ کسی جانور کا نام ہے اور اس طرح کے تعلقات کے انقطاع کا نام اظہار بیزاری ہے۔ سو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص ان پر یہ الزام عائد کرتا ہے تو وہ واقعی افتراء گھڑتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر شاطر سیاست پر یہ الزام عائد کیا جائے کہ وہ اظہار بیزاری کراتے ہیں اور اس سے مراد چاہے سوشل بائیکاٹ ہی ہو تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی تردید نہیں کریں گے۔ پس جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ شاطر سیاست نے بعض الفاظ کے نام بدل دیئے ہوئے ہیں۔ مثلاً آمریت کا نام جمہوریت، بادشاہت کا نام خلافت، سیاست کا نام مذہب۔ اسی طرح انہوں نے سوشل بائیکاٹ کا نام بھی اظہار بیزاری رکھ دیا ہے۔ اب جو شخص بھی ان پر سوشل بائیکاٹ کا الزام عائد کرتا ہے تو وہ فوراً حلفیہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سوشل بائیکاٹ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ تو سوشل بائیکاٹ کو جانور سمجھتے ہیں اور اظہار بیزاری سے مراد وہی مفہوم لیتے ہیں جو ہم سوشل بائیکاٹ کا کرتے ہیں۔ سو معلوم ہوا کہ سوشل بائیکاٹ کی تردید شاطر سیاست مفہوم کے اعتبار سے نہیں کرتے ہیں۔ واللہ! کیا منطقی ہے۔

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

اس سلسلہ میں ایک عدالت کے فاضل مجسٹریٹ کی چند سطروں صفحہ قرطاس کی نذر کی جاتی

ہیں جو انہوں نے مقدمہ بخاری کے سلسلہ میں اپنے فیصلہ میں لکھی ہیں۔ ”اپنے دلائل کو منوانے اور فرقے کو ترقی دینے کے لئے انہوں (مرزائیوں) نے ان ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا جن کو عام طور پر ناپسندیدہ کہا جائے گا۔ ان اشخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ نہ صرف بائیکاٹ، اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے وہشت انگیزی پیدا کی۔“

ان سطور میں فاضل مجسٹریٹ نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ شاطریا سیاست نے بائیکاٹ و دیگر ایسے ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا جن کو رہتی دنیا تک ناپسندیدگی سے دیکھا جائے گا۔ شاطریا سیاست کا ہر ایک خرید اور بیرونی دنیا کا بچہ بچہ اس حقیقت سے آشنا ہے کہ وہ سوشل بائیکاٹ کے سراسر بیہودہ اور خلاف شریعت ہتھیار سے اپنی خلافت کی بنیادیں مضبوط بنانے کی سعی و جہد کرتے ہیں۔ لیکن کمال ہے اس جرأت اور دلیری کا کہ جس کے تحت وہ یہ کہہ کر پھر صداقت کا علم لہراتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی سوشل بائیکاٹ نہیں کیا۔ حقائق و براہین اور واقعات کی موجودگی میں شاطریا سیاست کا یہ دعویٰ بڑی جرأت اور فن دروغ گوئی میں کمال ہے اور پھر لطف یہ کہ ان کے اندھی عقیدت رکھنے والے مرید۔ ان کی حق گوئی کے ترانے الاپتے اور ان کی صداقت کے قسیدے گاتے ہیں۔ لیکن۔

ہم نے ان کو بھی مختلف پایا دھوم ہے جن کی پارسائی کی

زبان اور اخلاق

شاطریا سیاست کا دعویٰ ہے کہ انہیں مسند خلافت پر اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اور نیز یہ کہ وہ مصلح موعود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے بولتا ہے۔ ان دعاوی کی روشنی میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان کا عمل اور قول ان دعاوی پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اگر ان کا عمل اور ان کا قول ان کے ان دعاوی پر پورے اتریں تو ہمیں ان دعاوی پر ایمان لانا پڑے گا۔ لیکن اگر ان کا عمل اور قول ان کے دعاوی سے اتنے ہی دور ہوں۔ جتنا آسمان زمین سے دور ہے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ خلافت مآب کے دعاوی کذب بیانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ لہذا ان کے اخلاق پر..... قلم کو جنبش دینے سے قبل یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ میں کسی کے اخلاق کو زیر بحث لانا معاشرتی اور اخلاقی آئین کے منافی سمجھتا ہوں۔ لیکن چونکہ خلافت مآب کا دعویٰ مصلح موعود اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے اور مرزا غلام احمد کی اس پیش گوئی کا مصداق ہونے کا ہے جو انہوں نے اپنی ذریت میں مصلح موعود کے بارے میں کی تھی اور اس پیش گوئی میں

چونکہ مصلح موعود ہونے کے لئے پاک ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس لئے خلافت مآب کے اخلاق کو زیر بحث نہ لانے کی کوشش اور تمنا کے باوجود میں مجبور ہوں کہ ان کی زندگی کو ان تمام دعاوی کے تحت پرکھوں جن کی کوئی کی صورت پر پاک ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس لئے میں ان کی زندگی کو قول اور عمل کی کوئی کی صورت پر پرکھنے سے کل قارئین سے عموماً اور ان کے مریدوں سے خصوصاً معذرت خواہ ہوں۔

ان کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ خدا ان کی زبان سے بولتا اور ان سے محبت کرتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ خدا ان کی زبان سے کیا بولتا ہے۔

الفضل مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۵۶ء میں رقمطراز ہے: ”خلیفہ اول کی اولاد اول درجہ کی کذاب ہو چکی ہے۔“

پھر الفضل مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۵۶ء میں لکھتے ہیں: ”جو بھی مسلمان تمہیں درغلانے کے لئے آتا ہے وہ شیطان ہے۔ پس جب بھی کوئی ایسا شخص تمہارے پاس آئے تم فوراً چل پڑھنے لگ جاؤ اور کہو کہ ہمیں مدت سے شیطان دیکھنے کا شوق تھا آج تمہیں دیکھنے کی حسرت پوری ہو گئی۔“

الفضل مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۵۶ء میں فرماتے ہیں: ”اس وقت جن لوگوں نے اس فقہ میں حصہ لیا ہے وہ نہایت ذلیل اور گھٹیا قسم کے ہیں۔“

الفضل مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۵۶ء میں پھر رقمطراز ہیں: ”میں چوہدری غلام رسول صاحب میجر بھٹہ کا نام کذاب رکھتا ہوں۔ اس لئے ساری جماعت ان کو کذاب سمجھے۔“

علاوہ ازیں مختلف مقامات پر گواہی، لومڑی، مسیلمہ کذاب، حرا حراہ اور کمینہ صفت کتے کے الفاظ بھی استعمال کئے ہیں۔ خلافت مآب کے علاوہ الفضل جو ان کا سرکاری گزٹ ہے اور جسے ان ہی کی زبان سے کہتا ہے، چائیس اور ان کی خوشامدی جنہیں وہ اپنے خالد بن ولید گردانتے ہیں (نور باللہ) کی زبان میں بھی ملاحظہ فرمائیے۔

الفضل مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۵۶ء میں ایک صاحب رقمطراز ہیں: ”ان تمام آدمیوں پر جو اس فقہ میں شریک ہیں لعنت بھیجتا ہوں۔“

”لیکن اظہار مذکور (مخبر) کی شہادت ملاحظہ ہو کہ میرا نام بھی اس نے ان لعنتیوں میں شامل کر دیا ہے۔“

الفضل مورخہ ۳ جولائی ۱۹۴۷ء میں لکھا ہے: ”ہم فقہ پر داز منافقین کی کمینہ اور کر وہ حرکات کے خلاف نفرت و عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔“

مولانا ظفر علی خاں صاحب کے متعلق لکھا ہے: ”جہاں بھر کا فری، مکار، بد بخت، سیاہ کار، بے بصیرت، ناقابل اندیش، حیوان بھل انسان، دیوانہ، بدخواہ انسان، بد قسمت، بد طبیعت، گرگت، ایمن الوقت۔“

مولوی محمد علی صاحب سے متعلق ارشاد ہوتا ہے: ”دھوکا باز، بدگو، معاند، منافق، بے حیا، پلٹرس تانی، امیر انگریز، رئیس انگریز۔“

بزرگان امت کے لئے: ”بدفصال، ہنگو، بھودی، ہمار، ہزاری لوگ، ظالم، مہال۔“
قاضی احسان اللہ سابق ایڈیٹر روزنامہ زمیندار سے متعلق لکھتے ہیں: ”دروغ گو، اندھا، فلفٹ گو، ری کار، ٹھون، خریس، بے اصول، خود غرض، مکار۔“

علاوہ ازیں اپنے ایک نام نہاد خالد بن ولید مولوی ابوالعطاء جالندھری کو ”ظالمون کا چوہا“ کہہ کر پکارتے ہیں۔

اور پھر افضل مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۱۳ء میں خلافت مآب رٹھرازیں: ”مولوی عبدالوہاب عمر کو یہود کا جو اس کی عادت ہے۔“

الغرض خلافت مآب اور ان کے وسیعہ خوار جب کسی بھی بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے لفظ کو اس ہی لفظ ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کا منہ نہیں خلافت کا سنور ہے کہ جب بھی منہ کھلا ظلمت کے ڈھیر باہر آ پڑے۔ لیکن خلافت مآب فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ اب کون بتائے کہ منہ درجہ بالا الفاظ خدا کے الفاظ ہیں یا خلافت مآب کے اپنے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ خدا کے نہیں بلکہ خلافت مآب کی الہی ایجاد ہیں تو پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جس شخص کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلنے ہوں وہ خدا کی طرف سے نہیں اور اس کا خدا سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

خلافت مآب کی زبان پر ایک کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ لیکن اس موضوع پر مختصری بحث کے بعد میں ان کے اخلاق کا تجزیہ کرتے دیتا ہوں تاکہ ان کے جملہ واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ خلافت مآب نے ۱۹۱۳ء میں زمام خلافت سنبھالی اور اس سے قبل جب ابھی ان کے والد (مرزا غلام احمد قادیانی) زندہ ہی تھے تو ان (شاہر سیاست) پر زاماکا الزام مائد ہوا۔ جس پر ایک صحیفاتی کمیٹی مولوی محمد علی کی زیر سرگرائی قائم کیا گیا۔ مجلس مریدوں کو باپ (مرزا غلام احمد) کے ساتھ جو دالہاہد مقیدت تھی اس کے تحت اور شاہر سیاست کی والدہ کی مرشد اہل سنتوں پر انہوں نے بیٹے (سہاں محمود احمد) کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دیا۔ لیکن باپ (مرزا غلام احمد قادیانی) کی

وفات کے بعد جب مولوی نور الدین (خلیفہ اول) فوت ہوئے اور شاطر سیاست نے زمام خلافت سنبھالی تو مولوی محمد علی جنہوں نے شاطر سیاست کو اپنے پیر (مرزا غلام احمد قادیانی) سے بے پناہ عقیدت کے تحت زناء کے الزام سے بری قرار دیا تھا۔ شاطر سیاست کی خلافت سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ شاطر سیاست کی اخلاقی پستی ہی بیان کی۔ مولوی محمد علی کی علیحدگی کے چند سال بعد مستری عبد الکریم جو شاطر سیاست کے عقیدت مند تھے۔ شاطر سیاست سے علیحدہ ہوئے اور اپنی علیحدگی کی وجہ ان کی ذاتی اخلاقی بے راہ روی بیان کی۔ مہلبہ والوں کی علیحدگی کو ابھی آٹھ سال ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ ان پر چند مزید اشخاص نے زناء کا الزام لگایا اور وہ جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ ۱۹۳۷ء میں علیحدہ ہونے والوں اور شاطر سیاست پر زنا کا الزام عائد کرنے والوں میں ان کے وہ تخلص اور فرشتہ سیرت مرید تھے۔ جنہیں جماعت میں خاص اہمیت حاصل تھی اور جو شاطر سیاست کے چوٹی کے مریدوں میں سے تھے۔ شیخ عبدالرحمن مصری اور فخر الدین ملتانی کے اسمائے گرامی سے کون واقف نہیں۔ انہوں نے شاطر سیاست سے اپنی مخلصانہ وابستگی کے باوجود ان سے علیحدگی اختیار کرتے وقت ان کی دھاندلیوں اور زنا جیسے قبیح فعل کے ارتکاب کے الزامات عائد کئے۔ فخر الدین ملتانی نے ایک پمفلٹ شائع کیا اور اس کا عنوان فحش مرکز رکھا۔ اس میں انہوں نے شاطر سیاست کی فحش اور خلوت کدوں کی زندگی کا ناک نقشہ پیش کیا اور بتایا کہ ربوہ کا یہ رنگیلا، خلافت کا لبادہ اوڑھ کر عیش عشرت کو کیسے جنم دیتا ہے۔ انکا پمفلٹ شائع ہوا ہی تھا کہ خلافت مآب نے اپنے چند غنڈوں کو ان کے قتل پر مامور کر دیا۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں ان کے وطنیہ خوار (تنخواہ دار غنڈے) مریدوں نے فخر الدین ملتانی کا کام تمام کر دیا۔ فخر الدین ملتانی کے قتل کے بعد افضل نے متعدد مضامین شائع کئے اور ان کو مجرم اور خطا دار قرار دیا۔ اس کے معا بعد جب مقتول کے قاتل کو عدالت نے سزائے موت دی اور اسے تحفیہ دار پر لٹکایا گیا تو اس کی لاش کو قادیان میں بڑی دھوم دھام سے سپرد خاک کیا گیا۔ ۱۹۳۷ء کے ان مجاہدوں کے الزامات کے نقوش ابھی خشک ہی ہوئے تھے کہ ۱۹۵۶ء میں چند اور نوجوانوں نے ان پر تحفید کے بے شمار نشتر چلائے اور زنا کے الزام کے علاوہ خیانت اور بددیانتی کے الزامات بھی عائد کئے۔ ایک پمفلٹ بعنوان ”مرزا محمود احمد ہوش میں آؤ“ شائع کیا گیا اور اس میں جن بارہ امور پر ان کو دعوت مہلبہ دی گئی۔ ان میں سے ایک الزام زنا کا بھی تھا۔ لیکن شاطر سیاست نے حسب معمول ان الزامات کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے فتویٰ کے مطابق جس شخص پر زنا کا الزام عائد ہوا سے الزام عائد کرنے والے کو دعوت مہلبہ دینی چاہئے۔ تاکہ کوئی شخص اس الزام کی بناء پر

ٹھوکر نہ کھا جائے۔ سومر زانگلام احمد قادیانی کے فتویٰ کے مطابق ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ الزام عائد کرنے والوں کو دعوتِ مبطلہ دیتے۔ لیکن دعوتِ مبطلہ الزام عائد کرنے والوں کی طرف سے دی گئی اور انہوں نے چپ سادھ لی اور کوئی جواب نہ دیا۔

۱۹۵۶ء کے وہ مجاہد جنہوں نے ان سے علیحدگی ان کی پست اخلاقی کی وجہ سے اختیار کی ان خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو شاطر سیاست کی جماعت میں بہت مشہور ہیں اور جو اخلاص اور قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ لیکن جب مشاہدات نے انہیں شاطر سیاست سے بدظن کیا تو انہوں نے اپنے خیالات کی علانیہ نشر و اشاعت کی۔ لیکن شاطر سیاست اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ صرف چند وظیفہ خواروں نے ان الزامات کے جواب میں لکھا ہے کہ اس قسم کے الزامات تو خلفائے راشدین اور آنحضرت ﷺ پر بھی عائد ہوتے رہے ہیں۔ (نعوذ باللہ)

کتنا ظلم ہے اور وظیفہ خواروں کی یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ وہ اپنے حقیقی رب کو بھول کر اپنے ظاہری ربوبیت کرنے والے (مرزا محمود احمد) کو خوش کرنے کے لئے محبوبِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر بھی بہتان تراشنے سے نہیں گھبراتے۔ حالانکہ جو استدلال وہ پیش کرتے ہیں وہ سراسر کذب بیانی ہے۔ کیونکہ سرور کائنات ﷺ پر دعویٰ نبوت سے قبل اور بعد میں کسی قسم کا بھی کوئی الزام عائد نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مصمصیت اور پاکیزہ زندگی کی گواہی دی ہے اور سرور کائنات ﷺ نے اس کو اپنی سچائی کے لئے دلیل ٹھہرایا ہے۔ ”فقد لبثت فیکم عمراً من قبلہ افلا تعقلون (یونس: ۱۶)“ یعنی میں نے تمہارے ساتھ ایک ایسی عمر گزاری ہے۔ کیا تم میری اس زندگی پر اعتراض کر سکتے ہو۔ لیکن آپ ﷺ کے سب سے بڑے دشمن ابوجہل کو بھی اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ باقی رہے خلفائے راشدین تو ان پر اغیار نے تو اعتراضات کئے۔ لیکن ان کے اپنے مریدوں میں سے کسی نے بھی ان پر زنا جیسے فحش فعل کا الزام نہیں لگایا۔ لیکن شاطر سیاست پر بیگانے تو ایسے الزامات عائد کرتے ہیں کہ ان کے اپنے مریدوں کے اعتراضات و الزامات کی وجہ کیا ہے؟

جس کی آغوش میں ہر شب ہے غمی ماہ لقا۔ اس کے سینے میں خدا ہے ہمیں معلوم نہ تھا
لیکن واقعہ یہ ہے کہ شاطر سیاست اور ان کے چند خوشامدی زنا بالبحر کو ناجائز اور زنا بالرضا کو جائز تصور کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا کسی کو بھی علم نہ ہو گناہ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہے ہمیں واعظوں کی بے عملی گناہ نہیں ہے جو چھپ کر کہیں کیا جائے
چنانچہ اپنی بد اعمالیوں کو چھپانے، اپنی سیاہ کاریوں پر وہ ڈالنے اور اپنے اندھی

عقیدت رکھنے والے مریدوں کو بے وقوف بنانے کے لئے سرور کائنات ﷺ پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے اور بڑی جرأت اور ہوشیاری سے کہہ دیتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ بھی مصدوم نہیں تھے۔ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

مجرمانہ ذہنیت، نفسیاتی جائزہ

جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ خلافت مآب کے نزدیک زنا بالجبر ناجائز اور زنا بارضا جائز ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک ایسی قبیح حرکات کا ارتکاب کرنے والا قابل سرزنش نہیں۔ بلکہ اس قسم کی حرکت کو دیکھ کر اس کے خلاف آہ و بکا کرنے والا شخص قابل سزا ہے۔ یہاں یہ بات بھی خالی از دیکھنی نہ ہوگی کہ خلافت مآب اور شاطر بے مثل بڑے دور اندیش واقع ہوئے ہیں۔

اپنی حماقتوں کے نتیجہ میں ہونے والے اعتراضات کی پیش بندی کافی عرصہ پہلے کر لیتے ہیں۔ مثلاً جو شخص مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہے یعنی جو بد عمل ہے اور اس اعتبار سے اس کے ذہن میں ہر لمحہ جرم کے ارتکاب کا تصور کارفرما رہتا ہے۔ ایسا شخص چونکہ اپنے اعمال سے واقف ہوتا ہے اور اسے مظلوم ہوتا ہے کہ اس میں غلامان غلطی ہے اور بعض لوگوں پر اس غلطی کا آشکار ہونا ضروری ہے۔ اس لئے وہ لوگوں کو خوش بندی کے طور پر تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی حال شاطر سیاست کا ہے۔ چونکہ انہیں اپنی سیاہ کاریوں کا علم ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ معاشرے میں کسی نہ کسی پر حقیقت حال کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اس لئے وہ اپنے بھولے بھالے مریدوں کو ان حالات کے متعلق تیار کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ اپنے مریدوں سے مخاطب ہوتے ہیں: ”میں یاد رکھو کہ آنے والا فتنہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے بچنے کے لئے بہت بہت تیاری کرو۔ پہلوں (خلفائے راشدین) سے یہ غلطیاں ہوئیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے متعلق حسن ظن سے کام لیا جو بد ظنیاں پھیلانے والے تھے۔ حالانکہ اسلام اس کی حمایت کرتا ہے جس کی نسبت بد ظنی پھیلائی جائے اور اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے جو بد ظنی پھیلاتا ہے اور جب تک کہ باقاعدہ تحقیقات پر کسی شخص پر کوئی الزام ثابت نہ ہو اس کا پھیلائے والا اور لوگوں کو ستانے والا اسلام کے نزدیک نہایت نجیبت اور مہنتی ہے۔ پس تم تیار ہو جاؤ کہ تم اس قسم کی غلطی کا شکار نہ ہو جاؤ۔“ (انوار خلافت ص ۱۰۹)

اس اقتباس کا نفسیاتی جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ:

۱..... شاطر سیاست پر زنا کا الزام جانکد کرنے والے سچے ہیں۔

۲..... شاطر سیاست خود اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔

۳..... شاطر سیاست کے نزدیک زنا کرنے والا مجرم نہیں بلکہ دیکھنے والا مجرم ہے اور پھر اس کے خلاف واویلہ کرنے والا خطا دار ہے۔

۴..... پہلے (خلافت راشدین) سے بھی ایسی حرکات ہوتی رہی ہیں اور ان کی حرکات دیکھنے والوں پر دوسرے لوگ یقین کر لیتے تھے۔

۵..... شاطر سیاست اپنے مریدوں کو متعین کرتے ہیں کہ انہیں ایسے اعتراضات پر یقین نہیں کرنا چاہئے۔

ان کے اس اقتباس کا پہلا فقرہ ہے۔ ”یاد رکھو کہ آنے والا فتنہ بہت خطرناک ہے۔“ اس فقرہ کو پڑھنے سے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آنے والے فتنہ کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس سوال کا جواب انہوں نے اسی اقتباس میں دیا ہے۔ لکھتے ہیں: ”پہلوں سے یہ غلطیاں ہوئیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے متعلق حسن ظن سے کام لیا جو بدظنیاں پھیلانے والے تھے۔ حالانکہ اسلام اس کی حمایت کرتا ہے۔ جس کی نسبت بدظنی پھیلائی جائے اور اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے جو بدظنی پھیلاتا ہے۔“

ان سطور میں لفظ فتنہ کو بدظنی پھیلانے والوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی ایک فتنہ آنے والا ہے۔ وہ فتنہ کیا ہوگا۔ یہی کہ بعض لوگ میرے (شاطر سیاست) خلاف بدظنیاں پھیلائیں گے۔ گویا انہوں نے یہ بھی نشان دہی کر دی کہ فتنہ اٹھے گا اور وہ یہ ہوگا کہ شاطر سیاست سے متعلق بعض لوگ بدظنیاں پھیلائیں گے۔ اب یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بدظنیوں سے کیا مراد ہے۔ سو اس کے لئے شاطر سیاست نے بتا دیا کہ اسلام اس کی حمایت کرتا ہے۔ جس کی نسبت بدظنی پھیلائی جائے اور اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے جو بدظنی پھیلاتا ہے اور جب تک باقاعدہ تحقیقات پر کسی شخص پر کوئی الزام ثابت نہ ہو اس کو پھیلانے والا اور لوگوں کو سنانے والا اسلام کے نزدیک نہایت خبیث اور مہنتی ہے۔

اس اقتباس میں انہوں نے بدظنی پھیلانے والے کو اسلامی نظریات کے مطابق مجرم گردانا ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ اسلام کے نزدیک کس قسم کی بدظنی پھیلانے والا مجرم ہے۔ اسلام نے زنا کے سلسلہ میں یہ قاعدہ کلیہ بتایا ہے کہ جب تک چار گواہ یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص کو انہوں نے زنا کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت تک کسی ایک شخص کی گواہی قابل قبول نہیں اور اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام عائد کرتا ہے اور اس کی نظر کھرتا ہے اور اس کے لئے چار گواہ پیش نہیں کر سکتا تو وہ مجرم ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کے نزدیک بدظنی کا مفہوم زنا کا

الزام ہے۔ اب اس تشریح کی روشنی میں مندرجہ بالا اقتباس پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہیں قبل از وقت علم تھا کہ ان پر اس قسم کے الزامات عائد ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ اس قسم کا علم بھرماتہ ذہنیت کا واضح اظہار ہے۔ چونکہ انہیں اپنی بد اعمالیوں کا علم تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی غرض سے پیش بندی کر دی اور گول مول الفاظ میں جہاں اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ وہاں زنا جیسے فعل کو جائز کہہ دیا اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ یہ فعل صرف میں ہی نہیں کرتا بلکہ پہلے (یعنی خلفائے راشدین وغیرہ) بھی کرتے رہے ہیں۔ (نعوذ باللہ)

آئینہ دیکھیں تو رخ اپنا نظر آتا ہے

حلفیہ شہادت

شاطر سیاست کے اخلاق کا تذکرہ چل لکھا ہے تو لگے ہاتھوں چند مزید حقائق بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیں ایک نوجوان محمد یوسف کی ایک تحریر موصول ہوئی ہے۔ مسٹر یوسف کا خاندان شاطر سیاست کے خاص الخاس مریدوں سے ایک ہے اور وہ ان دنوں کراچی میں مقیم ہیں۔ میں ان کی وہ تحریر من و عن شائع کر رہا ہوں۔

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم!

”اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله“ میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ خدا کے نبی اور خاتم النبیین ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے۔ میں احمدیت کو بھی برحق سمجھتا ہوں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور مسیح موعود مانتا ہوں اور اس اقرار کے بعد میں مؤکد عذاب حلف اٹھاتا ہوں۔

”میں اپنے علم اور مشاہدہ اور روایت یعنی اور آنکھوں دیکھی بات کی بناء پر خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کی پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ربوہ نے خود اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا۔ اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ میں اس بات پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ بالتقابل حلف اٹھانے کے لئے بھی تیار ہوں۔“

دستخط: محمد یوسف معرفت عبد القادر

تیرھ سنگ بے اللوانی روڈ عقب شالیماں روٹل کراچی

خشوع و خضوع

مترضین نے جب کبھی بھی شاطر سیاست پر زنا کا الزام لگایا تو ان کے بعض بھولے بھالے مریدوں نے کہا کہ جو شخص جب بھی بات کرتا ہے آنحضرت ﷺ کا نام لیتا اور اسلام کے

لئے اتنی تڑپ کا اظہار کرتا ہے اس کے متعلق یہ تصور بھی غلط ہے کہ وہ زنا جیسے قبیح فعل کا ارتکاب کرتا ہوگا۔ اس کے متعلق مرزا غلام احمد کا فرمان تو حجت ہے۔ فرماتے ہیں: ”خشوع اور گریہ وزاری کہ جو بغیر ترک لغویات ہو کچھ فخر کرنے کی جگہ نہیں اور نہ یہ قرب الہی اور تعلق باللہ کی کوئی علامت ہے۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۸، ج ۲، ص ۱۹۴)

یعنی شاطر سیاست اسٹیج پر کھڑے ہو کر مریدوں کو بیوقوف بنانے کے لئے سرور کائنات ﷺ کا نام لے کر اور اسلام کی تڑپ کا اظہار کر کے رونما شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ظاہر یہ کرتے ہیں گویا انہیں قرب الہی حاصل ہے اور ان کے بعض بھولے بھالے مرید بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خلافت مآب کا رد تعلق باللہ کی علامت ہے۔ حالانکہ وہ شخص جس کی زندگی لغویات سے پاک نہ ہو اس کا اس طرح کا اظہار منافقت پر مبنی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے دل میں لغویات بھری ہوئی ہیں اور اس کی زبان پر اللہ اللہ ہوتا ہے۔ اگر میرا یہ استدلال قابل قبول نہ ہو تو کم از کم مرزا غلام احمد کا فرمان تو حجت ہونا چاہئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گریہ وزاری کہ جو بغیر ترک لغویات ہو کچھ فخر کرنے کی جگہ نہیں اور نہ ہی یہ قرب الہی کی کوئی علامت ہے۔ پس یہ امر مسلم ہے کہ ان کی زندگی لغویات کا مجموعہ ہے اور وہ جب تک انہیں ترک نہ کر دیں اس وقت تک ان کی گریہ زاری محض دکھاوا ہے اور تعلق باللہ کا ذریعہ نہیں ہے اور ان کا اس طرح ظاہر طور پر خشوع و محضوع کرنا ان کے پاک ہونے کی دلیل نہیں۔ بلکہ ایسا اقدام لوگوں کو دھوکا دینے کی سعی ناپاک اور منافقت کی تین دلیل ہے۔

پیر اور استاد کا احترام

جہاں ماں باپ کی عزت اور ان کا احترام، اخلاقیات کے مطابق ضروری ہے۔ وہاں پیر اور استاد کا احترام بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص ان معاشرتی قوانین اور قرآن پاک کے احکام اور رسول پاک ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اس کے اخلاق سے متعلق آسانی سے صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ حکیم نور الدین (خلیفہ اول) شاطر سیاست کے پیر تھے اور شاطر سیاست نے ان سے بہت کچھ پڑھا اور سیکھا تھا۔ اس اعتبار سے وہ ان کے استاد بھی تھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے عہد خلافت میں شاطر سیاست پر بہت سے احسانات بھی کئے تھے۔ اس اعتبار سے وہ شاطر سیاست کے محسن بھی تھے۔ آئیے اب دیکھیں کہ حضور نے اپنے پیر، استاد اور محسن کے احسانات کا بدلہ کیا دیا۔

حکیم نور الدین، مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ تھے۔ وہ اگر چاہتے تو شاطر

باپ کے مقام کے برابر ہوتا ہے۔ پس انہوں نے یہ الفاظ مولوی نور الدین سے متعلق نہیں کہے۔ بلکہ اپنے باپ سے متعلق کہے ہیں اور اس قسم کے الفاظ کی ایک معمولی اخلاق رکھنے والے شخص سے بھی توقع نہیں رکھی جاسکتی۔ جب ان کے ان الفاظ پر چند مرزائی نوجوانوں نے تنقید کی تو افضل مورخ ۱۸ اکتوبر میں نوجوانوں کے اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ: ”مولوی محمد علی امیر اعظم احمدیہ اشاعت اسلام لاہور نے بھی مولوی نور الدین کی انہی الفاظ میں توہین کی تھی۔“

اول تو مولوی محمد علی نے مولوی نور الدین کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی۔ لیکن اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ انہوں نے گستاخی کی تھی تو شاطریاں کے لئے گستاخانہ الفاظ استعمال کرنے کا حجاز کیسے پیدا ہو گیا؟ اگر مولوی محمد علی نے اپنے پیر کی شان میں گستاخی کی تھی تو ان کا اقدام بھی ناجائز تھا اور اگر شاطریاں نے یہی اقدام کیا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک ناجائز فعل کو کسی کے ناجائز فعل کی مثال دے کر جائز ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ سوال تو یہ ہے کہ اس قسم کا فعل اپنی ذات میں ناپسندیدہ اور اخلاق سوز ہے یا نہیں؟ مرکب ہونے والا شخص چاہے کوئی ہو اس کی مثال دے کر اخلاق سوز بات کو اخلاق ثابت کرنا جاہلیت ہے۔ یہ عجیب منطق اور حیرت انگیز فن دروغ گوئی ہے کہ جب کبھی بھی کسی شخص نے ان پر کوئی اعتراض کیا انہوں نے جھٹ کسی دوسرے شخص کی مثال دے دی کہ فلاں شخص بھی یہ فعلی کرتا رہا ہے۔ اس لئے شاطریاں نے یہ فعلی کر لیں تو ان پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟

ان کی زبان اور اخلاق پر غور کرنے کے بعد ہر شخص ان کے دعاوی کو آسانی سے پرکھ سکتا ہے۔ جس کا اخلاق پست اور جس کی زبان اتنی گھٹیا ہو اس شخص کے دعاوی کی بلندی پر ایمان رکھنے والا شخص جاہل نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ شخص جو اپنے حقیقی باپ (مرزا غلام احمد قادیانی) کو نادان کہتا ہو (اس کے متعلق علیحدہ باب میں بحث کی گئی ہے) وہ شخص جس نے اپنے پیر، استاد اور محسن کے احسانات کا بدلہ یہ دیا ہو کہ اس کی اولاد کو جماعت سے خارج کر کے ذلیل و خوار کیا۔ اس شخص کے دعاوی اور اس شخص کے باخدا ہونے کے اعلانات افتراء کے سوا کچھ بھی نہیں اور وہ شخص جو اپنی ذاتی اغراض کے پیش نظر اور شفقت پذیری کے تحت اپنے بیٹے کو ناجائز مراعات دیتا ہے اور اس کی راہ میں جائز اعتراض کرنے والے کو منافق قرار دیتا چلا جاتا ہے۔ اس شخص کے دعاوی کو اجتناب سے زیادہ اہمیت دینا حماقت ہے۔

دوسروں کو پکارنے کا انداز یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ جب بھی کبھی کسی شخص نے شاطریاں سے

علحدگی اختیار کی انہوں نے اس شخص کو منافق کہہ کر اپنے مریدوں کی توجہ اصل حقائق سے ہٹا دی اور معترضین و مخبرین کے رشتہ داروں سے ان کے خلاف تحریریں لے کر شائع کیں اور اس طرح اپنے مریدوں پر یہ ظاہر کرنے کی سعی فرمائی کہ مجھ پر اعتراض کرنے والے بڑے گھٹیا ہیں۔

علاوہ ازیں انہوں نے جہاں اور خلاف اخلاق باتیں کیں وہاں اپنے معترضین کو تودہ اس کہہ کر پکارا۔ حالانکہ دوسروں کو ادب سے پکارنا ایک مذہبی جماعت کے سربراہ کے لئے اشد ضروری ہے۔ لیکن وہ مخبرین، مخالفین اور معترضین کو یوں خطاب کرتے ہیں۔ جیسے کسی چڑیا یا بھنگی کو اور اپنے کسی پوتے کا بھی ذکر کریں تو حضرت فلاں صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ مجھے ان کے اس انداز خطاب پر اعتراض نہیں۔ لیکن اپنے قارئین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اخلاق کا یہ سب سے بڑا علمبردار کتنی گھٹیا باتیں کرتا ہے اور دنیا کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک کر اپنی خلافت کا علم لہراتا ہے اور بھولے بھالے اندھی عقیدت رکھنے والے مرید یہ نہیں سمجھ سکتے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کا نام لے کر چندہ کی تحریک کرنے والا یہ تقدس مآب پست اخلاق کی کس منزل پر بھول بھلیوں میں مبتلا ہے۔

اپنے منہ میاں مٹھو

شاطر سیاست کی کوئی تقریر اور کوئی تحریر ایسی نہیں جس میں اپنی تعریفیں نہ کی گئی ہوں۔ میں نے یہ کر دیا۔ میں نے وہ کر دیا۔ میں نے یورپ اور ایشیا میں اتنے مشن کھولے۔ میں نے سورہ فاتحہ کا ایسا ترجمہ کیا ہے کہ آج تک کسی کو نہیں سوجھا۔ میں مٹ گیا تو محمد رسول اللہ ﷺ مٹ جائیں گے۔ میں جب مسند خلافت پر بیٹھا تو جماعت کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ لیکن میں نے جماعت کو بلند یوں پر پہنچا دیا ہے۔ ساری دنیا میری قابلیت کے ترانے گاتی ہے۔ میں نے جو تفسیر کبیر لکھی ہے ابتدائے آفریش سے آج تک کسی نے نہیں لکھی: ”میری اطاعت میں خدا کی اطاعت اور میری نافرمانی میں خدا کی نافرمانی ہے۔“ (الفضل مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۳۷ء)

الغرض ان کی ”میں“ بہت مشہور ہے۔ آئیے اب ذرا ان کی ”میں“ کا بھی محاسبہ کر لیں۔ فرماتے ہیں: ”قرآن کریم کے ترجمہ کا کام خدا تعالیٰ کے فضل سے ختم ہو گیا۔ اس ترجمہ سے متعلق لوگوں کی رائے کا تو اس وقت پتہ لگے گا جب یہ ترجمہ چھپے گا۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس وقت تک قرآن کریم کے جتنے ترجمے ہو چکے ہیں ان میں سے کسی ترجمہ میں بھی اردو محاورے اور عربی محاورے کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا اس میں رکھا گیا ہے۔“

(خطبہ جمعہ مورخہ ۲۳ اگست ۱۹۵۶ء)

مندرجہ بالا اقتباس میں اپنے لکھے ہوئے ترجمہ کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ ترجمہ جس طرح منصفہ شہود میں آتا ہے۔ اگر اسے اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اس ترجمہ کے تمام تر نوٹ ان کے وظیفہ خوار ملا تیار کرتے ہیں اور وہ ان نوٹس کو آپس میں ملادیتے ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ ان ترجموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس ترجمہ کے تمام تر نوٹس وظیفہ خوار ملا تیار کرتے ہیں جن کا علم چند حوالوں کی قطع و برید تک ہی محدود ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہوگا؟ لہذا وہ لوگ جنہیں شاطر سیاست کی تفسیر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس میں قصے کہانیوں، عورتوں کی داستانوں اور مہمل قسم کی بحث و توحیص کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں وہ پاکستان کے ایک سیاسی راہنما کی لڑکی کا نام لکھ کر اس کی سول میرج کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے اس راہنما کا نام اور اس لڑکی کا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیونکہ میرے نزدیک انہوں نے کسی کی لڑکی کا ذکر کر کے بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں کسی کی لڑکی کے نجی معاملہ کا ذکر کرنا یا اس کا یہاں نام لکھنا بھی اخلاق سوز حرکت سمجھتا ہوں۔ ہاں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں مغربی پاکستان کے ایک لیڈر کی لڑکی کا نام لے کر ایک واقعہ بیان کیا ہے جو بد اخلاقی کا بدترین مظاہرہ ہے۔

اب قرآن مجید کی تفسیر لکھنے وقت اس قسم کے قصوں کی کیا ضرورت تھی؟ اسکا سے ظاہر ہے کہ شاطر سیاست نے زندگی میں جو ایک کارنامہ سرانجام دیا ہے وہ بھی کتنا بڑا ہے اور اس میں جو مواد پیش کیا ہے وہ کیسا ہے اور پھر اس پہ طرہ یہ کہ اس قسم کی ہرزہ سرائی کی تعریف اپنے منہ سے کرتے ہیں جو انہی کا حصہ ہے۔

پھر ان کی دوسری ”میں“ یہ ہے۔ ”اگر میں مٹ گیا تو محمد رسول اللہ ﷺ مٹ جائیں گے۔“ (نعوذ باللہ)

اب ان سے کون پوچھے کہ حضور کبھی آپ نے آئینے میں اپنی صورت بھی دیکھی ہے یا نہیں؟ کجا پدی اور کجا پدی کا شور با!

اور انہیں مدیر چٹان حضرت شورش کاشمیری کا یہ فقرہ کون سنائے کہ محمد رسول اللہ ﷺ تو کیا آپ حضرت عمرؓ کے بول و براز کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن شاطر سیاست کو دیکھئے اور ان کے وعادی پر نگاہ دوڑائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ مینڈکی کو بھی زکام ہونے لگا ہے۔

اب کی تیسری ”میں“ یہ ہے۔ ”میری اطاعت میں خدا کی اطاعت اور میری نافرمانی میں خدا کی نافرمانی ہے۔“

چنانچہ ان کے مرید بھی جہاں کہیں لکھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ: ”ہم حضور کی اطاعت میں نجات تصور کرتے ہیں۔“

حالانکہ سرور کائنات ﷺ کی اطاعت میں نجات قرار دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت حضور پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی اطاعت کو انسانوں کی نجات کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن میٹز کی کو خواہ مخواہ زکام ہوا چاہتا ہے۔

الغرض انہوں نے ساری زندگی ”میں، میں، میں“ میں گزار دی اور اپنے منہ میاں مٹھوین کر ہزاروں انسانوں کو بے وقوف بنایا اور آج تک بنا رہے ہیں اور اس وقت تک اپنا فرض ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک کہ موت کا فرشتہ ان کی روح قبض نہ کر لے۔ فرعون کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی ”میں، میں، میں“ اس نے بھی نہ کی تھی بلکہ انہوں نے تو فرعون کو بھی مات کر دیا ہے۔

مسئلہ تکفیر

۱۹۱۳ء میں مسند خلافت پر متحکم ہونے والے اس سیاستدان نے شطرنج کا نقشہ سامنے رکھا اور اپنی خلافت کی بنیادیں استوار کرنی شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ان کے مرید دوسرے مسلمانوں سے حقائق رہے اور اگر ان کے درمیان دیوار حائل نہ کی گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے مریدوں کے دلوں میں خلافت مآب کی قدرومنزلت قائم نہ ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مریدوں کو دوسرے مسلمانوں سے بالکل جدا رکھنے کی سعی و جدوجہد شروع کی اور اس کے لئے جہاں حدود دوسرے القدمات کے وہاں ایک قدم پہ بھی اٹھایا کہ مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”ہم منکرین مسیح موعود کو اس لئے کافر سمجھتے ہیں کہ حضور نبیؐ سے اور نبیؐ کا منکر کافر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ واحد دلیل ہے جسے احمدیہ عقائد میں روز ازل سے پیش کیا گیا ہے۔“

(الفضل مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۳۷ء)

ان سطور میں صاف الفاظ میں منکرین مژدہ اقا دہانی کو کافر کہا گیا ہے اور اس عقیدہ کو روز ازل سے اپنی جماعت کا عقیدہ کہا ہے۔ پھر لکھتے ہیں: ”جو شخص غیر احمدی کو فرشتہ دیتا ہے وہ یقیناً حضرت مسیح موعود کو نہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیر احمدیوں میں ایسا بے دین ہے جو کسی بندہ یا کسی عیسائی کو اپنی لڑکی دے۔ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو..... مگر تم احمدی کہلا کر کافر کو فرشتہ دیتے ہو۔“

(علامہ اللہ ص ۳۶)

یعنی جو شخص بھی غیر احمدی کو اپنی لڑکی کا رشتہ دیتا ہے تو یا وہ ایک کا فر کو رشتہ دیتا ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”کل مسلمان جو سچ موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت سچ موعود کا نام بھی نہ سنا ہو گا فرار و دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔“

(آنچند معائنات ص ۳۵)

ملاحظہ ہوا اقتباس میں شاطر سیاست صالح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے مرزا قادیانی کا نام سنا ہے اور پھر بیعت نہیں کی۔ وہ بھی کافر ہے اور جس نے ان کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ اپنی ۳۲ سالہ خلافت میں طوائف مسلمانوں کو کافر گردانتے رہے اور اپنے اس عقیدہ پر سختی سے قائم رہے۔ لیکن جب ختم نبوت تحریک نے فضا موسم کر دی اور عظیبات کے لئے عدالت بیلی تو اس عدالت کے سامنے ان کے قدم ڈگمگائے اور انہوں نے طرف کے دار سے اپنے عقیدہ میں تبدیلی پیدا کر لی۔ لڑے کی ضرب سے انہیں اپنا پرانا عقیدہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ عدالت کے سامنے شاطر سیاست نے جو بیان دیا وہ حسب ذیل ہے: ”کوئی شخص جو مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جاسکتا۔“

(رپورٹ صحیفہ عدالت ص ۲۸)

لیکن (آنچند معائنات ص ۳۵) پر واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ: ”وہ شخص جس نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر انہوں نے اپنا دیرینہ عقیدہ لڑے کی ضرب سے نہیں بدلا اور اگر انہوں نے عدالت کے طرف سے تبدیل نہیں کیا تو پھر نہ جانے ان کے عقیدہ میں تبدیلی کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟

گہرات کے ایک وکیل چوہدری محمد حسین جیمہ نے اپنے ایک مضمون فقہ سیاست میں شاطر سیاست کے عقیدہ تبدیل کرنے کی وجہ لڑے کی ضرب قرار دی تو شاطر سیاست کا سرکاری اخبار الفضل پر ایک ماہ نام حصہ میں صحافت سیاہ کرتار ہا۔ ملاحظہ ایک مضمون کے جواب میں اگر جواب محسوس ہو تو چند سطور بھی کافی ہوتی ہیں۔ لیکن پر ایک ملاحظہ وار جیمہ کے مضمون کا جواب دیا چاتا رہا۔ لیکن وہ سارے جوابات برائے جواب ہی تھے۔ مثلاً چوہدری محمد حسین جیمہ نے شاطر سیاست کے تبدیلی عقیدہ کی وجہ لڑے کی ضرب قرار دی تو شاطر سیاست کے سرکاری اخبار الفضل نے بہت فحش اور شاعرانہ جواب دیا۔ جس پر جیشی دادوی نے کہا ہے۔ ”حضرت امیر المؤمنین ابراہیم علیہ السلام نے یہ عقیدہ صحیفہ عدالت میں نہیں بدلا تھا۔ بلکہ ۱۳۳۱ھ میں تبدیل کیا تھا۔“

یعنی اہل ربوہ نے یہ ثابت کر دیا کہ عقیدہ میں تبدیلی ڈٹے کی ضرب کا نتیجہ نہیں۔
 چیمہ نے اسے ڈٹے کی ضرب قرار دے کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن چیمہ کی اس بات کا اقرار کر
 لیا جو ان کا اعتراض تھا اور جسے ڈٹے کی ضرب کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ بقول افضل شاطر سیاست نے
 اگر اپنا عقیدہ تحقیقاتی عدالت میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ ۱۹۳۵ء میں تبدیل کیا تھا تو سوال یہ ہے کہ
 عقیدہ تو تبدیل کیا گیا۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ عقیدہ ڈٹے کی ضرب سے تبدیل ہوا یا نہیں۔
 ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا اور یہی اعتراض محمد حسین چیمہ کا تھا جس کا
 اقرار اہل ربوہ نے خود کر لیا۔

شاطر سیاست کے سرکاری گزٹ نے یہ کہہ کر کہ عقیدہ ۱۹۳۵ء میں تبدیل کر لیا تھا۔ یہ
 تو ثابت کر دیا کہ وہ عقیدہ ڈٹے کی ضرب سے تبدیل نہیں ہوا۔ لیکن چند دیگر عقائد جو تحقیقاتی
 عدالت میں تبدیل کئے گئے کیا وہ بھی ۱۹۳۵ء میں تبدیل کر لئے گئے تھے؟ اگر جواب نفی میں ہو تو
 پھر اگر ان عقائد کی تبدیلی کی وجہ ڈٹے کی ضرب قرار دی جائے تو شاطر سیاست کے پاس کیا
 جواب ہے؟ مثلاً تحقیقاتی عدالت سے قبل شاطر سیاست فرمایا کرتے تھے: ”ہم اس امت میں
 صرف ایک نبی کے قائل ہیں..... پس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں کوئی اور شخص نبی نہیں
 گزرا۔“ (حقیقت النبوۃ ص ۱۳۸)

لیکن تحقیقاتی عدالت میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ: ”ہزاروں نبی ہو
 چکے ہوں گے۔“ سوال اور جواب ملاحظہ ہو:

عدالت کا سوال..... آنحضرت ﷺ کے بعد اور کتنے سچے نبی گذرے ہیں؟

جواب..... اس اعتبار سے کہ ہمارے رسول کریم ﷺ کی حدیث کے مطابق آپ کی
 امت کے علماء تک میں آپ کی عظمت اور شان کا انعکاس ہوتا ہے۔ سینکڑوں اور ہزاروں ہو چکے
 ہوں گے۔

کیا مندرجہ بالا دونوں بیانات میں واضح تضاد نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر کیا یہ عدالت
 کے ڈٹے کی ضرب کا نتیجہ تو نہیں؟

علاوہ ازیں نماز جنازہ کے عقیدہ میں بھی انہوں نے عدالت میں تبدیلی کر لی۔ چنانچہ
 عدالت میں پیش ہونے سے قبل نماز جنازہ سے متعلق ان کا عقیدہ حسب ذیل تھا: ”ایک اور سوال
 رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی تو حضرت مسیح موعود کے مگر ہوئے۔ لیکن ان کے بچوں کا جنازہ کیوں نہ

پڑھا جائے۔ وہ تو مسیح موعود کا مکتبہ نہیں۔ میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے..... کہ غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہی ہوا۔ اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔“

(انوار خلافت ص ۹۳)

لیکن جب تحقیقاتی عدالت میں یہ حوالے پیش کئے گئے تو فرماتے ہیں: ”یہ بات میں نے اس لئے کہی تھی کہ غیر احمدی علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ احمدی کے بچوں کو بھی قبرستان میں دفن نہ ہونے دیا جائے۔ اب ہمیں بانی سلسلہ کا ایک فتویٰ ملا ہے جس کے مطابق ممکن ہے کہ غور و خوض کے بعد پہلے فتویٰ میں ترمیم کر دی جائے۔“

(رپورٹ تحقیقاتی عدالت بیان ص ۷۱)

ان کے اس مندرجہ بالا بیان میں جہاں ڈنڈے کی ضرب نظر آتی ہے۔ وہاں یہ بات بھی عیاں دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے دو جھوٹ بولے ہیں۔ پہلا جھوٹ یہ کہ انہوں نے مندرجہ بالا بیان غیر احمدی علماء کے فتویٰ کے جواب میں دیا تھا۔ انوار خلافت میں انہوں نے جہاں اپنے فتویٰ کا ذکر کیا ہے وہاں غیر احمدی علماء کے فتویٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ عدالت سے جان بچانے کے لئے انہوں نے جھوٹ بولا۔ دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ بانی سلسلہ احمدیہ کا ایک فتویٰ مل گیا ہے اور ملا بھی اس شب کو ہے جس کے دوسرے دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ یہ صریحاً کذب بیانی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا فتویٰ ملا ہے تو اسے ابھی تک شائع کیوں نہیں کیا گیا۔ تیسرے یہ کہنا کہ ممکن ہے غور و خوض کے بعد اس فتویٰ میں تبدیلی پیدا کر دی جائے گی۔ جان چمڑانے کا ایک بہانہ تھا۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس پر غور و خوض نہیں ہو سکا اور مرزا غلام احمد کی وہ تحریر ابھی تک شائع نہیں کی گئی۔ جس کی آڑ لے کر شاطر سیاست نے جان بچائی تھی۔

ہم حیران ہیں کہ وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ فضل عمر ہے۔ وہ ڈنڈے سے گھبرا کر اپنے عقائد تبدیل کر لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس عمر سے مشابہت دیتا ہے جو بہادری اور دلیری میں بے مثل تھے اور جنہوں نے عرب میں اپنی شجاعت اور بہادری کے کارناموں سے دھوم مچا دی تھی اور جن کا نام سن کر عرب کا بڑے سے بڑا لیڈر مارنے خوف کے کاہنے لگتا تھا۔

حضرت عمر فاروقؓ سے مماثلت

خلافت مآب عمر فاروقؓ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کے مریدوں کا خیال ہے کہ وہ مثیل عمر ہیں۔ چنانچہ الفضل مورخ ۱۵ اگست ۱۹۳۷ء میں ایک صاحب رفقہ راز ہیں: ”ہمارا

ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود کے خلفائے کرام کو بھی خلفائے راشدین سے مماثلت ہے۔ بالخصوص حضرت امیر المؤمنین کے عہد مبارک کی ترقیات و فتوحات حضور کی معاملہ فہمی، سیاست دانی، دور بینی، انتظام جماعت اور طریق عمل جمع امور سے صاف طور پر عیاں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کو حضرت عمرؓ سے واضح مشابہت ہے۔“

ان سطور میں صاف الفاظ میں خلافت مآب کو حضرت عمرؓ سے مماثلت دی گئی ہے۔ اب جن لوگوں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے اور جن کا دعویٰ ہے کہ ان کی زندگی آلود گیوں کا مجموعہ ہے۔ وہ جب سنتے ہیں کہ انہیں عمر ثانی قرار دیا جا رہا ہے تو سننے اور جاننے والوں پر کیا گذرتی ہوگی اور حضرت عمرؓ کے متعلق وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ اسی طرح شاطریہ سیاست نے اپنے تین مریدوں کو خالد بن ولید قرار دیا ہے۔ ان میں سے بعض سخت ذلیل اور بے حد گندے ہیں۔ اب وہ خالد بن ولید جن کو سرور کائنات ﷺ نے اللہ کی تلوار قرار دیا تھا ان کے متعلق ایک محد و علم رکھنے والا شخص کیا رائے قائم کرتا ہوگا۔ کیا یہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور سرور کائنات ﷺ کی کھلی توہین نہیں؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ شاطریہ سیاست حضرت عمر فاروق کے مشیل ہیں اور جو شخص شاطریہ سیاست کو دیکھتا ہے وہ حضرت عمر فاروق کے متعلق کیا سوچتا ہوگا؟ میں یہاں حضرت عمرؓ کی محبت اور عقیدت کے جذبات میں بہت کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اپنے قلم کو قابو میں رکھتے ہوئے شاطریہ سیاست کی یہ گستاخی نظر انداز کر رہا ہوں۔ کیونکہ حضرت عمرؓ کے خلوص اور جوش محبت میں ممکن ہے۔ میرے قلم سے شاطریہ سیاست سے متعلق کوئی سخت فقرہ نکل جائے۔ لیکن یہاں یہ بات کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق کے ساتھ مماثلت دے کر مسلمانان عالم کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے نزدیک حضرت عمر فاروق کا مقام بہت بلند ہے اور ایک گندی اور غلیظ چیز کو ان کے ساتھ مشابہت دینا ان کی سراسر توہین کرنا اور ہمارے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ جس طرح کسی سنجی یا کسی ذلیل ترین چیز کے ساتھ کسی بزرگ کی مماثلت قائم کرنا گناہ اور بد اخلاقی ہے۔ بعینہ شاطریہ سیاست کا حضرت عمرؓ سے اپنی مماثلت قائم کرنا بد اخلاقی کا بدترین مظاہرہ ہے اور مسلمانان عالم کی غیرت کے لئے ایک کھلا چیلنج ہے۔ حضرت عمر فاروق کا مقام یہ تھا کہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے انہیں جنت میں سن رسیدہ اشخاص کا سردار گردانا تھا۔ چنانچہ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی شان میں فرمایا کہ دونوں انبیاء مرسلین کے علاوہ تمام اولیٰین و آخرین سن رسیدہ اشخاص کے جنت میں سردار ہوں گے۔

(بیان الامراء ص ۴۶)

جب حضرت عمرؓ فوت ہوئے اور حضرت علیؓ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ کی لاش کپڑے سے ڈھانپی ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم ﷺ کے بعد اس کپڑا اوڑھنے والے سے زیادہ کسی کے اعمال پسند نہیں۔ (حاکم)

لیکن اس کے برعکس شاطر سیاست ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فوت ہونے کی تیاریاں فرما رہے ہیں کہ متحد لوگ ان سے ان کی پاکیزگی سے متعلق استفسار کر رہے ہیں۔ لیکن شاطر سیاست ہیں کہ قیامت کی سی چپ سادھ رکھی ہے۔ میرے نزدیک ان کا حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ موازنہ کرنا درست نہیں۔ لیکن چونکہ ان کے مریدوں کی اکثریت لاعلمی کا شکار ہو کر ان کے دعادی پر آمنا و صدقا کہہ رہی ہے اور ان کے یہ مرید لاعلمی کی وجہ سے ان کو عمر ثانی سمجھنے میں مخلص ہیں۔ اس لئے یہاں موازنہ سے شاطر سیاست کی کذب بیانی ثابت کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ میں مزید خصوصیات قلمبند کر رہا ہوں جو حسب ذیل ہیں۔

شاطر سیاست (جعلی عمر)	حضرت عمرؓ
(۱) انہوں نے اپنے بیٹے کو زنا کے اہرام سے بری قرار دیتے ہوئے اپنے ایک تکلیف خوار ملا کو صحیہ کر دی کہ میرے بیٹے سے پوچھو گچھو نہ کی جائے۔ حالانکہ اس وظیفہ خوار ملا کے پاس شاطر سیاست کے بیٹے کی تحریر تھی۔ جس میں اس نے زنا کا اقرار کیا تھا۔	(۱) انہوں نے اپنے بیٹے کی قبر پر باقی ماندہ کوڑے لگوائے جس کو زنا کی وجہ سے سزا دی گئی اور وہ مر گیا۔
(۲) یہ بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے۔	(۲) وہ بیت المال کو ذاتی معارف میں نہیں لاتے تھے۔
(۳) یہ اپنے آپ کو قوم کا حاکم سمجھتا ہے۔	(۳) وہ اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھتے تھے۔
(۴) اس نے اپنے بیٹے کو وظیفہ بنانے کے لئے جانبدار کمیشن مقرر کر دیا ہے۔	(۴) انہوں نے حکم دیا کہ میرا کا وظیفہ نہ بنایا جائے۔
(۵) یہ اقربا پروری کو دیانت سمجھتا ہے۔	(۵) وہ اقربا پروری کو ناجائز سمجھتے تھے۔
(۶) یہ قضا میں پیش نہیں ہو سکتا اور اپنے آپ کو قضا سے بالاتر سمجھتا ہے۔	(۶) وہ قضا میں پیش ہوتے رہے۔
(۷) یہ نہایت بزدل ہے۔ چنانچہ قادیان سے روانگی کے وقت ہمیں بدل کر بھاگ آیا۔	(۷) وہ نہایت دلیر انسان تھے اور عرب کے بڑے سے بڑے تیر آ زمان کا نام سن کر کانپتے تھے۔

(۸) یہ ذاتی جاہ و جلال اور شاہد باٹھ کا قائل ہے اور اس کے لئے سب کچھ قربان کر دینا جائز سمجھتا ہے۔ کو ناپسند فرمایا۔	(۸) انہوں نے فقیرانہ زندگی بسر کی اور جاہ و شہمت کو ناپسند فرمایا۔
(۹) یہ پہرے داروں کے بغیر باہر نکل ہی نہیں سکتا۔	(۹) وہ شہر بھر میں رات کے وقت گلی گلی چل پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے۔
(۱۰) یہ کوشیوں اور محلوں میں رہنے کا دلدادہ ہے۔	(۱۰) وہ معمولی جمونپڑیوں میں زندگی بسر کرنے میں فخر سمجھتے تھے۔
(۱۱) یہ تنقید اور اعتراض کرنے والے کو برداشت نہیں کرتا۔ بلکہ ناقدین کے خلاف قتل کی سازشیں اور دوسرے ممکنہ ذمے استعمال کرنے شروع کر دیتا ہے۔	(۱۱) وہ تنقید کو پسند کرتے تھے اور یہاں تک کہتے تھے کہ ”مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو مجھ پر تنقید کرتا ہے۔“
(۱۲) اس پر اس کے اپنے مریدوں نے زنا کے الزامات عائد کئے۔	(۱۲) ان پر کسی دشمن نے بھی کسی قسم کا الزام عائد نہیں کیا۔
(۱۳) یہ اپنے لئے پہرہ حکما رکھواتا ہے۔	(۱۳) وہ پہرہ کو فتنہ قرار دیتے تھے۔
(۱۴) اس کے مریدوں نے اس پر خیانت اور بددیانتی کا الزام لگایا۔	(۱۴) ان پر کسی نے بھی بددیانتی اور خیانت کا الزام نہیں لگایا۔ بلکہ ان کو امین گردانا گیا اور صادق القول اور صادق الوعد کا لقب دیا گیا۔
(۱۵) یہ پست قدم اور دائم الریض ہے۔	(۱۵) وہ قوی ریکل صحت مند اور دراز قدم تھے۔
(۱۶) یہ تقریباً ہر روز بیمار رہتا اور صحت کاملہ و جاہلہ کے لئے التزام کے ساتھ دعاؤں کا محتاج رہتا ہے۔	(۱۶) وہ زندگی بھر تندرست اور قوی ریکل رہے۔ انہیں التزام کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت پیش نہیں آئی۔
(۱۷) اس نے ناقدین سے سوشل بائیکاٹ جیسا ناپسندیدہ رویہ اختیار کیا۔	(۱۷) انہوں نے اپنے ناقدین کے ساتھ کبھی سوشل بائیکاٹ نہیں کیا۔
(۱۸) ”یٰۤاٰکراہ فی الدین“ کا بدترین دشمن ہے۔	(۱۸) انہوں نے اس آیت کا عملی ثبوت ہم پہنچایا۔
(۱۹) یہ خود اسیر ہے۔	(۱۹) وہ اسیروں کی رشتگاری کا باعث تھے۔
(۲۰) یہ جلد جلد ہونے کی سعی و جہد میں ناکام رہا۔	(۲۰) وہ جلد جلد بڑھے اور دنیا کے کناروں تک پہنچ گئے۔
(۲۱) یہ اپنی تعریفیں خود کرتا ہے۔	(۲۱) ان کے عمل نے دنیا کو ان کی تعریفیں کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے بارے میں تعریف ناپسند فرماتے تھے۔
(۲۲) یہ لوگوں کو گندی گالیاں دیتا ہے۔	(۲۲) انہوں نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی۔

(۲۳) یہ قانع بھی بیماری میں جلا ہوا جس کے متعلق (مرزا غلام احمد) نے کہا تھا کہ قانع للضعفی بیماری ہے۔	(۲۳) کوہ زندگی بھراس قسم کی دباؤں سے محفوظ رہے۔ بلکہ ان کے قرب و جوار میں بھی ایسی دباؤ بھی نازل نہیں ہوئی۔
(۲۳) اس نے قادیان بھی اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔	(۲۳) انہوں نے لاتعداد فتوحات سے دنیا کو اپنی شہادت کا قائل کر لیا۔
(۲۵) یہ صبح کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے اور ٹوکے کے چگانے پر کہہ دیتا ہے کہ ”پڑھا دی جائے۔“	(۲۵) وہ لوگوں کے گھروں پر جا کر انہیں تہجد کی نماز کے لئے خود جگا یا کرتے تھے۔

کیا ان خصوصیات کی روشنی میں بھی کوئی ذی فہم شخص شاطری سیاست کے متعلق مثل عمرؓ ہونے کا تصور کر سکتا ہے۔ بلکہ ان کو مثل عمرؓ قرار دینا حضرت عمرؓ کے ساتھ دشمنی اور انہیں گالی دینا ہے۔ جسے کوئی مسلمان بھی ایک لمحہ کے لئے برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آج ہم خاموش رہے اور..... اس کا کوئی حل نہ سوچا تو ممکن ہے کہ کل کوئی بازاری عورت امہات المؤمنین سے اپنی مماثلت کا دعویٰ کر دے۔ (نمود ہائے اللہ) پس ظاہر ہے کہ اس قسم کی اجازت دینا اور اس قسم کے دعویٰ پر خاموشی اختیار کرنا بے غیرت ہونے کا کھلا اقرار کرنا ہے۔ اگر اس وقت شاطری سیاست کو حضرت عمرؓ کے صحیح مقام کا احساس نہیں تو کم از کم ہمیں تو حضرت عمرؓ کے مقام پر پاس ہے اور اگر ہم نے آج حضرت عمرؓ کی عزت و احترام کا احساس نہ کیا تو ہم گنہگار بن کر روز جزا جوابدہ ہوں گے۔

نظر بلند نظر کا مقام اس سے بلند کوئی مقام نہ تھا میر کارواں کے لئے

رُذِیَا وَ كُشُوفِ كَادِبَاوَا

انسان کی فطرت میں ایک خوف کھانے والی حس ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہونے کے بعد جنت اور جہنم کے نظریات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاکیزگی اور صالح اعمال بجالانے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرتا ہے۔ شاطری سیاست کو انسان کی اس کمزوری کا علم ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بھولے بھالے سریدوں کو رُذِیَا وَ كُشُوفِ سنا سنا کر ڈراتے رہتے ہیں اور عاقبت کا خوف دلا کر اپنا اٹو سیدھا کرتے ہیں۔ آخری شادی جو انہوں نے چند ہی سال قبل کی تھی وہ بھی رُذِیَا کے ڈر پیر ہی معرض وجود میں آئی تھی۔ ایک دن خطبہ جمعہ میں انہوں نے کہا کہ رات میں نے رُذِیَا میں دیکھا کہ میرا نکاح فلاں لڑکی سے ہو رہا ہے۔ اس کی خصوصیات فلاں فلاں ہیں۔ اگر اس کے باپ نے اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے گھبرا کر اور حضور پر نور کے رُذِیَا سے ڈر

کراچی لڑکی کا رشتہ حضور پر نور کو دے دیا۔ اسی طرح شاطر سیاست دوسرے معاملات میں بھی بھولے بھالے مریدوں پر عاقبت کا خوف طاری کرتے اور روپا و کشوف کا دباؤ ڈال کر اپنے مقاصد پورے کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی بھی کسی شخص نے ان کی فحشی زندگی کا جائزہ لیا اور اپنے ذاتی مشاہدات کی روشنی میں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو انہوں نے اس شخص کے باپ یا دیگر رشتہ داروں پر عاقبت کا خوف طاری کر کے اس کے خلاف تحریریں لکھوا کر اپنے سرکاری گزٹ میں شائع کر دیں۔ چنانچہ ۱۹۵۶ء میں ایک نوجوان محمد یونس نے ان کی بدعنوانیوں، دغا بازیوں اور فحشی آلودگیوں کو پچھتم خود دیکھ کر جب ان سے عدم وابستگی کا اعلان کیا تو انہوں نے محمد یونس کے والد پر عاقبت کا خوف طاری کیا اور ان سے بیٹے کے خلاف ایک تحریر لکھوائی جس میں لکھا ہے:

”حضور میرے دل میں منافقانہ رنگ نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور عاقبت کے ڈر سے یہ تحریر لکھ کر بری الذمہ ہوں۔“

(الفضل مورچہ ۱۸ مارچ ۱۹۵۶ء)

اس خط میں مسٹر محمد یونس کے والد نے جو احمدی ہیں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ میں یہ تحریر شاطر سیاست کے حکم اور اس خوف کے تحت لکھ رہا ہوں جو ان کی طرف سے طاری کیا گیا ہے۔ شاطر سیاست اس قسم کے چمکنڈوں کو جو اسلامی نظریات کے صریحاً خلاف اور ناپسندیدہ ہیں اپناتے ہیں اور اس پر طرہ یہ کہ ان چمکنڈوں کو مومنانہ فرست یا مومنانہ دلیری گردانتے ہیں۔ اللہ رکھا اور ویش نے جو ان کے گھر میں کام کاج پر بھی مامور رہا جب ان سے اپنے مشاہدات کی روشنی میں طبعی گفتگو کی تو انہوں نے اس کے بھائیوں سے جو احمدی ہیں اس کے خلاف تحریریں لکھوا کر الفضل میں شائع کیں اور ان تحریروں کی اشاعت کے بعد ارشاد فرمایا: ”اللہ رکھا اور ویش کے حقیقی بھائیوں نے ایک خط ارسال کیا ہے (حالانکہ یہ خط خود لکھوا لیا گیا تھا) جس میں انہوں نے صحیح مومنانہ طریق کے مطابق ایمان کو رشتہ پر مقدم کرتے ہوئے اللہ رکھا کی ان حرکات سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ بلاشبہ یہ مومنانہ دلیری ہے جو اللہ رکھا کے بھائیوں نے دکھائی ہے۔“

(الفضل مورچہ ۲۹ مارچ ۱۹۵۶ء)

شاطر سیاست کی مومنانہ دلیری ملاحظہ ہو۔ اسلام کے نزدیک ناقدرین قوم کی روح ہوتے ہیں اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو مجھ پر تنقید کرتا ہے اور شاطر سیاست ناقدرین کے خلاف اظہار بیزاری کرنے کو مومنانہ دلیری قرار دیتے ہیں۔

علاوہ ازیں وہ روپا و کشوف کو اپنی ڈھال بناتے ہیں۔ کبھی کسی نے کوئی سوال کیا اور ان

سے کوئی جواب نہ دین آیا تو رویا سنا دیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ سندھ کے مرہے جو آپ کی ذاتی ملکیت ہیں کہاں سے آئے تو کشف سنا دیا۔ کسی نے استفسار کیا کہ حضور آپ خویش پروری کرتے ہیں تو اس پر عاقبت کا عذاب نازل کر کے اسے منافق قرار دے دیا۔ الغرض وہ رویا و کشف سے اپنا تمام تر کاروبار چلاتے ہیں اور وہ بھولے بھالے لوگ جو خدمت اسلام اور شیخ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی محبت کی بناء پر شاطر سیاست سے وابستہ ہیں۔ غلط بے جوڑ اور مہمل قسم کے رویا و کشف کا تجربہ کئے بغیر آمناء و صدقہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے رویا و کشف من گھڑت اور الہام کی زندہ مثال ہوتے ہیں۔ ہر ذی شعور شخص موجودہ حالات سے آئندہ حالات کا اندازہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ شاطر سیاست شیطان کی آنت کی طرح ایک گول مول رویا شائع کر دیتے ہیں اور جب وہ حالات معرض موجود میں آجاتے ہیں تو افضل میں جلی حروف کے ساتھ رویا کے عظیم الشان طریق سے پورا ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر رویا و کشف ان کے اپنے ذہن کی پیداوار نہ بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ ہر کشف درست ہی ہو۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے: ”سنت اللہ قدیم سے اور جب سے دنیا کی بناء ڈالی گئی ہے اس طرح پر جاری ہے کہ نمونہ کے طور پر عام لوگوں کو قطع نظر اس کے کہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں اور صالح ہوں یا فاسق ہوں اور مذہب میں سچے ہوں یا جھوٹا مذہب رکھتے ہوں..... سچی خواہیں اور سچے الہام و جاہت اور بزرگی پر دلالت نہیں کرتے..... یہ کمال شقاوت اور نادانی اور بد بختی ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ انسان کمال بس اسی پر ختم ہے کہ کسی کو کوئی سچی خواب آجائے یا اس کو الہام ہو جائے بلکہ انسان کمال کے لئے اور بہت سے لوازم اور شرائط ہیں اور جب تک وہ تحقق نہ ہوں تب تک یہ خواہیں اور الہام بھی مکر اللہ میں داخل ہیں۔“ (حقیقت الومی ص ۹۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰)

یعنی سچے خواب فاسق اور غیر صالح لوگوں کو بھی آجائے ہیں۔ اس لئے یہ نادانی اور بد بختی ہے کہ بعض خوابوں پر اپنی و جاہت اور بندگی کا دعویٰ کیا جائے۔ علاوہ ازیں مرزا غلام احمد قادیانی ایک دوسری جگہ پھر لکھتے ہیں: ”یاد رکھنا چاہئے کہ شیطان انسان کا سخت دشمن ہے وہ طرح طرح کی راہوں سے انسان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور ممکن ہے کہ ایک خوب سچی بھی ہو اور پھر بھی شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکہ اگرچہ شیطان بڑا جھوٹا ہے۔ لیکن کبھی سچی بات بتلا کر دھوکا دیتا ہے۔“ (حقیقت الومی ص اول، خزائن ج ۲۲ ص ۳)

یعنی کسی سچے خواب سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ جس شخص کو وہ خواب آیا ہے وہ بزرگی کی کسی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ بلکہ بعض اوقات شیطان بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لئے سچے خواب دکھا دیتا ہے۔ اس لئے کسی سچے خواب کو بھی اپنی بزرگی اور بڑائی کے لئے دلیل ٹھہرانا ناجائز ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی ان لوگوں کے متعلق بھی وضاحت کرتے ہیں جو اپنے خوابوں اور الہامات پر بنا کر غلط اعتقادوں اور ناپاک مذہبوں کو فروغ دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے: ”انسوس کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ابھی شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہیں۔ مگر پھر بھی اپنی خوابوں اور الہاموں پر بھروسہ کر کے اپنے ناراست اعتقادوں اور ناپاک مذہبوں کو ان خوابوں اور الہاموں کے ذریعہ فروغ دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ بطور شہادت ایسی خوابوں اور الہاموں کو پیش کرتے ہیں۔“

(حقیقت الہامی ص ۲، خزائن ج ۲۲ ص ۴)

یعنی اپنے چند سچے خوابوں کو بنیاد اور دلیل ٹھہرا کر اپنے غلط اعتقادات اور غلط مذہب کا پرچار کرنا بھی ناجائز ہے اور جو شخص اپنے خوابوں پر اپنی بزرگی کی بناء رکھتا ہے وہ بھی شیطان کا اسیر ہے۔ چنانچہ شاطر سیاست کی سوانح حیات دیکھئے تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا جب روڈیا و کشف سے انہوں نے اپنی بزرگی اور اپنے اعتقادات کی سچائی نہ ثابت کی ہو۔ وہ لوگ جو افضل کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں افضل میں جہاں ان کے روڈیا و کشف کثرت سے شائع ہوتے رہتے ہیں وہاں بڑی سرخیوں میں ان کے عظیم الشان طریق سے پورا ہونے کا ڈھنڈورا بھی بٹنا جاتا ہے جو ان کے والد مرزا غلام احمد کے نزدیک ناجائز اور شیطان کے اسیر ہونے کی نشانی ہے۔ مرزا غلام احمد مرید قیصر ہیں: ”اور بعض محض فضولی اور فخر کے طور پر اپنی خوابیں سناتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ چند خوابیں یا الہام ان کے جو ان کے نزدیک سچے ہو گئے ہیں۔ ان کی بناء پر وہ اپنے تئیں اماموں یا پیشواؤں یا رسولوں کے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو اس ملک میں بہت بڑھ گئی ہیں اور ایسے لوگوں میں بجائے دینداری اور استعازی کے بے جا تکبر اور غرور پیدا ہو گیا ہے۔“

(حقیقت الہامی ص ۲، خزائن ج ۲۲ ص ۴)

ان سطور میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے (شاطر سیاست) سے متعلق ہی لکھی تھیں۔ کیونکہ وہ اپنے روڈیا و کشف کی بناء پر اپنے آپ کو مصلح موعود اور خلیفہ برحق ثابت کرتے ہیں اور اپنے بھولے بھالے سریدوں پر اپنی بزرگی ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے والد مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ یہ وہ خرابیاں ہیں جو اس ملک میں بہت بڑھ گئی ہیں اور ایسے لوگوں میں بجائے دینداری کے بے جا تکبر اور غرور پیدا ہو گیا ہے۔ یہی عالم

شاہر سیاست کا ہے ان میں بھی جب سے یہ نقص پیدا ہوا ہے۔ غرور اور تکبر نے انہیں بری طرح جکڑ رکھا ہے اور ان سے دینداری اور راست بازی بھی اسی وجہ سے کوسوں دور ہے کہ وہ اپنے رویا و کسوف کو اپنی بزرگی کی بناء گردانتے ہیں۔ حالانکہ یہی خواہیں تو ہر شخص کو آجاتی ہیں۔ خواہ وہ بازاری عورت ہی کیوں نہ ہو یہ بات صرف میں اپنے پاس ہی سے نہیں لکھ رہا۔ بلکہ مرزا غلام احمد بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے: "ایک اور امر بھی ہے اور وہ یہ کہ بعض فاسق اور قاجار اور زانی اور ظالم اور غیر متدین اور چور اور حرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو بھی کبھی کبھی یہی خواہیں آجاتی ہیں اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جو قوم کی چوہڑی یعنی بھگتن تھیں جن کا پیشہ مردار کھانا اور ارتکاب جرائم کا تھا۔ انہوں نے ہمارے رد ہونے پر بعض خواتین بیان کیں اور وہ یہی لکھیں۔ اس سے بھی عجیب تر یہ کہ بعض زانیہ عورتیں اور قوم کے بھرجن کارات دن زنا کاری کام تھا ان کو دیکھا گیا کہ بعض خواتین انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں اور بعض ایسے ہندوؤں کو بھی دیکھا کہ جو نجاست شرک سے طوط اور اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ بعض خواتین ان کی جیسا کہ دیکھا تھا ظہور میں آ گئیں۔"

(حقیقت الوقی ص ۲۱، خزائن ج ۳ ص ۵)

ان سطور میں صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ سچے خواب بعض ہندوؤں کو بھی آجاتے ہیں۔ اس لئے ان پر اپنی صداقت کی دلیل ظہور انا درست نہیں۔ میرے اس استدلال پر اگر کوئی یہ کہے کہ مرزا قادیانی کی مندرجہ بالا سطور عام انسانوں سے حلق نہیں ہیں۔ خواہ اس سے حلق نہیں اور چونکہ شاہر سیاست عوام الناس میں سے نہیں خواہ میں سے ہیں۔ اس لئے ان سطور کو ان پر چسپاں کرنا قلم ہے تو میں مرزا قادیانی کا حسب ذیل اقتباس پیش کئے دیتا ہوں۔ انہوں نے یہاں فرمایا ہے: "دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی حد تک زہد اور صفت کو اختیار کرتے اور علاوہ اس بات کے کہ ان میں رویا اور کسوف کے حصول کے لئے ایک غیر فطری استعداد ہوتی ہے اور دماغی خلوت اس قسم کی واقع ہوتی ہے کہ خواب و کسوف کا کسی قدر نمونہ ان پر ظاہر ہو جاتا ہے..... جس کی آمد سے ایک محدود دائرہ تک رویا مناظر اور کسوف مجھ کے انوار ان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر تاریکی سے خالی نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی بعض دعائیں بھی منظور ہو جاتی ہیں۔ مگر عظیم الشان کاموں میں نہیں۔ کیونکہ ان کی راست بازی کامل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس شفاف پانی کی طرح ہوتی ہے جو اوپر سے شفاف نظر آتا ہو مگر نیچے اس کے گوبر اور گند ہو۔"

(حقیقت الوقی ص ۱۱، خزائن ج ۳ ص ۱۳)

یعنی دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ذہن کی بناوٹ ہی اس قسم کی ہوتی ہے کہ انہیں روڈیا و کشف نظر آجاتے ہیں۔ لیکن ان کشف کی حالت یہ ہے کہ ایک محدود دائرہ تک ہی روڈیا و کشف کے اوار ظاہر ہوتے ہیں اور وہ بھی تاریکی سے خالی نہیں ہوتے۔ بلکہ ان روڈیا و کشف میں بھی بعض خلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کی چند دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی راست ہازی کامل نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کی دعائیں کسی عظیم الشان کام میں پوری نہیں ہوتیں۔ یہاں مرزا قادیانی نے ان لوگوں کی راست ہازی کی بھی تشریح کر دی کہ ان کی راست ہازی اس شفاف پانی کی طرح ہوتی ہے جو اوپر سے شفاف نظر آتا ہے۔ مگر اس کے نیچے گوبر اور گند ہوتا ہے۔ جس شخص نے بھی قریب سے شاطر سیاست کو دیکھا ہے وہ مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا اقتباس کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ اقتباس ایک سو پچاس فیصدی شاطر سیاست ہی سے متعلق ہے۔ کیونکہ ان کی راست ہازی مٹھوک ہے اور ان کا ظاہر شفاف پانی کی مانند اور باطن گوبر اور گندگی کے مانند ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی دعائیں کبھی بھی کسی قابل ذکر کام میں پوری نہیں ہوتیں اور نہ ہی ان کا کوئی کشف ایسا ہے جسے کشفی انوار کے اعتبار سے مکمل کہا جاسکے۔ پس چونکہ اس قسم کے روڈیا و کشف دنیا میں بے شمار لوگوں پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے ان سے اپنی بڑائی ثابت کرنا اور ان کا ڈھنڈورہ پیٹ کر خلافت حقہ کا ثبوت بہم پہنچانا سراسر ناجائز دھوکا اور حقائق کے خلاف ہے۔ بلکہ شاطر سیاست کے روڈیا و کشف کا جو تجربہ ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بعض خواب سچے بھی آجاتے ہیں۔ لیکن انہیں اکثر خواب ایسے آتے ہیں جو بہم اور ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے خوابوں سے انہیں اپنے مریدوں کو بیوقوف بنانا مقصود ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی ریا کاری سے اپنا مقصد حل کر لیتے ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں وہ روڈیا کے ساتھ بھی ریا کرنے سے نہیں ملتے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے خوابوں کے لئے روڈیا کا لفظ پسند کیا ہے اور اکثر روڈیا ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عجیب سا نسخہ ہے کہ ان کا چونکہ ریا کاری سے بھی دخل ہے اور روڈیا سنانے سے ان کی مراد بھی ریا کاری سے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ اس لئے خدا نے ان سے لفظ بھی وہی انتخاب کر دیا جو حقیقت حال کے عین مطابق تھا۔ لفظ روڈیا کے چار حروف ہیں۔ چاروں حروف میں سے اگر واؤ نکال دیں تو باقی ریا رہ جاتا ہے۔ واؤ سے مراد وحی یا خواب

دغیرہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ واؤ کا حرف لفظ ریا کے درمیان ہے۔ گویا وحی کو بھی ریا کاری کا آلہ کار بنایا جا رہا ہے۔

مثل برسات برسات ہیں چھا چھم رویا واؤ بھی بین ریا ہے ہمیں معلوم نہ تھا

لو مڑی کون ہے؟

گذشتہ باب میں میں نے روایا و کشف کے اصولی پہلو پر بحث کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شاطر سیاست کے روایا و کشف کا عملی پہلو سے بھی تجزیہ کروں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ بعض خواب ہر شخص کو سچے بھی آجاتے ہیں۔ اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ شاطر سیاست کو بھی بعض خواب سچے آجاتے ہیں یا وہ بعض خواب خود بنا لیتے ہیں۔ جو حالات کو دیکھ کر شخص بیان کر سکتا ہے۔ ذیل میں ان کا ایک خواب درج کرتا ہوں۔ تاکہ قارئین کو معلوم ہو کہ ان کے خواب کیا چیز ہیں اور وہ اپنے مریدوں کو بے وقوف کس طرح بناتے ہیں۔

۱۹۵۶ء میں جب ان پر فالج کا حملہ ہوا اور انہیں محسوس ہوا کہ وہ اب چند دنوں کے مہمان ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانے کے لئے اپنے خاندان کے بعض لوگوں کو جمع کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جماعت میں ان کے بیٹے کے جس قدر مخالف ہیں۔ ان کو جماعت سے خارج کر دیا جائے۔ تاکہ جانشینی کے لئے راستہ صاف ہو جائے۔ سو انہوں نے ایک فتنہ خود گھڑا اور اپنے بیٹے کے مخالفین پر برسنا شروع کر دیا اور انہیں ایک ایک کر کے جماعت سے خارج کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے ۱۹۴۵ء کا ایک روایا نکالا اور اسے مخربین میں سے ایک شخص پر چسپاں کیا اور ”۱۹۵۳ء کا ایک روایا شاندار طریق سے پورا ہو گیا“ کا عنوان دے کر جلی حروف میں شائع کر دیا۔ وہ روایا حسب ذیل ہے: ”میں نے دیکھا کہ ایک مجلس میں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) ہیں۔ میں ہوں اور کچھ اور دوست ہیں۔ میں اور حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) آمنے سامنے دوزانو بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو ہندوستانی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے آ کر حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) سے اجازت لی کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی اجازت سے اس نے اپنے فارسی اشعار سنانے شروع کر دیئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑا قادر الکلام شاعر ہے۔ پہلے اس نے ایک قصیدہ سنایا جس میں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے مناقب..... بیان کئے گئے ہیں اور کچھ میری مدح کی گئی ہے۔ اس تمام عرصہ میں میں اور حضرت مسیح موعود آمنے سامنے دوزانو بیٹھے رہے۔ لیکن باقی لوگ شاعر کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ پہلے

قصیدہ کے ختم ہونے کے بعد اس نے پھر اجازت لی اور اجازت سے پھر قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ وہ بھی فارسی میں تھا اور اس میں بھی حضرت مسیح موعود ہی مخاطب تھے۔ ان کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت اور روشنی پہنچانے کے لئے مامور کیا تھا اور آپ کا لایا ہوا نور دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گیا۔ پھر وہ متحد لوگوں کا نام لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس مضمون سے گریز کرتا ہوا دھرتا ہے کہ کاتھیا واڈیا ایسا ہی کوئی علاقہ اس نے ہندوستان میں بتایا کہ وہاں بھی گیا اور لوگ وہاں آپ کے نام سے نادائق تھے اور آپ کی تعلیم کسی تک نہیں پہنچی تھی۔ آخر میں چند شعر آپ کو غیرت دلانے کے لئے تھے اور ان کا مضمون یہ تھا کہ اے مسیح موعود کیا آپ اس علاقے کے لئے مبعوث نہیں ہوئے یا آپ کے پیغام کو اس علاقہ میں ناکامی ہوئی؟ جب وہ آخری شعر پڑھنے لگا تو مجلس سمور ہو گئی اور خود حضرت مسیح موعود بھی متاثر نظر آتے تھے اور بار بار ذکر الہی کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے مزید کلام پڑھنے کی اجازت لی اور پھر ایک فارسی نظم پڑھنی شروع کی جس میں احمدیہ جماعت مخاطب تھی۔ اشعار کا مطلب یہ تھا کہ اے احمدیو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور تقویٰ کی عادت اور پرہیزگاری کا مادہ اس میں رکھا اور اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو توبہ اور استغفار اور خدا سے معافی مانگنے کی طاقت اور رغبت اس میں پیدا کی۔ لیکن لومڑی میں اس نے خصلتیں نہیں رکھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک لومڑی تمہارے اندر رسوخ پیدا کر رہی ہے اور تم اس کے اظہار خیال پر خوش ہو۔ حالانکہ تم نہیں سوچتے کہ جو مادہ انسان میں پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان ایسی باتیں ظاہر کریں تو تم دھوکے میں آ سکتے ہو کہ شاید یہ وہی ہو۔ لیکن اگر ایک لومڑی ایسی باتیں کرے تو پھر دھوکا لگنا کیسے ممکن؟ کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا ہی نہیں کی وہ اس سے کس طرح ظاہر ہو سکتی ہے۔“

شیطان کی آنت کی طرح اس طویل ردیاء کی تشریح کرتے ہوئے شاطر سیاست فرماتے ہیں: ”یہ لومڑی تو وہی ہے جو پدرم سلطان بود کا نعرہ لگاتی پھرتی ہے۔“ پھر لکھا ہے: ”مجھے ردیاء میں ایک لومڑی کی خبر دی گئی تھی جس سے مراد درحقیقت ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پدرم سلطان بود ہم فلاں آدمی کے بیٹے ہیں۔“

شاطر سیاست نے یہ ردیاء خرچین میں سے جس شخص پر چسپاں کیا ہے درحقیقت ردیاء کے الفاظ اس شخص کے لومڑی ہونے کی تصدیق نہیں کرتے اور پھر انہوں نے اس کی وضاحت میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو پدرم سلطان بود کا نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فلاں آدمی کے بیٹے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ ردیاء اس شخص کے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اس شخص نے کبھی بھی

اپنے باپ کی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا اور پھر اس کے باپ نے نہ ہی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی خلافت کا علم لہرا کر چندے بنوے۔ اس لئے یہ کہنا کہ وہ اپنے باپ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ سراسر کذب بیانی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شاید شاطر سیاست نے اپنا یہ خواب خواہ مخواہ کسی مظلوم پر لگانے کی سعی و جہد کی ہے۔ اس سے مراد کسی صورت میں بھی وہ شخص نہیں ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خواب جس شخص پر چسپاں کیا ہے اس کے الفاظ سے خواب اس شخص پر چسپاں نہیں ہوتا۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر یہ روڈیا کس کے متعلق ہے تو ان کی اپنی تشریح کے مطابق باپ کی بڑائی بیان کرنے والا شخص اس روڈیا کا مصداق ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جماعت میں صرف اور صرف ایک شخص ایسا ہے جو پدرم سلطان بود بنتا ہے اور وہ شاطر سیاست خود ہیں۔ یہ انہی کو کہاں ہے کہ ۱۹۱۳ء سے لے کر اب تک صرف باپ ہی کا نام لے کر باپ کے مریدوں میں اپنی خلافت کا علم لہرائے رکھا اور اپنی بدعنوانیوں پر بھی باپ کا نام لے کر ہی پردہ ڈالے رکھا۔ (مرید باپ یعنی مرزا غلام احمد سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں) چنانچہ انہوں نے اس روڈیا کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور خواب بیان کیا ہے۔ اس وضاحتی روڈیا میں فرماتے ہیں:

”خدا تعالیٰ نے مجھے حضرت مسیح موعود (یعنی اپنے باپ) کی بعثت کی غرض میں شامل کیا ہے۔ اس لئے وہ میرے نام کو بھی مٹا سکتے ہیں جب وہ حضرت مسیح موعود (یعنی میرے باپ) کا نام بھی مٹادیں۔“

(الفضل موزیہ ۱۳ دسمبر ۱۹۵۶ء)

ان کی اپنی تشریح کے مطابق لومڑی والے خواب سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پدرم سلطان بود کہتا ہے تو پھر پدرم سلطان بود کا نعرہ خود ہی لگاتے ہیں۔ اب میں کیسے کہوں کہوں کہ لومڑی والے روڈیا سے مراد وہ خود ہیں۔ میں اپنے استدلال کے علاوہ ان کے سارے خواب کا تجزیہ کرنا بھی ضروری خیال کرتا ہوں۔ کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ ان کا یہ خواب خود انہی کے متعلق ہے۔

خواب کا تجزیہ

میں نے خواب کو آٹھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر حصے پر نمبر لگا دیئے گئے ہیں اور تمام خواب کا نمبر دار تجزیہ کیا جائے گا۔

..... ”میں نے دیکھا کہ ایک مجلس میں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) ہیں، میں ہوں اور کچھ اور دوست ہیں۔ میں اور حضرت مسیح موعود آمنے سامنے دوڑا نو بیٹھے ہیں۔“

خواب کے ابتداء میں شاطر سیاست اپنے باپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے باپ کے سامنے

دوڑانوں بیٹھے ہیں۔ دوڑانوں بیٹھنے سے مراد اظہار ادب و احترام ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا سر مجلس اپنے ہاپ کے سامنے دوڑانوں بیٹھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے ہاپ کے مریدوں کے سامنے ہاپ کا ادب و احترام اور اس کی بڑائی ظاہر کر کے اپنا اولوالعزم ہونا ثابت کرتے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے خود اس خواب کی تشریح میں لومڑی سے مراد پدم سلطان بودکانہ لگانے والا قرار دیا ہے۔ یہ تشریح درست ہے اور واقعی اس خواب میں لومڑی سے مراد وہی شخص ہے جو پدم سلطان بودکانہ لگاتا ہے اور اس سے مراد وہ خود ہیں۔

۲..... ”اس نے میں ایک شخص آیا جو ہندوستانی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے آ کر حضرت مسیح موعود سے اجازت لی کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی اجازت سے اس نے اشعار سنانے شروع کئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑا قادر الکلام شاعر ہے۔“

خواب کے اس حصے میں ایک قادر الکلام شاعر دکھایا گیا ہے جو ہندوستانی ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پدم سلطان بودکی آمرانہ اور غیر اسلامی حرکات کا انکشاف کرنے والے ہندوستانی ہوں گے اور ان میں ایک شاعر بھی ہوگا۔ چنانچہ جن لوگوں نے شاطر سیاست کی آمرانہ اور غیر اسلامی حرکات کے خلاف واویلا کیا ہے۔ اور جو ۱۹۵۶ء میں شاطر سیاست سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ ان میں ایک شاعر بھی ہے جو اس گروہ کا صدر ہے۔ جن میں سے ایک کو لومڑی قرار دینے کی کوشش ناکام کی گئی ہے۔

۳..... ”اس میں تمام عرصہ میں اور حضرت مسیح موعود آئے سانسے دوڑانوں بیٹھے رہے۔ لیکن باقی لوگ شاعر کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔“

شاطر سیاست کا ان کے ہاپ مرزا غلام احمد کے سامنے دوڑانوں بیٹھنے سے یہی مراد ہے کہ وہ اپنے ہاپ کا ادب و احترام اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور جب شاطر سیاست کی بدعنوانیوں کے خلاف وہ شاعر آواز بلند کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب ۱۹۵۶ء میں نوجوانوں نے ایک شاعر کی قیادت میں شاطر سیاست کی بدعنوانیوں پر تنقید کی ہے تو ان کے مریدوں کا سمجیدہ و مطیعان نوجوانوں کی باتوں پر کان دھرے بیٹھا اور دل سے متوجہ ہے۔

۴..... ”پہلے قصیدہ کے شتم ہونے کے بعد اس نے پھر اجازت لی اور اجازت سے پھر ایک قصیدہ سنانا شروع کیا۔“

مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے قصیدہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شاعر اور اس کے ساتھی مرزا غلام احمد قادیانی کے مرید ہیں اور وہ شاطر سیاست کی بد عنوانیوں سے تنگ آ کر گریہ و زاری کرتے ہیں۔ چنانچہ اس شاعر کی قیادت میں جو گرہ پ شاطر سیاست سے علیحدہ ہوا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو تو نبی مانتا ہے۔ لیکن شاطر سیاست کی خلافت کا منکر ہے۔

۵..... ”وہ بھی قاری میں تھا اور اس میں بھی حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) ہی مخاطب تھے۔ اس کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت اور اس کو روشنی پہنچانے کے لئے مامور کیا اور آپ کا لایا ہوا نور دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گیا۔“

اس حصہ میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ شاطر سیاست سے عدم وابستگی کا اعلان کرنے والے صرف ان کی خلافت سے عدم وابستگی کا اظہار کریں گے۔ مرزا کی نبوت سے نہیں۔

۶..... ”پھر وہ متحدہ ممالک کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس مضمون سے گریز کرتا ہوا ادھر آتا ہے کہ کانٹیا دار یا ایسا ہی علاقہ اس نے ہندوستان کا بتایا ہے کہ وہاں بھی گیا اور لوگ وہاں آپ کے نام سے ناواقف تھے اور آپ کی تعلیم کسی تک نہیں پہنچی تھی۔“

شاطر سیاست فخر سے کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں ملک میں اسلام کی تبلیغ کی یورپ میں مشن کھولا۔ امریکہ میں اسلام پھیلا یا۔ شاعر ان ممالک کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ممالک میں آپ (مرزا غلام احمد قادیانی) کا نام پہنچا ہے لیکن وہ یہ کہہ کر اس مضمون سے اس لئے گریز کر جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان ممالک میں بھی تسلی بخش کام نہیں ہوا۔ چنانچہ اس کا فوراً ہندوستان کے ایک شہر کا نام لے کر یہ کہنا کہ وہاں آپ کی تعلیم نہیں پہنچی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) کی تعلیم تو صحیح طریق سے ہندوستان میں بھی نہیں پہنچی۔

چہ جائیکہ دوسرے ممالک کا نام لیا جائے۔ شاعر نے اس بات میں طنزیہ طور پر بھی کہہ دیا۔ بلکہ شکایت کی کہ آپ (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) کی تعلیم کو پیش نہیں کیا جاتا اور ابھی دنیا اس سے آشنا نہیں ہوئی۔ چنانچہ ایک شاعر کی قیادت میں شاطر سیاست سے عدم وابستگی کرنے والے نوجوانوں نے جہاں اور اعتراض کئے وہاں انہوں نے شاطر سیاست پر ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام لے کر اپنے مقاصد تو پورے کرتے ہیں لیکن اپنے باپ کی تعلیمات کی اشاعت کی بجائے اپنی مہمل تصانیف کی اشاعت کرتے ہیں یا سندھ میں اپنے نام پر اراضی خریدتے ہیں۔

..... ”آخر میں چند اشعار آپ (مرزا غلام احمد قادیانی) کو غیرت دلانے کے لئے تھے اور ان کا مضمون یہ تھا کہ اے مسیح موعود کیا آپ اس علاقے کے لئے مبعوث ہی نہیں ہوئے تھے یا آپ کے پیغام کو اس علاقہ میں ناکامی ہوئی؟ جب وہ آخری شعر پڑھنے لگا تو مجلس مسور ہو گئی اور خود حضرت مسیح موعود بھی متاثر نظر آتے تھے اور بار بار ذکر الہی کرتے تھے۔“

اس حصہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مرزا قادیانی کا نظام ایسے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو مرزا قادیانی کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بجائے اس سے بھی مہمل اور تھوڑا کلاس قسم کا لٹریچر شائع کریں گے اور اس وقت مرزا قادیانی کی روح تڑپ کر غیرت میں آجائے گی اور وہ متاثر ہو کر ذکر الہی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ شاطریا سیاست کا رویا کا یہ حصہ بھی خود ان ہی سے متعلق ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی تعلیمات کی اشاعت کی بجائے اپنے مصلح موعود ہونے کا پروپیگنڈا کرنے کی غرض سے اندھا دھند لٹریچر شائع کیا۔ ان کے باغیوں نے ان پر جو الزامات عائد کئے ان میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ مرزا قادیانی کی تعلیمات کی اشاعت کے بجائے فضول قسم کا لٹریچر شائع کر رہے ہیں۔ لہذا مرزا قادیانی کی روح اس رویا کے مطابق اس وقت تڑپ رہی ہوگی۔ کیونکہ ان کے لگائے ہوئے پودے کا بیڑہ غرق ان کے بیٹے ہی کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔

..... ۸ ”اس نے پھر اشعار پڑھے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ اے احمد یو! اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور تقویٰ کی عادت اور پرہیزگاری کا مادہ اس میں رکھا اور اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو توبہ اور استغفار اور خدا سے معافی مانگنے کی طاقت اور رغبت اس میں پیدا کی۔ لیکن لومڑی میں اس نے یہ خصلتیں نہیں رکھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک لومڑی تمہارے اندر داخل ہو گئی ہے اور بہت ہی توبہ اور استغفار اور انابت الی اللہ کا اظہار کرتے ہوئے تمہارے اندر رسوخ پیدا کر رہی ہے اور تم اس کے اظہار خیالات پر خوش ہو۔“

رویہ کے اس حصہ میں لومڑی کی خصلت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لومڑی میں استغفار توبہ اور انابت الی اللہ کی خصلتیں نہیں رکھیں۔ لیکن لومڑی کے سے خصائل رکھنے والا ایک شخص تم میں داخل ہو گیا ہے اور وہ عجز و انکسار اور انابت الی اللہ کا اظہار کر کے تم میں رسوخ پیدا کر رہا ہے اور تم اس کے اظہار خیال پر خوش ہو رہے ہو۔ جس شخص کو شاطریا سیاست نے اس رویہ کے مطابق لومڑی قرار دینے کی سعی کی ہے۔

اس نے کبھی بھی استغفار اور انابت الی اللہ سے لوگوں میں رسوخ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لئے اس شخص کو اس کا مصداق قرار دینا کذب بیانی ہے۔ ہاں شاطر سیاست اپنے باپ کے مریدوں میں انابت الی اللہ استغفار اور توبہ کا اظہار کر کے اپنا اثر رسوخ پیدا کرتے رہے اور کر رہے ہیں اور وہی ہیں جن کے اظہار خیال پر ان کے مرید سروہنٹے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”پس دوستوں کو چاہئے کہ اگر دل میں غصہ پیدا ہو تو استغفار کریں۔“

(الفضل مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۳۷ء)

”جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تم پر بڑھتے چلے جائیں۔ تم اکسار اور انابت الی

(خطبہ جمعہ الفضل مورخہ ۵ فروری ۱۹۵۷ء)

اللہ میں بڑھ جاؤ۔“

پھر ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”اے دوستو! اب بھی وقت ہے توبہ کرو اور سنبھلو۔

(الفضل مورخہ ۲۰ اگست ۱۹۳۷ء)

توبہ کرو اور سنبھلو۔ پھر توبہ کرو اور سنبھلو۔“

اب بتائیے کہ ان کے سوا اور کون ہے جو انابت الی اللہ استغفار اور توبہ سے اپنے

مریدوں میں اثر رسوخ پیدا کرتا ہے؟ روڈیا میں صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ ایک لومڑی انابت الی اللہ ذکر کر کے رسوخ پیدا کر رہی ہے اور لوگ اس کے اظہار خیالات پہ سروہنٹے میں مصروف ہیں۔ انہیں اس لومڑی کے اظہار خیالات پر خوش نہیں ہونا چاہئے۔ مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں صاف طور پر واضح ہے کہ اس روڈیا میں ان کو جس لومڑی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد خود ہیں۔ لیکن آئیے اذرا لومڑی کے خصائل بھی دیکھ لیں کہ آیا شاطر سیاست خصائل کے اعتبار سے بھی روڈیا والی لومڑی کے مصداق ہیں یا نہیں۔

لومڑی کے خصائل

لومڑی کے جو خصائل بیان کئے جاتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱..... وہ بلا کی مکار ہوتی ہے۔
- ۲..... وہ ذہین بھی ہوتی ہیں۔
- ۳..... ریا کاری اور عجز و اکساری اس کا شیوہ ہے۔
- ۴..... وہ موقع شناس ہوتی ہے۔

ان خصائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ ان کی ذہانت کا کون قائل نہیں۔ موقع شناسی ان کی مشہور ہے۔ ریا کاری عجز و اکساری اور مکاری بھی ان کا طرہ امتیاز ہے۔ مثلاً سارے جہان کو وہ بدخصال، لغو

گو، ہزاری لوگ، حرا حرا دے، حریص، خود غرض، بے ایمان، منافق، میلہ کذاب، سیاہ کار، یہودی اور بے حیا تک کی گالیاں دے جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کے خلاف کوئی جماعت یا کوئی گروہ اقدام کرے تو حکومت وقت کے دروازے پر پہنچ کر مظلوم بن جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور دیکھیے ہم بڑے پر امن ہیں۔ یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری حفاظت کی جائے۔ ہم پر امن ہیں اور پر امن رہیں گے۔ یہ ہمارے مخالف بڑے کینے لوگ ہیں۔ ہمیں جین سے بیٹھے نہیں دیتے۔ دوڑو بھاؤ بھاؤ مار گئے۔ دوڑو دوڑو بھاؤ بھاؤ!

یہ خصوصیت لومڑی کی ہے اور اسی کا نام مکروریا ہے۔ پس مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ شاطر سیاست کا شیطان کی آنت جتنا لمبا خواب اگر فی الحقیقت انہوں نے دیکھا ہے تو خود ان ہی سے متعلق ہے اور اس رویا میں جس شخص کو لومڑی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بھی وہی مراد ہیں اور ان کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کا مصداق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہنے کی جسارت کبھی بھی نہیں کریں گے کہ شاطر سیاست لومڑی ہیں۔ کہیں تو کیسے کہیں ہم کو تم سے الفت ہے تمہاری بات ہے ہم سے کئی نہیں جاتی

استقامت میں فرق آ گیا

جس طرح شاطر سیاست نے نوجوان مخزبین میں سے ایک شخص کو اپنے لومڑی والے رویا کا مصداق قرار دیا تھا۔ بعینہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے الہام ”استقامت میں فرق آ گیا“ کہ مخزبین میں سے ایک شخص عبدالمنان عمر پر چسپاں کیا ہے۔ عبدالمنان عمر حکیم نور الدین (خلیفہ اول) کے لڑکے ہیں اور انہیں شاطر سیاست نے محض اس لئے اپنی جماعت سے خارج کر دیا ہے کہ وہ ان کی زندگی کے بعد خلیفہ ہی نہ بن جائیں۔ سوانہوں نے اس موقع پر حسب معمول مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک ”الہام“ جلی حروف میں شائع کیا ہے اور اس الہام کا مصداق عبدالمنان عمر کو قرار دیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ان کا استدلال کہاں تک درست ہے۔ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ انہیں ایسی باتیں کرنے سے کیا مقصود ہوتا ہے اور نیز یہ کہ وہ کہاں تک حق گو ہیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کہیں مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ الہام یا رویا یا کشف بھی شاطر سیاست سے متعلق ہی تو نہیں۔ ہماری اس بحث سے خلافت مآب کی حقانیت کا پول کھل جائے گا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی جماعت

میں سے گھوڑے پر سے گر پڑا۔ پھر آنکھ کھل گئی۔ سوچتا رہا کہ کیا تعبیر کریں۔ قیاسی طور پر جو بات اقرب ہو لگائی جاسکتی ہے کہ اس اثناء میں غنودگی غالب ہوئی اور الہام ہوا۔“

”استقامت میں فرق آ گیا۔“

(تذکرہ ص ۲۶۶ طبع ۳، بدران ۲، نمبر ۱۰ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

مرزا قادیانی کے اس الہام کے بعد ایک روز حکیم نور الدین (خلیفہ اول) گھوڑے پر سے گر پڑے۔ شاطر سیاست نے جو نور الدین کے عہد خلافت میں ہی ان کے مخالف تھے اور اندرونی طور پر ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ حکیم نور الدین کو ایک گناہ خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ نور الدین کے گھوڑے سے گرنے سے مرزا اعظام احمد کا الہام پورا ہو گیا ہے۔ جب وہ خط حکیم کو ملا تو انہوں نے کہا: ”ایک نے مجھے خط چھپوا کر بھیجا اور پوچھا کہ میں اسے شائع کر دوں۔ میں نے کہا تم نے قرآن کے خلاف کیا تم بد بخت ہو۔ اس نے کہا تم گھوڑے پر سے گر گئے ہو۔ تم میں استقامت ہی نہیں۔“

(تقریر نور الدین مورخہ ۲۸ دسمبر ۱۹۱۳ء)

جب شاطر سیاست نے حکیم نور الدین کی یہ تقریر سنی تو حکیم نور الدین کو خوش کرنے کی غرض سے اس گناہ خط کا ایک جواب لکھا (یا در ہے کہ انہوں نے گناہ خط بھی خود ہی لکھا تھا) اور اسے اظہار حقیقت کے عنوان سے ایک ٹریکٹ کی صورت میں شائع کیا جس میں لکھا کہ: ”اس سے معلوم ہوا کہ استقامت میں فرق آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر ہے۔ پس جس شخص کی نسبت وہ الہام ہے وہ تو گھوڑے سے نہیں گرے گا۔ بلکہ اس کے گھوڑے سے گرنے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی استقامت میں فرق آ گیا۔ لیکن نور الدین صاحب (خلیفہ اسحٰ) تو خود گھوڑے پر سے گر گئے۔ پس وہ الہام آپ کی نسبت نہیں ہو سکتا۔“

(اظہار حقیقت)

اس وضاحت میں بھی اس بات کا اقرار موجود ہے کہ یہ الہام حکیم نور الدین سے متعلق نہیں تھا۔ پتا چہ اس وضاحت کی روشنی میں حسب ذیل دو باتیں غور طلب ہیں۔ جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

اول یہ الہام نور الدین کے متعلق نہیں۔

دوم یہ الہام جس شخص کے متعلق ہے وہ گھوڑے سے نہیں گرے گا۔ بلکہ کشفی حالت میں گھوڑے سے گرتے ہوئے ایک شخص کو دکھانے کی تعبیر یہ ہے کہ استقامت میں فرق آ گیا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ الہام حکیم نور الدین سے متعلق نہیں تو پھر کس کے متعلق ہے۔ شاطر سیاست نے اس الہام کا مصداق حکیم نور الدین کی اولاد کو قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے: ”علم تعبیر الرؤیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ بعض دفعہ خواب میں باپ دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بیٹے کے ذریعہ خواب پوری ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول کریم ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل نے انگور کا ایک خوشہ حضور ﷺ کو دیا ہے۔ لیکن اس کی تعبیر یہ ظاہر ہوئی کہ اس کا بیٹا اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ پس الہام استقامت میں فرق آ گیا کہ مصداق حضرت خلیفہ اہل کی صورت میں بھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں! آپ کی اولاد اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس کا ضرور مصداق ثابت کر رہی ہے۔“

(الفضل مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۵۶ء)

انہوں نے اس بھوڑے استدلال سے یہ ثابت کرنے کی سعی فرمائی ہے کہ اس الہام سے مراد نور الدین کی معتبوب اولاد ہے اور علم تعبیر الرؤیا کی رو سے یہ تو درست ہے کہ بعض دفعہ خواب میں باپ دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بیٹے کے ذریعہ خواب پورا ہوتا ہے۔ لیکن اس کشف میں باپ نہیں دکھایا گیا۔ بلکہ گرنے والا نامعلوم شخص ہے اور اس کی تعبیر استقامت میں فرق آنا بیان کی گئی ہے۔ شاطر سیاست نے اپنے استدلال کے حق میں جو مثال پیش کی ہے۔ اس میں خواب دیکھنے والے سردار کائنات ﷺ ہیں اور ان کو انگور کا خوشہ دینے والا ابو جہل ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی اپنے کشف میں نور الدین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھتے تو پھر شاطر سیاست کا استدلال ٹھیک تھا۔ لیکن گھوڑے سے گرنے والا نامعلوم شخص ہے اور پھر گھوڑے سے گرنے سے مراد گھوڑے سے گرتا نہیں بلکہ استقامت میں فرق آنا ہے۔ جیسا کہ شاطر سیاست نے خود تسلیم کیا ہے۔ پس اس الہام پر غور کرنے سے صاف طور پر ہے کہ وہ الہام نہ ہی حکیم مولوی نور الدین کے متعلق ہے اور نہ ہی اس کی مصداق ان کی اولاد ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر اس کا مصداق کون ہے تو آئیے اس کے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیں۔

مرزا قادیانی پر کشفی حالت طاری ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جماعت میں سے ایک شخص گھوڑے سے گر پڑا ہے۔ وہ اس کی تعبیر پر غور کرتے ہیں کہ الہام کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور الہام ہوتا ہے کہ استقامت میں فرق آ گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ استقامت سے کیا مراد ہے۔ کس کی استقامت میں فرق آیا ہے اور نیز کشفی نظارہ کا اس الہامی فقرہ سے کیا تعلق ہے۔

جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور میسر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعلق ہدایت سے ہوتا ہے اور ہدایت کی مثال گھوڑے سے دی جاسکتی ہے۔ جس پر انسان سوار ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن ہو پڑتا ہے۔ اس سلسلہ میں شاطریا سیاست بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں: ”مؤمن کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے کسی اور سواری کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ ہدایت ہی اس کا گھوڑا بن جاتی ہے اور وہ اس پر سوار ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔“

(الفضل مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

پھر شاطریا سیاست فرماتے ہیں کہ: ”علیحدگی کے یہ معنی ہیں کہ مؤمن ہدایت پر سوار ہوتا ہے۔“

(الفضل مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

پس یہ امر مسلم ہے کہ ہدایت ہی انسان کا گھوڑا ہوتی ہے۔ جس پر انسان سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو پڑتا ہے۔ ہدایت کے بعد دوسرا مقام عقائد کا ہے۔ جب انسان کو ہدایت میسر آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی عقائد بھی اسے دے دیئے جاتے ہیں۔ عقائد کو گھوڑے کی زین (کاٹھی) سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یعنی ہدایت اور عقائد دونوں چیزیں ہم آہنگ ہو کر انسان کو منزل مقصود پر پہنچاتی ہیں اور ان دونوں چیزوں کا تعلق انسان کی قوت و استقامت سے ہے۔ پس کسٹلی حالت میں گھوڑے سے گرتے ہوئے جس شخص کو دکھایا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص ہدایت اور عقائد کا دامن چھوڑ دے گا اور ہدایت اور عقائد کے اعتبار سے اس کی استقامت میں فرق آ جائے گا۔ اب آئیے دیکھیں کہ ہدایت اور عقائد کے اعتبار سے کس کی استقامت میں فرق آیا ہے؟

تحقیقاتی کمیشن کے سامنے انہوں نے فرمایا تھا کہ آنحضرت ﷺ بھی مصلح ہیں اور نیز یہ کہ اگر کوئی شخص چاہے تو آنحضرت ﷺ سے بھی تقویٰ اور پرہیزگاری میں بڑھ سکتا ہے۔ علاوہ ازیں شاطریا سیاست خدا تعالیٰ کی طرف بھی غلط باتیں منسوب کر کے اپنی مصلحتیں پوری کرتے ہیں۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے ہدایت سے روگردانی کر لی۔

باقی رہا عقائد تو تحقیقاتی کمیشن میں انہوں نے اپنے عقائد بھی تبدیل کر لئے اور کہہ دیا کہ مرزا قادیانی کا منکر کافر نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ مرزا قادیانی کے منکر کو کافر کہتے تھے۔

”کسی مدعی ماموریت کو جب کوئی نہ مانے تو اسے کافر کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے۔“

(الفضل مورخہ ۷ اگست ۱۹۴۷ء)

جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عقائد بھی تبدیل کر لئے۔ لہذا انہوں نے ہدایت اور عقائد دونوں سے انحراف کر کے گھوڑے سے گرنے کی کشتی حالت کی عملاً وضاحت کر دی۔ پس یہ ثابت ہو گیا کہ ”استقامت میں فرق آ گیا“ والا الہام شاطری سیاست ہی سے متعلق تھا۔ لیکن ان کی طرف سے اس الہام کا عبدالمنان عمر یا کسی دوسرے شخص پر چسپاں کرنا سراسر زیادتی اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی سعی ناپاک ہے۔ ورنہ مرزا قادیانی کا یہ الہام شاطر سیاست کے سوا کسی سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی کے اس الہام اور شاطر سیاست کے روایا کا تجزیہ کرنے سے ہمیں صرف یہ مقصود ہے کہ خلافت مآب مہمل خود ساختہ روایا و کشف والہامات کو حالات پر چسپاں کر کے اپنے مطلب کے مطابق معنی نکال کے بھولے بھالے مریدوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ حالانکہ ایسے روایا و کشف محض دردغ گوئی ہیں۔

باب سچا ہے یا بیٹھا؟

مرزا غلام احمد قادیانی	مرزا محمود احمد قادیانی
(۱) ”کرم ہائے تو مارا کرو گستاخ“ ترجمہ: تیری بخششوں نے ہمیں گستاخ کر دیا۔ (ماہینہ اسی ۱۹۵۶ء تا ۱۹۵۷ء)	(۱) ”نادان ہے وہ شخص جس نے کہا ہے: ”کرم ہائے تو مارا کرو گستاخ“ کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں بنایا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرمانبردار بناتے ہیں۔“ (انجمن صوفیہ، ۲۳ جنوری ۱۹۶۷ء)
(۲) ”صاحب نبوت تامہ ہرگز اسی نہیں ہو سکتا اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے اس کا کامل طور پر دوسرے نبی کا مطیع اور اسی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیث کی رو سے بالکل متعجب ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے: ”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“ اور ”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“ یعنی ہر ایک رسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطیع اور تابع ہو۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۶۹، خزائن ج ۳ ص ۴۰۷)	(۲) ”بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کسی دوسرے کا قبیح نہیں ہو سکتا اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ: ”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“ اور اس آیت سے حضرت مسیح موعود کی نبوت کے خلاف استدلال کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب بسبب قلت تدبر ہے۔“ (حقیقت النبیۃ ص ۱۵۵)

<p>(۳) ”نادان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نبی کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے کچھ منسوخ کرے یا بلا واسطہ نبوت پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے ذریعہ اس غلطی کو دور کر دیا۔“</p> <p>(حقیقت النبوة حصہ اول ص ۱۳۳)</p>	<p>(۳) ”انبیاء اس لئے آتے ہیں تاکہ ایک دین دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرادیں اور بعض احکام کو منسوخ کر دیں اور بعض نئے احکام لادیں۔“</p> <p>(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۹، خزائن ج ۵ ص ۱۵۱)</p>
<p>(۴) ”اور یہی محبت تو ہے جو مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہاب نبوت کے بلکھی بند ہونے کے عقیدہ کو جہاں تک ہو سکے باطل کروں کہ اس میں آنحضرت ﷺ کی تک ہے۔“</p> <p>(حقیقت النبوة حصہ اول ص ۱۸۶)</p>	<p>(۴) ”میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے بلکھی بند ہیں۔ اب نہ کوئی حقیقی معنوں کی رو سے آسکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی۔ مگر ہمارے عالم مخالف ختم نبوت کے دروازوں کو پورے طور پر بند نہیں سمجھتے۔“</p> <p>(سراج المیر ص ۳، خزائن ج ۱۲ ص ۵)</p>

خلافت مآب کے منافق

خلافت مآب نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تقریباً ہر اس شخص کو منافق قرار دے دیا ہے جس نے کبھی کسی جہت سے بھی ان کی کسی دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائی یا ان کے دل میں اس کے خلاف بدظنی پیدا ہوگئی۔ چنانچہ مرزا غلام احمد کے بڑے مخلص مریدوں میں سے بعض کو منافق قرار دیا گیا ہے اور بعض کی اولاد پر منافقت کا لیبل لگا کر انہیں ذلیل و خوار کیا ہے۔ ذیل میں شاطر سیاست کے چند منافقین کے اسمائے گرامی درج کئے جا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کو منافق قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ ان کی اولاد کو منافق قرار دیا گیا۔

۱..... مفتی محمد صادق

مفتی صاحب بڑے پرانے قادیانی تھے۔ انہوں نے مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر ساری زندگی انہی کے مشن کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ انہی دنوں فوت ہوئے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی خدمات کا جو صلہ شاطر سیاست نے انہیں دیا وہ شاطر سیاست کے پرائیویٹ سیکرٹری کے خط سے ظاہر ہے جو اس نے شاطر سیاست کے توسط سے مفتی صاحب کو لکھا تھا اور جس میں مفتی صاحب کو بھی منافق قرار دیا گیا۔ خط کا اصل میرے پاس موجود ہے۔ اس کی نقل ملاحظہ فرمائیے:

بخدمت مکرّم و محترم مفتی محمد صادق صاحب

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ،

آپ کی خدمت میں حسب ذیل ارشاد سیدنا حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز عائشہ صاحبہ کے ایک خط کی نقل ارسال ہے۔ حضور پر نور فرماتے ہیں۔ جن کو آپ نے بیٹا کر کے پالادہ اولاد کیا حرکتیں کرتی ہے۔ آپ کے اندر بھی ضرور منافقت ہوگی۔ تبھی تو آپ کی اولاد میں ایسا گند پیدا ہو گیا ہے۔ آپ قسم کھا کر بتلائیں کہ کتابیں حضرت مسیح موعود لکھا کرتے تھے یا مولوی نور الدین صاحب؟ اور پھر آپ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر بتائیں کہ فلاں کتاب جو کہ مولوی صاحب نے لکھی ہے اس کی ایک سطر بھی حضرت مسیح موعود کی کسی کتاب کے مقابل پر پیش کی جاسکتی ہے؟ (نقل مطابق اصل)

والسلام!

پرائیویٹ سیکرٹری

اس خط میں مفتی صاحب کو صاف الفاظ میں منافق کہا گیا ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ مفتی صاحب اسی غم میں راہی ملک عدم ہو گئے۔ ”انا لله وانا الیہ راجعون“

۲..... حکیم مولوی نور الدین

سارا خاندان منافق قرار دیا جا چکا ہے۔

۳..... سید سرور شاہ

ان کی اولاد کو منافق گردانا جا چکا ہے۔

۴..... میاں بشیر احمد

یہ شاطریاں سیاست کے بھائی ہیں۔ منافق اور بزدل کے القاب سے نوازے جا چکے ہیں۔

۵..... سید ولی اللہ شاہ

منافق کا لقب حاصل کر چکے ہیں اور نہ جانے ان کو شاطریاں سیاست کی طرف سے کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اخراج و مقلعہ اور ربوہ بدر کے انعامات بھی حاصل کر چکے ہیں۔

۶..... چوہدری ظفر اللہ خاں

غیر مؤمن کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔

۷..... شیخ بشیر احمد ایڈووکیٹ

منافقت کی ڈگری سے سرفراز ہو چکے ہیں۔

- ۸.....ملک برکت علی مرحوم
چار بیٹوں میں سے تین منافع قرار دیئے جا چکے ہیں اور ایک منافقین کی ”ویٹنگ
لسٹ“ میں ہی تھا کہ فوت ہو گیا۔
- ۹.....خان صاحب راجہ علی محمد
بڑا لڑکا منافع گردانا جا چکا ہے اور باقی زیر غور ہیں۔
- ۱۰.....خان بہادر ابوالہاشم خاں
اولاد میں سے بعض منافع قرار دیئے جا چکے ہیں۔
- ۱۱.....چوہدری محمد بخش
لڑکے کو منافع کی ڈگری دی گئی ہے اور ریلوہ ہدر کر دیا گیا ہے۔
- ۱۲.....مولوی شیر علی
منافع قرار دیئے جا چکے ہیں۔

آمرانہ خصوصیات

میں نے گذشتہ مضامین میں شاطر سیاست کی چند بد عنوانیوں اور غیر اسلامی حرکات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام کی آڑ لے کر ایک سیاسی نصب العین کے تحت بادشاہت کے رنگ میں آمریت قائم کئے ہوئے ہیں اور ان کی وہ تمام بد عنوانیاں اور دھاندلیاں ہی ان کی آمریت کا تین ثبوت ہیں۔ آمر جس عہد میں بھی منصفہ شہود پر آئے۔ انہوں نے ہر جائز و ناجائز طریق سے عوام الناس میں اپنی بات منوائی اور جنہوں نے ان پر کتہ چینی کی۔ انہوں نے ان پر بٹکار تک تم ڈھائے۔ یہی سب باتیں ہمیں شاطر سیاست میں ملتی ہیں۔ ان کی زندگی کا نفسیاتی تجزیہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ گوند بان سے وہ ہستی باری تعالیٰ پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن دل میں وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں۔ میں اپنے اس دعویٰ کے ہوا میں ان کا ایک اقتباس نقل کرتا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے لخت جگر (مرزا اصراہم) کو اپنے بوجہ طلبہ بنانے کی سازش کا آغاز کیا اور اپنے صاحبزادے کے مخالفین پر یا جن کے حلقے ان کا خیال تھا کہ وہ مخالف ہیں چند الزامات مانگ کئے تو مولوی علی محمد امیر نے

جور اولپنڈی کے رہنے والے ہیں ان کو ایک خط میں لکھا کہ انہوں نے بعض لوگوں پر جو الزامات عائد کئے ہیں ان کی تحقیقات کے لئے غیر جانبدار کمیشن مقرر کیا جائے۔ مولوی علی محمد اجیری کے لئے مطالبہ کے جواب میں شاطر سیاست فرماتے ہیں: ”عیسائی تو خدا پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں حیض اور لواطت کا ذکر ہے۔ ایسی علمی کتاب جس کے پڑھنے کا عورتوں اور لڑکیوں کو بھی حکم ہے۔ اس میں ایسا ذکر آنا بہت نامناسب ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان معترضین کی بات نہیں مانی۔ میں بھی آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔“ (الفضل مورہ ۱۳ ستمبر ۱۹۵۶ء)

گویا شاطر سیاست اپنے اور خدا کے مقام میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ بلکہ اپنے آمرانہ جواب کے جواز میں جو مثال دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کو مسترد کیا ہے۔ لیکن وہ اس مثال کو چہ جواز گردان کر جب ایک اعتراض کو مسترد کرتے ہیں تو سننے والے پر یہ اثر ہوتا ہے کہ گویا وہ بھی اپنا مقام اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں۔ مقلع نے پہلے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور بعد میں خدا بن بیٹھا تھا۔ اگر شاطر سیاست اب ایسا کوئی دعویٰ زبان سے بھی کر دیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ جب دل میں وہ اپنا مقام خدا تعالیٰ سے کم نہیں سمجھتے تو اسے زبان پر لانے میں شرم کیسی؟

شاطر سیاست کے مندرجہ بالا جواب میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ ان کا انداز گفتگو کتنا بھولہ اور تکبرانہ ہے۔ حالانکہ جب ان کا دعویٰ فضل عمر اور مثیل عمر ہونے کا ہے تو پھر جواب میں نرمی تدبر اور حقائق و براہین ہونے چاہئیں۔ حضرت عمرؓ کا چاروں والا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ جب ایک جوان نے سر مجلس ان پر اٹھ کر اعتراض کیا تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا اعتراض نہیں مانا تھا۔ لہذا میں بھی آپ کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ بلکہ انہوں نے بڑی حلیمی بردہاری اور محبت سے معترض کی تسلی کر دی۔ اسی طرح آمریت مآب کا ایک اور اقتباس ملاحظہ ہو۔ مولوی علی محمد اجیری کے تحقیقاتی کمیشن کے مطالبہ کے جواب میں فرماتے ہیں: ”آپ (مولوی علی محمد اجیری) نے لکھا ہے کہ ان باتوں کی جانچ کے لئے کمیشن مقرر کر دیں۔ میں خلیفہ ہوں۔ آپ خلیفہ نہیں ہیں جو احمدی کمیشن کے حق میں ہیں۔ آپ ان کو اور منان (مولوی عبدالمنان عمر) کو لے کر الگ ہو جائیں اور اپنی الگ خلافت قائم کر لیں۔“

(الفضل مورہ ۱۳ ستمبر ۱۹۵۶ء)

سبحان اللہ! کیا انداز خطابت ہے۔ بیان میں کتنی شیرینی اور کتنی بردہاری ہے۔ ایک

ایک لفظ دلائل و براہین کا آئینہ دار ہے۔ بات بات سے علم و عرفان کے چشمے اہل رہے ہیں۔ جو شخص بھی ان سطور کو پڑھ لے حضور کی علمی صلاحیتوں کا فوراً قائل ہو جاتا ہے اور حق تو یہ ہے کہ اس قسم کا جواب دنیا حضور ہی کا حصہ ہے۔ بلکہ یہ عظیم الشان جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی فضل عمر ہیں۔ کیونکہ ایسا جواب تو حضرت عمرؓ کو بھی نہیں سوجھا تھا اور سو جھ بھی کیسے سکتا تھا۔ وہ میدان کے مرد اور اخلاق کی زندہ تصویر تھے۔ ان سے ایسے جواب کی توقع کیسے کی جاسکتی تھی۔ جو لوگ نفسیات سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اوجھے تھمھیا روں پر وہی لوگ اتر آتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں یا جن میں علمی صلاحیتیں مشقوق ہوتی ہیں یا جن میں علمی صلاحیتوں کا فقدان ہوتا ہے۔ حلیمی اور بردباری ان لوگوں کو شیوہ ہوتا ہے جو دلیر اور علم و عمل میں لاثانی ہوتے ہیں۔ حضرت عمرؓ، حلیم اور بردبار تھے۔ دلیری اور شجاعت میں ان کا ثانی نہ تھا۔ اس لئے وہ اس قسم کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن شاطر سیاست کا جواب معرفت کی باتیں ہیں جو صرف انہی کا حصہ ہیں۔ جب حضرت عمرؓ پر چادر کے سلسلہ میں ایک جوان نے اٹھ کر اعتراض کیا تھا تو حضرت عمرؓ کو چاہئے تھا کہ اسے فوراً یہ جواب دیتے کہ خلیفہ میں ہوں۔ آپ نہیں ہیں۔ جو لوگ اس بات کے حق میں ہیں کہ میں نے دو چادریں کیوں لی ہیں۔ آپ (معرض) ان کو لے کر الگ ہو جائیں اور اپنی الگ خلافت قائم کر لیں۔ لیکن افسوس کہ حضرت عمرؓ کے متعلق سرور کائنات ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”حضرت عمرؓ میری آنکھ ہیں اور نیز یہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمرؓ ہی ہوتے۔“ کو بھی ایسا جواب نہ سوجھا۔ کیونکہ اگر انہیں ایسا جواب سوجھ جاتا تو آج شاطر سیاست فضل عمر کیسے بنتے؟ الغرض کوئی پڑھا لکھا شخص ان کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نفسیاتی طور پر ان کا یہ جواب احساس شکست اور احساس کمتری کا کھلا اقرار اور آمرانہ انداز بیان کا واضح ثبوت ہے۔

پھر اسلام کا تو ذکر ہی کیا وہ اپنے باپ (مرزا غلام احمد قادیانی) کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کے باپ نے اپنی تعلیمات میں کہا تھا کہ جو برے افعال کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے اور شاطر سیاست انہی افعال سے تمام عمر کھیلتے رہے ہیں۔ باپ نے شرائط بیعت میں جو پابندیاں اور جو قیود قائم کی تھیں شاطر سیاست ان قیود کو بھی توڑ کر بڑی تمکنت سے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے شرائط بیعت اور اپنی تعلیمات میں جو حدود قائم کی تھیں ان کے نزدیک ان کو توڑنے والا ان کی جماعت کا رکن ہی نہیں رہ سکتا۔ چہ جائیکہ کسی ذمہ دار عہدہ پر فائز رہے۔ لیکن قیود حدود کو وہی شخص توڑ سکتا ہے جس میں

آمرانہ کیفیات اور آمرانہ ٹھاٹھ ہاتھ ہو۔ چنانچہ شاطریا سیاست نے ان قیود کو توڑا۔ اپنی بد عنوانیوں اور دھاندلیوں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آمر ہیں اور مذہبیت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔

ان تمام حقائق کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ شاطریا سیاست آمر مطلق ہیں اور ان کو ربوہ کا مذہبی آمر کہنا کسی صورت میں بھی بے جا نہیں ہے۔

فرز انگلی سے دیوانگی تک

دنیا میں جس قدر جھوٹے مدعی نبوت ہوئے ہیں ان کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ مٹھی نے سب سے پہلے پیغمبری کا دعویٰ کیا اور جب چند لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح حداد فرعون، نمرود وغیرہ نے خدائی اور پیغمبری کے دعوے کئے۔

ان میں سے ہر ایک نے تقدس کی آڑ میں جو رواستہ ادا اور سیاہ کاریوں کو جنم دیا۔ بے بس اور غریب لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈالے اور غیرت خداوندی کو بھڑکا دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مٹھی کا انجام نہایت عبرتناک ہوا تھا اور وہ اگلے ہوئے تیل میں چھلا تک لگا کر موت کی آغوش میں ہسٹار ہو گیا تھا۔ گو اس کا یہ انجام بھی عبرتناک تھا۔ لیکن اس نے موت کو بزدلوں کی طرح پھر بھی قبول نہیں کیا۔ لیکن ان کے دعاوی نبوت اور خدائی کے دعوے سے کم نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ بھی مٹھی اور حداد کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ لہذا ضروری تھا کہ غیرت خداوندی جوش میں آتی۔ سو آج ہم سن رہے ہیں کہ آمریت مآب کی ذہنی صلاحیتیں خندوش ہیں اور اہل ربوہ ان کی اس حالت کو چھپانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ہنوز ان کی کیفیت دیوانگی کو صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ خبر غیر مصدقہ نہیں بلکہ اس کی تصدیق کے لئے خلافت مآب کا ۲۳ جنوری ۱۹۵۷ء کا خطبہ بین ثبوت ہے۔ اس خطبہ میں خلافت مآب نے کیا فرمایا ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکا اور میرا دعویٰ ہے کہ اس خطبہ کا مفہوم ہر ذی فہم شخص کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس خطبہ کے علاوہ افضل ۲۷ جنوری ۱۹۵۷ء کا ادارہ قابل غور ہے۔ یہ ادارہ نہیں بلکہ ادارے کی جگہ شاطریا سیاست کے بھائی مرزا بشیر احمد ایم۔ اے کا مضمون شائع ہوا ہے جس میں مرزا غلام احمد کی چند پیش گوئیاں درج کی گئی ہیں۔ ان میں سے جو پیش گوئی خاص طور پر قابل غور ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ لکھا ہے: ”پانچویں نمبر پر حضرت مسیح موعود کا ایک روایا ہے جسے میں (مرزا بشیر احمد) اس

جگہ من و عن درج کرتا ہوں۔ حضور (مرزا غلام احمد قادیانی) فرماتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قادیان کی طرف آتا ہوں اور نہایت اندھیرا ہے اور مشکل راہ ہے اور میں رجھا ہا بغیب قدم مارتا جاتا ہوں اور ایک فیہی ہاتھ مجھ کو دودھ دیتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں قادیان میں پہنچ گیا اور جو مسجد سکھوں کے قبضہ میں ہے وہ مجھے نظر آئی۔ پھر میں سیدھی گلی میں جو کشمیریوں کی طرف سے آتی ہے چلا اس وقت میں نے اپنے تئیں سخت گھبراہٹ کے عالم میں پایا کہ گویا اس گھبراہٹ سے بے ہوش ہو جاتا ہوں اور اس وقت بار بار ان الفاظ سے دعا کرتا ہوں..... ”رب تجل رب تجل“ (یعنی اے میرے رب اب تجلی فرما۔ اے میرے رب اب تجلی فرما اور روشنی کر دے) اور ایک دیوانہ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے۔ وہ بھی رتب تجلی کہتا ہے اور بڑے زور سے میں دعا کرتا ہوں اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے لئے اپنی بیوی کے لئے اور اپنے لڑکے محمود کے لئے بہت دعا کی ہے۔“

(تذکرہ ایڈیشن دوم ص ۸۳۳، ۸۳۴)

مرزا قادیانی کا یہ رویہ درج کر کے مضمون نگار اشارتا کتنا بے وقار ہے۔

نوٹ..... اس رویہ میں جو دیوانہ کا لفظ ہے اس کے حقیقی معنی اپنے وقت پر کھلیں گے۔

پھر لکھا ہے: ”یہ الہامات اور مکاشفات جو آج سے تقریباً ساٹھ پینسٹھ سال قبل کے ہیں اور عرصہ دراز سے شائع شدہ ہیں۔ نہایت درجہ معنی خیز اور خدائی قدرت نمائی کی پیش خبریوں سے بھرپور ہیں۔ جن کے بعض پہلو اب بھی ظاہر ہیں اور بعض آئندہ چل کر اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے۔ دوستوں کو خاص طور پر دعا کرتے رہنا چاہئے۔“

اس کے بعد مضمون نگار نے لکھا ہے: ”نیز یہ بھی ضرور دعا کریں کہ جیسا کہ بعض صورتوں میں ہوا کرتا ہے کہ اگر کسی آنے والی مبارک اور شیریں تقدیر کے ساتھ خدا کے علم میں اس کی کوئی تلخ تقدیر بھی لپٹی ہوئی ہو تو وہ اپنے خاص الخاص فضل کے ساتھ اس تلخ تقدیر کو ٹال دے۔“

(الفضل مورخہ ۲۷ جنوری ص ۱۹۵۷)

سب سے پہلے قابل غور بات یہ ہے کہ اس مضمون کو ادارہ کی جگہ شائع کیا گیا ہے اور اس کے آغاز میں لکھا ہے کہ ہم یہ مضمون اشارے کے طور پر لکھ رہے ہیں۔ پھر قابل غور مرزا غلام احمد کے رویہ کے حسب ذیل الفاظ ہیں: ”اور ایک دیوانہ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے اور میں نے اپنے لئے اپنی بیوی کے لئے اور اپنے لڑکے محمود کے لئے بہت دعا کی ہے۔“

اور پھر اس ردیاً کو نہایت درجہ معنی خیز اور تلخ تقدیر قرار دیا ہے۔ جس سے اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے کہ شاطر سیاست کی ذہنی صلاحیتیں محمدؐ دش ہو چکی ہیں اور مرزا غلام احمد کا ہاتھ اس وقت ایک دیوانے کے ہاتھ میں ہے اور الفضل نے مریدوں کو اس خبر سے آشنا کرنے کے لئے پہلے سے زمین ہموار کرنی شروع کر دی ہے۔ تاکہ جب مریدوں کو خلافت مآب کی حالت دیوانگی کا علم ہو تو وہ اسے سننے کے لئے پہلے سے تیار رہیں۔ میں آمریت مآب کے وظیفہ خواروں، خوشامدیوں اور نام نہاد خالد بن ولیدوں سے صرف اس قدر استفسار کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی مثال ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کوئی پاگل ہوا ہو۔ نعوذ باللہ یاد دیوانگی کا کبھی دورہ ہی پڑا ہو اور کیا پاگل ہو جانا الہی عذاب نہیں؟

جس شخص نے اپنی زندگی کے پچاس سال بے اعتدالیوں اور بد عنوانیوں کے جنم دینے اور پھر ان پہ پردہ ڈالنے پر صرف کئے ممکن نہیں ایسا شخص عذاب الہی سے بچ سکتا ہے۔ وہ اپنے لئے دعاؤں کی لاکھ درخواستیں کرے۔ لیکن قہر خداوندی نازل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زمین و آسمان اپنی جائے قیام بدل سکتے ہیں۔ فرشتے زمین پر اور انسان آسمان پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ لیکن خدائے برتر ایسے انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ جس کی مذہبی قیادت نے ہزاروں عصمتوں پر ڈاکے ڈالے جو راہبر کی صورت میں دنیا کے سامنے جلوہ نما ہوا۔ سعید فطرت انسان اسے رہنما سمجھ کر پیچھے ہو لئے۔ لیکن وہ راہزن نکلا۔ دنیائے اسے انسان سمجھا۔ لیکن وہ بھیملیا ثابت ہوا۔ اس نے اپنے چاروں طرف ظلمتیں پھیلا دیں۔ تاکہ اس کی بے راہ رویوں پہ پردہ پڑا رہے۔ بھولے بھالے مرید اس کی ایسی تدابیر کو نہ سمجھ سکے اور چند روشن فہم اور ذی شعور مریدوں کو جب سمجھ آئی تو انہوں نے شب گزیدہ محروم گنج تاہاں دیکھنے کی تمنا کی۔ لیکن وہ اپنی تمناؤں، آرزوؤں اور حسرتوں کے ماتم کو شادی کے شادیاں میں نہ بدل سکے اور یہ کہہ کر

شب تیرہ چراغ راہزن ہے ہمارے راہبر کو کیا سحر سے
یا تو خاموش ہو رہے اور یا علیحدہ سو۔ گم۔ اس نے اپنے شریف ناقدین کی پگڑیاں
اچھالیں اور غلطیوں اور گنہگاروں کے ملاؤں کو خالد بن ولید بنا دیا اور یہ سب کچھ بھول گیا کہ سرد
کائنات ﷺ کا خالد بن ولید صالح کارزار اور دلیر انسان تھا۔ لیکن جن لوگوں کو وہ خالد بن ولید قرار
دیتا ہے۔ وہ گیدڑ کی طرح بزدل ہیں۔ رسول کریم ﷺ کا خالد بن ولید صالح اور نیک فطرت تھا۔

اس کے خالد بن ولیدوں میں سے بعض زانی ہیں اور فنِ اغلامیات میں یدِ طولیٰ رکھتے ہیں۔
 قصرِ خلافت کے اس اداکار نے نہ صرف اپنے مرید ناقدین کے خون سے ہاتھ رنگے
 بلکہ اپنے حرم میں بھی اس خونچکاں معرکہ آرائی کے مناظر پیش کئے وہ کہ جنہوں نے اس کی بات
 مان کر مدہوش وادیوں میں جاہ پینائی کرنا منظور کر لی۔ چمن کی ہزاریں بنیں۔ لیکن وہ کہ جنہوں
 نے اپنی عزت و ناموس اور خاندانی دجاہ کے لئے غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی ناجائز
 باتیں ماننے سے انکار کیا۔ انہیں زہر کے گھونٹ پلا کر مٹھی نیند سلا دیا۔ لہذا لہجی کی روح کیوں اور
 کبے نسِ غضری سے پرواز کر گئی۔ حرم میں سے وہ تھی۔ جس نے قصر کے اس ولن اور ہیرہ کی ناجائز
 باتیں ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ صرف منکر بنی بلکہ علمِ بغاوت بلند کیا اور آخر اس کا بھی وہی حشر
 ہوا جو ہیرہ کی بے راہ روی کو دیکھنے والوں کا ہوتا ہے۔

نہ رہے ہانس اور نہ بیج ہانسری

امتِ لہجی نے بھی آنکھیں موند لیں اور قصر کے باہر بھی بہت سے ایسے تھے جن کو دیکھنے
 کے جرم میں رازداری کی سزا دی گئی اور جو قتل نہ ہو سکے۔ ان کا زندگیاں اجیرن بنا دیں۔ گویا وہ
 زندہ تو ہیں لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ وہ عقیدت مند ہو کر گئے تھے اور عقیدت بند ہو کر لوٹ
 آئے۔ لیکن وہ لوگ جن کے خون سے ہاتھ رنگے گئے۔ ان کا خون رائیگاں نہیں گیا۔ بلکہ ان کے
 خون کی ایک ایک بوند جہاں کہیں بھی گری، بڑھی اور سینکڑوں انسانوں کے جسموں میں تحلیل کر
 گئی۔ دنیا میں جب کبھی بھی انقلاب نے انگڑائی لی ہے۔ مظلوم اور بے بس ویکس انسانوں کے
 خون ہی نے اسے دعوتِ عمل دی ہے۔ پس ان لوگوں کا خون رائیگاں نہیں گیا۔ بلکہ ان کے خون کی
 بوندوں نے انقلاب کے نشانات پیدا کئے ہیں اور آج بھی اور کل بھی اور قیامت تک صداقت اور
 حق گوئی میں جس کا خون بھی عیبِ گاہہ رائیگاں نہیں جائے گا۔ بلکہ مقتول کے خون کے جس قدر
 قطرے زمین پر گریں گے۔ مادروطن اس کا انتقام لینے کے لئے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں میں
 وہ قطراتِ تحلیل کر دے گی جو ردعمل کی تیوری کا عملی ثبوت بہم پہنچائیں گے۔ پس وہ دن دور
 نہیں بلکہ بہت قریب ہیں کہ جب ریت پر بنایا ہوا یہ قصر و حزام سے زمین پر آ رہے گا اور حق ساری
 دنیا پر چھا جائے گا۔

”جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَنْ لَمْ یَعْرِضْ لِحَدِیْقَةِ
مَنْ لَمْ یَعْرِضْ لِحَدِیْقَةِ

مرزا محمود ہوش میں آؤ



جناب راحت ملک سابق قادیانی

تعارف!

پیشتر اس کے کہ کچھ عرض کروں۔ تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عزیز ملک عطاء الرحمن صاحب، راحت ملک نہ صرف مخلص نوجوان بلکہ وضع قطع کے لحاظ سے بھی خوش پوش نوجوان ہیں۔ انداز گفتگو میں متانت، سنجیدگی اور شرافت کو بہت دخل ہے۔ محلی در محلی حقائق کو سامنے لانے کے لئے ملک صاحب موصوف نے نہایت ہی پراسن طریق اختیار کیا۔ بات میں بہر پھیر کر نانا کاشیوہ نہیں۔ بلکہ جیسا کہ ٹریکٹ کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ بات کو واضح سمجھانے کے لئے کچھ صاف گوئی کے خوبصورت اور محتاط الفاظ انہوں نے مجبوراً استعمال فرمائے ہیں تاکہ آئے دن میاں محمود احمد اشتعال انگیزی کرتے ہیں؟ ان کو اپنے ذاتی کردار بھی سمجھ میں آجائے اور مریدوں پر کم از کم اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ ان کی یہ جسارت نہ صرف قابلِ داد ہے بلکہ آنے والی سلیس اس بے خوف مجاہد کی روش کو بطور ذلیل پیش کریں گی۔ بہر حال ان کا مطلب بقول غالب یہ ہے۔

ہر چند کہ ہوا مشاہدہ حق کی گفتگو
 بنتی نہیں ہادہ و ساغر کے بغیر
 اپنی ہمایس سالہ آمریت میں میاں محمود احمد پرستش کے خوگر ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے
 ان کی زندگی میں گونا گوں بے اعتدالیاں آگئیں اور جماعت جانتے ہوئے بھی خاموش رہی۔ اب
 جماعت کے مفاد کا اور تحریک احمدیت کے فروغ کا تقاضا ہے۔ ان سے اب پرستش بھی کی جائے۔
 آخروہ کب تک جیتے گی۔

حروف زیر لب شرمندہ گوشِ سماعت رہیں گے

اور کب تک جماعت کا ذہنی ہوش مند طبقہ محض اپنی حیا اور وضعِ ازدی کی وجہ سے لب
 بستہ رہ کر ان کو یعنی خلیفہ اور ان کے خاندان کو مبن مانی کرنے کی اجازت دے گا۔

عزیزِ راحت ملک نے نقاب کشائی کر کے ایک رندانہ اقدام کیا ہے۔ خلیفہ کے

تہذیب سوز حالات کو وہ کہاں تک مہذب الفاظ میں بیان کرتے۔ چنانچہ انہوں نے جس اخلاق

غلاحت کو برائی العین دیکھا اس کو من و عن قارئین کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اپنے مقبول عام ٹریکٹ میں خلیفہ کی رنگین اور گلین زندگی کی عکاسی کی ہے۔ بقول شاعر خلیفہ سے کہا ہے۔
 اتنی نہ بڑھا پاکی دامان کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ
 جماعت کے ارباب نظر کو بھی خلیفہ کے دامن اور بند قبا کے امتحان کا جائزہ لینے کی
 دعوت دی ہے۔

احباب کرام اور دوستوں کے شدید مانگ کی وجہ سے ہار سوم شائع کیا جا رہا ہے۔ اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ اس کی مزید اشاعت میں جو غیر معمولی تاخیر واقع ہوگئی ہے اس کو نہ صرف نظر انداز فرمائیں گے بلکہ اس کی اشاعت خاص میں وقت کے تقاضہ اور اصلاحی پہلو کے پیش نظر وقتاً فوقتاً نمایاں تعاون سے مستفید فرمائیں گے۔
 نیاز مند: ایم ایم۔ تیم!

محذرت!

ہر اس شخص سے محذرت کے ساتھ جو مرزا محمود احمد کی موجدہ روش یعنی دشنام طرازی اور لعن طعن کو بعید از اخلاق اور بے حیائی تصور کرتا ہے اور یہ پمفلٹ ہر اس شخص کے لئے ہدیہ تمغیک ہے جو مرزا محمود احمد کے اس طریق کار کو جائز اور معین اخلاق تصور کرتا ہے۔ جو انہوں نے ایک عرصہ سے اختیار کر رکھا ہے اور جس کے تحت اب انہوں نے ماؤں اور بہنوں کی گالیاں کبھی شروع کر دی ہیں۔
 راحت ملک!

حکومت سے التماس

لاہور کے تقریباً تمام مؤقر روزناموں نے حکومت پاکستان کی توجہ جماعت احمدیہ کے اندرونی خلفشار کی طرف مبذول کرائی تھی اور لکھا تھا کہ مرزا محمود احمد نے شریف لوگوں کی نگاہوں کو اچھالنے کی جوہم شروع کر رکھی ہے اسے بند کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود وہی ارباب حلفہ

کے کانوں پر جوں رہتی ہے ورنہ ہی مرزا محمود احمد کے طریق کار میں کوئی فرق آیا ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ارباب حکومت نے مرزا محمود احمد کو پاکستان کے شریف شہریوں کی پگڑیاں اچھالنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب گورنر مغربی پاکستان، میاں مشتاق احمد گورمانی اور وزیر اعظم پاکستان حسین شہید سہروردی کی توجہ حالات کی اس نزاکت کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں جسے محمود احمد خود پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے آج تک مرزا محمود احمد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور نہ ہی ان کی آسانی دائر لیں پر کبھی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے بھی اپنی دشنام طرازی میں محض اس لئے شامل کیا جا رہا ہے کہ کہیں میں ان کے وہ تمام اندرونی حالات جو میں جانتا ہوں افشا نہ کر دوں۔ میرا ایک مکتوب نوائے پاکستان میں شائع ہو چکا ہے۔ جس میں میں نے واضح الفاظ میں تحریر کیا تھا کہ میرا اس جماعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا میرا نام الفضل میں شائع کرنا ناجائز اور شرانگیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج مورخہ ۲۳ اکتوبر کے الفضل میں پھر میرا نام شائع کیا گیا ہے اور گول مول الفاظ میں مجھے ماں کی گالی دی گئی ہے۔ اس واضح گالی کی طرف میں ارباب متعلقہ کی توجہ مبذول کرانے کے بعد صرف اس قدر استفسار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا ارباب حکومت مرزا محمود احمد کی زبان کو لگام دیں گے؟

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ میں نے مرزا محمود احمد کو اس سے پہلے متنبہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس قسم کی روش چھوڑ دیں اور کم از کم میرا نام شائع کرنے سے گریز کریں۔ لیکن چونکہ اب وہ ماؤں اور بہنوں کی گالیوں پر اتر آئے ہیں۔ اس لئے یہ پمفلٹ جوابی کارروائی کے طور پر لکھ رہا ہوں اور تقریباً وہی الفاظ ان کے لئے استعمال کر رہا ہوں جو وہ دوسروں کے لئے استعمال کرنا عین اخلاق تصور کرتے ہیں۔ یوں تو میں مرزا محمود احمد کو لکھتا بھی نہیں۔ لیکن چونکہ وہ اپنی روش سے باز نہیں آتے اور گالیاں دینے پر مصر ہیں۔ لہذا جواب تحریر کرنے پر مجبور ہوں۔

مخلص: راحت ملک

مرزا محمود احمد کے نام کھلی چٹھی

مکرمی میاں صاحب! سلام مسنون!

آپ کا دعویٰ ہے کہ خدا آپ سے خلوت اور جلوت میں باتیں کرتا ہے اور نیز یہ کہ آپ صاحب الہام ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ خدا کے محبوب ہیں۔ خدا آپ پر عاشق ہے اور ہر لمحہ آپ سے مکالمہ و مخاطبہ کرتا ہے اور آپ کو خلافت کے منصب پر اسی نے بٹھایا ہے۔ اگر آپ کے مندرجہ بالا تمام دعویٰ درست ہیں تو میں یہ دریافت کرنے کی جسارت کروں گا کہ:

۱..... کیا خدا کا محبوب ہونے کا دعویٰ لوگوں کو اس قسم کی گالیاں دے سکتا ہے۔ مثلاً خبیث، کبیہ صفت کہتے، سیلہ کذاب، بکواسی، لومڑی وغیرہ۔

۲..... کیا خدا کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے والا زنا کر سکتا ہے؟

۳..... کیا تاریخ اسلام سے ایک مثال بھی ایسی دی جاسکتی ہے کہ کسی خلیفہ نے اپنے مریدوں میں سے بعض کو محض اس لئے خارج کر دیا ہو کہ وہ اس خلیفہ پر تنقید کرتے تھے۔

۴..... کیا آپ میرے ساتھ اس بات پر مبالغہ کرنے کو تیار ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے بڑے صاحبزادے کو اپنا جانشین بنانے کی دل میں بھی آرزو نہیں کی اور موجودہ تحریک اپنے صاحبزادے مرزا ناصر احمد کے لئے زمین ہموار کرنے کی غرض سے نہیں چلائی۔

۵..... کیا آپ میرے ساتھ اس موضوع پر مبالغہ کرنے کو تیار ہیں کہ آپ زانی نہیں ہیں۔

۶..... کیا آپ میرے ساتھ اس بات پر مبالغہ کریں گے کہ آپ نے لوگوں کے چندوں سے اپنے عزیز و اقربا کو فائدہ نہیں پہنچایا اور نیز یہ کہ آپ چھ ہزار روپیہ سالانہ انجمن سے نہیں لے رہے۔

۷..... کیا آپ میرے ساتھ اس موضوع پر مبالغہ کرنے کو تیار ہیں کہ آپ نے ربوہ میں ناجائز اسلحہ زیر زمین نہیں رکھا ہوا اور نہ ہی آپ کو اس کا علم ہے۔

۸..... کیا آپ میرے ساتھ اس بات پر مہبلہ کریں گے کہ بچپن میں آپ پر عالم مفسولیت طاری نہیں رہا۔

۹..... کیا آپ میرے ساتھ مہبلہ کرنے کو تیار ہیں کہ انجمن کے حسابات میں گڑبڑ نہیں ہے اور اس گڑبڑ کا آپ کو کوئی علم نہیں یا یہ گڑبڑ آپ کے ایماء پر نہیں ہو رہی ہے۔

۱۰..... کیا آپ میرے ساتھ اس موضوع پر مہبلہ کرنے کو تیار ہیں کہ جن لوگوں کو جماعت سے خارج کیا گیا ہے ان کا قصور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ آپ کی بد عنوانیوں پر تنقید کرتے ہیں۔

۱۱..... کیا آپ اس بات پر مہبلہ کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کے دل میں خلیفہ اقل نور الدین کی قدر و منزلت اور احترام ہے۔

مندرجہ بالا شقوں کے علاوہ اور بھی بہت سے امور ہیں۔ لیکن فی الحال میں آپ کی توجہ ان امور کی طرف مبذول کرانے کے بعد آپ کو مہبلے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کا محبوب کہتے ہیں تو آئیے فیصلہ انہی امور پر ہو جائے۔ یقیناً خدا فیصلہ کرے گا اور ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو گا وہ ڈاکٹر ڈوئی کی طرح فالج کی موت مرے گا۔ اگر آپ اپنے دعاوی میں سچے ہیں تو آئیے اس چیلنج کو منظور فرمائیے اور فیصلہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے۔ لیکن میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان امور پر کبھی بھی مہبلہ کے لئے تیار نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آپ اپنے اعمال سے بخوبی واقف ہیں اور ڈاکٹر ڈوئی کی موت مرنا پسند نہیں کریں گے:

”قبلہ میاں صاحب! میں نے نوائے پاکستان کے توسط سے اور ایک براہ راست خط کی وساطت سے جناب سے گزارش کی تھی کہ مجھ پر چشم التفات چھوڑ دیجئے۔ کیونکہ میں آپ کی جماعت کا ایک پائی کا بھی رکن نہیں اور نہ ہی میرا آپ سے کوئی سروکار ہے۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ آپ کو میرے ان سیدھے سادھے شریفانہ الفاظ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا اور آپ بار بار اپنے سرکاری اخبار میں مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ آج مورخہ ۲۳ اکتوبر کے الفضل میں آپ نے مجھے کچھ

ایسے الفاظ میں یاد فرمایا ہے کہ جواب دینے پر مجبور ہوں۔ آپ نے لکھا ہے۔ عطاء الرحمن راحت نے تو خود یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں آٹھ سال سے جماعت سے علیحدہ ہوں۔ لہذا ان کا نام قرار دادوں میں لینے کی ضرورت نہیں۔ جماعت کو صرف یہ نوٹ کر لینا چاہئے کہ وہ جماعت میں نہیں ہیں۔ البتہ ہم عطاء الرحمن صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان کے والد مرحوم بھی کافر اور مرتد تھے اور اب ان کی والدہ بھی کافرہ اور مرتد ہیں یا نہیں؟“

آپ کی اس تحریر کے دو حصے ہیں اور میں ان کا الگ الگ جواب دوں گا۔ آپ کے استفسار اور ارشاد کا پہلا حصہ ”جماعت میں نہیں ہیں“ کے الفاظ تک ہے۔ اور دوسرا حصہ البتہ کے بعد شروع ہوگا۔

جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے ہر ذی فہم و ذی شعور شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس میں محض شرارت کا پہلو ہے۔ جب آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ فلاں شخص کا جماعت سے کوئی سروکار نہیں تو آپ ہر روز بار بار اس کا نام اخبار میں کیوں شائع کرتے چلے جاتے ہیں اور اگر آپ کو یہ اعلان اخبار میں کرنا ہی مقصود تھا تو البتہ کے بعد جو خرافات کہی ہیں اس کی کیا ضرورت تھی اور اگر یہ انداز تحریر خدائی جماعتوں کے ارکان کا ہو سکتا ہے یا خدا کے محبوب کا ہو سکتا ہے تو پھر بات بہت دور تک پہنچے گی۔ اس لئے میں اسے ہمیں چھوڑتا ہوں۔

آپ کی تحریر کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے۔ جس میں آپ نے اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ علم کا مکمل طور پر مظاہرہ کیا ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے۔ ”البتہ ہم عطاء الرحمن سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ کیا ان کے والد مرحوم بھی کافر اور مرتد تھے اور ان کی والدہ بھی کافرہ اور مرتدہ ہیں یا نہیں۔“

میاں صاحب! یہ تو بتائیے کہ میں نے کب کسی کو کافر کہا ہے۔ اگر میں نے کبھی بھی کسی کو کافر نہیں کہا تو پھر مجھ سے یہ سوال بے معنی اور لغو ہے۔ ہاں جو اس کے کہ میں نے کبھی بھی کسی کو کافر نہیں کہا۔ آپ مجھ سے اس کا جواب لینے پر ہی مصر ہیں تو گزارش ہے کہ اول تو ملک عبدالرحمن

خادم سے جو آپ کے قلمس مرید ہیں اس کا جواب حاصل کیا جاسکتا تھا۔ لیکن چونکہ آپ نے خاص طور پر مجھے ہی یاد فرمایا ہے تو پھر میں ہی جواب دینے کی جسارت کرتا ہوں۔ محترمی میاں صاحب! آپ کے نزدیک آپ کی دادی مرحومہ اور آپ کے دادا مرحوم کا فرہ اور کافر تھے یا نہیں؟ جو جواب اب آپ اس سوال کا دیں گے وہ اپنے سوال کے جواب میں میرا جواب سمجھ لیں۔ آپ صاف الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہیں سمجھتا وہ کافر ہے اور گول مول الفاظ میں جو بحث آپ چھیڑنا چاہتے ہیں میں اسے بخوبی سمجھتا ہوں۔ کیا آپ میں اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ آپ اپنے اور مرزا قادیانی کے منکر کو کافر سمجھنے کے عقیدہ کا اعلان فرمائیں۔

دراصل جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ راستے میں آ بیٹھتا ہے اور جب کتے کی موت آتی ہے تو مسجد میں پیشاب کرتا ہے۔ خدا کے لئے اپنے الفاظ پر غور فرمائیے۔ اس قسم کے الفاظ کیا کسی صحیح الدماغ شخص کے قلم سے نکل سکتے ہیں۔ آپ کی ان تمام زیادتیوں کے باوجود میں آپ کو پھر شریفانہ انداز میں متنبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ان واقعات کو منظر عام پر لانے کے لئے مجبور نہ کریں۔ جن سے آپ کی بیگمات کی توہین ہوگی۔ ہمیں ۱۹۴۷ء کے بعد کے وہ کارہائے نمایاں قلم بند کرنے پر مجبور نہ کریں جو قادیان سے لاہور آ کر آپ کی بیگمات نے سزا انجام دیئے تھے۔ ہمیں ان ہولناک واقعات سے پردہ اٹھانے پر مجبور نہ کیجئے جو آپ کی ذات والا صفات سے وابستہ ہیں۔ ہمیں ان بے بس اور بے کس عورتوں کے افسانے رقم کرنے پر مجبور نہ کریں جن کی عصمتیں لٹ گئیں اور اس کے ہا جو اللہ تعالیٰ آپ سے عشق فرماتا ہے۔ ہوش میں آنے کی کوشش کیجئے۔ ورنہ اس طوفان سے کمرانے کو تیار ہو جائیے۔ جو سزا اٹھانے کو بے تاب ہے۔ میں شرافت اور انسانیت کے نام پر پھر یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی گندی پالیسی پر نظر ثانی فرمائیے اور شریف لوگ کی پکڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند کر دیجئے۔ ورنہ ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس امن کو نذر آتش کرنے سے بچنے ہی کو نقصان ہوگا۔

قلمس: راحت ملک!